

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

کہ دین مان ستمت اقمان نفل

ایزومٹان تحفہ عجاتر و ہدیہ غراتر بہ الی اللہ اللہ
مقبول بارگاہ شاہ کونین حضرت پیر محمد
مُسَمَّیٰ بِہ

صَلٰوة الرَّسُوْلِ

الجزء الثالث عشر

فِي دُعَائِهِ وَالتَّجَاوُزِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد عبدالرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور
صوبہ سرحد پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِعِلْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِدُعَاۃِ

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بندگی شان کے طفیل اور بسم اللہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِشَفَاۃِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الرحمن الرحیم کی دعا کے طفیل اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شفاء کے طفیل

الْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَا لِكَ یَوْمَ الدِّیْنِ

سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا تربیت فرمانے والا ہے۔ کامل رحمت والا بہت مہربان۔ مالک جزاء کے دن کا

اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ

اے ان صفات کمال والے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ چلا ہمیں راہ راست پر۔ راہ ان

الدِّیْنِ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ قَالَ

لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی۔ فرمایا

اللّٰهُ تَعَالٰی اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفِیَّةً اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اللہ تعالیٰ نے۔ مجھ سے سوال کرو بطور زاری کے اور خفیہ میں تمہارے سوالات پورے کروں گا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ صَعَدَ كَفِّیْهِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہوں نے اٹھائیں اپنی دونوں ہتھیلیاں

حِیْنَ كَفَّ السَّحَابُ فَمَا صَوَّبَهَا حَتّٰی جَاشَ كُلُّ مِیْرَابٍ اَللّٰهُمَّ

جبکہ بارش روک دی گئی تھی اور قحط کا دور دورہ تھا پس نہ جھکایا انہیں حتیٰ کہ زور سے جاری ہوا (بارش کے ساتھ) ہر پرنا لہ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ دَعَا

صلوٰۃ و نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جس محبوب نے دعا فرمائی

بِالْاِقْلَادِ عِنْدَ هُجُومِ الْمَطْرِ فَكَانَتْ عَلٰی الْاَكَامِ وَالظَّرَابِ وَمَنَابِتِ

بادلوں کے ہٹ جانے کی بوقت فراوانی باران کے (پس بادل چھٹ گیا مدینہ پر سے) اور ہوتی رہی بارش پہاڑیوں۔ ٹیلوں اور جنگلات

الشَّجَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پر۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل امجاد پر

الَّذِي دَعَى لَأَنْسِ بِكَثْرَةِ الْمَالِ وَالْوَلَدِ فَدَفَنَ مِائَةً وَعَشْرِينَ

جس محبوب نے دعا فرمائی حضرت انس کیلئے کثرت اموال اور کثرت اولاد کے ساتھ پس (اتنی کثیر اولاد ہوئی) کہ دفن کئے ایک سو بیس

لِصَلْبِهِ وَكَانَتْ تَرْكُهُ لَا تُحْصَى وَلَا تُعَدُّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اپنی صلبی اولاد سے اور ان کا ترک گنتی اور شمار میں نہیں آتا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا ابْنَ عَوْفٍ بِالْمَالِ وَ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جنہوں نے دعا فرمائی حضرت عبدالرحمان بن عوف کے لیے مال کی فراوانی اور

الْغِنَى فَصَوَّلَ عَنْ ثَمَنٍ تَرَكَهُ بِمِائَةِ وَسِتِّينَ أَلْفًا اللَّهُمَّ

استغناء کی پس (اس قدر غنی ہوئے کہ مصالحت کی گئی ان کے ترکہ سے ۱/۱ حصہ کی ساتھ ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب نے دعا فرمائی

بِالسُّرَّةِ لِلْمِرَاةِ السُّودَاءِ فَلَمْ تَرْمَكُشُوفَةً بَعْدَهَا أَبَدًا اللَّهُمَّ

(مرگی والی) سیاہ قام عورت کے ستر و پردہ کے لیے پس وہ برہنہ نہ دیکھی گئی بعد اس کے کبھی۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا عَائِشَةَ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب نے دعا فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

الْمَغْفِرَةَ الْبَاطِنَةَ وَالظَّاهِرَةَ فَتَأَلَّتْ بِهِ الْبُرْكَهَ الْوَافِرَةَ اللَّهُمَّ

کے لیے مغفرت ظاہرہ اور باطنہ کی تو پائی انہوں نے اس دعا سے فراوان برکت۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا أَنْ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے دعا فرمائی کہ

يُحِبُّ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأُمَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ فَكَانَ فِي الْأَنْامِ مَحْبُورًا

محبوب بن جابر حضرت ابو ہریرہ اور ان کی والدہ مؤمنین کے ہاں پس ہو گئے وہ دونوں ساری مخلوق میں محبوب۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اہل بیت پر جس محبوب نے

دَعَا لِرَاهِبٍ بِالْبِرِّ مِنَ السَّقَامِ فَبَرَّ مِنْ حِينِهِ وَقَامَ اللَّهُمَّ صَلِّ

دعا فرمائی راہب کے لیے تندرستی کی تمام بیماریوں سے پس وہ اسی وقت تندرست ہو گیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِلطُّفِيلِ أَنْ يُنَوَّرَ فَكَانَ وَجْهُهُ فِي

نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی حضرت طفیل کے لیے کہ انہیں نور عطا کیا جائے تو ہو گیا ان کا چہرہ

الطُّلْمَةِ كَالسِّرَاجِ مُظْهِرًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

تاریکیوں میں چراغ کی مانند روشنی دینے والا۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

دَعَا أَنْ يُعَزَّزَ الْإِسْلَامُ بِأَحَدِي الْعَمَرَيْنِ فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

دعا فرمائی کہ اسلام کو غلبہ دیا جائے دو میں سے ایک عمر کے ساتھ پس ہو گئے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ (حلقہ بگوش اسلام)

فِي الْحَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِثَعْلَبَةَ بِالْغِنَى

اسی وقت۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی ثعلبہ کے لیے غنی ہونے کی

فَكَثُرَ مَالُهُ بِذَلِكَ وَاعْتَنَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

پس فراواں ہو گیا بسبب اس کے مال اس کا اور غنی ہو گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

دَعَا لِلْبَازِنِ وَكَانَ مُوَلِّعًا بِالْخَبْرِ وَالطَّرِبِ فَأَرْتَفَعُ ذَلِكَ عَنْهُ

دعا فرمائی بازن کے لیے جبکہ وہ دلدادہ تھے شراب اور رقص کے تو دور ہو گئے ان سے وہ

وَذَهَبَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِلْبُقْدَادِ

اور نائل ہو گئے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی حضرت مقداد کے لیے

بِالْغِنَى وَالْيَسَارِ فَأَدْرَكَ مَا يُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ وَيَخْتَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ

غنا اور خوشحالی کی پس پالیا انہوں نے جو ارادہ رکھتے تھے اس سے اور پسند فرماتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِلتَّابِغَةِ أَنْ لَا يَفْضَنَّ اللَّهُ لَهُ سِنًا

نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی تابغہ کے لیے کہ نہ توڑے اللہ تعالیٰ اس کا کوئی دانت

إِلَّا نَبَتْ لَهُ أُخْرَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا

مگر اگے اس کی جگہ دوسرا اور ایسے ہی ہوا اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے دُعا فرمائی

أَنْ لَا يَفُضَّ اللَّهُ فَاَهُ فَعَاشٍ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً لَمْ تَسْقُطْ

کہ نہ توڑے اللہ ان کے منہ (کے دانتوں) کو پس وہ زندہ رہے ایک سو بیس سال پس نہ گرے ان کے

لَهُ تَنْيِيَةٌ بِدُعَائِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِعَلِّي

دانت آپ کی دُعا سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے دُعا فرمائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے

أَنْ لَا يُصِيبَهُ حَرٌّ وَلَا قَرْفُ قَبْلَ دُعَائِكَ وَظَهَرَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

کہ نہ پیچھے انہیں تپش اور نہ ٹھنڈک پس آپ کی دُعا قبول ہوئی اور اس کا اثر ان میں ظاہر ہوا۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا بِقَبُولِ دُعَاءِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ فَكَانَتْ

سیدنا محمد پر جنہوں نے دُعا فرمائی مستجاب الدعوات ہونے کی، واسطے بعض صحابہ کے پس ہو گئی

دَعْوَتُهُمْ مُسْتَجَابَةً اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا

ان کی ہر دُعا مستجاب و مقبول۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے دُعا فرمائی

عَلَى سُرَاقَةٍ حِينَ تَبِعَهُ فَأَلْقَتْهُ الْأَرْضُ بَعْدَ مَا أَرَادَتْ أَنْ تَبْتَلِعَهُ

سراقہ کے خلاف جبکہ وہ آپ کے تعاقب میں نکلا (بوقت ہجرت) پس گرا دیا اس کو زمین نے بعد اس کے کہ ارادہ کیا تھا اس کو نگلنے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِرَجُلٍ وَكَانَ لَا يَسْتَطِيعُ

کا۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے دُعا فرمائی ایک شخص کے لیے جو نہیں طاقت رکھتا تھا

حَمْلَ صَاعٍ بِالْمَدِينَةِ فَعَادَ يَحْمِلُ مَا تَحْمِلُهُ السَّفِينَةُ اللَّهُمَّ

ایک صاع (چار سیر کا پیمانہ) کو اٹھانے کی مدینہ میں پس وہ ہو گیا اٹھانے والا اتنے بوجھ کو جتنا کہ کشتی اٹھا سکتی تھی۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِدَاوُسٍ بِالْهُدَايَةِ وَالْإِيمَانِ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے دُعا فرمائی داوس کے لیے ہدایت اور ایمان کی

فَجَاءَ وَأَمْتَرَفِينَ بِالْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

پس وہ سبھی حاضر خدمت ہو گئے در آنجا یکہ اقرار کرتے تھے ایمان و اسلام کا۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا ابْنِي هُرَيْرَةَ حِينَ وَعَظَهُ فَمَا نَسِيَ شَيْئًا مِنْهُ

محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی حضرت ابو ہریرہ کے لیے جبکہ انہیں وعظ فرمایا پس نہ بھولے وہ کوئی شئی اس سے

بَعْدَ ذَلِكَ وَحَفِظَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا

اس کے بعد اور یاد رکھا ہر شئی کو۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی

وَعُرْوَةَ بِالْبِرْكَاتِ فَمَا رَامَ فِي شَيْءٍ بِرَبِّهَا إِلَّا نَالَهُ وَأَذْرَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

عروہ کے لیے برکت کی پس نہ قصد کیا انہوں نے کسی شئی میں نفع کا مگر اس کو حاصل کر لیا اور پالیا۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِقَرْقَرَةَ وَقَدْ شَرَدَ لَهُ الْبُعَيْرُ مِنَ

نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی قرقرہ کے لیے جبکہ ان کا اونٹ بھاگ گیا تھا ہانکنے اور

السُّوقَةَ فَقَادَتْ لَهُ الرِّيحُ وَسَاقَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

چلانے والوں سے پس پھینچا اس کو آندھی نے اور چلایا اس کو قرقرہ کی طرف اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي دَعَا لِجَابِرٍ وَكَانَ لَا يَثْبُتُ عَلَي الْخَيْلِ فَمَا أَصَابَهُ بَعْدَ ذَلِكَ

جنہوں نے دعا فرمائی حضرت جابر کے لیے اور حال یہ ہے کہ وہ گھوڑے کی پشت پر برقرار نہیں رہتے تھے پس نہ گرے اس کے بعد

سُقُوطًا وَلَا مِيلًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا

اور نہ ادھر ادھر مائل ہوئے زمین سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی

لِلْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَكَّةَ فَأَعْطُوا النِّجَاةَ مِنَ الْهُوَانِ

کمزور اور بے سہارا مومنین کے لیے جو مکہ میں تھے پس انہیں نجات و خلاص عطا کی گئی رسوائی اور

وَالْهَلَكَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِأَصْحَابِهِ أَنْ يُكْسَرَ

ہلاکت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی اپنے صحابہ کے لیے کہ ان سے سردی

عَنْهُمْ الْبَرْدُ فَلَمْ يَصِبْهُمْ ذَلِكَ بَعْدَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کی شدت دور کر دی جائے پس نہ پہنچی انہیں وہ ٹھنڈک اس کے بعد۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي دَعَا بِرَفْعِ الْوَبَاءِ عَنِ الْمَدِينَةِ وَالرَّجْفَةِ فَانْتَقَلَتْ حَبَّاهَا

جنہوں نے دعا فرمائی مدینہ منورہ سے وباء کے اور تب لرزہ کے دور ہونے کی پس منتقل ہو گیا اس کا پ

بَدْعَانِهِ إِلَى الْجُحْفَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَاكَ أَنْ

آپ کی دعا سے جحفہ کی طرف۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی کہ

لَا يَدْخُلُ حِلَّ الْمَدِينَةِ رُعْبُ الدَّجَالِ فَلَمْ يَدْخُلْهَا بِوَجْهِهِ وَلَا حَالِ

نہ داخل ہو مدینہ منورہ میں رعب دجال کا پس وہ نہیں داخل ہو گا اس میں کسی طرح اور کسی حال میں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَاكَ أَنْ يُحِبَّهُ اللَّهُ الْمَدِينَةَ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی کہ محبوب بنا دے ان کے لیے اللہ تعالیٰ مدینہ کو

كَحِبِّهِ مَكَّةَ وَأَنْ يَجْعَلَ مَا بِهَا أَضْعَافَ مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَاتِ

مانند محبوب رکھنے آپ کے مکہ کو اور یہ کہ بنا دے جو کچھ اس میں ہے دوگنی برکت والا مکہ والی اشیاء سے

فَقَالَ ذَلِكَ وَأَدْرَكَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا

پس حاصل کیا اپنی مراد کو اور پالیا اسے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی

لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي الْمِدِّ وَالصَّاعِ فَكَانَ مِدُّهَا يُشْبِعُ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ وَ

اہل مدینہ کے لیے مد اور صاع میں پس تھا اس کا ایک مد (سیر کا پیمانہ) سیر کر دیتا تین بھوکے

هُمْ جِيَاعٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا فِي سُبْحِ أُمِّ

آدمیوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی ام سلیم کے

سَلِيمٍ بِالْبَرَكَاتِ فَعَادَ كَمَا كَانَ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنَ الْعُكَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

سلیم میں برکت کے لیے پس ہو گیا مانند اس کے کہ تھا اس طرف سے نکلنے سے قبل۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا فِي صَاعِ تَمْرِ ابْنِ هُرَيْرَةَ عِيَانًا فَانْتَفَعُ

سیدنا محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی ابو ہریرہ کی کھجوروں کے ایک صاع میں پس نفع اندوز ہوئے

بِهِ دَهْرًا وَزَمَانًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا ابْنَ

اس سے ایک عرصہ اور زمانہ تک۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی واسطے

الْبَلَاءِ عِبَ الْخُرْصَاحَ حَقًّا فَعَوْنِي مِنَ السَّقَامِ وَالْإِسْتِسْقَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ

نیزہ سے کھینٹنے والے کے بیٹے کے خلوص قلب سے پس اس کو عافیت دیدی گئی بیماریوں سے اور مرض استسقاء سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِفَرَسِ كَانِ لِبْنِ أَبِي الْجَعْدِ وَأُسْتَوْفَى

سیدنا محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی ابن ابی الجعد کی گھوڑی کے لیے اور حق دعا ادا فرمایا

فَبَاءَ مِنْ بَطْنِهَا بِاِثْنِي عَشْرَةَ اَلْفًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تو انہوں نے پیچھے اس کے بطن سے (پیدا ہونے والے) بارہ ہزار کے بدلے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي دَعَا لِسَعْدٍ وَعُودٍ فَكَانَ دُعَاؤُهُ مَقْبُولًا وَسَهْبُهُ مُسَدًّا

جنہوں نے دعا فرمائی سعد اور عود کے لیے پس آپ کی دعا مقبول ہوئی اور ان کا تیر سیدھا ہوا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِبْنِ عَبَّاسٍ بِالتَّفَقُّهِ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی عبداللہ بن عباس کے لیے دین میں تقاہت

فِي الدِّينِ بِالْاِعْلَانِ فَكَانَ يُدْعَى بِتَرْجُمَانِ الْقُرْآنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

حاصل ہونے کی علانیہ طور پر پس آپ کو کہا جاتا تھا ترجمان القرآن۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ اِذَا دَعَا لِرَجُلٍ دَعْوَةً اَدْرَكَتْهُ وَ

سیدنا محمد پر جو دعا فرماتے جب بھی کسی شخص کے لیے تو وہ اس کو اور اس کی اولاد اور

وَلَدًا وَوَلَدًا وَوَلَدًا وَنَحْوَهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اولاد کی اولاد تک اثر انداز ہوتی۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

دَعَا عَلٰى كِسْرَى حِينَ مَرَّقَ كِتَابَهُ فَمَرَّقَ اللهُ مُلْكَهُ وَفَرَّقَ

دعا فرمائی کسری کے خلاف جب اس نے پھاڑا آپ کے خط کو پس اللہ تعالیٰ نے ٹکڑے کر دیا اس کے ملک کو اور پرانہ کر دیا

اَحْزَابَهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا عَلٰى قُرَيْشٍ

اس کے لشکروں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی قریش پر قحط سالی کی

اِبْسِنِي يُوْسُفَ فَاَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ اَكْلُوْا فِيْهَا الْمَيْتَةَ وَالْجُلُوْدَ

مانند یوسف علیہ السلام کے زمانہ کی قحط سالی کے پس ان کو قحط نے لپیٹ میں لے لیا جس میں انہوں نے کھایا مردار اور چرٹے

اَلْعِظَامَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا عَلٰى مُلْجِمِ

اور ہڈیوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی ملجم

بِنِ جَنَامَةِ فَمَاتٍ لِسَبْعٍ وَقَدْ رَفَضَتْ اَلْاَرْضُ عِظَامَةَ اللّٰهِ

بن جنامہ پر پس وہ مرگیا ساتویں دن اور تحقیق پھینک دیا زمین نے اس کی ہڈیوں کو۔ اے اللہ

صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا عَلِيَّ ابْنَ اَبِي لَهَبٍ وَاجْتَهَدَا

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی ابولہب کے بیٹے پر اور اس میں مبالغہ فرمایا

فَاَقْتَرَسَهُ الْاَسَدُ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا

پس پھاڑ ڈالا اس کو شیر نے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی

عَلٰی الْاَحْزَابِ جِهَارًا فَاشْتَعَلَتْ عَلَيْهِمْ بَيُوتُهُمْ نَارًا اللّٰهُمَّ

کفار کے لشکروں پر علانیہ پس بھڑک اٹھے ان پر ان کے گھر آگ سے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا عَلٰی اَهْلِ الْقَلْبِ فَقَبِلَ

صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی قلب بدرواے کفار پر پس مقبول اور مستجاب

دُعَاؤُهَا وَاسْتَجِيبَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا

ہوئی آپ کی دعا۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی

عَلٰی ثَعْلَبَةٍ حِيْنَ مَنَعَ الصَّدَقَةَ فَاتَّكَفَ اللّٰهُ مَالَهُ وَاَمَحَقَّهُ

ثعلبہ پر جبکہ اس نے صدقہ روک لیا پس اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو برباد کیا اور نیست و نابود

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا عَلِيَّ اَبِي عَامِرٍ الرَّاهِبِ

اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی ابو عامر راہب پر

فَمَاتَ وَهُوَ اِلَى الشَّامِ ذَاهِبٌ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پس وہ ہلاک ہو گیا جبکہ جا رہا تھا شام کی طرف۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي دَعَا عَلِيَّ اَرْبَدًا حِيْنَ فَارَقَهُ فَاصَابَتْهُ صَاعِقَةٌ اللّٰهُمَّ

جنہوں نے دعا فرمائی اربدہ پر جبکہ اس نے آپ سے علیحدگی اختیار کر لی پس تباہ کیا اس کو آسمانی بجلی نے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا عَلِيَّ الْحَكِمِ دَعْوَةً فَاصَابَتْهُ

صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی حکم کے خلاف تو اس کو لاحق ہو گیا

لِقُوَّةِ اللَّهِ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا عَلَى صَبِيٍّ قَطَعَتْ

لقوہ۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جنہوں نے دُعا فرمائی اس لڑکے پر جس نے

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَمَا رَأَى بَعْدَهَا قَائِمًا حَتَّى مَاتَ اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَى

قطع کیا تھا آپ کی نماز کو پس وہ نہ دیکھا گیا بعد اس کے حالت قیام یہاں تک کہ فوت ہوا۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا عَلَى الْحَكَمِ وَكَانَ يَغِزُّ عَلَيْهِ فَطَارَتْ

سیدنا محمدؐ پر جنہوں نے دُعا فرمائی حکم کے خلاف اور وہ آپ پر طعن کرتا تھا پس اڑ گئیں

عَيْنَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا

اس کی آنکھیں اس کے سامنے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جنہوں نے دُعا فرمائی

عَلَى مَنْ أَسَاءَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَمَا حَالَ عَلَيْهِمُ الْحَوْلُ اللَّهُمَّ

اس کے خلاف جس نے گفتگو میں بے ادبی کی پس نہ گذرا اس پر ایک سال۔ اے اللہ

صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا عَلَى ابْنِ قَيْسَةَ لَغِزَّهُ عَلَيْهِ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جنہوں نے دُعا فرمائی ابن قیسہ کے خلاف اس کے طعن و تشنیع کی وجہ سے

فَقَتَلَتْهُ عُنْزُ مَنْ عُنْزُهُ اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

پس قتل کر دیا اس کو بکرے نے اس کے بچروں میں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جنہوں نے

دَعَا عَلَى دُعْتُورٍ حِينَ رَأَى فِتْكَهٗ فَاسْرَعَ اللَّهُ هَلَكَةً اللَّهُمَّ

دُعا فرمائی دعتور پر جب کہ اس نے آپ کو اچانک شہید کرنے کا ارادہ کیا پس اللہ تعالیٰ نے اسے فوراً ہلاک کر دیا۔ اے اللہ

صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا اللَّهُ عَلَى ابْنِ حُمَيْدٍ وَاسْتَعَانَهُ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جنہوں نے دُعا فرمائی ابن حمید کے خلاف اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی

فَقَتَلَهُ أَبُو دُجَانَةَ اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا عَلَى

پس اس کو قتل کر دیا ابو دجانہ نے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جنہوں نے دُعا فرمائی

أَبِي جَهْلٍ بَلَا أُمَّتْرًا فَقَتَلَهُ ابْنُ عَفْرَاءَ اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا

ابو جہل کے خلاف بلا اُمتر تک پس قتل کر دیا اس کو عفراء کے دونوں بیٹوں نے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا عَلَى عُقْبَةَ وَشَيْبَةَ فَأَصَابَتْهُمَا الْحَيْبَةُ اللَّهُمَّ

محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی عقبہ اور شیبہ کے خلاف پس گھیرے میں لے لیا ان کو رسوائی نے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا عَلَى مَنْ جَحَدَ الْفَرَسِ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی اس پر جس نے انکار کر دیا آپ کو گھوڑے کی فروخت کا

فَذَاهَبَ عَنْهُ الرِّزْقُ وَاحْتَبَسَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پس چلا گیا اس کا رزق اور رک گیا۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي دَعَا عَلَى الْوَلِيدِ فَقَدْ السَّيْفُ عَلَى الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ صَلِّ

جنہوں نے دعا فرمائی ولید کے خلاف پس کاٹ دیا تلوار نے اس کی شاہرگ کو۔ اے اللہ صلوات

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا عَلَى عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ فَحَاقَ

نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی عقبہ بن ابی معیط کے خلاف پس احاطہ کر لیا

بِهِ الْبَلَاءُ وَاجِطَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا عَلَى

اس کا بلانے اور اسے گھیرے میں لے لیا۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی

عَصِيَّةَ الَّتِي عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَاسْتَجِيبْ لَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

قبیلہ عصبہ کے خلاف جس نے نافرمانی کی تھی اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول کی پس وہ قبول کی گئی۔ اے اللہ صلوات

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ دُعَاؤُهُ لَا يَرُدُّ وَفَضْلُهُ لَا يَحْدُ

نازل فرما سیدنا محمد پر جن کی دُعا رد نہیں کی جاتی تھی اور جن کے فضل و کمال کی حد بندی نہیں کی جاسکتی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا أَرَادَ مِبَاهِلَتَهُ النَّصَارَى

اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جب ارادہ کیا آپ کے ساتھ مباحلہ کا نصاریٰ نے تو (قریب تھا)

إِشْتَعَلَ عَلَيْهِمُ الْوَادِي نَارًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کہ بھڑک اُٹھے ان پر ساری وادی آگ بن کر۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي سَرَّامُ غُورِثٍ ضَرْبَهُ بِالسَّيْفِ وَأَهْوَى تَعَلَّقَتْ بِكَاهُ

کہ جن پر غورث نے تلوار سے وار کا قصد کیا اور اس طرف مائل ہوا تو اس کے دونوں ہاتھ معلق ہو گئے

فِي الْهُوَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا أَرَادَ أَبُو جَهْلٍ

ہوا میں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جب ارادہ کیا ابو جہل نے

إِقَاءَ الصَّخْرَةِ عَلَيْهِ انْقَلَبَتْ إِلَى صَدْرِهِ وَيَدِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

آپ پر پتھر پھینکنے کا توڑا گیا وہ پتھر اس کے سینہ اور ہاتھوں کی طرف۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا غَرَّ أَبُو جَهْلٍ فِي قَتْلِهِ الْغُرُورَ حَالَ بَيْنَهُمَا

سیدنا محمد پر کہ جب غرور سے کام لیا ابو جہل نے آپ کے شہید کرنے میں تو حائل ہو گیا آپ کے اور اس کے درمیان

أَسْدًا هَصُورًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَتَرَهُ اللَّهُ مِنْ

شیر ثریاں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہیں ستر اور پردہ میں رکھا اللہ تعالیٰ نے ان کے

أَعْدَائِهِ وَحَجَبَهُ حِينَ رَامُوا الْفَتْكَ بِهِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اعدا سے اور حجاب میں رکھا آپ کو جب قصد کیا آپ پر اچانک حملہ کا اعداء نے عقبہ کی رات۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَامَ بَعْضُ الْكُفَّارِ غَدْرًا وَكَتَمَ رَمِي بِزُمِيلَةٍ

نازل فرما سیدنا محمد پر کہ قصد کیا بعض کفار نے آپ کے ساتھ غدور کا اور چھپایا اپنے برے ارادہ کو تو مارا گیا ساتھ زُمیلہ کے

وَهِيَ شِهَابٌ مِّنْ جَهَنَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْفَاهُ

اور وہ شعلہ ہے جہنم کا۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کو مخفی رکھا

اللَّهُ عَمَّنْ بِمَكَّةَ مِنَ الضُّلَّالِ حَتَّى افْتَتَحَهَا بِغَيْرِ الْقِتَالِ اللَّهُمَّ

اللہ تعالیٰ نے مکہ والے گمراہوں سے یہاں تک کہ آپ نے اسے فتح کر لیا بغیر جنگ اور لڑائی کے لیے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا أَرَادَ شَيْبَةَ الْأَمْنَةَ بِالنَّارِ ارْتَفَعَ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جب ارادہ کیا شیبہ نے آپ کو آگ سے تکلیف دینے کا تو بلند ہوا

لَهُ شِهَابٌ مِّنْ نَّارِ اللَّهِ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا أَرَادَ

اس کے لیے آگ کا شعلہ۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جب ارادہ کیا

بَنُو النَّضِيرِ وَالْقُرَيْظَةَ أَنْ يُلْقُوا عَلَيْهِ الصَّخْرَةَ أَخْبَرَ بِذَلِكَ

بنو النضیر اور بنو قریظہ نے کہ پھینکیں آپ پر بھاری پتھر تو آپ کو خبر دی اس کی

جِبْرَائِيلُ وَحَدَّرَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَبَّيْنَا أَمْرًا

جبرائیل نے اور آپ کو چوکس کر دیا۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جب ارادہ کیا

أَبُوجَهْلٍ قَتَلَهُ جَهَارًا رَأَى دُونَهُ خُنْدًا قَامِنًا يَا اللَّهُمَّ صَلِّ

ابو جہل نے آپ کو علانیہ شہید کرنے کا تو دیکھی اس نے اپنے آگے آگ کی خندق سے اے اللہ صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَبَّيْنَا أَرَادَ قُرَيْشٌ قَتْلَهُ وَاتَّفَقُوا شَتَّتَ

نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جب ارادہ کیا قریش نے آپ کو شہید کرنے کا اور اس پر اتفاق کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے

اللَّهُ شَمَلَهُمْ وَافْتَرَقُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَامَتْ

پراگندہ کر دیا ان کی جمعیت کو اور وہ جدا جدا ہو گئے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ ارادہ کیا

ضَرَّةٌ امْرَأَةٌ أَبِي لَهَبٍ خُطِفَ بَصَرُهَا وَذَهَبَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

ابولہب کی بیوی نے ان کی ایذا رسانی کا پس اچھلی گئی نظر اس کی اور چلی گئی۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَبَّيْنَا أَمْرًا جَهَّجَاهُ الْغَفَارِيُّ كَسْرَ قَضِيْبِهِ عَلَيْهِ

سیدنا محمد پر کہ جب ارادہ کیا جھجھاہ غفاری نے آپ کے عصا مبارک کے توڑنے کا اور جو عثمان غنی کے

السَّلَامُ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ مَاتَ مِنْهَا قَبْلَ الْعَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

زیر استعمال تھا تو اس کو پہنچی ایسی آفت کہ وہ سال کے اندر ہلاک ہو گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَبَّيْنَا وَأَعَدَّ الْوَلِيدُ قُرَيْشًا عَلَى ضَرَبِهِ جَعَلَ

سیدنا محمد پر کہ جب عہد کیا ولید نے قریش کے ساتھ آپ کی ایذا رسانی کا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی

اللَّهُ عَشَاوَةً عَلَى بَصَرِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَبَّيْنَا

نگاہ پر پردہ ڈال دیا۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جب

دَنَّتْ امْرَأَةٌ أَبِي لَهَبٍ بِكَفَّاحِهِ سَتْرَهُ مِنْهَا الْمَلِكُ بِجَنَاحِهِ اللَّهُمَّ

قرب ہوئی ابولہب کی بیوی آپ کے سامنے سے تو چھپا لیا فرشتہ آپ کو اس کی نظروں سے اپنے پروں کے ساتھ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَامَتْ الْكُفَّارِ حَيْثُ حَالَتْ الصَّفَا

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جب ارادہ کیا کفار مکہ نے آپ کو شہید کرنے کا تو حائل ہو گئیں صفا

وَالرُّوَّةَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ اللَّهُ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَنَا

اور مروہ درمیان ان کے اور آپ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جب

أَرَادَ الرَّاعِي إِخْبَارَ قُرَيْشٍ بِهَجْرَتِهِ حَيْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُجَّتِهِ اللَّهُمَّ

ارادہ کیا چرواہے نے قریش کو آپ کی ہجرت آگاہ کرنے کا ترجماب اور رکاوٹ ڈال دی گئی درمیان اس کے اور اس کی حجت کے اے

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَفَاهُ اللَّهُ اسْتِهْزَاءَ الْمُسْتَهْزِئِينَ اللَّهُمَّ

اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے کفایت فرمائی مذاق اڑانے والوں کے مذاق سے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَدْخَلَ اللَّهُ تَحْتَ حُكْمِهِ مَلَائِكَةَ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے زیر حکم ملائکہ تسخیر

الشَّخِيرِ اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ

کو۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن پر نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے

آيَةَ التَّخْيِيرِ اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَخَّاطِبِ بِقَوْلِهِ

آیت تخیر والی۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جو مخاطب ہیں اللہ

عَزَّوَجَلَّ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اللَّهُمَّ

عزوجل کے اس قول کے ”پوری طرح اظہار کرو اس کا جو تمہیں امر کیا گیا اور منہ پھیر لو مشرکین سے“ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَمَعَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الْقَطِيعَةِ اللَّهُمَّ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجتمع فرمادیا راہل اسلام کو بعد ان کے انقطاع اور بے تعلق

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ

کے (قبل از اسلام) اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں۔ زمینوں اور

الْجِبَالِ أَنْ تُطِيعَهُ اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ

پہاڑوں کو ان کی اطاعت کا۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کے

لَهُ مَلِكُ الْجِبَالِ مِنَ الْأَعْوَانِ عَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ وَالطُّغْيَانِ اللَّهُمَّ

لے تھا پہاڑوں پر مامور فرشتہ معاونین سے۔ اہل کفر اور سرکشوں کے خلاف۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَادَاهُ الْمَلَكُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ إِنْ

صلوات نازل فرما سیتا محمد پر جنہیں پکار کر کہا فرشتہ نے ایک دفعہ یا دو دفعہ اگر چاہو

شَدَّتْ لَا طَبَقْنَ عَلَيْهِمُ الْآخِثِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تو میں منطبق کر دوں اہل طاقت پر دونوں پہاڑوں کو۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیتا محمد پر

الَّذِي نَادَاهُ الْمَلَكُ الرِّيحِ جَهَارًا إِنْ شَدَّتْ لَا مَلَأَنَّ عَلَيْهِمْ فِي

جن کو پکار کر کہا آندھیوں پر مامور فرشتہ نے علانیہ اگر چاہو تو ضرور بھردوں گا ان پر ان کے

بُيُوتِهِمْ نَارًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَادَاهُ الْمَلَكُ

گھروں کو آگ سے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیتا محمد پر کہ جنہیں پکار کر کہا سمندروں پر

الْبِحَارِ صَبَاحًا وَمَسَاءً إِنْ شَدَّتْ لَجَعَلْنَا الْأَرْضَ مَاءً اللَّهُمَّ

مامور فرشتہ نے صبح و شام اگر آپ چاہو تو ہم زمین کو پانی میں بدل دیں۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَادَاهُ الْمَلَكُ الظُّلْمَةَ وَأَخْبَرَهُ أَنْ

صلوات نازل فرما سیتا محمد پر جنہیں ندا دی ظلمت پر مامور فرشتہ نے اور خبر دی کہ

اللَّهُ أَمْرًا أَنْ يُعِينَهُ عَلَى الْكُفَّارِ وَيُنْصِرَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے آپ کی امداد کرنے کا اور نصرت کفار کے خلاف۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیتا

مُحَمَّدٍ الَّذِي طَلَبَتْ مِنْهُ الْوُحُوشُ وَالْأَطْيَارُ أَنْ يَكُونُوا لَهُ مَعِينًا

محمد پر کہ اجازت طلب کی جن سے جنگلی جانوروں اور پرندوں نے کہ ہوں ان کے معاون

عَلَى الْكُفَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَادَاهُ الْمَلَكُ

کفار کے خلاف۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیتا محمد پر جن کو ندا دی رعد اور

الرَّعْدُ وَمَلِكُ السَّحَابِ بِأَنْ يَنْصُرَاهُ بِإِذْنِ اللَّهِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ

گرج کے فرشتہ اور بادلوں کے فرشتہ نے کہ وہ دونوں ان کی نصرت و امداد کریں گے اللہ وہاب کے اذن سے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أُرْسِلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْبَرِّ

صلوات نازل فرما سیتا محمد پر جنہیں مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

تا کہ غالب کرے آپ کے دین کو ہر دین پر۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہیں بجایا

عَصَمَهُ مِنْ أَذَاءِ جَمِيعِ الْخَلْقِ بِفَضْلِ اللَّهِ وَكَرَمِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی ایذاؤں سے اپنے فضل و کرم کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَعَزَّ اللَّهُ دِينَهُ وَأَظْهَرَ عَلَى الْاَدْيَانِ

نازل فرما سیدنا محمد پر کہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی۔ ان کے دین کو اور غالب فرمایا اسے تمام

كُلِّهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَحَلُّ الْاِغَاثَةِ وَالرَّجَا

دیباں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو کہ محل ہیں فریادرسی کا اور امیدوں کا مرکز ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّعِيمِ بَيْتِ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو ضامن ہیں جنت کے وسط میں مکان کے واسطے

لِمَنْ تَرَكَ الْهَرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تارکین ہدال کے اگرچہ اثبات حق کے لیے ہی ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الرَّعِيمِ بَيْتِ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ فِي النَّاسِ خُلُقًا اللَّهُمَّ

جو ذمہ دار ہیں ساتھ مکان کے جنت کے اعلیٰ مقام میں واسطے حسن خلق والوں کے لوگوں کے لیے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّعِيمِ بَيْتِ فِي الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو ذمہ دار ہیں جنتی مکان کے واسطے تارکین کذب کے

الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَا رَحَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّعِيمِ

اگرچہ بطور مذاق ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو ذمہ دار ہیں

بَيْتِ فِي الْجَنَّةِ لِمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

جنتی مکان کے واسطے ایمان لانے والوں اور اعمال صالحہ والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَطِيبَ صَلَوةً وَأَنْبَاهَا وَأَجْلَهَا وَأَغْلَاهَا اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر جو پاکیزہ ترین صلوٰۃ ہے اور بہت بڑھنے والی اور جلیل تر اور سب سے قیمتی صلوٰۃ ہے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ تَعْظِيمًا

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو مقصود و مصداق ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ان کا حق

لِحَقِّهِ وَتَقْضِيْلًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ

عظمت اور فضیلت ظاہر کرنے کے لئے اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر بشارت دینے والے اور ڈرانے والے اور دیا ہم نے قرآن جس

لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكَّتٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

کو جدا جدا کیا تاکہ اسے پڑھو لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر اور تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہم نے اسے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَبِلَ مِنْهُ الدُّعَاءُ وَطَابَ مِنْهُ الْمَكَانُ وَ

سیدنا محمد پر جن کی دُعا قبول کی گئی اور پاکیزہ ہو گئے ان کی بدولت مکان اور

الدُّعَاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَقْبَلُ بِهَا دُعَائِي

بواطن۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جس کی بدولت میری دُعا قبول فرمائے

وَتُحَقِّقُ بِهَا رَجَائِي بِحُرْمَةِ الْأَسْمِ الْأَعْظَمِ وَهُوَ قِيَمَةُ اللَّهِ

اور پورا کرے میری اُمیدوں کو بظیفیل اسم اعظم کے اور وہ ان کلمات میں ہے۔ " اے اللہ

إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ

میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بظیفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ اللہ۔ اے اللہ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ

لا الہ الا ہوا حق ہے۔ اللہ ہی معبود برحق ہے۔ اس کا غیر وہی ہمیشہ زندہ بذات خود قائم ہے اور مخلوق کو قائم رکھنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے کہ

وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ

نہیں معبود برحق مگر وہی، غیب اور شہادت کا عالم ہے وہی غایت رحمت والا۔ مہربان ہے وہی اللہ ہے کہ نہیں معبود برحق مگر وہی شہنشاہ

الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ

بہت مقدس۔ سراسر سلامتی۔ ایمان دینے والا۔ نگران۔ غالب۔ جبار۔ متکبر۔ پاک ہے

اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ

اللہ اس سے جو شریک ٹھراتے ہیں۔ وہی اللہ ہی خالق۔ درست طرح پیدا کرنے والا۔ صورتگر ہے۔ اسی کے لئے حسین

الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اسماء ہیں تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے سبھی آسمانوں اور زمین والے وہی عزیز و حکیم ہے۔

وَالْهَكْمُ لِلَّهِ وَاحِدًا إِلَّا اللَّهُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ

اور معبود حقیقی تمہارا معبود واحد ہے۔ نہیں معبود برحق مگر وہی رحمن رحیم۔ فرماد بیٹھے اے اللہ اے مالک

الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ

مالک تو دیتا ہے ملک جسے چاہے اور چھین لیتا ہے جس سے چاہے۔ اور عزت دیتا ہے

مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِإِذْنِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

جسے چاہے اور ذلت دیتا ہے جسے چاہے تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے بیشک تو ہی ہر چیز پر

قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ

کامل دسترس رکھتا ہے داخل فرماتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور نکالتا ہے

الْحَيَّ مِنَ الْبَيْتِ وَتُخْرِجُ الْبَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ يَا

زندہ کو میت سے اور برآمد کرتا ہے میت کو زندہ سے اور رزق دیتا ہے جسے چاہے بغیر حساب و محدودی کے۔ یا

اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَبُّ يَا وَهَّابٌ يَا غَنِيٌّ يَا مُعْطِيٌّ يَا سَرِيعٌ يَا رَحِيمٌ

اللہ یا رحمن۔ یا رب۔ یا وہاب۔ یا غنی۔ یا معطی (عطا کرنے والے) یا سریع (جلد حساب لینے والے) یا رحیم

يَا كَرِيمٌ يَا أَحَدٌ يَا سَمِيعٌ يَا بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا حَيُّ يَا

یا کریم یا احد۔ یا سمیع (ہر ایک کی ہر وقت سننے والے) یا بدیع (از سر نو پیدا کرنے والے) السموات والارض۔ یا حی۔ یا

قَيُّومٌ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا عَالِمُ يَا عَلِيمٌ

قیوم۔ یا ذا الجلال والاکرام یا حنان (بہت مہربان) یا منان (بہت احسان فرما یا عالم۔ یا علیم

يَا حَلِيمٌ يَا مَالِكُ الْمُلْكِ يَا مَلِكُ يَا سَلَامٌ يَا حَقٌّ يَا قَدِيمٌ يَا قَائِمٌ

یا حلیم۔ یا مالک الملک۔ یا ملک۔ یا سلام۔ یا حق۔ یا قدیم و بے ابتداء۔ یا قائم (لازوال)

يَا مُحِيطٌ يَا حَكِيمٌ يَا عَلِيُّ يَا قَاهِرٌ يَا مَانِعٌ يَا مُخْفِيٌ يَا مُقْسِطٌ يَا

یا محیط (از روئے علم و قدرت) یا حکیم۔ یا علی۔ یا قاہر یا مانع (روکنے والے) رزق کے یا برائی سے یا مخفی (پوشیدہ رکھنے والے)

مُحْيِ لآلِهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ يَا حَيُّ

یا مقلب (عادل) - یا محی (زندہ رکھنے والے) نہیں معبود برحق مگر تو پاک ہے بیشک میں ظالمین میں سے ہوں۔ اے سب وارثوں

الْوَارِثِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا سَمِيعَ الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي

سے بہتر۔ اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔ اے دعاؤں کے سننے اور قبول کرنے والے۔ اے اللہ میں

أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الظَّاهِرِ

تجھ سے سوال کرتا ہوں بظہیر اس کے کہ تو ہی مستحق حمد ہے۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بظہیر تیرے ظاہر

الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الْأَحْيِ إِلَيْكَ الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجِبتَ وَ

طیب اور مبارک و محبوب نام کے کہ جب تجھ سے اس کے توسل سے دعا کی جائے تو تو قبول فرماتا ہے اور

إِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ وَإِذَا

سوال کیا جائے تو عطا کرتا ہے۔ اور رحم طلب کیا جائے تو رحم فرماتا ہے اور

اسْتَفْرَجْتَ بِهِ فَرَجْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ اللَّهُ وَأَدْعُوكَ

کشائش طلب کی جائے تو کشائش و فراموشی عطا کرتا ہے۔ اے اللہ بیشک میں تجھ کو کہتا ہوں اللہ اور کہتا ہوں

الرَّحْمَنَ وَأَدْعُوكَ الْبِرَّ الرَّحِيمِ وَأَدْعُوكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى

الرحمن اور پکارتا ہوں بر و رحیم کہہ کر اور پکارتا ہوں تجھے تیرے اسماء حسنی

كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ

کے ساتھ جو مجھے معلوم ہیں ان میں سے اور جو معلوم نہیں۔ اللہ نہیں معبود برحق مگر وہی جو عرش عظیم

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِسَعْدِ

کا رب ہے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی حضرت سعد

وَعُودِ فَكَانَ دُعَاؤُهُ مَقْبُولًا وَسَهْمُهُ مُسَدَّدًا وَصَلِّ عَلَى

اور عود کے لیے پس آپ کی دعا مقبول ہوئی اور ان کا تیر سیدھا ہوا اور مضبوط۔ اور صلوات نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِبْنِ عَبَّاسٍ بِالتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ

سیدنا محمد پر جنہوں نے دعا فرمائی حضرت عبد اللہ بن عباس کے لیے علانیہ دین میں

بِإِعْلَانِ فَكَانَ يُدْعَى بِتَرْجُمَانِ الْقُرْآنِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

کامل مہارت اور فہم و فراست کی پس انہیں اس کی قبولیت کی وجہ سے ترجمان القرآن کہا جاتا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدِ الَّذِي أَشْبَعَهُ مِائَةَ مِّنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ مِنْ قَدَحٍ وَاحِدٍ وَ

سیدنا محمد پر جنہوں نے سیر فرمایا اہل صفہ سے سو آدمیوں کو ایک ہی پیالہ سے اور

أَشْبَعَهُ ثَمَانِ عِيَالٍ مِّنْ كَتِفِ مَعْرَاوْشَاةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سیر فرمایا آٹھ محتاج و فقراء کو بحری یا بھیڑ کے شانہ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِي أَشْبَعَهُ أَرْبَعِ مِائَةِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جس محبوب نے سیر فرمایا چار سو

رَاكِبٍ أَوْ زَادَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَمْدَادٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

بلکہ اس سے زیادہ سواروں کو چار سیر سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِي آمَنَ عَلَى دُعَائِهِ الْجِدَارُ وَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جس محبوب کی دُعا پر آمین کہی حویلی کی دیواروں۔

حَائِطُ الْبَيْتِ وَالذَّارُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

مکان کی دیواروں نے اور خود مکان نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِي تَقَلَ عَلَى أَنْجَةِ بِنِ أُنَيْسَةَ فَكَانَ الْبَرُّ

محمد کی آل پر کہ جس محبوب نے لعاب دہن ڈالا انجہ بن انیسہ پر تو شفاء و تندرستی ان کی

أُنَيْسَةَ وَتَقَلَ عَلَى ابْنِ عِقَالٍ وَأَسْرَعَ فَعَادَتْ أَحْسَنَ مَا

مونس بن گئی اور لعاب دہن لگایا ابن عقال کے ہاتھ پر پس وہ ہو گیا فوری طور پر پہلے سے بھی

كَانَتْ قَبْلُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ

زیادہ بہتر۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل اطہار پر

الَّذِي رَفَى بَطْنَ صَبِيٍّ تَغْشَى فذَهَبَ دَائُهُ مِنَ الْحَشَا اللَّهُمَّ

جس محبوب نے دم فرمایا اس بچے کے پیٹ کو جو بیہوش ہو چکا تھا تو زائل ہو گئی اس کی انترائیوں سے بیماری۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ يَسْخَرْ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے چھوا عامر کی

عَامِرٍ بِيَدِهِ الْيُمْنَىٰ فَكَانَ نُورًا وَاضِحًا السَّنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

چھڑی کو اپنے ہاتھ سے پس ہو گیا اس کا نور واضح چمک والا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ يَأْمَسْ الْقِنُوءَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب نے جب چھوا کھجور کے خوشہ کو

بَيْنَانِهِ أَثْمَرٌ مِنْ عَامِهِ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اپنی انگلیوں سے تو پھل دینے لگا اسی سال بغیر آنے موسم کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ يَأْنُصَحْ فِي وَجْهِ زَيْنَبِ الْمَاءِ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب نے جب چھڑکا حضرت زینب کے چہرے پر پانی

كَانَ يُرَىٰ وَجْهَهَا كَالْبَدْرِ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

تو ان کا چہرہ نظر آتا تھا چودھویں کے چاند کی مانند تاریکی میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ يَسْ ضَرْعَ شَاةٍ عَجْفَاءَ فَدَسَّ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے چھوا لاغر اور نزار بگری کے پستانوں کو تو اتر پڑا

لَبْنَهَا مِنْ حَبْنِهِ وَوَفَّاءَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اس کا دودھ اسی لمحہ اور بہت کافی ہوا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَفَلَّ عَلَى زَرَّاعِ بْنِ أَبِي حَاطِبٍ

آپ کی آل پر جس محبوب نے لعاب دہن ڈالا ابو حاطب کے پیٹے کی کلائی پر

فَكَانَ مَا بِهِ مِنَ الْحَرِّ قَامِيسَ الدَّاهِبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پس اس میں جلن کے اثرات کا نور ہو گئے مانند گذشتہ دن کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَسَّ عَلَى

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے ہاتھ پھیرا چھوٹے

رَأْسٍ قَصِيرٍ بَيْنَانِهِ فَعَادَ أَطْوَلَ أَقْرَانِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

بچے کے سر پر تو وہ اپنے ہمعمروں سے طویل تر قامت والا ہو گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَسَحَ بِبَيْدِهِ رَأْسَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے ہاتھ مبارک پھیرا گنجے کے

الْأَقْرَعِ فَنَبَتَ مِنْ حَيْنِهِ شَعْرَةٌ وَأَسْرَعَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سر پر تو فوراً اُگے اسی لمحے بال اس کے اور سرعت کے ساتھ اُگے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَسَحَ بِطُنِّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جنہوں نے مسح فرمایا۔ عقبہ بن

عُقْبَةَ بْنِ فَرَقْدٍ فَعَادَ بِرِيحِهِ أَطْيَبَ مِنَ الْبُسُكِ وَأَجُودَ اللَّهُمَّ

فرقد کے پیٹ پر تو ہو گئی خوشبو اس کی پاکیزہ تر اور عمدہ تر کستوری سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَسَحَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے ہاتھ مبارک پھیرا

عَلَى رَأْسِ صِبْيٍ مَجْنُونٍ فَكَانَتْ مَائِهِ لَمْ يَكُنْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

مجنون بچے کے سر پر تو وہ اس طرح فوری طور پر شفا یاب ہو گیا کہ گویا بیمار ہی نہیں تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي زِيدَ لَهُ سَاعَةٌ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے لیے بڑھا دی گئی ایک ساعت

فِي النَّهَارِ وَكَانَ الظُّلُّ يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

دن میں اور سایہ (درختوں کا) ان کے ساتھ پھرتا تھا جہر بھی آپ نازل ہوتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ إِذَا أَحْدَثَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل اطہار پر جو محبوب کسی مکان میں

فِي مَكَانٍ وَنَهَضَ تَبْلَعُ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْأَرْضُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

قضاے حاجت فرماتے تو آپ کے اُٹھتے ہی زمین نکل جاتی جو برآمد ہوتا آپ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَزَنَ يَعْفُورٌ لَمَّا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی وفات پر آپ کا گدھا یعفور بھی غمزہ ہو گیا

وَجَزَعٌ وَمَاتَ بَعْدَهُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور بیقرار ہوا اور مر گیا آپ کے بعد تیسرے دن - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْتَسْقَى عِبْرَ بَعْدَهُ بِعَمَّةِ الْعَبَّاسِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ دعائے باران فرمائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے بعد آپ کے چچے حضرت عباس کے

وَدَلَّ الْأَسَدُ بِالتَّحْقِيقِ بَعْضَ أَصْحَابِهِ عَلَى الطَّرِيقِ اللَّهُمَّ صَلِّ

توسل سے اور رہنمائی کی شیر نے پورے وثوق و اعتماد کے ساتھ آپ کے ایک صحابی کی راستہ کے متعلق - اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَعْنَى بِقَوْلِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب مقصود ہیں اللہ قوی و

الْقَوِيَّ الْبَتِّينِ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ

منین کے اس قول سے - اور نہیں سکھلائے ہم نے انہیں شعرا ورنہ ہی وہ ان کے شایان شان ہیں نہیں وہ سکھلائی ہوئی شئی

وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَسْنَا

مگر ذکر اور قرآن مبین - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جب اس محبوب نے

بَعَثَ أَصْحَابَهُ إِلَى الرُّومِ أَصْبَحَ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِ الْقَوْمِ اللَّهُمَّ صَلِّ

بھیجا اپنے بعض صحابہ کو روم کی طرف تو وہاں جا کر انہیں کی بولی بولنے لگے - اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قِيلَ فِيهِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کے لیے کہا گیا

لِكِسْرَى فِي النَّوْمِ وَهُوَ فِي غَشَاوَةٍ إِخْلَعُ مَا فِي يَدِكَ لِصَاحِبِ

کسریٰ کو خواب میں جبکہ وہ پردہ میں تھا کہ چھوڑ دے جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے صاحب عصا

الْهَرَاوَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَاطَبَكَ

(پہنچنے کے لیے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب سے مخاطب ہوا

يَعْفُو مُبْتَدِيًا لِمُرِيطًا أَبَائِي غَيْرَ الْأَنْبِيَاءِ وَلَكِنَّا قَصْرُدُونَ قَامَتِهِ

یعفور آغاز کلام کرتے ہوئے نہیں سوار ہوئے میرے آباء کی پشت پر سوائے انبیاء کے اور جب کوتاہ ہو گئی آپ کی قامت کے

الْحِدَارِ ارْتَفَعَتْ عُنْبَاتُهُ لَكَ وَأَسْتَدَارَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

کے دیوار تو بلند ہو گئی اس کی دہلیز اور گول بن گئی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَكِبَ الْفَرَسَ الْقُطُوفِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب سوار ہوئے تاہم وار گھوڑے پر

جَهَارًا فَعَادَ بَعْدَ يَحْرًا الْأَيْجَارَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تو ہو گیا وہ اس کے بعد دریا کی روانی والاجس کی برابری نہیں کی جاسکتی تھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَهَسَ بَعِيرًا جَابِرِ الْقُطُوفِ بِعَصَاهُ

اور آپ کی آل پر کہ جنہوں نے چوکا دیا حضرت جابر کے کچ رفتار اونٹ کو اپنی چھڑی سے

فَمَا دَنَاهُ بَعِيرًا بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا قِصَاةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پس نہ قریب ہو سکا اس کے بعد ازاں کوئی اونٹ اور نہ اس کو پیچھے چھوڑ سکا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِفَرَسِهِ نَفْ لَارُكَ فَلَمْ تُحْرِكْ

اور آپ کی آل پر جنہوں نے فرمایا اپنے گھوڑے کو رُک جاتا کہ میں نماز پڑھ لوں تو اس نے سم کو نہ

حَفْرًا حَافِرًا وَلَمْ تُرْفَعْ حَتَّىٰ رَجَعُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

جنش دی اور نہ اپنی جگہ سے اٹھایا تا آنکہ آپ واپس تشریف لائے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا رَكِبَ حِمَارَ سَعِيدِ بْنِ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جب سوار ہوئے سعید بن عبادہ کے دراز گوشس پر

عِبَادَةَ زَالَ عَنْهُ قَطَافُهُ وَمَا اعْتَادَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

تو زائل ہو گئی اس کی کچ رفتاری اور اس کی پرانی عادت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي إِذَا رَأَاهُ الدَّاجِنُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہیں گھر کی پالتو بھری آتے

فِي الْبَيْتِ بَرَكَ وَإِذَا خَرَجَ لَعِبَ وَتَحَرَّكَ اللَّهُمَّ مُحَرِّكِ الْحَرَكَاتِ

دیکھتی تو بیٹھ جاتی تو بیٹھ جاتی اور جب آپ باہر نکلتے تو وہ کھیلنے لگتی اور جو حرکت ہو جاتی اسے اللہ حرکات کو تحرک دینے والے

وَمُبْدِئِ نَهَائِيَاتِ الْغَايَاتِ وَمُخْرِجِ يَنَابِيعِ قَضْبَانِ قَضْبَانَكَ

اور آغاز کرنے والے غایات کی انتہاؤں کا اور پیدا کرنے والے چشمے شیریں گنے کی

النَّبَاتِ وَمُشَقِّ صَمِّ جَلَامِيدِ الصُّخُورِ الرَّاْسِيَّاتِ وَالْمُنْبِيعِ

لکڑیوں سے اور پھاڑنے والے سخت ترین اور ٹھوس گڑھے ہوئے پتھروں کو اور جاری کرنے والے

مِنْهَا مَاءً مَّعِينًا لِلْمَخْلُوقَاتِ وَالْمُحْيِي بِهِ سَائِرَ الْحَيَوَانَاتِ وَ

ان سے شفاف پانی مخلوقات کے لیے اور زندہ کرنے والے اس کے ذریعے تمام حیوانات اور

النَّبَاتَاتِ وَالْعَالَمِ بِمَا اخْتَلَجَ فِي صُدُورِهِمْ مِنْ أَسْرَارِهِمْ

نباتات کو اور جاننے والے ان اسرار و افکار کو جو کھٹکنے والے ہیں ان کے صدور و

وَأَفْكَارِهِمْ وَفَكَرْمِزِ نَطْقِ الْإِشَارَاتِ الْخَفِيَّاتِ وَلُغَاتِ النَّمْلِ

قلوب میں اور مخفی اشارات کی زبان کی رمزوں کو کھولنے کا اور چلتی چیونٹیوں کی بولیوں کا

السَّارِحَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

علم رکھنے والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرْتَهُ الشَّأْءَ وَهُوَ سَأَلَكَ أَتَّهَا أَخَذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ

پر جنہیں خبر دی بھری نے جبکہ آپ راہ پر چل رہے تھے کہ اسے پھڑا گیا ہے مالک کی

الْمَالِكِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اجازت کے بغیر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي شَكَى إِلَيْهِ الْبَعِيرُ الْمَصْرُوعُ مِمَّا بِهِ مِنَ الْبُرْدِ وَالْ

پر کہ جن کی بارگاہ میں شکایت کی آفت زدہ اونٹ نے درپیش ٹھنڈک اور

الْجُوعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

بھوک کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا لَمَسَ حَدَّ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَادَ رِيحُهُ أَجُودَ مِنْ

پر کہ جنہوں نے چھوا جب رخسار حضرت جابر بن سمرہ کا تو ہو گئی ان کی خوشبو پاکیزہ تر اور

الْمِسْكِ وَأَعْطَرَ مِنْهُ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

سپرترین کتوری سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَقَلَّ فِي عَيْنِ عَلِيٍّ وَهِيَ رَمَدَتْ فَكَانَتْهَا

کی آل پر جنہوں نے لعاب دہن ڈالا حضرت علی کی آنکھوں میں جبکہ وہ بیمار تھیں تو یوں ہو گئیں کہ گویا

لَمْ تَرْمُدْ إِذْ أَبَدَا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کبھی بیمار ہوئی ہی نہیں تھیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَلَّتْ جَرْحَ عَائِدٍ بِيَدِهِ وَلَمَسَ فَعَادَتْ

آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے صاف کیا زخم عائد کا اپنے ہاتھ مبارک سے اور مس کیا پس ہو گیا

لَهُ عُرَّةٌ كَعُرَّةِ الْفَرَسِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

وہ زخم اس کی پیشانی میں سفید پھول مانند گھوڑے کی سفیدی کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الَّذِي تَقَلَّ فِي أَثَرِ سَهْمِ أَبِي قَتَادَةَ فَمَا

آپ کی آل پر کہ جنہوں نے لعاب دہن ڈالا حضرت ابوقتادہ کے تیروالے زخم پر پس نہ محسوس کیا

أَحْسَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا اعْتَادَهُ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا

اور نہ دوبارہ ظاہر ہوا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الَّذِي تَقَلَّ فِي عَيْنِ فُدَيْكٍ وَ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب نے لعاب دہن ڈالا فدیک کی آنکھ میں جبکہ

هِيَ بَيْضَاءُ فَعَادَتْ أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ وَأَرْضَى اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ

وہ سفید ہو چکی تھی تو وہ دوسری سے بھی حسین تر اور پسندیدہ تر ہو گئی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الَّذِي تَقَلَّ عَلَى

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جنہوں نے لعاب دہن ڈالا

سَاقِ ابْنِ حَكِيمٍ يَوْمَ الْخُنْدُقِ فَعَادَتْ أَجُودَ مَا كَانَتْ وَأَطْلَقَتْ

ابن حکیم کی پنڈلی پر خندق کے دن پس وہ ہو گئی پہلے سے بھی عمدہ اور روانی میں زائد۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ

الَّذِي نَزَّوَدَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ مَاءً حَسَنًا فَرَادَ لَهُمْ زَيْدًا طَاهِرًا

جس محبوب نے زادِ راہ کے طور پر پاکیزہ پانی عطا کیا تو ہو گیا وہ ان کے لیے پاکیزہ بھی

وَلَبِنًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور دودھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي لَمَّا أَرَادَ نَحْرُ بَدَنَاتِهِ وَأَبْتَدَا بِهِنَّ فَيَزِدْجُنَّ عَلَيْهِ

کہ جس محبوب نے قربانی کے اونٹ ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا اور آغاز کیا تو وہ بھیڑ کرنے لگے آپ پر

بِأَيْهِنَّ يَبْتَدَأُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کہ کسے پہلے ذبح کریں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ إِذَا اعْتَرَضَتْهُ الشَّجَرَةُ فِي الْبَضِيقِ

آل پر کہ جنہیں پیش آتا کوئی درخت تنگ راستہ میں تو

تَنَحَّتْ لَهُ عَنِ الطَّرِيقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وہ آپ کی خاطر راہ سے ہٹ جاتا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ الْعُشْبُ يَنْبُتُ بَيْنَ يَدَيْهِ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ تازہ گھاس رکھتا تھا ان کی اونٹنی عضلہ

نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءُ وَمَاتَتْ بِمَوْتِهِ حُزْنًا عَلَيْهِ وَكَرُبًا اللَّهُمَّ صَلِّ

کے آگے اور وہ مر گئی آپ کے وصال کے بعد آپ کی جوانی کے رنج و الم سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب

يَتَقَلُّ فِي أَفْوَاهِ الْمَرَاضِعِ فَيُجْزِيهِمْ ذَلِكَ إِلَى الْحُلُولِ فِي

ساب دہن ڈالتے شیر نوار بچوں کے منہ میں تو کفایت کرتا انہیں سونے کے

الْمَصَاحِبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اوقات تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَهَا شَكْوَى إِلَيْهِ أَبُو طَالِبٍ الظَّهْرُ ضَرْبَ الْأَرْضِ

کی آل پر کہ جن کے پاس شکایت کی جناب ابوطالب نے پیاس کی تو آپ نے اپنی اڑھی کو

بَعْقِيهِ فَأَنْفَجَرَ الْمَاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

زمین پر مارا پس پانی پھوٹ پڑا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ إِذَا مَشَى عَلَى الْقَتَادِ عَادَتْ حَتَّى

آل پر کہ جو چلتے سخت کانٹوں پر تو وہ آپ کے قدموں کے نیچے

قَدَمِهِ كَالْفَرَاشِ الْبِهَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہو جاتے مانند رزم و گداز تیار شدہ بچھونے کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَدَّ يَمِينُ مَعْوِذِ بَعْدَ الْقَطْرِ وَنَبَعِ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب نے درست فرما دیا حضرت معوذ کا دایاں ہاتھ جنگ بدر میں اگٹنے کے بعد

فِي غَزْوَةِ بَوَاطِ مِّنْ أَبْيِنِ الْأَصَابِعِ الْمَاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور پھوٹا غزوہ بواط میں آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أBRَى بِشِقِّ حَبِيبٍ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب نے شفا بخشی حبیب کے پہلو کو

بِالْمَسْحِ وَأَمَّنْ خَائِفَهُ يَوْمَ الْفَتْحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ہاتھ پھیر کر اور امان دی خوفزدگان (قریش) کو فتح مکہ کے دن۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُرْسَلِ إِلَى كَافَّةِ الْخَلْقِ يَقِينًا وَ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب بھیجے گئے رسول بنا کر طرف ساری مخلوقات کے یقیناً اور

الْمُخَاطَبِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا اللَّهُمَّ صَلِّ

جن کو خطاب کیا گیا ساتھ اللہ عزوجل کے اس قول کے "بیشک ہم نے فتح عطا کی ہے آپ کو واضح فتح" اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَفِي وَجُودًا

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جنہوں نے پھینکی مٹی قریش کے

قَرِيْشٍ بِالتُّرَابِ فَانْهَزْ مُوَابِعَدًا ضَرْبَ الرِّقَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

مومنوں پر پس وہ شکست کھا کر بھاگ گئے (بعض کی) گردنیں مارے جانے کے بعد اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَدَّ اللَّهُ الرَّكْلَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ اللہ تعالیٰ نے کر دی آپ کے صحابہ کرام کے قدموں کے

تَحْتَ أَقْدَامِ أَصْحَابِهِ صَدًّا أَبْعَدًا أَنْ كَانَتْ الْأَرْضُ جُلًّا لَاتَثْبُتُ عَلَيْهِ

نیچے والی ریت سخت اور منجمد بعد اس کے کہ ان کے پاؤں اس پر برقرار نہیں رہتے تھے

وَلَا تَهْتَدِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اور نہ راہ پا سکتے تھے اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ إِذَا وَضَعَ يَدَهُ فِي الطَّعَامِ وَكَبَّرَ عَادَ أَكْثَرًا كَانَ

آل پر کہ جو محبوب ہاتھ رکھتے طعام میں اور اللہ کی کبریائی بیان کرتے تو وہ ہوجاتا پہلے سے زیادہ

وَأَوْفَرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور وافر اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي سَكَبَ فَضْلًا وَضُوعًا فِي بَيْرُقِبَا فَتَفَجَّرَ مَا نُهَا بَعْدَ التَّزْرِعِ

کہ جس محبوب نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی قباء کے کنوئیں میں ڈالا تو جوش مارنے لگا اس کا پانی خالی ہونے کے بعد

وَرَبًّا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور بڑھ گیا اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي حَنَّتْ إِلَيْهِ الشُّوقُ وَإِلَيْهِ الْحَدُّ إِلَّا الشُّوقُ اللَّهُمَّ صَلِّ

کہ جن کی طرف شوق سے مائل ہوئیں اوشنیاں اور طرف آپ کے ہی حدی نحوان البتہ چلاتے تھے اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي يُسْتَشْفَىٰ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کے چہرہ انور

بِوَجْهِهِ الْغَمَامُ وَكَانَ يُسْتَشْفَىٰ بِلَمْسِهِ مِنَ السَّقَامِ وَالْأَلَامِ

کی برکت سے بارش طلب کی جاتی بادلوں سے۔ اور شفا طلب کی جاتی تھی آپ کے ہاتھ لگانے سے بیماریوں اور دردوں سے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كُلُّ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ وہ محبوب

دُجِيَةٍ حَلَّهَا لَمْ تَنْظَلْهُمُ وَكُلُّ دَابَّةٍ رَكِبَهَا لَمْ تَهْرَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ

جس تاریک جگہ میں اترتے تو وہ تاریک نہیں رہتی تھی اور جس سواری پر سوار ہوتے وہ بوڑھی نہیں ہوتی تھی۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي غَسَلَ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب نے دھوئے

قَدَمَيْهِ بِأَمْلَحِ الْمِيَاهِ فَعَادَ أَعْدَابَ مَا فِي الْأَرْضِ وَأَحْلَاهُ

قدم مبارک سخت کھاری پانی کے ساتھ تو وہ روئے زمین کے پانیوں سے زیادہ میٹھا اور شیریں ہو گیا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي كَانَ إِذَا مَسَّحَ بِمَنْدِيلٍ يَدَيْهِ لَمْ تَعُدْ النَّارُ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ

کہ جو محبوب کسی بھی دستمال سے ہاتھ پونچھ لیتے تو آگ اس کو نہیں جلاتی تھی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب نے دعا فرمائی

عَلَىٰ أَبِي عَامِرٍ الرَّاهِبِ فَمَاتَ وَهُوَ إِلَى الشَّامِ ذَاهِبٌ اللَّهُمَّ صَلِّ

ابو عامر راہب کے خلاف تو وہ ہلاک ہو گیا جبکہ شام کی طرف جا رہا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا عَلِيَّ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جنہوں نے دعا فرمائی

الْحَمْدُ دَعْوَةٌ فَاصَابَتْهُ لِقْوَةُ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

علم کے خلاف تو پہنچا اس کو لقوہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمِعَ وَجَنَّةَ الْحَجْرِ حِينَ الْفَيْ فِي

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے سنی پتھر کے گرنے کی آواز جبکہ وہ پھینکا گیا

السَّقَرِ وَسَمِعَ عَوَاءَ الْكُفَّارِ وَهُوَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

جہنم میں اور سنی کافروں کے رونے کی آواز حالانکہ وہ دوزخ کے نچلے طبقہ میں تھے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي سَمِعَ بُكَاءَ الْكُرُوبِ يَسْتَغْفِرُونَ لِأَهْلِ الدُّنُوبِ مِنْ

کہ جس محبوب نے سنی مقرب ترین فرشتوں کے رونے کی آواز جو مغفرت طلب کرتے تھے آپ کی اُمت کے

أُمَّتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

گناہگاروں کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمِعَ الْيَهُودَ تُعَذِّبُ فِي قُبُورِهَا قَبْلَ يَوْمِ نُشُورِهَا

پر کہ جس محبوب نے سنا یہودیوں کو عذاب پاتے ہوئے اپنی قبروں میں ان کے قبروں سے اُٹھنے کے دن سے

وَسَمِعَ صَاحِبَ الْقَبْرِ يَقُولُ عَذِّبْتُ فِي الْغَيْبَةِ وَالْبَوْلُ اللَّهُمَّ

پہلے اور سنا قبر والے کو کہتے ہوئے کہ میں عذاب دیا گیا ہوں غیبت اور پیشاب کی وجہ سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے

سَمِعَ حَرَكَةَ بَابِ الْجَنَّةِ حِينَ حَرَكَةُ الرِّضْوَانِ وَسَمِعَ وَهُوَ

سنی جنت کے دروازے کی حرکت جبکہ اس کو جنبش دی رضوان نے اور سنا آپ نے جبکہ

بِوَادِ الْعَقِيقِ تَسْبِيحَ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ بِالتَّحْقِيقِ اللَّهُمَّ صَلِّ

واہی عقیق میں تھے آسمانی ملائکہ کی تسبیح کو یقینی طور پر۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمِعَ كَلَامَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب نے سنا

النَّارِ وَالْجَنَّةِ تَطْلُبُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّمَّهَا مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ اللَّهُمَّ

آتش دوزخ اور جنت کی آوازوں کو درآخا لیکہ دونوں طلب کر رہی تھیں اپنی پڑی انسانوں اور جنوں کے ساتھ لے لے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ اللہ تعالیٰ نے

اللَّهُ كُلَّ بَيْتٍ فِيهِ اسْمُهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ يَرْبُوقِيهِ الرِّزْقُ وَيَنْبُؤُ

بنا دیا ہے ہر اس گھر کو جس میں آپ کے اسم مبارک میں سے کوئی اسم ہو کہ اس میں رزق بڑھتا اور زائد ہوتا رہتا ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَعْنَى

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب مقصود ہیں

يَقُولُهُ عَزَّوَجَلَّ إِظْهَارَ الْقُدْرَةِ فِي الْعِبَادِ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ

اللہ عزوجل کے اس قول سے جو کہ ان کی قدر و منزلت کو بندوں میں ظاہر کرنے کے لیے بیشک جس ذات نے تم پر قرآن

الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادِ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

فرض کیا ہے البتہ لوٹنے والے نہیں مقام موعود تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَذِبَتْ بِرَيْقِهِ الْبَالِحَةُ وَنَمَتْ

آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے لعاب دہن سے میٹھے ہو گئے کھاری پانی اور بڑھ گئے

بِفَضْلِهِ الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اجرو ثواب میں ان کے فضل و کرم سے اعمال صالحہ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رُدَّتْ شَمْسُ النَّهَارِ وَخَاطَبَتْهُ

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے لیے سورج لوٹایا گیا اور جن سے کلام کیا

الْوَحُوشُ وَالْأَطْيَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

جنگلی جانوروں اور پرندوں نے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ضَمِنَ الْغَزَالََةَ لِرِضَائِهِ أَوْلَادَهَا فَكَرِهَتْ

کی آل پر کہ جو محبوب ضامن بن گئے ہر فی کی طرف سے اس کے بچوں کو دودھ پلانے تک پس اس نے

بِعَهْدِهَا وَمِيعَادِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اپنے عہد اور وعدہ کو پورا کیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا شَارَكَهُ أَحَدٌ فِي حُسْنِهِ وَمَا جَاوَزَ قَطُّ

کی آل پر کہ جس محبوب کے ساتھ نہ شریک ہو کوئی شخص ان کے حسن میں اور نہ تجاوز کیا کبھی آپ کے

شَعْرَةً عَنْ حَدِّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

باؤں نے اپنی حدود سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَدَّ عَيْنَ قَتَادَةَ بَعْدَ الْعَبْيِ وَكَانَ يَسْمَعُ

آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے درست فرمائی حضرت قتادہ کی آنکھ اندھی ہو جانے کے بعد اور سنتے تھے

أَذَانَ جِبْرَائِيلَ فِي السَّمَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آواز جبرائیل کی آذان کی آسمان میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ آئین کہی دروازے کی دہلیز نے آپ کی دعا پر اور

كَانَ إِذَا رَامَ الْحَدِيثَ أَنْبَتِ الشَّجَرُ وَالْحَجَرُ سِتْرًا مِنْ وَرَائِهِ اللَّهُمَّ

جب آپ قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو نمودار ہو جاتے درخت اور پتھر ان کے پیچھے پردہ کی خاطر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب سب سے کامیاب

رَأْيًا وَكَانَ يَرَى فِي الظُّلْمَةِ كَمَا يَرَى فِي الضِّيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

رائے والے تھے اور آپ دیکھتے تھے تاریکی میں بھی جیسے کہ دیکھتے تھے دن کی روشنی میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو امان ہیں جہاں کہیں بھی

كَانَ وَجَاءَ جِبْرَائِيلُ بِطَبِيقٍ مِّنَ الْجَنَّةِ بِالْعِنَبِ وَالرُّمَّانِ اللَّهُمَّ صَلِّ

ہوں اور لے آئے جبرئیل علیہ السلام آپ کے لیے اتھال انھوروں اور اناروں کا جنت سے۔ لے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَعْطَىٰ عَرْجُونًا

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے کھجور کی شاخ

لِقِتَادَةٍ فَعَادَ فِي يَدَيْهِ سَيْفًا كَالشَّمْسِ الْوَقَادَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

حضرت قتادہ کو دی تو وہ ان کے ہاتھ میں تلوار بن گئی جو آفتاب تاباں کی مانند تھی۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَادَقَ الْقَوْلَ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب قول اور

الرَّأْيَ وَكَانَ لَا يَأْكُلُ طَعَامَ الْجَنَّةِ فِي الدُّنْيَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

رائے میں صادق تھے اور نہیں تناول فرماتے تھے جنت کا کھانا دنیا میں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَكْثَرَ النَّاسِ

فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب تمام لوگوں سے زیادہ

صِلَةً لِّقَرَابَتِهِ وَذَوِي أَرْحَامِهِ وَغَرَسَ النَّخْلَ بِيَدَيْهِ فَاطْعَمَ

اہل قرابت اور ذوی الارحام کی صلہ رحمی فرماتے تھے اور لگایا آپ نے کھجوروں کے پودوں کو اپنے ہاتھ مبارک سے تو اسی

مِنْ عَامِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

سال پھل دیا انہوں نے۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَعْطَىٰ الْعَصَا لِعُكَاشَةِ الْقَانِعِ فَعَادَتْ فِي

کی آل پر کہ جس محبوب نے حضرت عکاشہ قانع کو عصا عطا فرمایا تو وہ ہو گیا

يَدَيْهِ سَيْفًا قَاطِعًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

ان کے ہاتھ میں تیغ براں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ تَقْتُلُكَ الْحُبِّي لَزِيدِ الْخَيْرِ وَمَاتَ

کی آل پر کہ جس محبوب نے فرمایا زید خیر کو قتل کرے گا تجھے تپ اور مر گیا

بِهِ أَبُو عَامِرٍ مَحْمُودًا غَرِيبًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ساتھ آپ کی دعا کے ابو عامر در آنجا لیکہ تب زدہ تھا اور غریب الوطن۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَرِبَ الضَّرِيرُ بَوْلَهُ وَاعْتَدَا فَلَاحُ

اور آپ کی آل پر کہ ایک نابینا نے پی لیا آپ کا پیشاب اور اس کو غذا بنا لیا تو نہ

يَشُكُّ الضُّرُّ بَعْدَهَا أَبَدًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

شکایت کی کسی بیماری اور تکلیف کی بعد اس کے کبھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَنْهَلَ الْمُرْنَ بِدُعَائِهِ وَأَغْنَى

اور آپ کی آل پر کہ جنہوں نے بادل برسائے اپنی دعا سے۔ اور غنی کر دیا

الْعُفَاةَ بِتَوَالِهِ وَعَطَاءِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سوالیوں کو اپنے جود و عطا سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَهُ الدَّرَاعُ وَأَشْبَعَ الْفَأَمْنُ

اور آپ کی آل پر کہ جن سے کلام کیا (بحری کے) بازو نے اور سیر فرمایا جنہوں نے ہزار آدمی کو

صَاعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ایک صاع سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي كَلَّمَهُ ظُبَى الْقَلَا وَحَنَّ إِلَيْهِ الْجُدُّ حَنِينَ الشُّكْلِ اللَّهُمَّ

کہ جن سے کلام کیا جنگل کے بہرن نے اور اظہار حزن و ملال کیا طرف ان کے کھجور کے ستون نے (ان کی جدائی پر) مانند حزن و ملال فوت شدہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

بچہ والی عورت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن سے کلام

كَلَّمَتْهُ النَّاقَةُ الْمُتَوَقَّةُ وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا غَيْرُ مَسْرُوقَةٍ اللَّهُمَّ

کیا بندھی ہوئی اونٹنی نے اور انہیں بتلایا کہ وہ چرائی ہوئی نہیں ہے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جب

فَدَعَتْ سَاقِ ابْنِ عَبْرَ صَاحِ يَا مُحَمَّدُ فَاَنْجَبِرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سن ہوئی پنڈلی حضرت عبد اللہ بن عمر کی تو پکار اُٹھے یا محمدؐ تو وہ درست ہو گئی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَبَّأْنَا شَرِبَ

سیدنا محمدؐ پر اور سیدنا محمدؐ کی آل پر کہ جب پییا

ابْنُ الزُّبَيْرِ يُولَهُ وَاحْتَفَلَ وَجَدَاهُ أَطْيَبَ مِنَ الْمَسِكِ وَأَحْلَى

حضرت عبد اللہ بن زبیر نے آپؐ کا پیشاب اور اپنے پیٹ میں جمع کیا تو پیا یا اسے زیادہ خوشبودار کستوری سے

مِنَ الْعَسَلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور شیریں تر شہد سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمدؐ پر اور سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَتَمَ اللَّهُ قَلْبَهُ بِخَاتَمٍ مِنْ نُورٍ وَصَبَّتُهُ

محمدؐ کی آل پر کہ جن کے دل نور کو مزین فرمایا اللہ تعالیٰ نے نورانی مہر اور نقش کے ساتھ اور گایا انہیں

الْمَلَائِكَةُ إِلَى النَّحُورِ وَالصُّدُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ملائکہ نے اپنے سینوں اور کلیجوں کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَلِمَ أَلْسِنَةُ الْعَرَبِ وَيَبْلُغُ

محمدؐ پر اور سیدنا محمدؐ کی آل پر کہ جنہیں معلوم تھیں اہل عرب کی زبانیں اور کنٹرول رکھتے تھے

نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اپنے آپ پر غیظ و غضب کے وقت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمدؐ پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يُخَاطَبُ كُلَّ أُمَّةٍ بِلِسَانِهَا وَكَانَ

آپؐ کی آل پر کہ جو محبوب خطاب فرماتے تھے ہر قوم کو ان کی زبان میں اور جواب

يُجَابِبُ كُلَّ أُمَّةٍ بِلُغَتِهَا وَبَيَانِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

دیتے تھے ہر امت اور قوم کو ان کی بولی اور طرز تکلم میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَعَتْ إِلَيْهِ عَلَى سَاقِهَا الشَّجَرُ

محمدؐ پر اور آپؐ کی آل پر کہ جن کے پاس دوڑ کر پہنچنے درخت اپنی جڑوں پر۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جنہوں نے

اسْتَسْقَى مِنْ فَضْلِ وَضْوَعِهِ مَا يَزِيدُ عَلَى الْفَيْنِ وَأَعْطَى قُوَّةَ

سیراب فرما دیا اپنے وضو کے نیچے پائے سے دو ہزار سے زائد صحابہ کرام کو اور جو عطا کئے گئے تھے (ظاہری جسمانی)

أَرْبَعِينَ رَجَالًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

قوت چالیس جنتی آدمیوں کی - لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَأَنَّ تَحْتَ قَدَمِهِ الْحَجَرُ الْجَلُودُ وَخَضِرٌ

محمد کی آل پر کہ جس محبوب کے قدموں کے نیچے نرم و ملائم ہو گئے سخت پتھر اور سرسبز ہو گئی

فِي يَدَيْهِ مَا يَبْسُ مِنَ الْعُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ان کے دست اقدس میں خشکی کھڑی - لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَسَّ بِكَفِّهِ ضَرْعٌ شَاةٌ أُمَّ مَعْبِدٍ

اور آپ کی آل پر جس محبوب نے اپنی ہتھیلی سے چھوا ام معبد کی بکری کے تختوں کو

فَعَادَ ضَرْعَهَا أَحْفَلٌ مَا يَكُونُ وَأَجُودُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

تو ہو گئے وہ دودھ سے بھر پور اور بہت عمدہ - لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بِهَاءِ الصُّدُورِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ رونق و بہار ہیں سینوں کی اور

الْمَجَالِسِ وَخَضِرٌ تَحْتَ جَبِينِهِ الْهَشِيمُ الْيَابِسُ اللَّهُمَّ صَلِّ

مجالس کی اور سرسبز ہو گیا جن کی جبین مبارک کے نیچے خشک کھاس - لے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب نے سیراب فرمایا

أَلْفًا وَنِصْفَ أَلْفٍ مِنْ سَبِيلِ رَوْحِ الرُّكْبِ بَعْدَ النَّهْلِ بِالْعَلَلِ

ڈیڑھ ہزار آدمی کو تھوڑے سے پانی سے اور سیراب فرمایا سواروں کو دوسری بار پلا کر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جن سے

خَاطَبَهُ الْبَعِيرُ وَكَلِمَةُ الذُّبِّ وَالْعَبِيرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

خطاب کیا اونٹ نے اور کلام کیا بھیڑیے نے اور گدھے نے۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي طَرَأَ عَرْشِ الرَّحْمَنِ بِدَأْمَتَرٍ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب نقش و نگار زینت ہیں عرش رحمن کے لیے بلاشبک

وَتَحَرَّكَ بِهِ جَبَلٌ حِرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور محور قص ہو گیا ان کی آمد کی خوشی میں کوہ حرا۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَرِبَ ابْنُ سِنَانٍ دَمَهُ يَوْمَ أَحَدٍ لَمْ تَعُدْ

کی آل پر کہ پیا مالک بن سنان خدری نے ان کا زخم سے بہنے والا خون احد کے دن تو نہ اثر انداز

عَلَيْهِ ضَرَارَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَمْ تَعُدْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ہوتی ان پر ان کی بیماری اس کے بعد اور نہ لوٹی۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

سرا سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جن سے

كَلِمَتِهِ الْحَيِّ وَرَأَاهَا وَأَجَابَتْهُ لَهَا أَمْرَهَا وَنَهَاهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کلام کیا تپ نے اور آپ سے دیکھا اسے اور اس نے قبول کیا آپ کا حکم جب آپ نے اس کو امر فرمایا اور منع کیا۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَتْهُ فَرَسٌ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب سے عرض کیا نعمان کے

التُّعْمَانِ الْبُلْقَانُ مَنْ أَمِنَ بِهِ لَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى اللَّهُمَّ صَلِّ

چلے گھوڑے نے کہ جو بھی آپ پر ایمان لائے گا نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ لے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَلَّ الذُّبُّ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے متعلق رہنمائی کی بھیڑیے نے

عَلَيْهِ الرَّاعِي وَحَرَكَهُ لِقُدُومِ عَلَيْهِ مِنْ مَكَّةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

چڑوا ہے کو اور اسے آمادہ کیا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے پر کہ مکہ مکرمہ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ الْأَسَدَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ بھیجا اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں شیر کو

بِالسَّلَامِ مَعَ سَفِينَةِ الْهَمَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

واسطے سلام کے بندہ ہمت سفینہ رضی اللہ عنہ کی معیت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَهُ أَبُو الْكَلَابِ شَرُّ شُرُوْا خَيْرَةً أَنْتَ

آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے ساتھ کلام کیا درندوں کے باپ شر شر نے اور بتلایا کہ وہ کاٹ

لَيَنْهَشُ فِي النَّاسِ مَنْ سَبَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کھائے گا انسانوں میں سے اس کو جو سب و شتم کریگا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَهُ الْعُظْمُ الرَّمِيمِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جن سے کلام کیا بوسیدہ ہڈیوں نے پس

فَجَاوَبَهُ بِأَذِنِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جواب دیا انہیں سمیع و علیم کے اذن سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَهُ الْمَيْتُ بِلِسَانِهِ وَأَحْيَى بَعْدًا مَا

اور آپ کی آل پر جن سے کلام کیا میت نے اپنی زبان سے اور زندہ ہو گیا بعد اس کے کہ

أَدْرَجَ فِي أَكْفَانِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

پیٹا جا چکا تھا اپنے کفن میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أُوتِيَ بِغُلَامٍ أَبِكُمْ فَكَلَّمَهُ مِنْ حِينِهِ فَتَكَلَّمَ

آل پر کہ جن کی بارگاہ میں لایا گیا گونگا بچہ پس اس سے ہم کلام ہوئے تو وہ اسی وقت کلام کرنے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہیں

حَيَاة حُورِ الْجَنَانِ وَالْوُلْدَانِ وَكَلِمَةُ الشُّعْبَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ہدیہ سلام پیش کیا جنتی حوروں نے اور ولدان نے اور کلام کیا ان سے اُردھانے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَتْهُ حَلِيمَةُ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی حلیمہ نے جب کہ

هُوَ غُلَامٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

وہ بچے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَتْهُ خَدِيجَةُ حِينَ قَدِمَ مَعَ الْعَيْرِ وَالْمَدَكَانَ

پر جنہیں دیکھا حضرت خدیجہ نے جبکہ آپ قافلہ تجارت کے ساتھ واپس تشریف لائے اور آپ پر سایہ کئے ہوئے

يُظِلُّانِهِ مِنْ حَرِّ الْهَجِيرِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَسْئَلَةِ وَخَيْرَ

تھے دو فرشتے دوپہر کی گرمی سے بچانے کے لیے۔ اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے اچھے سوال۔ اچھی

الدُّعَاءِ وَخَيْرِ التَّجَارِعِ وَخَيْرِ الْعَمَلِ وَخَيْرِ الثَّوَابِ وَخَيْرِ الْحَيَاةِ وَ

دعاء اور بہتر کامیابی اور بہتر عمل۔ بہتر ثواب کا اور بہتر زندگانی اور بہتر

خَيْرِ السَّمَاتِ وَثَبَّتْنِي وَثَقَّلْ مَوَازِينِي وَحَقِّقْ إِيْمَانِي وَارْفَعْ دَرَجَتِي

موت کا اور یہ کہ مجھے ثابت قدم رکھ اور میرے میزانِ حسنات کو بھاری فرما اور میرے ایمان کو پائیدار اور درجات کو بلند

وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي وَاعْفِرْ خَطِيئَتِي وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنْ

اور نمازوں کو مقبول بنا اور میرے گناہ بخش اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے جنت کے

الْجَنَّةِ أَمِينٌ وَأَسْأَلُكَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ وَجَوَامِعَهُ وَكَوَامِلَهُ

بلند درجات کا آمین۔ اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے آغاز کی خیر اور انجام کی خیر کا اور جامع و کامل خیر کا

وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ وَالْدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ

اور اول خیر۔ آخر خیر اور ظاہر خیر اور باطن خیر کا اور جنت میں بلند تر مقامات کا

أَمِينٌ وَأَنْظِمْنَا بِسَلِّمْ خَيْرَ الْبَرِيَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آمین۔ اور بروئے ساری مخلوق کے سرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑی میں۔

اللَّهُمَّ ادُبِّرْ لَنَا بِرَحْمَتِكَ وَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ يَا مُفَرِّجَ الْكُرْبِ

اے اللہ ہمارا احاطہ فرما اپنی رحمت کے ساتھ اور دور فرما ہم سے وہ رنج و الم جس میں ہم ہیں اے دور کرنے والے

الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ وَنَجِّنَا مِنَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ يَا مُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ

تمام مخلوقات کے درد اور کرب کو اور نجات دے ہمیں فکر و غم سے اے نجات دینے والے مومنین کو

وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ مَكِّنِي مِنَ الشَّفَرِ

اور رحم فرما ہم پر ساتھ اپنی رحمت خاصہ کے اے تمام عالموں کے پالنے والے۔ اے اللہ مجھے طاقت عطا فرما سیر و

فِي سَعَةِ مُلْكِكَ وَمَلَكُوتِكَ وَمِلْكِنِي بِقَدِيمِ مُلْكِكَ وَنَاصِيَةِ

تفریح کی اپنے ملک ظاہر اور ملک باطن میں اور مجھے مالک بنا دے اپنے ملک قدیم کا اور ہر

كُلِّ ذِي رُوحٍ نَاصِيَتُهُ بِيَدِكَ وَنَجِّنِي مِنْ مُلْحِقَاتِ سَخَطِكَ

ذی روح کی پیشانی کا جس کی پیشانی تیرے دست قدرت میں ہے اور نجات دے مجھے اپنی ناراضگی لاحق کرنے والے

وَمَوْجِبَاتِ غَضَبِكَ وَتَعِيدْنَا مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَتَبَعْدُ بَيْنَنَا وَ

امور سے اور غضب کے موجبات سے اور پناہ دے ہمیں بڑی گھبراہٹ (قیامت) سے اور دوری پیدا فرما ہمارے درمیان اور

بَيْنَ مَعَاصِيكَ وَأَنْ تَدَارِكُنِي بِحَفِي لُطْفِكَ الْحَفِي الْحَفِي وَأَنْ

معاصی کے درمیان اور میرا احاطہ فرما اپنے لطف و کرم کے ساتھ جو سراسر شفقت و عنایت پر مشتمل ہو اور

تَسْخَرَلِي وَتُبَكِّنِي مِنْ كُلِّ مَا أُرِيدُ كَمَا أَنْتَ تُرِيدُ إِنَّكَ عَلَى

مسخر فرمائے میرے لیے اور قادر کرے مجھے ہر اس شئی پر جس کا میں ارادہ کروں جیسے کہ تو ارادہ رکھتا ہے۔ بیشک تو

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ الْوَلِيُّ الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ

ہر چیز پر قدیم ہے پس تو ہی غنی۔ حمید۔ ولی۔ مجید۔ قبور سے

الشَّهِيدُ الْبِيدِيُّ الْمَعِيدُ الْفَعَّالُ لِمَا تُرِيدُ يَا بَارِيَّ يَا مَعْبُودِيَّ

اٹھانے والا شہید و گمباز۔ آغاز کرنے والا۔ دوبارہ زندہ کرنے والا اور کر گذر نبوا الہیہ ہر اس امر کا جس کا ارادہ کرے۔ اے بیدار کرنے والے۔ اے معبود

مَقْصُودِيَّ يَا مَوْجُودِيَّ يَا حَقِّي يَا قَوِيَّ يَا مَنْ عَلَيْهِ الْعَسِيرُ لَسِيرًا

اے مقصود۔ اے موجود۔ اے حق۔ اے قوی۔ اے اس پر آسان ہے جو (مخلوق کیلئے) مشکل ہے۔ اے ک

بِإِيْدِهِ الْخَيْرُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَسْأَلُكَ

اسی کے ہاتھ میں خیر ہے اور اسی کی طرف بازگشت ہے اور وہ ہر شئی پر قدر ہے۔ اور میں سوال کرتا ہوں

أَنْ تُسَخِّرَ لِي كُلَّ شَيْءٍ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ

کہ مسخر فرمائے میرے لیے ہر شئی کو یا وہاب۔ یا وہاب۔ یا وہاب۔ اے رب ہر شئی کے تڑ ہی

الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَأَعِصْنِي مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شَرِّ كُلِّ

صاحب قدرت ہے ہر چیز پر مجھے محفوظ رکھ ہمارے نفوس کے شرور سے اور ہر چیز کے

شَيْءٍ أَسْأَلُكَ أَنْ تُفَضِّلَ عَلَيَّ بِفَضْلِكَ الْعَمِيمِ وَجُودِكَ الْكَرِيمِ

شر سے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھ پر فضل و کرم فرمائے اپنے فضل عمیم اور جود کریم کے ساتھ

يَا كَرِيمُ يَا حَلِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَلِيمُ أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ

یا کریم۔ یا حلیم۔ یا عظیم۔ یا علیم۔ سوال کرتا ہوں تجھ سے یا اللہ۔ یا اللہ۔ یا اللہ

أَنْ تَرْتُقِنَا رِزْقًا حَلَالًا مَبَارَكًا طَيِّبًا وَأَنْ تُهْدِبَ أَخْلَاقَنَا يَا

کہ ہمیں عطا فرمائے رزق حلال اور بابرکت و پاکیزہ اور ہمارے اخلاق کو منہذب بنائے اے

ذَالْجُودِ وَالْإِحْسَانِ يَا ذَا الْفَضْلِ وَالْإِمْتِنَانِ يَا سُلْطَانَ يَدَيَانِ

مالک جود و احسان کے۔ اے مالک فضل و کرم کے۔ اے بادشاہ۔ اے جزادینے والے

وَأَنْ تَبْسُطَ لَنَا مِنْ عِنَايَتِكَ مَا تَجُودُ عَلَيْنَا حَتَّى تَتَقَلَّبَ إِلَيْكَ

اور پھیلائے ہمارے لیے اپنا دامن عنایت جو سبب جود و نوال ہو ہمارے لیے یہاں تک کہ پلٹیں طرف تیری

قُلُوبُنَا فِي بَحْرِ طَاعَتِكَ وَأَبْصَارُنَا وَبَصَائِرُنَا مُتَوَرِّدَةً بِهَدَايَتِكَ

ہمارے قلوب تیرے بحر اطاعت میں اور ہماری آنکھوں اور بصیرتوں کو متور فرما اپنی ہدایت خاصہ کے ساتھ

يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تُحَقِّقَنَا أَرْوَاحَنَا بِحَقَائِقِ الْعُرْفَانِ

اے رب العالمین۔ اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ ہمارے کو ارباب تحقیق بنائے حقائق عرفان کے ساتھ

وَتَتَّوَجَّحْنَا بِتَيِّبَاتِ الْقَبُولِ وَالْإِكْرَامِ وَالْإِمْتِنَانِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

اور توجہ بنائے قبولت و اکرام اور احسان کے تاجوں کے ساتھ اے رب العالمین

اور توجہ بنائے قبولت و اکرام اور احسان کے تاجوں کے ساتھ اے رب العالمین

اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

آمین تم آمین۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَجَدَ لَهُ الْبُعَيْرُ الْحَقُّودُ وَرَأَى الْجَنَّةَ وَتَنَاوَلَ مِنْهَا

آل پر۔ کہ جس محبوب کے لیے سجدہ کیا غضبناک اونٹ نے اور جس محبوب نے مشاہدہ کیا جنت کا اور حاصل کیا اس سے

الْعَنُقُودَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

ایک گچھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي صَعَدَ كَفِّهِ حَيْنَ كَفِّ السَّحَابِ فَمَا صَوَّبَهَا حَتَّى

پر۔ کہ جس محبوب نے بلند کیا اپنی ہتھیلیوں کو جبکہ رُکے ہوئے تھے بادل پس نہ جھکایا انہیں یہاں تک کہ

جَاشَ كُلُّ مِيْرَابٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

پانی کے ساتھ زور سے بہہ پڑا ہر پرنا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَعْنَى بِقَوْلِ صَدِقِ الْقَائِلِيْنَ قُلْ اِنِّي

آپ کی آل پر جو محبوب مراد و مقصود ہیں سب سے قائل کے اس قول سے فرمادیجئے بیشک

هَدَا نِي رَبِّيْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنَا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا

مجھے ہدایت دی ہے میرے رب نے طرف صراط مستقیم کے جو کہ سیدھا اور پائیدار دین ہے ملت ابراہیم جو حق کی طرف مائل تھے

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور نہیں تھے مشرکین سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لَاتِسِ بِكَثْرَةِ الْمَالِ وَالْوَلَدِ

اور آپ کی آل پر جس محبوب نے دعا فرمائی حضرت انس کے لیے مال و اولاد کی کثرت کی

فَدَفِنَ مِائَةً وَعَشْرِيْنَ لِصُلْبِهِ وَكَانَتْ تَرْكُتُهُ لَا تُحْضَى وَلَا

تو انہوں نے دفن کئے ایک سو بیس فرزند اپنی صلبی اولاد سے اور ان کا ترکہ احاطہ اور شمار سے

تَعُدُّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

باہر تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا ابْنَ عَوْفٍ بِالْمَالِ وَالْغِنَى فَصُوِّلِحَ عَنْ ثَمَنِ

آل پر کہ جس محبوب نے دُعا فرمائی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے لیے مال اور غنا کی تو مصالحت کی گئی ان کے ترکہ کے

تَرْكِهِ بِمِائَةِ وَسَيْتَيْنِ أَلْفًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آٹھویں حصہ سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار درہم پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِعَائِشَةَ بِالْمَغْفِرَةِ الْبَاطِنَةِ وَ

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے دُعا فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے ظاہری اور باطنی

الظَّاهِرَةِ فَتَالَتْ بِهِ الْبِرْكَهَ الْوَافِرَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مغفرت کی تو انہوں نے اس سے وافر برکت پائی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِلْمَآذِنِ وَكَانَ مُوَلِعًا

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے دُعا فرمائی مازن کے لیے جو کہ بہت گرویدہ تھا

بِالْخَمْرِ وَالطَّرِبِ فَأَرْتَفَعُ ذَلِكَ عَنْهُ وَذَهَبَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

شراب اور رقص و سرور کا پس وہ دُور ہو گیا اس سے اور باز آ گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لَشُعْبَةَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے دُعا فرمائی شعبہ کے لیے

بِالْغِنَى فَكَثُرَ مَالُهُ بِذَلِكَ وَاعْتَنَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

غنا کی تو بہت زیادہ ہو گیا اس کا مال اور وہ غنی ہو گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا أَنْ يُعَزَّزَ الْإِسْلَامُ بِأَحَدٍ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جنہوں نے دُعا فرمائی کہ عزت دی جائے اسلام کو دو میں سے

الْعُمَرَيْنِ فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْحَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ایک عمر کے ساتھ تو حضرت عمر بن الخطاب فوراً اسلام کے غلبہ کے باعث بن گئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِلطُّفِيلِ أَنْ

سیدنا محمد کے لیے اور آپ کی آل کے لیے جنہوں نے دُعا فرمائی حضرت طفیل دوسی کے لیے

يُتَوَسَّرُ وَكَانَ وَجْهَهُ فِي الظُّلْمَةِ كَالسِّرَاجِ مُظْهِرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کہ ان کو نور عطا کیا جائے تو ان کا چہرہ رات کی تاریکی میں چراغ کی مانند واضح اور نورانی ہوتا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا عَلَى سُرَاقَةِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے دعا فرمائی سراقہ کے خلاف

حِينَ تَبِعَهُ فَأَلْقَتْهُ الْأَرْضُ بَعْدَ مَا أَرَادَتْ أَنْ تَبْتَلِعَهُ اللَّهُمَّ

جبکہ وہ چلا ان کے پیچھے (ہجرت کے موقع پر) پس گرا دیا اس کو زمین نے بعد اس کے کہ ارادہ کیا اس کو نگلنے کا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے دعا فرمائی

لِرَجُلٍ وَكَانَ لَا يَسْتَطِيعُ حِمْلَ صَاعٍ بِالْمَدِينَةِ فَعَادَ يَحْمِلُ مَا

ایک مدنی شخص کے لیے جبکہ وہ نہیں ہمت رکھتا ایک صاع کے اٹھانے کی پس وہ اٹھانے لگا اتنا وزن کہ جس کو

تَحْمِلُهُ السَّفِينَةُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کشتی اٹھا سکے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِدَوْسٍ بِالْهُدَايَةِ وَالْإِيمَانِ فَجَاءُوا

کی آل پر کہ جس محبوب نے دعا فرمائی قبیلہ دوس کے لیے ہدایت کی اور ایمان کی پس وہ حاضر خدمت

مُعْتَرِفِينَ بِالْإِيمَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ہو گئے ایمان و اسلام کا اعتراف کرتے ہوئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِابْنِ هُرَيْرَةَ حِينَ وَعَظَهُ فَمَا نَسِيَ

آپ کی آل پر جنہوں نے دعا فرمائی حضرت ابو ہریرہ کے (حافظ) کیلئے جب کہ وعظ فرمایا پس وہ نہ بھولے

شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَحَفِظَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کوئی شئی اس سے بعد اس کے اور یاد رکھا اسے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِعُرْوَةَ بِالْبِرَّةِ فَبَارَأَ فِي بَيْتِهِ

اور آپ کی آل پر جنہوں نے دعا فرمائی عروہ کے لیے برکت کی پس انہوں نے نہ ارادہ کیا کسی چیز میں

رَبُّهَا لِأَنَّهُ وَادْرِكُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

نفع کا مگر اس کو حاصل کر لیا اور پا لیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دُعَا يُقْبُولُ دُعَاءِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ فَكَانَتْ

کی آل پر کہ جنہوں نے دُعا فرمائی بعض صحابہ (حضرت سعد) کے لیے قبولیت دعا کی تو ہو گئی

دَعْوَتُهُ مُسْتَجَابَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِي

ان کی ہر دعا مستجاب و مقبول۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دُعَا لِلتَّابِعَةِ أَنْ لَا يَفُضَّ اللَّهُ فَأَهْ فَعَاشَ بِأَهْ

آل پر کہ جنہوں نے دُعا فرمائی تابعہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کو نہ توڑے پس وہ زندہ رہے ایک سو

وَعِشْرِينَ سَنَةً لَمْ تَسْقُطْ لَهُ سَنِيَّةٌ بِدُعَائِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

بیس سال نہ گرا ان کا کوئی دانت آپ کی برکت و دعا سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دُعَا لِبِقْدَادٍ بِالْغَنِيِّ وَالْبِسَارِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے دعا فرمائی حضرت مقداد کے لیے غنا اور خوشحالی کی

فَادْرِكْ مَا يُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ وَيَخْتَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تو انہوں نے پا لیا اپنی مراد اور پسند کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى إِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دُعَا لِقَرْقَرَةَ وَقَدْ شَرَدَ لَهُ الْبَعِيرُ مِنْ

اور آپ کی آل پر جنہوں نے دُعا فرمائی قرقرہ کے لیے در آنجا لیکہ بھاگ گیا تھا ان کا اونٹ

سَاقِهِ فَقَادَهُ لَهُ الرِّيْحُ وَسَاقَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نگرانوں سے چنانچہ لے آئی اس کو آندھی اس کی طرف اور اسے کھینچ لائی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى إِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دُعَا لِمَعَاوِيَةَ بِالتَّمْكِينِ فِي الْبِلَادِ فَتَالَ

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے دعا فرمائی حضرت معاویہ کیلئے بلاد اور علاقہ جات میں ثابت قدمی اور استحکام

مِنْ ذَلِكَ فَوْقَ مَا أَرَادَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کی پس پا لیا انہوں نے اس سے اپنی مراد سے بھی زائد کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِحَابِرٍ وَكَانَ لَا يَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَسَا

آل پر جنہوں نے دعا فرمائی حضرت جابر کے لیے درآنجا لیکر وہ گھوڑے کی پشت پر برقرار نہیں رہ سکتے تھے۔ لیکن

أَصَابَهُ بَعْدَ ذَلِكَ سُقُوطٌ وَلَا مَيْلُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اس کے بعد نہ گری اور پشت سے نہ مائل ہوئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے دعا فرمائی ناتواں اہل اسلام کے لیے

بِمَكَّةَ فَأَعْطُوا النَّجَاةَ مِنَ الْهُوَانِ وَالْهَلَاكَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جو مکہ میں تھے پس انہیں نجات عطا کی گئی رسوائی اور ہلاکت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَكْسِرَ عَنْهُمْ الْبُرْدُ

محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے دعا فرمائی اپنے اصحاب کیلئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ٹھنڈک اور شدت سر کو دور

فَلَمْ يَصِبْهُمْ ذَلِكَ بَعْدَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کر دے تو وہ انہیں بعد ازاں لاحق نہ ہوئی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِرَفْعِ الْوَبَاءِ عَنِ الْمَدِينَةِ وَالرَّجْفَةِ

آل پر کہ جنہوں نے دعا فرمائی مدینہ منورہ سے وبا، اور زلزلہ کے دور

فَأَنْتَقَلَتْ حَبْرًا إِلَى الْجَحْفَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

ہونے کی تو اس کا تپ جحفہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا أَنْ لَا يَدْخُلَ الْمَدِينَةَ رَعْبُ الدَّجَالِ

آپ کی آل پر کہ جنہوں نے دعا فرمائی کہ نہ داخل ہو مدینہ منورہ میں رعب دجال کا

فَلَمْ يَدْخُلْهَا بِوَجْهِهِ وَلَا حَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

پس وہ نہ داخل ہوا کسی طرح پر اور نہ کسی حال میں داخل ہوگا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا أَنْ يُحِبَّهَ اللَّهُ الْمَدِينَةَ كَحُبِّهِ مَكَّةَ وَأَنَّ

آپ کی آل پر جنہوں نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ محبوب بنا دے ان کے لیے مدینہ کو مانند مکہ کی محبت کے اور بنا دے

يَجْعَلُ مَا بِهَا أضعافَ ما بِمَكَّةَ مِنَ الْبِرْكَاتِ فَتَالِ ذَلِكِ وَأَدْرَكَهُ

جو کچھ اس میں ہے وہی برکت والا بنسبت مکہ مکرمہ کے تو پایا آپ نے یہ مقصد اور حاصل کر لیا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے دعا فرمائی

لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي الْمَدِّ وَالصَّاعِ فَكَانَ مَدُّهَا يُشْبِعُ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ وَهُمْ

اہل مدینہ کے لیے ان کے مد اور صاع میں پس ان کا مد (سیر کا پیمانہ) سیر کر دیتا تھا تین افراد کو جبکہ وہ

حَيَاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

بہت بھوکے ہوتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جنہوں نے

دَعَا فِي سَبِينِ أَمْرٍ سَلِيمٍ بِالْبِرْكَاتِ فَعَادَ كَمَا كَانَ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنَ الْعُكَّةِ

دعا فرمائی حضرت ام سلیم کے گھی میں برکت کے لیے تو وہ ہو گیا جیسے کہ تھا ڈوب اور برتن سے نکلنے سے پہلے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے دعا فرمائی

فِي صَاعِ تَمْرٍ أَيْ هَرِيرَةٍ عَيَانًا فَانْتَفَعُ بِهِ دَهْرًا وَزَمَانًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

حضرت ابو ہریرہ کی ایک صاع کھجوروں میں علانیہ پس انہوں نے نفع اٹھایا اس سے عرصہ دراز تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِبْنِ الْمَلْعَبِ الْخُرْمَا

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے دعا فرمائی واسطے نیزہ باز کے بیٹے کے

فَعَوْفِي مِنَ السَّقَامِ وَالْإِسْتِسْقَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

پس اسے فوری طور پر عافیت حاصل ہوگئی بیماریوں سے اور استسقی سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِفَرَسِ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ وَاسْتَوْفَى فَبَاعَ مِنْ

آپ کی آل پر جنہوں نے دعا فرمائی ابن ابی الجعد کی گھوڑی کے لیے اور کامل حصہ طلب کیا تو انہوں نے بیچے

بَطْنَهَا بِأَثْنِي عَشْرَةَ أَلْفًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اس کے بطن سے پندرہ ہزار کے بدلے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا لِسَعْدٍ وَعُودٍ فَكَانَ دُعَاؤُهُ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب نے دعا فرمائی واسطے سعد اور عود کے پس ہوگی ہر دعا اس کی مقبول و متجاب اور تیرا اس کا دست

مُسَدِّدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اور مضبوط۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب نے

دَعَا ابْنُ عَبَّاسٍ بِالتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ بِإِعْلَانِ فَكَانَ يُدْعَى بِتَرْجُمَانِ

دعا فرمائی حضرت عبد اللہ بن عباس کے لیے دین میں تفقہ کی علانیہ پس آپ کو ترجمان

الْقُرْآنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

القرآن کہا جاتا تھا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي كَانَ إِذَا دَعِيَ لِرَجُلٍ دَعْوَةً أَدْرَكَتَهُ وَوَلَدًا وَوَلَدًا وَنَحْوَهُ

کہ جو محبوب دعا فرماتے کسی شخص کے لیے تو وہ اس کو پہنچتی اور اس کی اولاد اور اولاد و اولاد کو بھی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جنہوں نے

دَعَا عَلَى قُرَيْشٍ بِسِنِّي يَوْسُفَ فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ أَكَلُوا فِيهَا الْمَيْتَةَ

دعا فرمائی قریش پر یوسف علیہ السلام کے سالہائے قحط کی مانند پس ان کو پہنچی قحط سالی جس میں انہوں نے مردار

وَالْجُلُودَ وَالْعِظَامَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور گھاس اور ہڈیاں کھائیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا عَلَى مُلْجَمِ بْنِ حُثَامَةَ فَمَاتَ بِسَبْعِ وَقَدْرٍ فَضَّتْ

آل پر جنہوں نے دعا فرمائی ملجم بن حثامہ پر پس وہ مر گیا ہفتہ کے اندر اور پھینک دیا

الْأَرْضَ عِظَامَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

زمین نے اس کی ہڈیوں کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا عَلَى ابْنِ أَبِي لَهَبٍ وَاجْتَهَدَ فَافْتَرَسَهُ الْأَسَدُ اللَّهُمَّ

پر کہ جس محبوب نے دعا فرمائی ابولہب کے بیٹے پر اور اس میں مبالغہ فرمایا تو بھاڑ دیا اس کو شیر نے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَى عَلَى

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جنہوں نے دعائے ہلاکت

الْأَحْزَابِ جَهَارًا فَاشْتَعَلَتْ عَلَيْهِمْ بَيُوتُهُمْ نَارًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

فرمائی عساکر کفار پر علانیہ پس بھڑک اُٹھے ان پر ان کے گھراڑوئے آگ کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا عَلَى أَهْلِ الْقَلْبِيبِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے بدر کے کنوئیں والے کفار کے خلاف دُعا فرمائی

فَقَبِلَ دُعَاؤُهُ وَاسْتَجِيبَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

پس آپ کی دعا مقبول و مستجاب ہوئی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا عَلَى ثَعْلَبَةَ حِينَ مَنَعَ الصَّدَقَةَ فَاتْلَفَ اللَّهُ

آپ کی آل پر جنہوں نے دُعا فرمائی ثعلبہ کے خلاف جبکہ اس نے زکوٰۃ روک تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مال برباد

مَالَهُ وَأَمَحَقَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور بے برکت کر دیا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي دَعَا عَلَى أَبِي عَامِرٍ الرَّاهِبِ فَمَاتَ وَهُوَ إِلَى الشَّامِ ذَاهِبٌ اللَّهُمَّ صَلِّ

جنہوں نے دُعا فرمائی ابو عامر راہب کے خلاف پس وہ ہلاک ہو گیا جبکہ شام کی طرف جا رہا تھا۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا عَلَى الْحَكَمِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے حکم پر دُعا فرمائی

دَعْوَةً فَأَصَابَتْهُ لِقْوَةٌ وَدَعَا عَلَى صِبْيٍ قَطَعَ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ فَمَارَى بِعَدَاهَا

تو اس کو لفقوہ ہو گیا اور دُعا فرمائی لڑکے کے خلاف جس نے آپ کی نماز قطع کی تھی پس وہ نہ دیکھا گیا بعد اس کے

فَاتِمَا حَتَّى مَاتَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پاؤں پر کھڑے ہوئے حتیٰ کہ مر گیا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا عَلَى مَنْ أَسَاءَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَمَا حَالَ عَلَيْهِمُ الْحَوْلُ اللَّهُمَّ

پھر جنہوں نے دعا فرمائی اپنے بدگو کے خلاف پس اس پر سال بھی نہ گزرنے پایا کہ ہلاک ہو گیا اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا عَلَى

صلوة و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہوں نے دُعا فرمائی

إِبْنِ قَبِيَّةٍ لِعَمْرٍهُ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ عَمْرٌ مِّنْ عَمْرٍهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ابن قبیئہ کے خلاف اس کے آپ پر طعن کرنے کی وجہ سے تو اس کو قتل کر دیا اس کے بھروسے میں سے ایک بھروسے نے۔ اے اللہ صلوات و

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا اللَّهُ فِي ابْنِ حَمِيْدٍ وَاسْتَعَانَهُ

سلام نازل فرماستینا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جنہوں نے دُعا فرمائی ابن حمید کے خلاف اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی

فَقَتَلَهُ أَبُو دَجَانَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

تو قتل کر دیا اس کو ابو دجانہ نے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا عَلَى دُعُوِّ رَاحِلٍ رَامَ فَتُكَّةَ فَأَسْرَعَ اللَّهُ هَلَكَةَ اللَّهُمَّ

پر کہ جنہوں نے دُعا فرمائی دُعُوِّ رَاحِلٍ پر جبکہ اس نے آپ پر اچانک حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا تو فوری طور پر ہلاک کر دیا اس کو

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا عَلَى

اللہ تعالیٰ نے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جس محبوب نے دُعا فرمائی

أَبِي جَهْلٍ بِلَا أَمْتٍ فَفَقَتَلَهُ ابْنُ عَفْرَاءٍ وَدَعَا عَلَى عُقْبَةَ وَشَيْبَةَ فَأَصَابَتْهُمَا

ابو جہل کے خلاف بلائشک تو قتل کر ڈالا اس کو عفراء کے دونوں بیٹوں نے اور دُعا فرمائی عقبہ اور شیبہ کے خلاف تو ان کو دولت و برائی نے

الْخَيْبَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنی لپیٹ میں سے لیا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي دَعَا عَلَى مَنْ جَحَدَ الْفَرَسَ فذَهَبَ عَنْهُ الرِّزْقُ وَاحْتَبَسَ

کہ جس محبوب نے دُعا فرمائی گھوڑا بیچ کر انکار کرنے والے کے خلاف پس چلا گیا اس سے اس کا رزق اور رک گیا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے دُعا فرمائی

عَلَى الْوَلِيدِ فَقَدَّ السَّيْفُ عَلَى الْوَرَيْدِ وَكَانَ دُعَاؤُهُ لَا يَرُدُّ وَفَضْلُهُ

ولید کے خلاف تو کاٹ ڈالا تلوار نے اس کی شاہرگ کو اور دُعا آپ کی رو نہیں کی جاتی تھی اور آپ کے فضل و کمال کی

لَا يُحَدِّدُ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

کوئی حد نہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جنہوں نے

دَعَا عَلَى رِعْلٍ وَذُكْوَانَ وَبَنِي لِحْيَانَ فَأَصَابَهُمُ الْهُوَانُ وَالْخُذْرَانُ اللَّهُمَّ

دعا فرمائی رعل و ذکوان اور بنی لحيان کے خلاف پس لاحق ہوئی انہیں ذلت و رسوائی اور محسرومی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا عَلَى عَصِيَّةِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے دعا فرمائی عَصِيَّةِ

الَّتِي عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَاسْتَجِيبْ لَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

قییدہ کے خلاف جس نے نافرمانی برداری کی تھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ کی پس مقبول ہوئی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا أَرَادَ مِبَاهِلَتَهُ النَّصَارَى اشْتَعَلَ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جب ارادہ کیا نصاریٰ نے آپ کے ساتھ مباہلہ کا تو بھڑک اُٹھی

عَلَيْهِمُ الْوَادِي نَارًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ان پر ساری وادی آگ بن کر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي رَامَ غُورِثَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَأَهْوَى تَعَلَّقَتْ يَدَا لُفَى الْهُمَى

پر کہ جب ارادہ کیا غورث نے آپ پر تنوار کے وار کا۔ اور آپ کی طرف مائل ہوا تو لٹک گیا خشک ہو کر ہاتھ اس کا ہوا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَتَّرَهُ

میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہیں چھپائے رکھا

اللَّهُ مِنْ أَعْدَائِهِ وَحَجَبَهُ حِينَ رَامُوا الْفَتْكَ بِهِ لَيْلَةَ الْعُقْبَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اللہ تعالیٰ نے اعداء سے اور حجاب میں رکھا جبکہ قصد کیا اعداء نے اچانک وار کا آپ پر عقیقہ کی رات۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَامَهُ بَعْضُ الْكُفَّارِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جب ارادہ کیا بعض کفار نے آپ کے ساتھ

عَدَاةً وَكَتَمَ رَأْفِي بِزَمِيلَةٍ وَهِيَ شِهَابٌ مِّنْ جَهَنَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

عَدَاۃ کا اور اس کو پورے شہیدہ رکھا تو اس کو نشانہ بنایا گیا زمیلہ کے ساتھ جو جہنم کا شعلہ ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْفَاهُ اللَّهُ عَنْ بَنِي بَكَّةَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہیں پوشیدہ اور محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ نے مکہ کے

مِنَ الضُّلَّالِ حَتَّى افْتَتَحَهَا بِغَيْرِ الْقِتَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مکہوں سے حتیٰ کہ فتح کر لیا اس کو بغیر جنگ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا أَرَادَ الشَّيْبَةَ الْأَمْنَةَ بِالنَّارِ ارْتَفَعَ

محمد پر اور آپ کی آل اظہار پر کہ جب ارادہ کیا شیبہ نے ان کو آگ سے تکلیف پہنچانے کا تو بند ہوا

لَهُ شَهَابٌ مِّنْ نَّارِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اس کے لیے شعلہ آگ کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا أَرَادَ بَنُو النَّضِيرِ أَنْ يُلْقُوا عَلَيْهِ الصَّخْرَةَ اخْبَرَهُ بِذَلِكَ

پر کہ جب ارادہ کیا بنو النضیر نے کہ پھینکیں آپ پر پتھر تو خبر دی انہیں اس امر کی

جِبْرَائِيلُ وَحَدَّرَهُ اللَّهُ صَلَّى وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

حضرت جبرائیل نے اور آپ کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا أَرَادَ قُرَيْشٌ قَتْلَهُ وَاتَّفَقُوا شَتَّتَ اللَّهُ شُلُومَهُمْ وَافْتَرَقُوا

پر کہ جب ارادہ کیا قریش نے آپ کو شہید کر لے گا اور اس پر متفق ہو گئے تو پرگندہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی جمعیت کو اور وہ جدا جدا ہو گئے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَامَتْ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جب ارادہ کیا

ضَرَّةٌ امْرَأَةٌ أَبِي لَهَبٍ خُطِفَ بَصْرُهَا وَذَهَبَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ابولہب کی بیوی نے آپ کو ضرر پہنچانے کا تو اچک لی گئی اس کی نگاہ اور چلی گئی اس کی بینائی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل ہوا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا رَامَ جُهَيْمَةُ الْعُقَارِيُّ كَسْرَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جب ارادہ کیا جہیمہ عقاری نے آپ کے

قَضِيْبِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَأْسًا بَتَّهُ عَاهَةٌ مَاتَ مِنْهَا قَبْلَ الْعَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ

عصا کو توڑنے کا تو اس کو ایسی آفت و بیماری لاحق ہوئی کہ اس سے مر گیا سال سے بھی پہلے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا أَرَادَ الرَّاعِي إِخْبَارَ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جب ارادہ کیا چرواہے نے

قُرَيْشٍ بِهَجْرَتِهِ حَيْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُجَّتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

قریش کو آپ کے متعلق ہجرت کی خبر دینے کا تور کا وٹ ڈال دی گئی اس کے درمیان اور اس کی دلیل وثبوت کے درمیان۔ اے اللہ

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَامَتْ الْكُفَّارُ حِينَهُ حَالَتِ الصَّفَا

صلوٰۃ وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جب ارادہ کیا کفار نے آپ کی ہلاکت کا تو حامل ہو گئیں صفا

وَالْمَرْوَةَ بَيْنَهُمُ وَيُنَادِيهِمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اور مروہ ان کے اور آپ کے درمیان۔ اے اللہ صلوات وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَفَّاهُ اللَّهُ اسْتِهْزَاءَ الْمُسْتَهْزِئِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

آل اطہار پر کہ جنہیں کفایت فرمائی اللہ تعالیٰ نے مزاج کرنے والوں کے مزاج اور استہزاء سے۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَدْخَلَ اللَّهُ تَحْتَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ داخل فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے حکم کے تحت

حُكْمِهِ مَلَائِكَةَ التَّسْخِيرِ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ آيَةَ التَّخْيِيرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ملائکہ تسخیر اور نازل فرمایا ان پر آیت تخییر کو۔ اے اللہ صلوات وسلام

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَمَعَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے الفت پیدا فرمائی بعد

الْقَطِيعَةِ وَأَمَرَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ أَنْ تُطِيعَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

قطع تعلق اور عداوت کے اور حکم دیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں زمین اور پہاڑوں کو ان کی اطاعت کا۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ لَهُ مَلَكُ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کے ایسے پہاڑوں پر مامور فرشتے

الْجِبَالِ مِنَ الْأَعْوَانِ عَلَىٰ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالطُّغْيَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

معاونین میں سے تھا اہل کفر اور سرکشوں کے خلاف۔ اے اللہ صلوات وسلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَادَاهُ الْمَلِكُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ إِنْ

ستینا محمد پر اور ستینا محمد کی آل پر کہ جنہیں پکار کر کہا اس فرشتہ نے ایک یا دو مرتبہ اگر

شَدَّتْ لَا تُطْبَقَنَّ عَلَيْهِمُ الْأَخْبَثَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

چاہو تو میں ان پر منطبق کروں طائف کے دونوں پہاڑوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما ستینا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَادَاهُ الْمَلِكُ الرَّيْحُ جَهَارًا إِنْ شَدَّتْ لَا مُلْكَنَّ

آپ کی آل پر جن کو پکار کر کہا ہوا کے فرشتے نے علانیہ اگر آپ چاہو تو جسے دونوں

عَلَيْهِمْ فِي بُيُوتِهِمْ نَارًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

ان پر ان کے گھروں کو آگ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما ستینا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَادَاهُ الْمَلِكُ الْبَحَارِ صَبَاحًا وَمَسَاءً إِنْ شَدَّتْ جَعَلَتْ

آل پر کہ جنہیں نداوی سمندروں کے فرشتہ نے صبح و شام اگر آپ چاہو تو میں ساری

الْأَرْضَ مَاءً اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

زمین کو پانی میں بدل دوں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما ستینا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي نَادَاهُ الْمَلِكُ الظُّلْمَةَ وَأَخْبِرَةٌ أَنْ اللَّهُ أَمْرًا أَنْ يُعِيَتْهُ

پر کہ جنہیں پکار کر کہا تاریخی کے فرشتہ نے اور خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اے حکم دیا ہے کہ آپ کی امانت اور مدد

عَلَىٰ الْكُفَّارِ وَيُنْصِرُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

کروں کفار کے خلاف۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما ستینا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي طَلَبَتْ مِنْهُ الْوَحُوشُ وَالْأَطْيَارُ أَنْ تَكُونَ لَهُ

کی آل پر کہ جس محبوب سے مطالبہ کیا جنگلی جانوروں اور پرندوں نے کہ ہوں ان کے لیے

عَوْنًا عَلَىٰ الْكُفَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

مددگار کفار کے خلاف۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما ستینا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي نَادَاهُ الْمَلِكُ الرَّعْدُ وَمَلِكُ السَّحَابِ بِأَنْ يُنْصِرَاهُ بِإِذْنِ اللَّهِ

پر کہ جنہیں پکار کر کہا رعد اور سحاب کے فرشتوں نے کہ وہ دونوں مدد کریں گے ان کی اللہ و ہاب کے

اَلُوْهَابِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اذن سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِيْ اَعْظَمَ مُعْجَزَاتِهِ الْقُرْآنُ وَطَارَ لِمَسْجِدِهِ الْعِيدَانُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

کہ جس محبوب کے تمام معجزات سے عظیم ترین معجزہ قرآن کریم ہے اور اڑ کر پہنچیں ان کی مسجد کے لیے کڑیاں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَخْرَجَ لَكَ شَجْرًا

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے لیے پیدا فرمایا ایک درخت

اَغْصَانُهُ مِنَ الذَّهَبِ وَثِمَارُهُ مُخْتَلِفَةٌ اِسْمُ اللّٰهِ وَاَسْمُهُ مَكْتُوبٌ عَلٰى اُورَاقِهِ

جس کی شاخیں سونے کی ہیں اور اس کے پھل مختلف اقسام کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام اور آپ کا نام لکھا ہے اس کے پتوں پر

عَلَيْهِ طَائِرٌ اَبْيَضٌ مِنَ الْحَجَرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

اس پر سفید پرندہ ہے پتھر سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ شَقَّ الْقَمْرَ وَضَمَّ الْقَمْرَ بَعْدَ الْاِنْشِقَاقِ وَتَنَبَّأَهُ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا اور ملا دیا اس کے ٹکڑوں کو پھٹنے کے بعد اور بیدار ہو گئے

بِهٖ جَائِرٌ مِّنَ الْعَشِيِّ وَاَفَاقَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

بسبب اس معجزہ کے جو ریشہ غشی اور بیہوشی سے اور ہوش میں آگئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ بَصَّرَ صَبِيَّةً كَهْمَاءً وَسَارَمَعَ اَصْحَابَهُ

آپ کی آل پر جنہوں نے بیٹا فرما دیا مادر زاد اندھی بچی کو اور چلے ساتھ

فَاَضَاءَتْ اَصَابِعُهُ فِيْ لَيْلَةٍ ظُلُمَاءً اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنے صحابہ کے تو روشن ہو گئیں انگلیاں (ایک صحابی کی سخت تاریک رات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ مَحَىٰ عَنِ التُّرْسِ تِمْتَالًا كَبِشٍّ وَصَارَ

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے مٹادی ڈھال پر سے تصویر مینڈھے کی اور جن کی

بِهٖ الْعُرْجُونَ سَيْفَانِيْ يَدِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَحْشٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

بدولت ہو گئی شاخِ خرماءِ فولادی تلوار عبد اللہ بن جحش کے ہاتھ میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَبَتْ مِنْ سَنَامِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کی بدولت آگ آیا اونٹنی کی

التَّاقَةِ بِهِ الشَّجَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کوہان سے درخت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْرَجَ مِنَ الْحَجَرِ طَائِرًا جَسَدُهُ مِنَ الْفِصَّةِ مُنْقَاةً

کی آل پر جس محبوب نے نکالا پتھر سے ایسے پرندے کو جس کا جسم چاندی کا تھا چھریچ

مِنَ الْيَاقُوتِ رِجْلَاهُ مِنَ الزَّبْرِجَدِ أَحَدُ جَنَاحَيْهِ مِنَ الْبَسِكِ وَالْآخَرُ

یاقوت کی اور دونوں پاؤں زرد کے تھے۔ ایک پرستوری سے تھا اور دوسرا

مِنَ الْعَنْبَرِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ يَا نُورُ نُورِ قُلُوبِنَا يَا وَكِيلُ لَا تَكُنَّا

عنبر سے تھا۔ اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے اے نور منور فرما ہمارے دلوں کو اسے کارساز ہمیں ہمارے

إِلَى أَنْفُسِنَا يَا جَامِعُ اجْمَعْ عَلَيَّ الْهُدَى أَمْرُنَا يَا نَافِعُ انْفَعْنَا بِمَا

نفوس کے سپرد نہ فرما۔ اے جامع جمع فرما ہدایت پر ہمارے امر کو۔ اے نافع ہمیں نفع عطا فرما

عَلَّمْتَنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيهَا أَعْطَيْتَنَا يَا مَنْ يَضُرُّ وَيَنْفَعُ وَيُعْطِي وَيُمْسِكُ

ساتھ اس علم کے جو تو نے سکھلایا اور برکت عطا فرما اس میں جو عطا کیا ایک ضرر و نفع اور عطا و منع اسی کے ہاتھ میں ہے

وَأَمِّنْ عَلَيْنَا بِالْخَيْرِ وَالرِّضَا وَالْأَمْنِ فِي السَّرَّاءِ وَاحْفَظْنَا مِنَ

اور احسان فرما ہم پر ساتھ خیر اور رضاء کے اور امن کے خوشی میں اور محفوظ فرما ہمیں

الصَّرَّاءِ وَشِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ وَمُجِيبُ الدُّعَاءِ يَا شَكُورُ

ضرر و نقصان سے اور دشمنوں کی خوشی سے۔ بیشک تو ہی نداؤں کا سننے والا ہے اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اے شکور

أَنْتَ الْمَشْكُورُ اجْعَلْنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ يَا صَمِدٌ قَدْ صَمِدْنَا كَمَا حَاجَتْنَا

تو ہی مشکور بنا ہمیں شکر گزاروں سے۔ اے صمد ہم نے تیرا ہی قصد کیا ہے اپنی حاجات میں

فَلَا تَرُدَّنَا خَائِبِينَ يَا مُجِيبُ دُعَائِنَا يَا قَرِيبُ قَرِيبٌ رَحِمَتِكَ

اندا ہمیں محروم نہ لٹانا اے مجیب قبول فرما ہماری دعائیں۔ اے قریب اپنی رحمت کو ہم سے قریب فرما۔

مِنَّا يَا مُقْسِطُ أَنْتَ الْقَائِمُ فَوْقَ الْمُقْسِطِينَ وَالْأَمْرُ بِالْقِسْطِ فَوْقَ

اے مقسط تو ہی نگران و محافظ ہے اوپر عدل کرنے والوں کے اور حکم دینے والا ہے عدل کا اوپر

الْقِسْطِ وَالْمُنَزَّلُ كِتَابِكَ بِالْقِسْطِ فَوْقَ الْمُقْسِطِينَ وَأَصْلُهُ الْقَاسِطِينَ

عدل کے اور نازل کرنے والا ہے اپنی کتاب کو ساتھ عدل کے اوپر عدل کرنے والوں کے اور بہت اصلاح کرنے والا ہے عادلین کی

وَيَجْتَنَّا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ يَا غَافِرُ ارْزُقْنَا عَدْلَ الْوَلَاةِ وَجَنِّبْنَا

نجات دے ہمیں قوم ظالمین سے اے غافر ہمیں حکام کا عدل نصیب فرما اور ہمیں بچا

جُورَ الطُّغَاةِ يَا بَاسِطُ اُبْسِطْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا غَنِيُّ اغْنِنَا مِنْ خَلْقِكَ

سرسنوں کے جو رو ظلم سے اے باسط وسیع فرما ہم پر اپنی رحمت اے غنی بے نیاز فرما ہمیں اپنی مخلوق سے۔

يَا فَتَّاحُ افْتَحْ عَلَيْنَا أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ يَا وَليُّ تَوْلَانَا بِحِفْظِكَ وَحَيَاتِكَ يَا

اے فتاح کھول ہم پر اپنی رحمت کے دروازے اے ولی ہمارا متولی بن اپنی حفاظت کے ساتھ اور اپنی حیات کے ساتھ اے

شَهِيدُ اشْهَدْ عَلَيْنَا بِتَوْحِيدِكَ وَعِبَادَتِكَ يَا مُحْيِي يَا مُمِيتُ احْيِنَا

مطلع اور واقف احوال ہمارے لیے گواہ بن اپنی توحید و عبادت پر اے محی اے ممیت ہمیں زندہ رکھ

بِخَيْرٍ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَالْحَقُّنَا بِالصَّالِحِينَ وَاعْفِرْ لَنَا يَوْمَ الدِّينِ

ساتھ خیر کے اور وفات دینا حالت اسلام پر اور لائق فرمانا صالحین کے ساتھ اور بخشنا قیامت کے دن۔

إِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ أَهْلِ وِلَايَتِكَ

بیشک تو بہت بہتر بخشنے والا ہے اے اللہ بنا ہمیں دنیا و آخرت میں اپنے دوستوں سے اور

وَأَمَلًا عَقُولَنَا بِإِثْمِدِ هِدَايَتِكَ وَأَحْرُسُ أَقْدَامِ أَفْكَارِنَا مِنْ مَزَالِقِ

سرگین فرما ہمارے عقول کی آنکھوں کو اپنی ہدایت کے سرمہ کے ساتھ اور ہمارے افکار کے اقدام کو محفوظ فرما شبہات کے

مَوَاطِنِ الشُّبُهَاتِ وَأَمْنِ طَيُورِ نَفُوسِنَا مِنَ الْوُقُوعِ فِي شِبَاكِ مَوْبِقَاتِ

پھسلنے والے مقامات سے اور ہمارے نفوس کے پرندوں کو روک شبہات کے ہلاکت آفرین جمال میں

الشُّبُهَاتِ وَأَتِمِّنَا فِي إِقَامِ الصَّلَاةِ عَنْ تَرْكِ الشَّهَوَاتِ وَأَصْفَحْ سَطُورَ

گرنے سے اور ہماری تکمیل فرما نماز قائم کرنے میں شہوات کو ترک کرا کر اور مٹا دے ہماری برائیوں کے سطور کو

سَيِّئَاتِنَا مِنْ جَرَائِدِ أَعْمَالِنَا بِأَيْدِي الْحَسَنَاتِ كُنْ لَنَا حَيْثُ يَنْقُطُ

ہمارے اعمالوں سے نیکیوں کے ہاتھوں سے۔ تو ہمارا ہو جانا جس مقام پر منقطع ہو جائے

الرَّجَاءُ مِنْكَ إِذَا أَعْرَضَ أَهْلُ الْوَجُودِ بِوَجُودِهِمْ عَنَّا حَتَّى تَحْصُلَ

امید جب نہ ہو لیں اہل دنیا ہم سے یہاں تک کہ جا پہنچیں

فِي ظُلَمِ اللَّحُودِ رَاهِنِينَ أَفْعَالِنَا إِلَى الْيَوْمِ الْمَشْهُودِ أَجْرُ عَبْدِكَ

قبور کی تاریکیوں میں در آنکھا لیکہ گروی ہوں ہمارے افعال یوم قیامت تک کے لیے پناہ دے اپنے عبد

الضَّعِيفِ عَلَى مَا أَعْرَضَ مِنَ الْعِصْمَةِ وَالزَّلِيلِ وَوَقْفَهُ وَالْحَاضِرِينَ

ضعیف و ناتواں کو باوجود اس کے اعراض کے عصمت سے اور ترقیق دے اسے اور جملہ حاضرین

لِصَالِحِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَأَجْرُنَا عَلَى لِسَانِهِ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ السَّامِعُ وَ

کو قول صالح اور عمل صالح کی اور جاری فرما اس کی زبان پر جس سے نفع اٹھائیں سامعین اور

تَدْرِفُ لَهُ الْمَدَامِعُ وَيَلِينُ لَهُ الْقَلْبُ الْخَاشِعُ وَاعْفِرْ لِي وَالْحَاضِرِينَ

بہیں آنسو اور نرم و گداز ہوں اس کے لیے دل اہل خشوع کے اور بخش مجھے اور حاضرین کو

وَلِكُلِّ الْمُسْلِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ اقْنَبْ بِمَدَقِ الْعِبَادِيَّةِ

اور تمام اہل اسلام کو، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب تمام جہانوں کا۔ اے اللہ میں قائم فرما ساتھ خالص عبودیت

بَيْنَ يَدَيْكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ السُّنْتَنَ رَطْبَةً بِذِكْرِكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ نَفُوسَنَا

کے اپنی بارگاہ میں۔ اے اللہ بنا ہماری زبانوں کو تر و تازہ اپنے ذکر کے ساتھ۔ اے اللہ بنا ہمارے نفوس کو

مُطِيعًا لِأَمْرِكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَرْوَاحَنَا مَكْرَمَةً بِمِشَاهِدَتِكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ

اپنے امر کا اطاعت گزار۔ اے اللہ بنا ہماری روہیں عزت پانے والی ساتھ اپنے مشاہدہ کے۔ اے اللہ بنا

أَسْرَارَنَا مَنَعِمَةً بِقُرْبِكَ وَمَزِيدًا لَدَيْكَ اللَّهُمَّ جُودَكَ دَلَّنِي عَلَيْكَ

ہمارے اسرار و بوطن کو نعمت پانے والے اپنے قرب کے ساتھ اور مزید نعمت کے ساتھ تیرے ہاں۔ اے اللہ تیرے جود و نوال نے رہنمائی فرمائی ہے

وَإِحْسَانُكَ قَرَّبَنِي إِلَيْكَ فَاشْكُرْ إِلَيْكَ مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ وَأَطْلُبُ

میری اور تیرے احسان نے قرب کیا مجھے تیرے میں شکایت کرتا ہوں تیری طرف اس امر کی جو تجھ پر مخفی نہیں اور طلب کرتا ہوں

مِنْكَ مَا لَا يَعْسرُ عَلَيْكَ عِلْمُكَ بِحَالِي يُغْنِينِي عَنْ سُؤَالِي اللَّهُمَّ نَجِّنِي

تجھ سے جو تیرے لیے مشکل نہیں۔ تیرا جانا میرے حال کو مجھے بے نیاز کرتا ہے میرے سوال سے۔ اے اللہ نجات دے

مِنَ النَّارِ وَارْزُقْنِي مَغْفِرَةً بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْمَنْزِلَ الصَّالِحَ مِنْ

مجھے آگ سے اور عطا فرما مجھے مغفرت رات اور دن میں اور موزوں مقام

الْجَنَّةِ أَمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جنت سے۔ ایسے ہی ہو بطفیل تیری رحمت کے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَانَ فِي يَدَيْهِ الْحَجَرُ وَخَرَجَ بِهِ اللَّيْنُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے ہاتھ میں نرم ہو گئے پتھر اور جن کے طفیل نکلا دودھ

مَعَ الْعَسَلِ مِنَ الْعَجْمَةِ فَصَارَ يَاقُوتًا أَحْمَرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مع شہد کے جانور سے پس ہو گیا یاقوت سُرخ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَعْطَىٰ الْحَسَنَيْنِ تَيْنَيْنِ لِلْبُكَاءِ وَقَالَتْ لَهُ

اور آپ کی آل پر جس محبوب نے عطا کیں حسنین کریمین کو دو انجیری (جنت سے) ان کے رونے پر اور کہا

نَخْلَةٌ هَذِهِ أَسِيدُ الْأَنْبِيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

آپ کے متعلق کھجور لے کہ یہ انبیاء کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَتْ لَهُ هَذَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ نَخْلَةٌ أُخْرَىٰ وَأَطْعَمَ

کی آل پر کہ جس محبوب کے متعلق کہا دوسری کھجور نے یہ ہیں محمد رسول اللہ اور کھلائے آپ نے

عَنْبَ الْجَنَّةِ خَدِيجَةَ الْكُبْرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جنتی انجور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاءَ إِلَيْهِ لِطَلْبِ رُكَّانِهِ نِصْفُ الشَّجَرِ

اور آپ کی آل پر کہ جن کی خدمت میں حاضر ہوا رکانہ کے مطالبہ پر آدھا درخت

وَذَهَبَ بِأَمْرِهِ ذَٰلِكَ النَّصْفُ إِلَىٰ مَنْبَتِهِ وَأَنْصَمَ نِصْفَ الْأَخْرِ اللَّهُمَّ

اور جھلا گیا آپ کے حکم سے وہ نصف اپنے مقام کی طرف اور جڑ گیا دوسرے حصے کے ساتھ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَشْكِي إِلَيْهِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کی بارگاہ میں شکایت کی اونٹ نے

جَمَلٌ لِقَوْمِهِ بِتَرْكِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اپنی قوم کے نماز عشاء کو ترک کرنے کی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاءَهُ جَبْرَائِيلُ بِثَوْبَيْنِ أبيضين فصاماً

آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے پاس لائے جبرئیل دو کپڑے سفید تو ہو گیا ان

أحدهما أخضر والآخر أحمر يصب الباء اللهم صلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

میں سے ایک سبز اور دوسرا سرخ پانی ڈالنے کے بعد۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْرَجَ أَبَا جَهْلٍ مِّنْ قَعْرِ الْبَيْرِ وَمَالَ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہوں نے نکالا ابو جہل کو کنوئیں کی گہرائی سے اور مائل ہوا

عَلَى أَبِي جَهْلٍ مِنْ عُنْدِهِ الْبَعِيرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

ابو جہل پر اونٹ اس کے پاس سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْرَجَ مِنَ الْحَجَرِ شَجْرًا اقْتَرَنَ بِالسَّمَاءِ وَ

آپ کی آل پر جس محبوب نے نکالا پتھر سے عظیم درخت جو آسمان کی بلندی تک پہنچا اور

رَدَّ ذَلِكَ الشَّجَرَ فِي الْحَجَرِ يَقُولُ الْأَعْدَاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

لوٹایا اس کو اسی پتھر میں دشمنوں کے مطالبہ پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ظَهَرَتْ بِرَيْقِهِ عَيْنٌ سَمِيَتْ مَاءً

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ نمودار ہوا جن کے لعاب دہن سے ایک چشمہ جو

الرَّسُولِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

عین الرسول کھلایا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کیلئے

قَصَرَتْ لَهُ يَدَا الشُّهْبَاءِ لِلصُّعُودِ عَلَى الْجَبَلِ وَطَالَتْ يَدَاهُ لِلنُّزُولِ اللَّهُمَّ

کوٹاہ ہو جاتے اگلے پاؤں براق کے پہاڑوں پر چڑھتے وقت اور دراز ہو جاتے اترتے وقت۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَكَتَ السَّارِبَةُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہوں نے چپ کرانی روتے ستون کو

الْحَتَّانَةَ وَعَادَ بِهِ الْخَشَبُ سَيْفًا فِي يَدِ أَبِي دُجَانَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور ہو گئی ان کے طفیل لکڑی تلوار ابو دجانہ کے ہاتھ میں - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَارَ جَبَلُ جَابِرٍ إِذْ ضَرَبَهُ بِعَصَاهُ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ تیز زقار ہو گیا اونٹ حضرت جابر کا جبکہ مارا اسے اپنے اپنی چھڑی سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أُعْطِيَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے عطا کیا

فَصًّا عَلَيْهِ لِيَنْقُشَ فِيهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَوَجَدَ فِيهِ بَعْدَ النَّقْشِ مُحَمَّدًا رَسُولًا

حضرت علی کو نگینہ تاکہ نقش کرائیں اس میں لا الہ الا اللہ پس لکھا ہوا پایا اس میں اس کے ساتھ محمد رسول

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ

اللہ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جب آپ

إِذَا أَرَادَ نَزُولَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لِلْمُعْجِزَةِ فَيُحْرِكُ شَفْتَيْهِ فَيُنْزِلَانِ حَيْثُ شَاءَ

ارادہ فرماتے تھے سورج یا چاند کے نزول کا وقت معجزہ کے تو ہلاتے اپنے ہونٹوں کو تو وہ اترتے جہاں آپ چاہتے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَبَعُ مِنْ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جاری ہو گیا

بَيْنَ أَصَابِعِهِ الْمَاءُ عِنْدَ ذَهَابِهِ إِلَى الْقُبَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ان کی انگلیوں کے درمیان سے پانی وقت تشریف لے جانے آپ کے طرف قباء کے اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَنْشَأَ الْأَعْضَاءَ لِلصَّبِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے درست کر دئے اعضاء ایک بچی کے اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَحَثَ فِي الْأَرْضِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے کھرچا زمین کو

بِيَدِهِ لِلسُّقْيَا فَاَنْفَجَرْنَا مِنْهَا الْمَاءَ فَارَوَى اصْحَابَهُ وَكَلِمَةُ الْعَطْمِ

اپنے ہاتھ مبارک سے پانی ہلانے کے لیے تو اس سے پانی پھوٹ پڑا پس سیراب فرمایا اپنے صحابہ کو اور کلام کیا آپ کے ساتھ ہڈی نے

فَاَجَابَهُ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پس آپ نے جواب دیا اس کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي شَهِدَ بِرِسَالَتِهِ الصَّبُّ وَقَطَعَ بِهِ الْأَسَدُ بَطْنَ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي

کہ جن کی رسالت کی گواہی دی سو سہار نے اور جن کی وجہ سے پھاڑ ڈالا شیر نے پیٹ عتبہ بن

لَهَبٍ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ابی لہب کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي سَلَّمَ الْكَلَاءَ عَلَيْهِ وَلَانَ الْحَجْرُ تَحْتَ قَدَمَيْهِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ

کہ جنہیں سلام پیش کیا سبز گھاس نے اور نرم و گداز ہو گیا پتھر آپ کے قدموں کے نیچے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى أَبُو جَهْلٍ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ دیکھا ابو جہل نے اپنے

بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ طُيُورًا أَمَلَاتِ الْأَرْضَ وَخَنَدًا قَامَنَّ النَّارُ وَكَانَ

اور سید عالم کے درمیان پرندوں کو جنہوں نے پڑ کر رکھا تھا زمین اور دیکھی خندق آگ کی اور

يَرَى بِاللَّيْلِ كَمَا يَرَى بِالنَّهَارِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آپ دیکھتے تھے رات میں جیسے کہ دیکھتے تھے دن میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلِمَةُ يَعْفُورٍ وَمَا نَضِجَتْ خُبُوزَةٌ فِي النَّوْرِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ

آپ کی آل پر کہ جن کے ساتھ کلام کیا یعفور (گدھے) نے اور نہ پک سکیں جن کے (ہاتھ سے) لگی روٹیاں تو میں۔ اے اللہ

صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَارَ دَرًّا قَلَامَةً

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ ہو گئے آپ کے ناخنوں کے تراشے موتی اور جواہر

أُظْفَارِهِ وَسَمِعَ أَبُو بَكْرٍ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عِنْدَ أَشْعَارِهِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى

اور سنی حضرت ابو بکر نے قرآن مجید کی قراءت آپ کے بالوں کے پاس۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ أَنَا قَتْلُكَ وَأَنْتَ عَلِيٌّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہوں نے فرمایا ابی بن خلف کو کہ میں قتل کروں گا تجھے جبکہ تو

هَذَا الْفَرَسِ لِأَبِي بِنِ خَلْفٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اس گھوڑے پر ہو گا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِعَلِيٍّ حِينَ بَاتَ فِي مَضْجَعِهِ لَيْلَةَ الْهَجْرَةِ إِنَّ

آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے فرمایا حضرت علی کو جبکہ وہ سوئے ہجرت کی رات آپ کی خوابگاہ پر بے شک

الْكَفَّارَ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ إِضْرَارِكَ فَلَا تَخَفُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

کفار تجھے ضرر پہنچانے پر قادر نہیں ہوں گے لہذا خوفزدہ نہ ہونا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فِي الْغَارِ نَسَجَتْ لَهُ الْعَنْكَبُوتُ وَقَالَ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کے لیے غار کے منہ کو مگڑی نے جالاتنا اور جنہوں نے فرمایا

لِحَبِيبِ بْنِ مَسْلَبَةَ إِنَّ أَبَاكَ عَنْ قَرِيبٍ يَمُوتُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

حبیب بن مسلمہ کو بیشک تمہارا باپ عنقریب مر جائے گا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَعْبَىٰ بِالْتُّرَابِ لِلخُرُوجِ أَبْصَارَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جنہوں نے اندھا کر دیا مٹی کے ساتھ ہجرت کیلئے نکلنے وقت

الْكَفَّارِ وَلَا نَمُنُّ مِنْ أَجْلِهِ الْحَجَرِ فِي الْغَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کفار کی آنکھوں کو اور ملائم ہو گیا ان کے لیے پتھر غار میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَكَرَّتْ لَهُ الْحَبَامَةُ وَشَرِهْدَ بِرِسَالَتِهِ فَوَلُودَ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کے کبوتر نے گھونسلہ بنایا اور گواہی دی آپ کی رسالت کی

أَهْلَ الْيَمَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اہل یمامہ کے بچے نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي نَبَتَ عَلَىٰ بَابِ الْغَارِ لَهُ الشَّجَرُ وَضَرَبَ عَلَىٰ قَلْبِ الرَّاعِي الَّذِي

جن کے لیے اگا غار کے دروازہ پر درخت اور جنہوں نے مارا (ہاتھ) چرواہے کے دل پر جس نے

أَرَادَ إِخْبَارَ قُرَيْشٍ بِهَجْرَتِهِ فَأَنْسَاهُ الْخَبْرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ارادہ کیا قریش کو خبر دینے کا آپ کی ہجرت کے متعلق تو بھلا دی اس کو خبر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ مِنْ أَجْلِهِ رَاكِبٌ بِصُورَةِ إِنْسَانٍ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے متعلق فرمایا ایک انسانی صورت کے سوار نے

عِنْدَ الْغَارِ لِقُرَيْشٍ لَيْسَ هُوَ هُنَا أَطْبِوْهُ فِي الْجَوَانِبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

غار ثور کے قریب قریش کو کہ وہ یہاں پر نہیں ہیں انہیں اطراف و جوانب میں تلاش کرو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَمِيَتْ بِدُعَايِهِ عِنْدَ الْكَهْفِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ اندھی ہو گئیں آپ کی دعا سے غار ثور کے قریب

أَبْصَارُ الْكٰفِرِيْنَ وَأَعْبَى اللّٰهُ مِنْ أَجْلِهِ الْقَائِفِيْنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کفار کی آنکھیں اور اندھا کر دیا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل قیافہ کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ عِنْدَ الْغَارِ بِهَذَا الطَّأْرِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ کلام کیا حضرت ابو بکر کے ساتھ غار کے پاس اس پرندے نے

الْجَالِسُ عَلَى ذِرْوَةِ الْجَبَلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

جو بیٹھا تھا پہاڑ کی چوٹی پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَكَى إِلَيْهِ جَمَلٌ قَلَّةَ الْعَلْفِ وَكَثْرَةَ الْعَمَلِ

آل پر کہ جن کی بارگاہ میں شکایت کی اونٹ نے چارہ کی کمی اور کام کی کثرت کی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ

ارْتَطَمَتْ بِهِ فِي الْأَرْضِ فَرَسٌ سَرَّاقَةٌ بِنِ مَالِكِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

دھنس گیا آپ کی بدولت زمین میں گھوڑا سراقہ بن مالک کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَنْجَى فَرَسٌ سَرَّاقَةٌ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہوں نے نجات دلائی سراقہ کے گھوڑے کو

مِنْ هُنَالِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

زمین کی گرفت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَسَرَ لِخُرُوجِهِ جَبْرِيْلُ طَرْفَ الْغَارِ بِالْجَنَاحِ وَكَانَ

آل پر کہ توڑی جن کے نکلنے کے لیے حضرت جبرئیل نے ایک جانب غار کی اپنے پر کے ساتھ اور جن کے لیے

يَفْتَحُ لَهُ الْبَابَ الْمَغْلُوقَ مِنْ غَيْرِ الْمِفْتَاحِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ

کھل جاتے تھے بند دروازے بغیر چابی کے۔ اے اللہ بیشک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ

تَحْجِرَنِي عَنْ مَعَاصِيكَ حَتَّى أَعْمَلَ بِطَاعَتِكَ عَمَلًا اسْتَحِقُّ بِهِ رِضَاكَ

تو مجھے روکے رکھے معاصی سے تاکہ تیری اطاعت کروں ان اعمال کے ساتھ کہ مستحق ہو جاؤں تیری رضا کا

وَأَنَا صَحْتُ بِالتَّوْبَةِ خَوْفًا مِنْكَ وَأَخْلَصُ لَكَ النَّصِيحَةَ حَيَاءً مِنْكَ

اور تیرے حضور نیاز مندی ظاہر کروں ساتھ توبہ کے بسبب تیرے خوف کے اور خالص کروں تیرے لیے حق عبودیت تیری ذات سے

وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَحَسَنَ ظَنِّي بِكَ سُبْحَانَ خَالِقِ

جیا کرتے ہوئے اور توکل کروں تجھ پر تمام امور میں اور حسن ظن رکھوں۔ پاک ہے پیدا کرنے والا

التَّوْبِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَعْجِيلَ عَافِيَتِكَ وَدَفْعَ بَلَائِكَ وَ

نور کا۔ اے اللہ میں طلب کرتا ہوں تجھ سے عافیت کا فوری حصول اور مصائب کی دوری اور

خُرُوجًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَى رَاحَتِكَ يَا مَنْ يَكْفِي عَنْ كُلِّ أَحَدٍ وَلَا يَكْفِي

دنیا سے تیری رحمت کی طرف خروج لے کہ کفایت کرتا ہے ہر ایک کی طرف سے اور نہیں کفایت کر سکتا

مِنْهُ أَحَدٌ يَا أَحَدًا مَنْ لَا أَحَدَ لَهُ يَأْتِدُّ مِنْ لَأَسْتَدُّ لَهُ انْقِطَعِ الرَّجَاءُ

اس کی طرف سے کوئی بھی لے یکتا کہ جس کا ثانی نہیں۔ اے سند جس کا کوئی سہارا نہیں۔ ختم ہو چکی امیدیں تیرے

إِلَّا مِنْكَ وَنَجِّتِي مِمَّا أَنَا فِيهِ وَأَعِزِّي عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَمَا نَزَلَ بِي بِجَاهِ

سوا سے۔ نجات دے مجھے اس سے جس میں ہوں اور امداد فرما میری اس پر جس پر میں ہوں اور جو نازل ہوا مجھ پر بظیفیل

وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ آمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ

اپنی ذات کریم کے اور بظیفیل محمد کریم کے حق کے جو تیرے ذمہ کریم پر ہے۔ آمین۔ اے اللہ میں طلب کرتا ہوں تجھ سے کامل

العَافِيَةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَدَوَامَ العَافِيَةِ وَأَسْأَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى العَفْوِ وَ

عافیت ہر مصیبت سے اور دائمی عافیت اور طلب کرتا ہوں شکر تیری عفو و عافیت پر اور سوال

العَافِيَةَ وَأَسْأَلُكَ العُغْيَ وَالتَّقْوَى وَالعَفَافَ وَالشِّفَا وَالعَطَا وَالعُغْيَ عَنِ النَّاسِ

کرتا ہوں تجھ سے استغناء و تقویٰ اور پاکدامنی کا اور شفا و عطا اور لوگوں سے استغناء کا

وَالْحَوْلَ وَالقُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ وَأَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي النَّاسَ

اور نہیں قوت اور نہ طاقت مگر ساتھ اللہ کے جو بلند شان عظیم المرتبت ہے اور طلب کرتا ہوں تجھ سے موزوں مال اور صالح

مِنَ المَالِ وَالأهْلِ وَالأولَادِ غَيْرِ ضَالٍّ وَلا مُضِلٍّ وَأَسْأَلُكَ غِنَى الأهلِ وَ

اہل و اولاد جو تو عطا کرتا ہے لوگوں کو در آنجا لیکہ نہ گمراہ ہوں اور نہ گمراہ کریں اور طلب کرتا ہوں تجھ سے غنا اہل کی اور

المُوَلَّى وَأَسْأَلُكَ تَفْسِيكَ مُطَهَّرَةً تُؤْمِنُ بِبِقَائِكَ وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ وَ

دوستوں کی اور طلب کرتا ہوں تجھ سے وہ نفس جو مطمئن ہو ساتھ تیرے جو تیری ملاقات پر ایمان رکھے اور تیری قضاء پر راضی ہو اور

تَقْتَعُ بِعَطَائِكَ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ فِي الأَشْيَاءِ كُلِّهَا وَالشُّكْرَ لَكَ

تیری عطا پر قانع۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں کامل نعمت جملہ اشیاء میں اور کامل شکر تیرا

عَلَيْهَا حَتَّى تَرْضَى وَبَعْدَ الرِّضَى الخَيْرَةَ فِي جَمِيعِ مَا يَكُونُ فِيهَا الخَيْرَةَ وَجَمِيعِ

ان پر یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے اور رضا کے بعد پسندیدگی ہو ان تمام امور میں کہ جن میں بہتری ہو۔ جمع تمام

مِيسُورِ الأُمُورِ كُلِّهَا لِأَنَّكَ بِعَسُورِهَا يَا كَرِيمُ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ ثَوَابَ

امور میں آسانی کے نہ کہ دشواری کے اے کریم۔ اے اللہ میں طلب کرتا ہوں ثواب

الشَّاكِرِينَ وَنُزُلِ المُقَرَّبِينَ وَمُرَافَقَةِ النَّبِيِّينَ وَبِقَائِنَ الصِّدِّيقِينَ

شکر گزاروں کا اور سہانی اہل تقرب کی۔ رفاقت انبیاء کی اور یقین صدیقین کا۔

وَذِلَّةَ المُتَّقِينَ وَإِحْبَاتِ المُؤَقِّينَ حَتَّى تُوَفَّقَنِي عَلَى ذَلِكَ اللهُمَّ

اور عاجز و نیاز متقین کا اور فروتنی اہل یقین کی یہاں تک کہ میری وفات اسی پر ہو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ فِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے غار میں فرمایا

الْغَارِ مَا ظَنَنْتُكَ بِأَثْنَيْنِ تَالِثُهُمَا رَبُّهُمَا لِأَبِي بَكْرٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

واسطے ابو بکر صدیق کے کیا گمان ہے تیسرا ان دو کے متعلق کہ تیسرا ان کا رب تعالیٰ ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَضَاءَ صَدْرَهُ لَيْلَةَ الرَّجْنِ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جگمگایا جس محبوب کا سینہ انور لیلۃ الجن میں مانند چودھویں کے

الْبَدْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

چاند کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جنہیں

سَلَّمَ عَلَيْهِ الْحَيَّةُ وَكَلَّمَهُ فِي الْغَارِ وَقَالَ لَجَمْعٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ إِنَّ أَخْرَجَكُمْ

سلام پیش کیا سانپ نے اور کلام کیا ان سے غار میں اور جنہوں نے فرمایا صحابہ کرام کی جماعت کو کہ تم میں سے آخر میں

يَمُوتُ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مرنے والا آگ میں جل کر مرے گا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي نَفَى الْإِلَاحَ فِي الْغَارِ مِنَ الصَّاحِبِ وَجَاءَ جِبْرِيلُ بِفَاكِهَةِ الْجَنَّةِ

جنہوں نے دور فرمایا درودالم غار میں اپنے یار سے اور لائے جبریل جنتی پھل

إِذَا سَأَلَهُ أَبُو طَالِبٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جبکہ طلب کیا آپ سے جناب ابوطالب نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي زَالَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پر کہ جن کی بدولت زائل ہوئی ابو بکر صدیق سے ورم راز دہا کے ڈسنے کی اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَرَجَ فِي الْغَارِ مِنَ الْحَجَرِ لِلصِّدِّيقِ قَدْ حَمَّ

اور آپ کی آل پر کہ جن کی بدولت برآمد ہوا واسطے ابو بکر صدیق کے غار ثور کے پتھر سے

مَبْلُوءٍ مِّنْ شَرَابٍ أَبْرَدَ مِنَ الثَّلْجِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ بِيَمِينِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

پیالہ جو بھرا تھا شربت سے جو برف سے ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَرَجَ لَهُ الْحَجَرُ مِنْ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے لیے نکلا حجر اسود

جَدَارِ الْكُعبَةِ وَرَجِعْ إِلَى مَكَانِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کعبہ کی دیوار سے اور پھر لوٹ گیا اپنی جگہ پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَانَ أَثَرُ قَدَمَيْهِ مِنَ الْحَجَرِ بِمَسْحِ أَبِي بَكْرٍ بِأَمْرِ اللَّهِ

سیدنا محمد کی آل پر کہ نمایاں ہو گیا ان کے قدموں کا نشان پتھر سے حضرت ابو بکر کے چھوٹنے سے آپ کے امر سے اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جنہوں نے پچھاڑ دیا اعرابی کو

فَارَادَ أَنْ يُكَيِّدَ فَأَخْبِرُهُ عَنْ مَكْرِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جس نے آپ کے ساتھ مکر کا ارادہ کیا تھا پس اس کو اس خیال فاسد کی خبر بھی دی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ الَّذِي شَقَّ بِأَيْدِي نَاحِيَةِ الْعَارِفِ قَارِي بِحُرِّ أَوْفُلَا

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے پھاڑ دیا اپنے دست قدرت کنا رافار کا اور دکھلایا اپنے رفیق کو (حبشہ کا) سمندر اور

رَفِيقَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ الَّذِي

حضرت جعفر کی کشتی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کی بارگاہ میں

شَكَوْا إِلَيْهِ جَمَلٌ لِّلْقَتْلِ فَاشْتَرَاهُ وَأَعْتَقَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

شکایت کی اونٹ نے ذبح کئے جانے کی تو اپنے اسے خرید کر آزاد فرما دیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ الَّذِي هَتَفَ هَاتِفٌ أَنَّهُ دَخَلَ خِيْمَةَ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کے متعلق ہاتف نے آواز دی کہ آپ اُمّ معبد کے خیمہ میں

أُمَّ مَعْبِدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ الَّذِي

داخل ہو چکے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن سے

قَالَتْ لَهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدٍ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي اللَّحْدِ اللَّهُمَّ صَلِّ

عرض کیا حضرت فاطمہ بنت اسد مادر مرقضی نے اپنی قبر سے لبیک یا رسول اللہ۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ الَّذِي حَلَبَ شَاةَ أُمِّ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جنہوں نے دودھ جاری فرمایا ام معبد کی (بڑھی مرل) بڑھی

مُعْبِدًا وَأَبْرءَ يَدًا جُرْهِدًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سے اور درست فرما دیا ہاتھ جڑھد کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَبَتْ بِهِ الشَّجَرُ فِي خَيْمَةِ أُمِّ مَعْبِدٍ وَحَالِ بَيْنَهُ وَ

محمد کی آل پر کہ جن کی بدولت اُگا درخت ام معبد کے خیمہ میں اور حائل ہو گیا درمیان آپ کے اور

بَيْنَ أَبِي جَهْلٍ أَسَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ابو جہل کے شیر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَارَ بِهِ سَبْعِينَ بَصِيرِينَ مُتَكَلِّمِينَ ابْنَاءَ أُمِّ مَعْبِدٍ

محمد کی آل پر کہ جن کی بدولت ہو گئے سترے۔ دیکھنے اور بولنے کے قابل دونوں بیٹے ام معبد کے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جس محبوب کے

يُضِيءُ عَنْ يَمِينِهِ نُورٌ وَعَنْ يَسَارِهِ نُورٌ حَيْثُ جَلَسَ وَقَامَ يَرَاهُ

دائیں نور چمکتا تھا اور بائیں بھی نور چمکتا تھا جہاں بھی بیٹھتے یا قیام فرماتے جس کا

كُلُّ أَحَدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہر ایک نظارہ کرتا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي طَالَ بِهِ عُمُرُ شَاةٍ أُمِّ مَعْبِدٍ وَسَاقَتْ بِهِ الرِّيحُ

پر کہ جن کی برکت سے دراز ہو گئی ام معبد کی بحری کی زندگانی اور چلایا آندھنی نے آپ کی برکت سے

بَعِيرٌ غَرْقَدَةٌ إِذْ شَرِدَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اونٹ غرقہ کا (اس کی طرف) جبکہ بھاگ گیا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَلَبَ عَنَّا قِ اَعْرَابِيٍّ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ فِي

آپ کی آل پر جنہوں نے دوا اعرابی کی توخیز بحری کا دودھ حالانکہ اس کا دودھ نہیں تھا

طَرِيقِ الْهَجْرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ہجرت کے موقع پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَجَدَتْ عَائِشَةُ بَنُو رَسُولِ اللَّهِ الْإِبْرَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ

آل پر کہ تلاش کر لی ام المومنین عائشہ نے ان کے دندان مبارک کے نور میں سوئی۔ اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَبْرَأَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہوں نے تندرست کروئے

رَجُلِي عَلِيًّا بِالْمَسْحِ وَتَفَجَّرَ بِهِ مَاءٌ بِبَيْرُقُبَاءَ بَعْدَ التَّزْوِجِ اللَّهُمَّ صَلِّ

حضرت علی کے پاؤں ہاتھ مبارک پھیر کر اور اُبلنے لگا ان کی برکت سے قبائے کے کونوئیں کا پانی ختم ہو جانے کے بعد۔ اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَدَّ عَيْنَ قَتَادَةَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے دوبارہ روشن فرمائی آنحضرت

بُنِ النَّعْمَانَ وَآثْمَرِيهِ الْقَتَوِي فِي غَيْرِ الْأَوَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

ققادہ بن نعمان کی اور جن کی برکت سے کھجوروں کے خوشیوں نے بے موسم پھیل دئے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَارَ دُرَّ سَرَّ الرَّيْقَةِ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جس محبوب کا لعاب دہن موتی بن گئے اور

صَارَ وَرْدًا عَرَقَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

جن کا پسینہ گلاب کے پھول بن گئے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَضَاءَ بِهِ عُرْجُونَ أَعْطَىٰ قَتَادَةَ بِنِ النَّعْمَانَ

آل پر کہ جن کے طفیل روشن ہو گئی شاخ خرما جو آپ نے عطا فرمائی تھی ققادہ بن نعمان کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جنہیں

نَادَاهُ الْحُسَيْنُ مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَجَابَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ حَتَّىٰ سَمِعَتْ

پکارا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے پس آپ نے انہیں جواب دیا حدیبیہ سے یہاں تک کہ سنا

صَوْتَهُ فَاطِمَةُ الرَّهْرَاءُ وَمَرَّ عَلَيَّ الْهَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

آپ کی آواز کو حضرت زہراء نے اور گزرے آپ پانی پر چلتے ہوئے اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَرَجَ بِهِ الْجِبِلُّ مِنَ الْجِبِلِّ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی بدولت برآمد ہوا اونٹ پہاڑ سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَعْطَىٰ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے عطا کی

الرَّمْلَ رَهْطًا مِّنْ أَصْحَابِهِ لِلْأَكْلِ فَصَارَ الْيَمِينُ مِنَ الزَّبِيدِ وَأَحْلَىٰ

ریت اپنے صحابہ کی جماعت کو کھانے کے لیے پس وہ ہو گئی زیادہ ملائم مکھن سے اور شیریں تر

مِنَ الْعَسَلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَنَتْ لَهُ

شہد سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی خاطر تعمیر کیا

الْمَلِكَةَ فِي سَاعَةٍ بَيْتًا لِّبَارِيَةِ الْقُبَيْطِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

ملائکہ نے ایک ساعت میں مکان حضرت ماریہ قبیطیہ کے لیے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَزَلَ بِهِ مِنَ السَّمَاءِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی بدولت نازل ہوئی آسمان سے

دُجَا جَهَنَّمَ مَشُورِيَةً اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

جہنمی ہوئی مشورۃ یعنی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي آتَىٰ بِالْبُرَاقِ لَيْلَةَ أُسْرَىٰ بِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

آل پر کہ جن کی خدمت میں لایا گیا براق شب اسراء میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ضَمَّ الْيَدَ الْمَقْطُوعَةَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے جوڑ دیا ایک شخص کا کٹا ہوا ہاتھ

لِرَجُلٍ بِرَيْقِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اپنے لعاب دہن سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي يَبْسُتُ يَدُ الشَّيْخِ الَّذِي رَفَعَ مِنْ أَجْلِهِ الْعَصَا اللَّهُمَّ

آل پر کہ خشک ہو گیا ہاتھ اس بوڑھے کا جس نے اٹھایا آپ کا عصا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جنہوں نے

حَدَّثَ قُرَيْشًا بِرُؤْيَا الْعِيرِ وَطَالَ بِهِ قَامَةٌ قَصِيرٌ اللَّهُمَّ

بیان فرمایا قریش کو ان کے قافلہ کا مشاہدہ فرمانا شب اسرا اور دروازہ ہو گئی بطفیل آپ کے کوتاہ قامت کی قامت۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَنْبَأَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہوں نے خبر دی

قُرَيْشًا بِالَّذِي أَنْكَبَتْ لَهُ الْقَدْحُ مِنْ عَيْرِهِمْ فِي الظُّلَمِ اللَّهُمَّ

قریش کو جو آپ کے لیے ان کے قافلہ کے پیالہ سے پانی حاصل کیا گیا تاریکی شب میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے لیے

أُرْسِلَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ لِلصُّبْحِ مِنْ دَارِ السَّلَامِ اللَّهُمَّ

بھیجا اللہ تعالیٰ نے صبح کا کھانا جنت سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَبَأَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی

قُرَيْشًا بَعْدَ دَأْهِلِ الْقَافِلَةِ حِينَ سَأَلُوهُ وَأَخْبَرَ اللَّهُمَّ صَلِّ

قریش کو اور باخبر کیا ان کے اہل قافلہ کی تعداد کے متعلق جبکہ انہوں نے آپ سے دریافت کیا۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَجَدَ لَهُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو سجدہ کیا دوران سفر

التَّاضِحَانِ الْفَحْلَانِ اللَّذَانِ مَتَعَا الْمَالِكِ أَنْفُسَهُمَا وَالْحَائِطِ

دو پانی کھینچنے والے اونٹوں نے جنہوں نے روک دیا تھا اپنے مالک کو اپنے قریب آنے اور

فِي السَّفَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

باغ کے قریب آنے سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَثْمَرَتْ بِهِ الشَّجَرُ حِينَ طَلَبَ مِنْهُ الْمُعْجِزَةَ أَبُو طَالِبٍ

آل پر کہ جس محبوب کے لیے بار آور ہو گیا درخت جبکہ طلب کیا آپ سے معجزہ جناب ابو طالب نے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی بدولت

صَارَ دَمًا مَاءً أَبَا بِنِي كَلَابٍ وَ دَامَ بِهِ لَبْنُ الشَّائَةِ لِأَنَّ

نخون بن گیا بنو کلاب کے کنوؤں کا پانی اور جن کی بدولت ہمیشہ رہا بگری کا دودھ آل

خَبَابٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

خباب کے لیے اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي صَارَتْ كَثِيرَةٌ الْحَيَاءِ بِهِ الْمِرَاةُ الْهَازِلَةُ اللَّهُمَّ

کے لیے کہ جن کی برکت سے بہت سے بہت حیا دار ہو گئی بہت بیہودہ گوعورت اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے لیے

جُعِلَتْ لَهُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ شَبْعَتَيْنِ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ وَ

سورج اور چاند دو شمعیں بنائی گئیں مسراج کی رات اور

جَبْرِيلُ حَامِلُهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جبریل انہیں اٹھائے ہوئے تھے آپ کے آگے آگے اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا لَيْسَ قَطُّ ثَوْبًا طَالَ أَوْ قَصُرَ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے نہ استعمال فرمایا کبھی کوئی کپڑا جو دراز ہو یا کوتاہ ہو

إِلَّا كَانَتْ خَيْطٌ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

مگر گویا کہ وہ سیا گیا ہوتا آپ کی قامت زیبا کے مطابق اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَأَنْتُ عِنْدَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ لِشِدِّ

کی آل پر کہ جن کے لیے نرم و گداز ہو گیا بیت المقدس کے نزدیک براق باندھنے کے لیے

الْبِرَاقِ تَحْتَ يَدَيْهِ الصَّخْرَةَ وَانْشَقَّتْ لَهُ السِّدْرَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ

پتھر آپ کے ہاتھ مبارک کے نیچے اور پھٹ گیا آپ کے لیے پیرمئی کا درخت۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَصَفَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے بیان فرمایا رکۃ کریمہ میں

الْمَسْجِدَ الْأَقْصَىٰ وَبَصَّرَ قَدِيكَ الْأَعْمَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

مسجد اقصیٰ کے علامات و نشانات مسؤلہ کو اور بینا فرما دیا نابینا قدیك کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَارَ بِهِ السَّرَابُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی بدولت بہراب (چیل میدان)

مَاءٌ وَنَفَخَ فِي طَائِرٍ مِنَ الطَّيْرِ فَصَارَ حَيًّا وَقَرَأَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ

پانی بن گیا اور مٹی سے بنے جسمہ میں پھونک مارا تو پرنندہ بن گیا اور اس نے پڑھا۔ لا الہ الا اللہ محمد

رَسُولُ اللَّهِ بَلَا أُرْتِيَابٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رسول اللہ بغیر کسی ریب و تردید کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مُطِرَ بِهِ الْجُرَادُ مِنَ الذَّهَبِ لِفَاطِمَةَ

اور آپ کی آل پر کہ جن کی بدولت برسائی گئی سونے کی مکڑی کی بارش واسطے فاطمہ زہراء

عَلَيْهَا الرِّضْوَانُ وَانْمَرَتْ بِهِ الْأَشْجَارُ الْيَابِسَةُ لِأَهْلِ نَجْرَانَ

رضوان اللہ علیہا اور بار آور ہو گئے آپ کی بدولت اہل نجران کے خشک درخت۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَارَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی بدولت

رَصَا صَابِئِ الْأَجْحَارِ وَأَرَى النَّجْمَ حَارِثَ بْنَ هِشَامٍ فِي النَّهَارِ اللَّهُمَّ

پتھر سیسہ ہو گئے اور جنہوں نے دکھلائے ستارے حارث بن ہشام کو دن میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَارَتْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی بدولت

بِهِ الْعَجُوزُ شَابَةً وَضَمَّ الْيَدَ الْمَقْطُوعَةَ يَوْمَ أَحَدٍ لِوَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ

بڑھیا عورت جوان ہو گئی اور جوڑا آپ نے کٹ ہوا ہاتھ بعض صحابہ کا احد کے دن

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے لیے

رَجَفَ الْمُنْبَرُ تَحْتَ أَقْدَامِهِ وَغَرَسَ النَّخْلَ لِسُلَيْمَانَ فَحَمَلَتْ

جھومنے لگا منبر شریف قدموں کے نیچے اور لگائیں آپ نے کھجوریں حضرت سلیمان کے لیے تو وہ

مِنْ عَامِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اسی سال بار آور ہو گئیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَزَعَ النَّخْلَةَ الَّتِي غَرَسَهَا عَمْرُ فَعَرَسَهَا

آل پر کہ جس محبوب نے اکھیڑا اس کھجور کو جو لگائی تھی حضرت عمر نے پھر اس کو کاٹا

فَحَمَلَتْ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

تو اس نے بھی اسی سال پھل دیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي زَادَ بِهِ الْعُمُرَ وَالْهَالَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن کی بدولت زیادہ ہو گئی حضرت

وَالْأَوْلَادُ لِأَنِّسِ بْنِ مَالِكٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

انس کی عمر اور اموال اور اولاد۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي زَادَ الذَّهَبَ لِسُلَيْمَانَ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کے طفیل بڑھ گیا سونا واسطے حضرت سلیمان کے

بِلِسَانِهِ وَجَاءَ إِلَيْهِ غُصْنُ النَّخْلَةِ وَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ اللَّهُمَّ

زبان مبارک پر لگانے سے اور آئی آپ کی خدمت میں شاخ کھجور کی (شہادت رسالت کیلئے) پھیر لوٹ گئی اپنی جگہ کی طرف

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کی بدولت

تَرَادِبَهُ تَمْرُ سَلْمَانَ وَكَانَ يَجْزِي إِلَى أَخِي الْمَضَاجِعِ

بڑھ گئیں کھجوریں حضرت سلمان کی اور کفایت کرتی تھی خوابگاہوں میں سونے تک

رَبِيقَةُ الصَّبِيَّانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آپ کی تھوک مبارک شیرخوار بچوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَثْمَرَتْ حَدِيقَةُ أَنَسٍ

اور آپ کی آل پر کہ دوبار بار آور ہوتا تھا۔ حضرت انس کا باغ

مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ بِرَكَّةٍ دَعْوَتِهِ وَمَسَمَحٍ مُحَمَّدًا

سال میں آپ کی برکت دعا سے اور ہاتھ پھیرا محمد بن بشیر کے (سر پر)

بُنَ بَشِيرٍ فَلَمْ يَشِبْ مِنْهُ مَوْضِعٌ رَأَحَتْهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

تو نہ سفید ہوئے بال ان کے آپ کی ہتھیلی مبارک والی جگہ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ

كَانَ فِي سَفَرٍ فَأَتَى بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ فَادْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَنَبَعَتْ

سفر پر تھے تو ان کی خدمت میں برتن لایا گیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا پس آپ نے داخل فرمایا اپنا ہاتھ اس میں

مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ الْمَاءُ الزَّلَالُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

تو پھوٹ پڑا آپ کی انگلیوں کے درمیان سے صاف ستھرا پانی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ لَهُ يَوْمَ أُحُدٍ جَبْرَائِيلُ

پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے لیے اُحد کے دن تھے جبرائیل

عَنِ الْيَمِينِ وَمِيكَائِيلُ عَنِ الشِّمَالِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ قُلُوبًا

دائیں جانب اور میکائیل بائیں جانب۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں ایسے قلوب کا

أَوَاهَةٌ مُّحِبَّةٌ مُّنِيْبَةٌ فِي سَبِيلِكَ وَعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا وَعِلْمًا

جو زاری کرنے والے۔ فروتنی کرنے والے اور راغب ہوں تیری راہ میں اور مقبول عمل کا اور نافع و کامیاب

ثَافِعًا نَجِيحًا وَسَعِيًّا مُشْكُورًا وَتِجَارَةً لَنْ تَبُورَ وَأَرْزُقْنِي رِزْقًا

علم کا اور قابل شکر سعی کا اور نہ برباد ہونے والی تجارت کا اور نصیب فرما مجھے

طَيِّبًا وَاسْعَاءُ مَبَارَكًا حَلَالًا وَاسْتَعْمِلْنِي لِإِلَهِ إِلَّا أَنْتَ يَا

پاکیزہ وسیع بابرکت اور حلال رزق اور مجھے (نیکی پر) عامل بنا نہیں معبود برحق مگر تو نے

ذَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَأَسْأَلُكَ أَيُّهَا نَادِئُ قَلْبِي خَاشِعًا

مالک جلال و اکرام کے۔ اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے دائمی ایمان کا اور خشیت والے دل کا

وَيَقِينًا صَادِقًا وَدِينًا قَيِّمًا وَأَسْأَلُكَ أَيُّهَا نَادِئُ قَلْبِي حَتَّى

اور سچے یقین کا اور دین قیم کا اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ایسے ایمان کا جو رنج بس جائے میری دل میں حتی کہ

أَعْلَمَ أَنَّكَ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَأَسْأَلُكَ رِضًا مِّنَ الْبُعِثَةِ بِمَا

میں یقین رکھوں کہ نہیں پہنچے گا مجھے مگر جو تو نے میرے لئے لکھا اور سوال کرتا ہوں تجھ سے رضامندی کا اس معیشت پر

قَسَمْتُ لِي إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَسْأَلُكَ فَرْجًا قَرِيبًا

جو تو نے میرے مقدر میں رکھی ہے شک تو ہر چیز (جسے تو چاہے) پر قادر ہے اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں فوری کشادگی

وَصَبْرًا جَمِيلًا وَالْعَافِيَةَ مِنْ جَمِيعِ الْبُلَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

اور صبر جمیل کا اور تمام تر بلیات سے عافیت کا۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے

خَلَاصًا مِّنَ النَّارِ سَالِمًا وَأَنْ تُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ آمِنًا وَأَسْأَلُكَ

آگ سے خلاصی کا سلامتی کی حالت میں اور یہ کہ مجھے داخل فرمائے جنت میں امن کی حالت میں اور سوال کرتا ہوں

إِيْمَانًا لَا يَرْتَدُّ وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةً نَّبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى

تجھ سے ایسے ایمان کا جو نہ بدلے اور نعمتوں کا جو نہ ختم ہوں اور اپنے نبی محمد صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْلَى دَرَجَةِ الْجَنَّةِ جَنَّةِ الْخُلْدِ وَأَسْأَلُكَ

اللہ علیہ وسلم کی امانت کا جنت خلد کے اعلیٰ درجات میں۔ اور طلب کرتا ہوں تجھ

لِسَانَ صَادِقًا وَقَلْبًا سَلِيمًا وَخُلُقًا مُسْتَقِيمًا وَشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ

سے سچی زبان اور قلب سلیم اور درست اخلاق اور ہر بیماری سے شفاء

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ أَنْ تُعْطِيَنِي

لے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہ مجھے عطا کرے صبر

جَمِيلًا وَفَرَحًا قَرِيبًا وَأَجْرًا عَظِيمًا وَقَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا

جمیل اور فوری فرحت اور اجر عظیم اور قلب اور ذکر والی زبان

وَسَعِيًا مُشْكُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا وَقَلْبًا خَاشِعًا وَتَوْبَةً نَصُوحًا

قابل شکر سعی کا۔ بخشے ہوئے گناہوں کا۔ خشوع والے دل کا اور خالص توبہ کا

وَدُعَاءً مُسْتَجَابًا وَكَسْبًا طَيِّبًا حَلَالًا وَإِيمَانًا ثَابِتًا وَدِينًا قَائِمًا وَ

مقبول دُعا کا اور پاکیزہ و حلال روزی کا۔ پائیدار ایمان کا اور مستحکم دین کا اور

جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ قِيَامًا وَلِبَاسًا حَرِيرًا وَعِزًّا وَظَفْرًا وَفَتْحًا قَرِيبًا

جنت الفردوس میں قیام کا۔ اور جنتی ریشم کے لباس کا اور غلبہ و کامیابی اور فوری فتح کا

يَا خَيْرَ النَّاصِرِينَ يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ يَا مُجِيبَ دُعَاءِ عِبَادِكَ

اے بہترین مددگار۔ اے بہترین بخشنے والے۔ اور اے اپنے مجبور و بے بس بندوں کی دُعائیں

الْمُضْطَّرِّينَ وَيَا مُجِيبَ دُعَاءِ السَّائِلِينَ إِنَّكَ أَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ

قبول فرمانے والے اور سائلوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے۔ بے شک تو ہی تمام جہانوں کا رب ہے

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي قَلْبًا خَاشِعًا خَاضِعًا وَبَدَنًا صَابِرًا وَوَيْقِنًا

اے اللہ مجھے عطا فرما دل جو خشوع و محضوع اور نزاری کرنے والا ہو اور بدن صبر والا اور یقین

صَادِقًا وَاثِقًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا مَذْكُورًا حَاضِرًا حَامِدًا مَحْمُودًا وَعَيْنًا بَاكِئَةً

صادق و قابل وثوق اور زبان ذکر خداوند میں مصروف اور قابل ذکر حاضر اور ثنا گو۔ قابل ثنا اور آنکھ جو

خَاشِعَةٌ وَعِلْمًا نَافِعًا مَنَافِعًا وَتَوْبَةً نَصُوحًا مَقْبُولَةً وَأَوْلَادًا

رونے اور خشوع کرنے والی ہو۔ علم جو نفع و فائدہ دینے والا ہو اور توبہ جو خالص و مقبول ہو اور اولاد جو

صَالِحًا مُصْلِحًا وَسِنًا طَوِيلًا وَأَسْأَلُكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ لِلْعَرَضِ عَلَيْكَ

نیک اور مصلح ہو اور عمر طویل اور سوال کرتا ہوں تجھ سے ایمان کا جو تجھ پر پیش کرنے کے قابل ہو

وَأَيْقَانًا نَقَفُ بِهِ فِي الْقِيَمَةِ بَيْنَ يَدَيْكَ وَعِصْمَةً تَنْقِذُنَا بِهَا

اور ایسا یقین کہ ٹھہری بسبب اس کے قیامت میں تیرے حضور اور عصمت کہ تو بچائے ہیں بسبب اس کے

مِنْ وَرْطَةِ الذُّنُوبِ وَرَحْمَةً تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ دَنَسِ الْعَيُوبِ وَعِلْمًا

گناہوں کے بھنور سے اور رحمت کہ پاک کرے بسبب اس کے گناہوں کی میل و آلاش سے اور علم کہ

تَفْقَهُ بِهِ فِي أَوْامِرِكَ وَنَوَاهِيكَ وَفَهْمًا تَعْلَمُ بِهِ كَيْفَ نُنَاجِيكَ

سمجھ حاصل کریں بسبب اس کے تیرے اوامر و نواہی میں اور ایسا فہم کہ جانیں بسبب اس کے تیری کیفیت مناجات کو

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنِعْمَتِكَ السَّابِقَةِ عَلَيَّ وَبِلَايِكَ الْحَسَنِ

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری سابقہ نعمت اور اچھی آزمائش کے طفیل کہ

الَّذِي ابْتَلَيْتَنِي بِهِ وَفَضْلِكَ الَّذِي فَضَّلْتَ عَلَيَّ أَنْ تُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ

جس کے ساتھ تو نے آزمایا مجھے اور اس فضل کے طفیل جو فرمایا تو نے مجھ پر کہ مجھے داخل کرے جنت میں

بِمِنَّكَ وَفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ وَأَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَأَمْرِكَ

اپنے احسان و فضل اور رحمت کے ساتھ اور سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری ذات کریم اور امر عظیم کے

الْعَظِيمِ أَنْ تُجِيرَنِي مِنَ النَّارِ وَالْكَفْرِ وَالْفَقْرِ وَالذُّيُونَ اللَّهُمَّ

طفیل کہ مجھے آتش دوزخ سے اور کفر و فقر اور قرضوں سے پناہ دے۔ اے اللہ

إِنِّي أَسْأَلُكَ هُدًى قَيِّمًا وَإِيمَانًا مُسْتَقِيمًا وَفَضْلًا دَائِمًا وَنَظْرًا

بیشک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے پائیدار ہدایت کا اور درست ایمان کا اور دائمی فضل و احسان کا اور نظر رحمت

رَحْمَةً وَعَقْلًا كَامِلًا وَقَلْبًا مُنَوَّرًا وَتَوْفِيقًا حَسَنًا وَصَبْرًا جَمِيلًا وَ

اور عقل کامل اور قلب منور اور خوب تر توفیق کا اور صبر جمیل کا اور

أَجْرًا عَظِيمًا وَدُعَاءً مُسْتَجَابًا وَوَلِقَاءَكَ نَصِيبًا وَنَعِيمًا مُقِيمًا وَ

اجر عظیم کا اور مقبول دعا کا اور تیری ملاقات نصیب ہونے اور دائمی نعمتوں کے حصول کا۔ اور

أَسْأَلُكَ فِي الدُّنْيَا طَاعَتَكَ وَالْفِرَارَ مِنْ مَعْصِيَتِكَ وَفِي الْآخِرَةِ جَنَّتَكَ

سوال کرتا ہوں تجھ سے دُنیا میں تیری اطاعت کا اور تیری معصیت سے فرار اور دُوری کا اور آخرت میں تیری جنت

وَرُؤَيْتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ عُقُوبَتِكَ إِلَهَنَا أَيُّ كَيْدِ الشَّيْطَانِ وَهُوَ

اور تیرے دیدار کا اور تیری عقوبت سے سلامتی کا۔ اے ہمارے الہ کیا ہے مکر شیطان کا حالانکہ وہ

ضَعِيفٌ مَعَ قُوَّتِكَ وَإِقْتِدَارِكَ وَأَيُّ دَائِنٍ عَلَى الْقُلُوبِ مَعَ ظُهُورِهَا

کمزور ہے مقابل تیری قوت کے اور اقتدار کے اور کیا زنگ چڑھ سکتا ہے دلوں پر باوجود ظاہر ہونے

أَنْوَارِكَ إِلَهَنَا إِذَا عَثَرَتْ قَلْبًا إِضْمَحَلَّ عَنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَإِذَا

تیرے انوار کے۔ اے ہمارے الہ جب آباد کرے تو کسی دل کو توڑنا تو اس ہو جاتا ہے اس سے ہر شیطان اور جب تو

أَعْنَيْتَ بَعْدَ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ سُلْطَانٌ وَأَنْصَفْتَ بِالْأَحْدِيَّةِ

عنايت فرمائے کسی بندے پر تو نہیں ہوتا اس پر کسی کو غلبہ و تسلط اور تو ہی متصف ہے احدیت کے ساتھ

وَأَنْتَ الْمَوْجُودُ وَرَفَعْتَ نَفْسَكَ بِجَلَالِ الرَّبُّوبِيَّةِ وَأَنْتَ

اور تو ہی موجود حقیقی ہے اور تو نے بلند کیا ہے اپنی ذات کو جلال ربوبیت کے ساتھ پس تو ہی

الْمَعْبُودُ وَخَلَّصْتَ ضَيْقَ أَمْوَاجٍ مِنْ اخْتِصَصْتَ مِنْ رَيْقِ الْأَشْيَاءِ

معبود برحق ہے۔ اور تو نے خلاصی دی ہے اپنے خواص کے ارواح کو اجسام کی قید و طوق سے

إِلَى فِضَاءِ الشُّهُودِ أَنْتَ الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ

طرف فضائے شہود کے۔ تو ہی اول ہے۔ ہر شئی سے قبل ہے اور آخر ہے، جو ہر شئی کے بعد بھی ہے

كُلِّ شَيْءٍ هَالِكٌ حَادِثٌ مَفْقُودٌ لَا مَوْجُودٌ إِلَّا بِوَجُودِكَ لَا حَيَاةَ

ہر شئی ہلاک ہونے والی۔ بعد عدم موجود ہونے والی اور گنم و بے نشان ہونے والی ہے نہیں کوئی موجود مگر ساتھ تیرے وجود کے

لِلْأَمْوَاجِ إِلَّا بِشُهُودِكَ أَشْرَتْ إِلَى الْأَمْوَاجِ فَأَجَابَتْ وَكَشَفَتْ

نہیں جیات واسطے ارواح کے مگر ساتھ تیرے شہود کے۔ تو نے اشارہ کیا طرف ارواح کے پس انہوں نے قبول کیا اور تو نے پردہ

عَنِ الْقُلُوبِ فَطَابَتْ فَهَيِّئْ لَهَا كُلَّ أَرْوَاحِهَا لَكَ مُجِيبَةٌ وَ

ہٹایا دلوں پر سے پس وہ پاکیزہ ہو گئے۔ پس مبارکبادی ہے ان اجسام کے لیے جن کی رو میں تیرے احکام قبول کرنیوالی ہیں

لِقَوْلِهَا قُلُوبُهَا فَاهِبَةٌ عَنْكَ مَنِيبَةٌ إِلَيْكَ إِلَهَنَا فَطَهَّرْ

اور واسطے ان قوالب کے جن کے دل تیری طرف سے سمجھنے والے ہیں اور تیری طرف رجوع کرنے والے۔ اے ہمارے الہ پس پاک فرما

قُلُوبَنَا مِنَ الدَّنَسِ فَتَكُونُ مَحَلًّا لِمَنَازِلَاتِ وَجُودِكَ وَخَلِصْنَا

ہمارے دلوں کو میل سے تاکہ ہوں محل تیرے وجود کی منازل کے لیے اور ہمیں خالص فرما

مِن لَوِثِ الْأَغْيَابِ بِإِخْلَاصٍ تَوْحِيدِكَ حَتَّى لَا نَشْهَدَ لِغَيْرِ

اغیار کی آلودگی سے واسطے اپنی خالص توحید کے یہاں تک کہ نہ مشاہدہ کریں سوائے

أَفْعَالِكَ وَصِفَاتِكَ وَتَجَلَّى عَظِيمِ ذَاتِكَ فَأَنْتَ الْوَهَّابُ الْهَانِئُ

تیرے افعال و صفات کے اور تیری ذات عظیمہ کے جلووں کے پس تو ہی عطا کرنے والا۔ ہبہ

الْهَادِي الْقَادِرُ الْفَاتِحُ الْهَنَاءِ إِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِيَدِكَ وَأَنْتَ

کرنے والا۔ ہادی۔ قادر اور کشائش فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے الہ بیشک خیر تمام تیرے ہاتھ میں ہے تو ہی

مَوْهَبُهُ وَمُعْطِيهِ وَعَلَيْهِ مَغِيبٌ عَنِ الْعَبْدِ لَا يَدْرِي مِنْ أَيْنَ

اس کا ہبہ اور عطیہ دینے والا ہے۔ اور اس کا علم بندے سے غیب ہے نہیں جانتا کہ کس سے

يَأْتِيهِ وَطَرِيقُهُ عَلَيْهِ مَبْهُومٌ مَجْهُولٌ لَوْلَا أَنْتَ دَلِيلُهُ وَقَائِدُهُ

اس کے پاس آئے اور اس کا راستہ اس پر مبہم اور مجہول ہے اگر نہ ہو تو اس کا رہبر و قائد

وَمَهْدِيهِ يَا إِلَهِي تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ وَعَلَّ سُرِيرَتُهُ وَقَبِحَ مَا

اور ہدایت بخش۔ اے میرے الہ تو بابرکت ہے اور بلند شان اور کھوئی ہے طبیعت اس کی اور قبیح اندرون اس کا

انطوى عَلَيْهِ لِمَنْ أَرَكْسْتَهُ لِأَمْرٍ أَيْسَهُ فِي نُرْبِيَّتِهِ وَرَدَّدْتَهُ

جس کو تو گرائے سر کی چوٹی کے بل اس کے زخم و ناسور میں اور لوٹائے اس کو

فِي مَهْوَى حُفْرَتِهِ فَأَنْقَمَ بَعْدَ اسْتِطَالَتِهِ ذَلِيلًا فِي رُبْقِ

اس کے گڑھے کی گہرائی میں پس وہ اکھڑ گیا بعد ظلم و تعدی کے در آنجا لیکہ ذلیل ہے اپنے جال کے

حِبَالَةِ الَّتِي كَانَ يَقْدِرُ أَنْ يَرَانِي فِيهَا وَقَدْ كَادَ أَنْ يَحُلَّ

پھندے میں ہے جبکہ وہ قادر تھا اس پر کہ مجھے اس حال میں دیکھتا اور قریب تھا کہ مجھے

بِئِي لَوْلَا رَحْمَتُكَ لِأَحَلَّ بِسَاحَتِهِ اللَّهُمَّ إِنَّ ذَاتَكَ

اس میں اتارتا اگر نہ موجود ہوتی رحمت تیری (مجھ پر) جو نہ نازل ہوئی اس کے صحن میں۔ اے اللہ تیری ذات

سُرْمِدِيَّةٌ وَصِفَاتِ ذَاتِكَ سُرْمِدِيَّةٌ وَأَسْمَاءُ ذَاتِكَ

سرمدی ہے اور تیری صفات بھی سرمدی ہیں اور تیرے اسماء ذات بھی

سُرْمِدِيَّةٌ لَا حُدُوثَ فِيهَا وَلَا تَجَدُّدَ وَلَا تَكْتُرَ فِيهَا وَلَا

سرمدی ہیں نہ ان میں حدوث اور سبقت عدم ہے اور نہ انقطاع و تجدد اور نہ کثرت ہے مرتبہ ذات میں

تَعَدُّدٌ فَكَيْفَ يُدْرِكُكَ مَنْ هُوَ فِي عَيْنِ الْحُدُوثِ ذَاتُكَ

اور نہ تعدد تو کس طرح تیرا احاطہ کر سکتا ہے جو کہ سراسر حدوث میں ہے ہمیشہ کے لیے اور

فِي مَحْضِ التَّجَدُّدِ ثَابِتًا وَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ سِرَّ الْأَسْرَارِ الْمَانِعِ

محض تجدد میں ثبوت رکھتا ہے اور سوال کرتے ہیں تجھ سے اے اللہ سرالاسرار کا جو مانع ہو

مِنَ الْأَضْرَارِ حَتَّى لَا يَكُونَ لَنَا مَعَ الذَّنْبِ وَالْعَيْبِ قَرَارٌ وَ

نقصانات سے یہاں تک کہ نہ ہو ہمارے لیے گناہ اور عیب کے ساتھ قرار اور

ثَبْتًا يَا سَرَّابِنَا وَاهْدِنَا لِأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ اللَّهُمَّ إِنَّ سِرِّي

ثابت رکھ ہمیں اے رب ہمارے اور ہدایت دے ہمیں اعمال صالحہ کی۔ اے اللہ بیشک میرے کان

وَبَصْرِي وَسِرِّي وَجَهْرِي وَظَاهِرِي وَبَاطِنِي يَشْهَدُ لَكَ

اور آنکھ اور میرا اندرون اور میرا باہر۔ اور میرا ظاہر اور باطن تیرے لیے شاہد و گواہ ہے

بِحُرْمَةِ نَبِيِّكَ وَسَأُولِكَ الْوَاحِدِ فِي ذَاتِكَ السَّرْمِدِيَّةِ

بطفیل عزت و حرمت تیرے نبی کے (کہ تو) تو واحد ہے اپنی ذات سرمدیہ (ازلیہ ابدیہ)

الْأَنْجِدِيَّةِ الْوَاحِدِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ

تو یہ شدیدہ احدیہ میں۔ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ

نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا اور نہیں ہے

لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

اس کے لیے کوئی مشابہ اور ہم پلہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

کہ دین ہاں وقت اقرآن بفضل
ایزومنان تحفہ عجایب و ہدیہ غرائب الی اللہ
مقبول بارگاہ شاہ کونین حضرت محمد ﷺ
مُسَمَّیٰ بِہِ

مجموعۃ الرسائل

الجزء الرابع عشر

فِی قَالِهِ وَمَقَالِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

از تصنیف خاندان محرابوں والکتاب الشیخنا اعلیٰ حضرت سرسبز ہندوستان

حضرت خواجہ نور بھگان خواجہ محمد عبد الرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور
صوبہ سرحد پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِکَبْرِیَاةٍ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِثَنَاءِ

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑائی کے طفیل اور بسم اللہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِیْهَاءِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الرحمن الرحیم کی ثنا کے طفیل اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی روتق و ہزار کے طفیل

وَبِیْبَانِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِفِصْحِ اللِّسَانِ بِسْمِ اللّٰهِ

اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بیان کے طفیل اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فصاحت لسانی (اور روانی) کے طفیل سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین، غایت رحمت والا، مہربان ہے۔

مَا لِكْ یَوْمِ الدِّیْنِ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ

قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی توفیق طلب کرتے ہیں۔ چلا ہمیں راہ

المُسْتَقِیْمِ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ

راست پر۔ راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا ہے نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا ہے

وَالضَّالِّیْنَ اٰمِیْنُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی رَسُوْلٌ مِّنْ اللّٰهِ یَتْلُوْا

اور نہ گمراہوں کی آمین۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے: رسول ہیں اللہ کی طرف سے جو تلاوت کرتے ہیں

صَحَافًا مَّطْهُرَةً فِیْهَا کُتِبَ قِیْمَةٌ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَمَا یَنْطِقُ

پاکیزہ صحیفوں کی ان میں پائیدار اور درست کتابیں ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور وہ نہیں بولتے

عَنِ الْهَوٰی اِنْ هُوَ اِلَّا وَحٰی یُّوحٰی اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ طَوِیْلَ الْعُمْرِ

خواہش نفس سے نہیں ان کا کلام مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔ اے اللہ بنا مجھے عمر دراز والا

لِقَوْلِ اَعْمَالٍ اَفْعَالٍ اَخْیَالٍ اَحْوَالٍ الصَّالِحَةِ بِحُرْمَتِهِ صَلٰی

واسطے صالح اقوال و اعمال اور خیالات واحوال کے لیے بطفیل حرمت نبی صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اللہ علیہ وسلم کے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَصِيحِ اللِّسَانِ وَعَجِيبِ الْبَيَانِ وَعَمِيمِ الْإِحْسَانِ

کی آل پر جو فصیح زبان والے۔ عجیب بیان والے۔ محیط احسان والے

وَسَلِيمِ الْقَلْبِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور سلیم قلب والے ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا اسْتَضَاءَ الْقَمَرَانِ النَّبِيِّ أَخِرَ الزَّمَانِ وَكَامِلِ الْفَضْلِ

آل پر جو کہ پیغمبر آخر الزمان ہیں جب تک روشن رہیں سورج اور چاند اور جو کامل فضل

وَالْإِحْسَانِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

و احسان والے ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل

أَشْرَفِ الْأَوْلِيَيْنِ وَالْآخِرِينَ اللَّهُمَّ اعْطِنِي تَكْمِيلَ كَمَالِ الْكَمَالِ فِي

جو بہت فضل و شرف والے ہیں اولین سے۔ لے اللہ عطا فرما مجھے تکمیل کمال خالص کی

تَحْصِيلِ كَمَالَاتِ الْحَقِيقَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَحَقِّ الْمَعْرِفَةِ

خالص و کامل کمالات کے حاصل کرنے میں جو متعلق ہیں حقیقت انسانیہ سے اور معرفت عرفانیہ کے

الْعُرْفَانِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

حق و تقاضا سے۔ لے اللہ صلوات و سلام اور برکات نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْهَادِي الْإِنْسِ وَالْجَانِّ وَتَأَمِّمِ الْغُفْرَانَ وَالشَّافِعِ

محمد کی آل پر جو ہادی ہیں واسطے انسانوں اور جنوں کے اور معفرت والے ہیں شفاعت فرمانے والے ہیں ایسی

بِشَفَاعَةِ الْكِبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْعَبِيدِ وَالنَّسِيَّانِ وَ

شفاعت جو کبائر و صغائر اور دیگر ارادی اور غیر ارادی طور پر سرزد ہونے والے گناہوں کو شامل ہے اور

بِمَغْفِرَةِ غُفْرَانَ الْغُفْرَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ساتھ ایسی مغفرت و بخشش کے جو کامل غفران کا سبب ہے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَابَ الرِّضْوَانُ وَوَاعِظُ الْقُرْآنِ بِتَفْسِيرِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب رضا و رضوان کا تاج ہیں اور قرآن کے ساتھ وعظ فرمانے والے ہیں تفسیر

الْفُرْقَانِ وَبِتَيْسِيرِ الْعِيَانِ وَالْبَيَانِ وَالذَّاعِي إِلَى الْإِيمَانِ بِالْإِيمَانِ

قرآن اور عیان و بیان کی تسہیل کے ذریعے اور دعوت دینے والے ہیں طرف ایمان کے ساتھ ایمان و ایقان کے ساتھ

وَبِالْخُضُوعِ وَالْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا فِي كُلِّ الْأَعْمَالِ مَعَ

اور خضوع و خشوع کے نماز اور دیگر تمام اعمال میں مع

الْإِخْلَاصِ وَالْإِيقَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اخلاص اور ایقان کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

سیدنا محمد کی آل پر جنہوں نے فرمایا: اعمال کے ثواب کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے اور صلوٰۃ نازل فرما

مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَاتِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ

سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "مجالس امانتوں پر مشتمل ہوتی ہیں" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول

أَفَّةُ الدِّينِ الْهُوَىٰ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الْقُرْآنُ هُوَ

ہے کہ "دین کی آفت اور تباہی خواہش نفس ہے" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "قرآن مجید ہی

الدَّاءُ وَأَوْصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَنْ رَأَى الْقَبْرَ الْمَوْتُ نَهَىٰ عَنِ

دواء و شفا ہے" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "جس نے موت کو نگاہ میں رکھا وہ لذات نفس سے

اللذاتِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَنْ زَهَدَ فِي الدُّنْيَا هَانَتْ

باز رہا" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے جو دنیا سے بے رغبت ہو گیا

عَلَيْهِ الْمَصِيبَاتُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ كُنْتُمْ صَعَارَ قَوْمٍ

اس پر مصیبتیں آسان ہو گئیں" اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "تھے تم ایک قوم کے خورد سال

سَعُودُونَ كِبَارَ قَوْمٍ آخِرِينَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ إِنَّ

ہیں عقرب ہو جاؤ گے دوسری قوم کے بزرگ کبیرا سن" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا فرمان ہے کہ "بیشک

اللَّهُ يُحِبُّ أَبْنَاءَ السَّبْعِينَ وَيُسْتَجِيئُ مِنْ أَبْنَاءِ الثَّمَانِينَ وَصَلِّ عَلَى

اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے ستر سالہ لوگوں کو اور شرم و حیا فرماتا ہے اسی سالہ لوگوں سے اور صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ النَّاسُ نِيَامُ فَإِذَا مَا تَوَّانْتُمْ هُوَ وَصَلِّ عَلَى

سیدنا محمد پر جن کا فرمان ہے کہ "لوگ سوئے ہوئے ہیں جب فوت ہوں گے تو بیدار ہوں گے اور صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ

سیدنا محمد پر جن کا فرمان ہے کہ "لوگ معادن اور کانیں ہیں جو ان میں بہتر تھے جاہلیت میں وہ بہتر ہیں

فِي الْإِسْلَامِ إِذَا أَقْبَهُوا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ كَمْ قَبْلُ تُسْتَقْبَلُ

اسلام میں جب دین کا فہم حاصل کریں" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا فرمان ہے "کتنے لوگ ملاقات کرنے والے

يَوْمًا لَا يَسْتَكْبِلُهُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ وَ

ہیں دن کی جس کو وہ مکمل نہیں کر سکیں گے" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا فرمان ہے کہ "ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الرَّهْدُ فِي الدُّنْيَا يَرْيَحُ الْقَلْبَ وَ

مجھت رکھے گا" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "دنیا سے بے رغبتی دل کو راحت پہنچاتی ہے" اور

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الْخَيْرُ عَائِدَةٌ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "بہتر لوٹ کر آیا ہوا ہے اپنے فاعل کی طرف" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الدُّعَاءُ مَعَ الْعِبَادَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ

محمد پر جن کا قول ہے "سوال اور طلب حاجت عبادت کا مغز و روح ہے" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ

لَا صَغِيرَةٌ مَعَ الْأَسْرَارِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ لَا كِبِيرَةٌ

"نہیں کوئی گناہ چھوٹا باوجود اس پر اصرار کرنے کے" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "نہیں کوئی گناہ بڑا

مَعَ الْإِسْتِغْفَارِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ

ساتھ استغفار کے" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "ہر چیز کی

مَعْدَنًا وَمَعْدَنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

معدن وکان ہے اور تقویٰ کی کان عرفاء کے قلوب ہیں۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ سُورَةُ يُسُ وَصَلِّ

محمد پر جن کا قول ہے "بے شک ہر شئی کے لیے دل ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یسین ہے۔ اور صلوات نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ كَفَّارَةَ الذَّنْبِ الدَّامَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "گناہ کا کفارہ ندامت و پشیمانی ہے" اور صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ نَعْمَ الشَّفِيعُ الْقُرْآنُ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَصَلِّ

محمد پر کہ جن کا قول ہے "اچھا شفیع قرآن ہے اپنے پڑھنے اور حفظ کرنے والے کے لیے قیامت کے دن" اور صلوات نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ أَذْكَرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي وَصَلِّ عَلَى

سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "میں تمہیں اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں اپنے اہل بیت میں۔ اور صلوات نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي وَصَلِّ

سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "میری شفاعت ثابت ہے میری اُمت میں سے کبیرہ گناہ والوں کے لیے بھی" اور صلوات نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرَكَ مَا لَا

فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "آدمی کے اسلام کے کامل ہونے کی علامات سے ہے اس کا

يَعْنِيهِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ

بے مقصد امور کو ترک کر دینا" اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک

الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ إِذَا أَحَبَّ

بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہو۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "جب محبت کرے

أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعَلِّمَهُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الْمُسْلِمُ

تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی سے تو اس کو آگاہ کرے اپنی محبت سے" اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے

أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ

کہ "مسلمان بھائی ہے مسلمان کا نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو (دشمنوں کے) حوالے کرتا ہے" اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ

سِيَابُ الْمُسْلِمِ فَسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ

"مسلمان کو گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور اس سے قتال کفر ہے" اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے

مَنْ مَاتَ عَلَى خَيْرِ عَمَلِهِ فَأَرْجُوْا لَهُ خَيْرًا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کہ "جو فوت ہوا اچھے عمل پر تو اس کے لیے خیر کی امید رکھو" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الْقَائِلِ كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ

جن کا قول ہے کہ "قرب ہے کہ فقر وفاقہ کفر بن جائے" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے

أَكْتُمُ السِّرَّ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ أَحْسَنُ

کہ اگر تو پوشیدہ رکھے راز کو تو ہو گا مومن کامل" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے۔ اگر اچھا

مُحَاوَرَةٌ مَنْ جَاوَزَكَ تَكُنْ مُحْسِنًا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ

اور خوب رکھے انداز تکلم اپنے بڑوسی سے تو ہو جائے گا محسن اور نیکو کار" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ

إِذَا بَعْتَ فِكْلًا وَإِذَا ابْتَعْتَ فَارْتَلْ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ

"جب تو بیچے تو بھی کیل کر اور جب خریدے تو بھی کیل کرے" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَبِيْتُ وَكَيْسَ فِي قَلْبِهِ غُلٌّ لِأَخْرَفِ لِيَفْعَلْ

کہ "تم میں سے جو استطاعت رکھے کہ رات گزارے اس حال میں کہ اسکے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو تو ضرور اس طرح کرے"

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ

اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا فرمان ہے "نہیں مومن ہو سکتا کوئی بھی تم میں سے یہاں تک کہ پسند کرے

لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ إِنَّ اللَّهَ

اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو پسند کرتا ہو اپنے لیے اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "بے شک اللہ تعالیٰ

يُنْزِلُ الْعَبْدَ حَيْثُ أَنْزَلَتْهُ نَفْسُهُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ

اتارتا ہے بندے کو اس منزل میں جہاں اسے اس کا نفس اتارے۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَخْرِجْ نُورَ الْإِيمَانِ مِنْ جَوْفِهِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

کہ "جس نے شراب پیا لایا جائے گا نور ایمان اس کے اندر سے۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَنْ رَفِيَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر جن کا قول ہے جس نے مومن کو کفر کے ساتھ طعنہ دیا تو وہ اس کے قتل کی مانند ہے اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الْمُؤْمِنِ هَيِّنٌ لِّئِنْ وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ

محمد پر جن کا قول ہے کہ ہر مؤمن آہستگی و نرم نثری والا ہے۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ أَوَّلُ

”حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے“ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ ”پہلا امر

مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا

جس میں فیصلہ صادر کیا جائے گا لوگوں کے درمیان قیامت میں وہ خون اور قتل ہوگا“ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَ

محمد پر جن کا قول ہے کہ ”رحم کرو زمین والوں پر رحم کریں گے تم پر آسمان والے“ اور

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَصَلَ عَلَى

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ ”الحمد للہ (کننے سے) ترازوئے حسنات بھر جائے۔ اور صلوٰۃ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا

نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ ”رحم کرنے والوں پر اللہ رحمن رحم فرماتا ہے“ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد پر جن کا قول ہے کہ ”جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا“ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الْقَائِلِ أَحَبُّ الْبُيُوتِ إِلَى اللَّهِ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ مَكْرُمٌ

کہ جن کا قول ہے ”سب گھروں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسندیدہ وہ گھر ہے جس میں یتیم کی عزت و تکریم کی جاتی ہو

وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے ”کہ ہر نیکی صدقہ ہے“

وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ إِلَّا سِتْقَانًا فُرْقَةٌ

اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے ”تحقیق اور جستجوئے احوال میں انتہاء (باعث) فرقت ہے“

وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ بَعْثُكُمْ مَيْسَرِينَ وَ

اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے ”تم مبعوث ہوئے ہو سہولت کے لیے اور

لَمْ تَبْعَثُوا مُعْسِرِينَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ

نہیں پیدا کئے گئے تنگی اور عسرت کے لیے اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے

مَا مَنَعَكُمْ قَوْمَ الزَّكَاةِ إِلَّا ابْتَلَاهُمْ اللَّهُ بِالسِّنِينَ وَصَلِّ عَلَى

”نہیں روکتی کوئی قوم زکوٰۃ کو مگر اللہ تعالیٰ انہیں مبتلا فرماتا ہے قحط و خشک سالی میں“ اور صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَا خِلَطَتْ الزَّكَاةُ مَالًا إِلَّا أَفْسَدَتْهُ وَصَلِّ

سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے ”نہیں مدد کی جاتی زکوٰۃ کسی مال کے ساتھ مگر اس کو ہلاک کرتی ہے“ اور صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ إِنَّ الصَّدَقَةَ مَا تَرَكْتُ فِي مَالٍ لَمْ تُخْرِجْ

نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے ”صدقہ نہیں ترک کیا جاتا کسی مال میں کہ نہ نکالا جائے

مِنْهُ إِلَّا آتَلَفَهُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ يَسْرُؤُا وَلَا تُعْسِرُوا

اس سے مگر اس مال کو برباد کرتا ہے“ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا فرمان ہے ”سہولت پیدا کرو اور تنگی نہ کرو

وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ إِنَّ اللَّهَ وَتَرُّ

اور بشارت دو نفرت نہ دلاؤ۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے کہ ”بے شک اللہ تعالیٰ وتر ہے

يُحِبُّ الْوِتْرَ فَأَوْتِرُوا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ لَا يَدْخُلُ

وتر کو محبوب رکھتا ہے لہذا وتر ادا کرو۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے ”نہیں داخل ہوگا

الْجَنَّةَ نَهَامٌ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ أَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ

جنت میں چغل خور“ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے کہ ”سب لوگوں سے بڑا بخیل وہ ہے

بَخِلَ بِالسَّلَامِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَا فِي الْجَنَّةِ

جو سلام کے ساتھ بخل کرے۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے کہ ”نہیں جنت میں

شَجَرَةٌ إِلَّا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ

کوئی درخت مگر اس کا تنہ سونے کا ہے“ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے

لِكُلِّ امْرِءٍ فِي الْجَنَّةِ زَوْجَتَانِ وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْرَابٌ وَصَلِّ عَلَى

کہ ہر مرد مسلم کے لیے جنت میں دو بیویاں ہوں گی اور نہیں ہوگا جنت میں کوئی ناکتھرا اور صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سِوَى الْمَلَائِكَةِ وَصَلَّى عَلَى

سیدنا محمد پر کہ جن کا فرمان ہے "نہیں داخل ہوگا جنت میں بری عادات و اخلاق والا" اور صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَنْ يَزْرَعُ شَرًّا يَحْصُدُ التَّدَامَةَ وَصَلَّى عَلَى

سیدنا محمد پر کہ جن کا فرمان ہے "جو کاشت کرے گا شر کو کاٹے گا ندامت کو" اور صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَصْحَابِي بِأَرْضٍ فَهُوَ شَفِيعٌ

سیدنا محمد پر کہ جن کا فرمان ہے "میرے اصحاب میں سے جو بھی کسی زمین میں فوت ہوگا تو وہ شفیع ہوگا

لِأَهْلِ تِلْكَ الْأَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ

اس علاقہ والوں کے لیے قیامت کے دن اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے

مَنْ سَرَّكَ أَنْ يُسَلَّمَ فَلْيُزِمِ الصَّمْتَ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ

کہ "کہ جسے یہ اچھا لگے کہ وہ سلامت رہے تو وہ خاموشی کو لازم پکڑے" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سَحْتٍ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

"ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں وہ گوشت جو پیدا ہوا حرام سے" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الْقَائِلِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ غُذِيَ بِالْحَرَامِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا

کہ جن کا فرمان ہے "نہیں داخل ہوگا جنت میں وہ گوشت جس کو غذا دی گئی حرام سے" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ

محمد پر جن کا قول ہے جو ایمان رکھتا ہو اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر پس وہ نہ داخل کرے

حَلِيلَتَهُ الْحَمَامَ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ

انہی زوجہ کو حمام میں اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "جنت میں

بَيْتًا يُقَالُ لَهُ بَيْتُ السَّخَا وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَنْ

ایک مکان ہے جس کو بیت السخا کہا جاتا ہے" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا فرمان ہے جو

أَرَادَ أَنْ يُسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشُّدِّ آتِدُ فُلِكَتْرُ مِنَ الدُّعَاءِ فِي

چاہے کہ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعوات مشکلات میں تو چاہئے کہ زیادہ دعا کرے

الرَّخَاءِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ السَّخَاوَةَ خُلِقَ اللَّهُ الْأَعْظَمُ

خوشحالی کے دور میں "اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا فرمان ہے سخاوت اللہ تعالیٰ کے عظیم تر اخلاق میں سے ہے"

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ تَنَاكُحُوا فِائِي مَكَاتِرِكُمْ الْأُمَمِ

اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا فرمان ہے "نکاح کرو کیونکہ میں تمہاری طرف سے کثرت پر فخر کروں گا دیگر اہم پر"

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الْمُؤْمِنُ مِنْ حُلُوِّ حِبِّ الْحَلَاوَةِ وَ

اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "مومن میٹھا اور شیریں ہے محبوب رکھتا ہے شیرینی کو" اور

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَا جُبِلَ وَلِيُّ اللَّهِ إِلَّا عَلَى السَّخَاوَةِ

صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "نہیں پیدا کیا جاتا اللہ تعالیٰ کا ولی مگر صفت سخاوت پر"

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَايِنٌ وَصَلِّ

اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "خشک ہو گئی قلم تقدیر ساتھ اس کے جو ہو نیوالا ہے" اور صلوات نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ تَهَادُوا فَإِنَّ الْهُدْيَةَ تَذْهَبُ

فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے "باہم ہدیے دیا کرو کیونکہ ہدیے دور کر دیتے ہیں

بِالصَّغَائِنِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ لَيْسَ الْخَيْرُ كَالْمَعَايِنَةِ

"قبلی بغض اور کینوں کو۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "نہیں خیر مانند مشاہدہ کے"

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَا مِنْ نُسْمَةٍ كَانَتْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "میں کوئی نفس وجود میں آنے والا قیامت تک

إِلَّا وَهِيَ كَانَتْ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بَعْدَ

مگر وہ موجود ہو کر رہے گا" اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کسی بندے

خَيْرًا يَفْقَهُهُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلِّهِ وَ

کے ساتھ بھلائی کا تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے" اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "حیا تمام تر خیر ہے" اور

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ دَعُوا الْبِرَاءَ لِقَلَّةِ خَيْرِهِ وَصَلِّ عَلَى

صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا ارشاد ہے "مجارے کو ترک کرو اس میں خیر نہ ہونے کی وجہ سے" اور صلوات نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ رَحِمَ اللَّهُ وَالِدًا أَعَانَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کا ارشاد ہے کہ "رحم فرمائے اللہ تعالیٰ اس والد پر جو اعانت کرے

وَلَدًا عَلَىٰ بَرٍّ وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ لَا إِيمَانَ كَالصَّبْرِ

اپنی اولاد کی نیکی پر" اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا ارشاد ہے "نہیں ایمان مانند صبر

وَالْحَيَاءِ وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَنْ أَكْرَمَ عَالِمًا أَكْرَمَهُ

اور حیاء کے" اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا فرمان ہے "جس نے عالم کی عزت کی اللہ تعالیٰ اس کی

اللَّهُ بِكَرَامَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ خَيْرُ

عزت افزائی فرمائے گا مانند اکرام انبیاء علیہم السلام کے۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "بہترین

الْأَضْحِيَّةِ الْكَبِشُ الْأَقْرَنُ وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الْحَيَاءُ

قربانی سینگوں والا مینڈھا ہے" اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا فرمان ہے "حیاء

حَسَنٌ وَلَكِنَّهُ فِي النِّسَاءِ أَحْسَنُ وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ

خوبتر ہے لیکن وہ عورتوں میں بہت ہی خوبتر ہے" اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے

أَفَةُ الْعِلْمِ النَّسِيَانُ وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الْحَيَاءُ شِعْبَةٌ

کہ علم کے لیے آفت لسیان ہے" اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "حیاء عظیم شیعہ ہے

مَنْ الْإِيمَانَ وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي

ایمان سے" اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا فرمان ہے "نہیں ہو گا حیاء کسی

شَيْءٍ إِلَّا تَرَانَهُ وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَا كَانَ الْفُحْشُ

چیز میں مگر اس کو مزین کر دے گا" اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "نہیں ہوگی بیحیائی اور فحش کوئی

فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي

کسی شئی میں مگر اس کو عیب ناک کر دے گی" اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "حیاء نہیں لاتا

إِلَّا بِخَيْرٍ وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيٌّ

مگر خیر اور بھلائی" اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "کہ ہر نبی کے لیے حواری ہوئے ہیں اور میرے حواری و مددگار

الرُّبَيْرُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ كَفَى بِالْقُرْآنِ نَاصِحًا وَ

حضرت زبیر ہیں اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے "کافی ہے قرآن بطور ناصح کے" اور

صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ لَوْ كَانَ الْحَيَاءُ رَجُلًا لَكَانَ رَجُلًا

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے "اگر حیا، صورت انسانی پر ہوتا تو

صَالِحًا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ كَثْرَةُ الضُّحُكِ يُمِيتُ الْقَلْبَ

نیک مرد ہوتا" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "زیادہ ہنسناد دل کو مردہ بنا دیتا ہے"

وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ إِذَا مَدَحَ الظَّالِمُ اشْتَدَّ غَضَبُ

اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "جب ظالم کی تعریف کی جائے تو رب تعالیٰ بہت

الرَّبِّ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَا خَابَ مَنْ اسْتَشَارَ

غضب فرماتا ہے" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے "نہ رسوا ہوا جس نے مشورہ طلب کیا

وَلَا نِدَامَ مَنْ اسْتَخَارَ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَنْ لَمْ

اور نہ پشیمان ہوا جس نے استخارہ کیا۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "جس نے

يَتَخَلَّلُ فِي الوُضُوءِ خَلَّلَهُ اللهُ فِي النَّارِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وضو میں خللاں نہ کیا اللہ تعالیٰ اس کا خللاں کرے گا آتش دوزخ سے۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الْقَائِلِ لِيَلُوا طَعَامَكُمْ يَبَارِكْ لَكُمْ فِيهِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جن کا قول ہے "اپنے طعام کو ناپو تو برکت دی جائے گی اس میں تمہارے لیے اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الْقَائِلِ إِنَّ مِنْ أَيْرِ الْبِرِّ أَنْ يُصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وَدِّ أَبِيهِ وَصَلَّ

جن کا قول ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے یقیناً کہ آدمی وصل و پیوند برقرار رکھے اپنے باپ کے محبت والوں سے" اور صلوٰۃ نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا

سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "جو ہمارے ساتھ دھوکہ کرے ہم میں سے نہیں ہے اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَنْ أَكَلَ الثُّومَ فَلْيَعْتَزِلْنَا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد پر کہ جن کا قول ہے "جو اکیس لہسن کھائے تو وہ ہم سے الگ رہے" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الْقَائِلِ مَنْ قَتَلَ وَرُغَةً فَلَهُ حَسَنَةٌ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کہ جن کا قول ہے "جس نے سام ابرص کو قتل کیا تو اس کے لیے نیکی ہے" اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ

الْقَائِلِ مَنْ قَادَ أَعْمَى أَرْبَعِينَ خُطْوَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَصَلِّ

جن کا قول ہے "جس نے اندھے کی رہنمائی کی چالیس قدم تک واجب ہوگئی اس کے لیے جنت" اور صلوات نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ رُدُّو السَّائِلَ وَلَوْ بَطْلِفِ الْحَرِيقِ وَصَلِّ

سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے "لوٹاؤ سائل کو رکچھ دیکرا اگرچہ جلا ہوا ہی پایا ہو" اور صلوات نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ إِيَّاكُمْ وَالْحَلْفَ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ

سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے "اپنے آپ کو بیچاؤ خرید و فروخت میں حلف سے کیونکہ وہ سوداگری کو وقتی طور پر رونق دیتی

يُمَحِّقُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ

ہے پھر بے رکت کرتی ہے اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "ادا کرو مزدور کو اس کی اجرت اس کا

أَنْ يَجْفَ عَرْقُهُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ عَاشَ مَنْ عَرَفَ

پسینہ خشک ہونے سے قبل" اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے "زندہ رہا جس نے

قَدْرَهُ وَكَفَّ النَّاسَ شَرَّهُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ أَعْجَزُ

اپنی قدر پہچانی اور لوگوں سے اپنے شر کو دور رکھا" اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے "سب لوگوں سے

النَّاسِ مَنْ عَجَزَ فِي الدُّعَاءِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ

بڑا عاجز وہ ہے جو دعائے عاجز ہو" اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا فرمان ہے

الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ مِنْ مَعَاءٍ وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ مِنْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

کہ "مومن ایک انتڑی میں کھاتا ہے اور کافر کھاتا ہے سات انتڑیوں میں اور

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الْقَنَاعَةُ كَنْزٌ لَا يَغْنَى وَصَلِّ

صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "قناعت ایسا خزانہ ہے جو فنا نہیں ہوتا" اور صلوات نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ صَلَوَةُ الْبَيْلِ مِثْنِي مِثْنِي وَصَلِّ عَلَى

فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "رات کی نماز دو دو رکعت ہے" اور صلوات نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ نَزَيْنُوا أَعْيَادَكُمْ بِالتَّكْبِيرِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "اپنی عیدوں کو مزین کرو تکبیروں کے ساتھ" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ لَيْسَ مِثْلًا مَنْ لَمْ يُوقِّرِ الْكَبِيرَ وَيَرْحَمْ الصَّغِيرَ وَ

محمد پر جن کا قول ہے کہ "نہیں ہے ہم میں سے جس نے نہ عزت کی بڑے کی اور نہ رحم کیا چھوٹے پر" اور

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ بَرُّوْا اَبَاءَكُمْ يَدْرِكُكُمْ اَبْنَاؤَكُمْ وَ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "تم اپنے آباء سے نیکی اور احسان کرو تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ عَسَا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تُعَفُّ

احسان کریں گے" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا فرمان ہے "لوگوں کی عورتوں سے دامن بچا کر رکھو تو تمہاری عورتیں بھی

نِسَاءَكُمْ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ لَنْ يَهْلِكَ امْرَأَةٌ مَعَ

پاک دامن رہیں گی۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "ہرگز ہلاک نہیں ہوگا کوئی شخص

مَشُورَةٌ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ

مشورہ کے ہوتے ہوئے" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "ہرگز فلاح نہیں پائے گی وہ قوم جنہوں نے اپنے

أَمْرَهُمْ امْرَأَةً وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ صَاحِبُ الدَّابَّةِ

معاملات کسی عورت کو سوچئے" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے "جانور کا مالک

أُولَى بِصَدْرِهَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَنْ سَتَرَ عَوْرَتَهَا

اس کی پشت کی صدر نشینی کا زیادہ حقدار ہے" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "جس نے کسی کے عیب یا شرمگاہ پر

فَكَأَنَّمَا أَحْيَا مَوْءُودَةً فِي قَبْرِهَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ

پر وہ ڈالا تو گویا اس نے زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو زندہ کیا" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَنْ

"اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لے لیا اور جو اس نے عطا کیا" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا

قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قول ہے جس نے قرآن میں رائے کی پس صواب کو بالیا تو پھر بھی وہ خطا کار ہے" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الْقَائِلِ لَا يَمْسُ أَحَدَكُمْ ذَكَرَهُ بِالْيَدِ الْيَمِينِ إِذَا تَوَضَّأَ وَصَلَّ

جن کا قول ہے "نہ مس کرے کوئی تم میں سے اپنی شرم گاہ کو دائیں ہاتھ سے جب استنجا کرے" اور صلوٰۃ نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ فَكُو الْعَالِي وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَزُورُوا الْمَرْضَى

سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "قیدیوں کو رہا کراؤ۔ بھوکوں کو کھلاؤ اور مریضوں کی زیارت و عیادت کرو"

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ

اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے "خیر اور بھلائی گھوڑوں کی پیشانیوں سے بندھی ہوئی ہے"

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ عَلَيْكُمْ بِالذُّجَّةِ فَإِنَّ الْأَرْضَ

اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "لازم پھراؤ سفر کو رات کی تاریکی میں کیونکہ زمین

تَطْوَى بِاللَّيْلِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ لِكُلِّ الصَّائِمِ

رات کو (گویا) لپیٹ دی جاتی ہے۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "ہر روزہ دار کی دعا

دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ يُعْجِبُ رَبُّكَ مِنْ

مستجاب و مقبول ہے" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے "تیرا رب خوش ہوتا ہے اس

شَيْءٍ لَيْسَ لَهُ صَبُوءٌ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ رَأَيْتَ فَوْسِي

جان سے جس میں خواہش نفس کی طرف میلان نہ ہو" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام

قَائِمًا يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ ضحكُ رَبِّكَ مِنْ

کو نماز پڑھتے ہوئے اپنی قبر میں" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "تیرے رب نے (گویا) تعجب فرمایا

قُتُوبِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ خَيْرِهِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ لَا يَقْرَأُ الْجَنَّبُ

بندوں کی نامیدی سے باوجود اس کی خیر اور بھلائی کے قریب" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا فرمان ہے کہ "نہ پڑھے جنبی

وَالْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ خَزَائِنُ

اور حین والی عورت کوئی شئی بھی قرآن سے" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "اللہ تعالیٰ کے خزانے

اللَّهِ فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا قَالَ لَهُ كُنْ فَكَانَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ دَعْوَةٌ

غیر فانی ہیں کیونکہ جب ارادہ فرمائے کسی شے کا فرمائے گا ہو جائے گی" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "دعا

الرَّجُلِ إِخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ يُسْتَجَابُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ انْقُوا

ہر شخص کی اپنے بھائی کے لیے اس کے پس پشت مقبول ہوتی ہے اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے " جو تم

دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مظلوم کی دعا سے کیونکہ نہیں ہے درمیان اس کے اور درمیان اللہ تعالیٰ کے حجاب اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الْقَائِلِ دَعْوَةَ الرَّجُلِ عَلَى وَكَلْدِهِ مُسْتَجَابَةٌ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ

جن کا قول ہے دعا ہر شخص کی اپنی اولاد کے خلاف مقبول ہے اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ

مِنْ سَعَادَةِ الْهَرَاءِ أَنْ يَطُولَ عُمُرُهُ وَيَرْزُقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

انسان کی نیکبختی سے ہے اس کی درازی عمر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق رجوع و توبہ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَكَلَّ إِلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد پر جن کا قول ہے کہ جس نے عمدہ قضاء طلب کیا وہ اپنے نفس کے حوالے کر دیا گیا اور صلوٰۃ نازل فرما محمد پر کہ

الْقَائِلِ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ

جن کا قول ہے " جس نے توبہ کر لی آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل تو اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرمائے گا

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ

اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے " کہ طلب حلال فرض ہے مانند دوسرے فرائض کے "

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ يُوتَى بِالرَّجُلِ الْعَظِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے " لایا جائے گا بڑے فریب و جسیم آدمی کو قیامت کے

فَلَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ

دن کہ نہ برابر ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے " اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأُمُورِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ لَا

بیشک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے نرمی کو تمام امور میں " اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے نہ

يُعْجِبُكُمْ إِسْلَامُ رَجُلٍ حَتَّى تَنْظُرُوا فِي كُنْهِ عَقْلِهِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

تعجب میں ڈالے تمہیں کسی کا اسلام لانا یہاں تک کہ نظر کرو اس کے عقل کی گہرائی میں " اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الْتُرَابُ رَبِيعِ الصَّبِيَّانِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ

محمد پر کہ جن کا قول ہے "مٹی بچوں کے لیے بہا رہے" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَثَلَ بِالْحَيَوَانَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ إِنَّ

"اللہ تعالیٰ لعنت کرنے والے اس پر جو حیوان کا مثلہ کرے اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "بیشک

اللَّهُ يَبْغِضُ الْحَبْرَ السَّهِيْنَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَا طَلَعَتِ

اللہ تعالیٰ مبغوض رکھتا ہے فریب عالم کو" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے "نہیں طلوع کرتا

الشَّمْسُ قَطْرًا إِلَّا بِجَنَبِيهَا مَلَكًا ن يَقُولَانِ اللَّهُمَّ اعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَ

سورج کبھی مگر اس کے دونوں پہلوؤں پر دو فرشتے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ عطا کر خرچ کرنے والے کو بہتر بدل اور

اعْطِ مُسْكًا تَلْفًا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ إِنَّ الْحِكْمَةَ تَزِيدُ

مسقط فرما کنجوس پر ہلاکت" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے "بے شک حکمت ودانا فی

الشَّرْفِ شَرَفًا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ

اہل شرف کے شرف میں اضافہ کرتی ہے" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے جس نے لوگوں کا شکر ادا نہ کیا

لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ

تو اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے جس نے اللہ کے لیے تواضع کی اللہ تعالیٰ اس کو

اللَّهُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ رَوْحُ الْقُلُوبِ سَاعَةٌ فَسَاعَةٌ

بلندی عطا کرے گا" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے راحت پہنچاؤ دلوں کو لفظ بہ لفظ

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ إِذَا وَسَدَّ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرُوا

اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "جب سوچا جائے امرنا اہلوں کی طرف تو انتظار کرو

السَّاعَةَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَعْبُدَ

قیامت کا۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ قیامت قائم نہ ہو گی یہاں تک کہ

اللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَا عَفَا رَجُلٌ

لات و عزیٰ کی عبادت کی جائے گی۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے کہ "نہیں معاف کرے گا کوئی شخص

عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ

اپنے حق سے مگر اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں ترقی دے گا " اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے

مَا عَالَ مِنْ اقْتَصَادٍ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الْكَثْرَ مَا يُدْخِلُ

"نہیں محتاج ہوگا جس نے درمیان روی سے کام لیا" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "زیادہ تر جو چیزیں لوگوں کو

النَّاسِ النَّارَ الْكَبِيرَ وَالْحَسَدُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ خَيْرُ

جہنمی بناتی ہے تو وہ تکبر اور حسد ہیں " اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے - بہترین

الذِّكْرِ الْخَفِيِّ وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ

ذکر ذکر خفی ہے اور بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کرے " اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا فرمان ہے

اَكْثَرُوا مِنْ ذِكْرِ هَازِمِ الذِّاتِ وَالْجَنَّةِ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَمَاتِ وَصَلِّ

"زیادہ ذکر کرو لذات کو ختم کرنی والی یعنی موت کا اور جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے اور صلوٰۃ نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْمَوْتِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے "موت مومن کے لیے تحفہ ہے" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ كَفَى بِالْمُرْءِ اثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يُقُوْتُ وَصَلِّ عَلَى

محمد پر کہ جن کا قول ہے "کافی ہے مرد کے گناہگار ہونے کیلئے کہ ضائع کرے اسے جو روزی میں اس کا محتاج ہو" اور صلوٰۃ نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ كَفَى بِالْمَوْتِ وَاِعْطَا وَكَفَى بِالْيَقِينِ رِضًا وَصَلِّ

فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "کافی ہے موت بطور واعظ کے اور کافی ہے یقین از روئے رضا کے اور صلوٰۃ نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ زُورُ الْقُبُورِ فَإِنَّهَا تُرْهِدُ فِي الدُّنْيَا وَ

سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "زیارت کرو قبروں کی کیونکہ وہ تارک دنیا بناتی ہیں" اور

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ كَسْرُ عَظْمِ الْبَيْتِ كَسْرُهَا حَيًّا وَصَلِّ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "فوت شدہ کی ہڈی توڑنا اس کو زندگی میں توڑنے کے برابر ہے اور صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ لَعْنَةُ اللَّهِ زُورَاتِ الْقُبُورِ وَصَلِّ عَلَى

نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "لعنت فرمائی اللہ تعالیٰ نے قبور کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ إِذَا دَعَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلْتَأْتِهِ وَلَوْ كَانَتْ عَلَى

سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "جب خاوند اپنی عورت کو بلائے تو اسے چاہیے کہ وہ آئے اس کے پاس اگرچہ

التَّنُورِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الْحُبِّي حَظَّ كُلِّ مُؤْمِنٍ

تنور پر ہی ہو" اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "تپ حصہ ہے ہر مومن کا آتش

مِّنَ النَّارِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ يَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ فِي

دوزخ سے" اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "قطع کیا جائے ہاتھ چور کا

رُبْعَ دِينَارٍ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ إِنَّ لِكُلِّ حَسَنَةٍ ثَوَابًا وَ

چوتھائی دینار میں" اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "ہر نیکی پر ثواب ہے اور

لِكُلِّ سَيِّئَةٍ عِقَابًا وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الْمَوْتُ كَفَّارَةٌ لِّكُلِّ

ہر گناہ پر عذاب ہے" اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "کہ موت ہر مسلمان

الْمُسْلِمِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الذُّخْمِ

کے لیے کفارہ ہے اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "سب زیادہ مبغوض اللہ کے ہاں وہ ہے جو بہت جھگڑا کرے"

وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ وَصَبُّ الْمُؤْمِنِ كَفَّارَةٌ لِخَطَايَاهُ وَ

اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "مومن کی تھکان بھی کفارہ ہے اس کے گناہوں کے لیے اور

مَنْ اسْتَرْجَعَ عِنْدَ الْمِصْبِيَةِ جَبَرَ اللَّهُ مِصْبِيَّتَهُ وَأَحْسَنَ عُقْبَاهُ وَجَعَلَ

جو مصیبت کے وقت "اتنا اللہ و اتنا الیہ راجعون" کہے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت دور کر دے گا اور اس کا انجام اچھا کرے گا اس کو بہتر

لَهُ خَلْفًا يَرْضَاهُ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ اسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ

بدل مٹا کرے گا جس پر وہ راضی ہوگا اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے "استقبال کرو بلیات کی

الْبُلْدِيَا بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَإِذَا اختلفتم فِي الطَّرِيقِ فَعَرِّضُوا سَبْعَةَ

امواج کا دعاؤں اور زاری کے ساتھ اور جب تم میں راستہ کی چوڑائی میں اختلاف ہو تو اسے سات ہاتھ چوڑا

أَذْرَعٌ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ النَّيَاحَةُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ

رکھو۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے "نوحہ کرنا جاہلیت کے عمل سے ہے

وَالَّذِينَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَلَيْسَ لَوَارِثٍ وَصِيَّةٌ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور فرض وصیت پر مقدم ہے (ازروئے عمل و فعلیت کے) اور وارث کے لیے وصیت نہیں ہے اور صلوات نازل فرمائی

الْقَائِلِ الْمَيِّتِ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهٖ بِمَا نَبِيْحَ عَلَيْهِ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى

محمد پر جن کا قول ہے کہ "میت کو عذاب دیا جاتا ہے قبر میں اس پر نوحہ کی وجہ سے اور حبیب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر انعام

عَبْدٍ نَعْمَةٌ أَحَبُّ أَنْ تُرَى عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الْإِسْلَامُ

فرمائے تو پسند فرماتا ہے کہ اس کے اثرات اس پر دیکھے جائیں" اور صلوات نازل فرمائی سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے "اسلام

يُهْدِمُ مَا قَبْلَهُ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يُصَلِّيُ عَلَيَّ مِائَةً إِلَّا غُفِرَ لَهُ وَصَلَّ عَلَى

گرادیتا ہے پہلے والے گناہ اور نہیں کوئی مرد مسلم کہ اس پر نماز جنازہ پڑھیں سو آدمی مگر اس کو بخش دیا جائیگا" اور صلوات نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ عَمَلُ صَاحِبِ بَدْعٍ حَتَّى يَدَاعُ

سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے بیشک اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا بدعتی کا عمل خیر یہاں تک کہ اپنی بدعت کو

بِدْعَتِهِ وَإِنَّ أَوَّلَ مَا يُجَازَى بِهِ الْعَبْدُ بَعْدَ مَوْتِهِ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ مَنْ تَبِعَ

ترک کرے اور بیشک پہلا امر جس کی جزا دی جاتی ہے بندے کو مرنے کے بعد یہ ہے کہ بخشا جائے ہر وہ شخص جو اس کے

جَنَازَتَهُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الْأَكْلُ فِي السُّوقِ دَنَاءَةٌ وَ

جنازہ میں شامل ہو۔ اور صلوات نازل فرمائی سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "بازار میں کھانا کھینگی ہے" اور

صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ تَعَالَى أَحَبَّ اللَّهُ

صلوات نازل فرمائی سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے "جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو محبوب رکھے اللہ تعالیٰ اس کی

تَعَالَى لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا

ملاقات کو محبوب رکھے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا" اور صلوات نازل فرما

مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةُ وَالْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

سیدنا محمد پر جن کا قول ہے نہ طلب کی جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے وسیلہ سے مگر جنت اور جمعہ کے دن کا غسل

سُنَّةٌ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْلَىٰ

سنت ہے" اور صلوات نازل فرمائی سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "جو مومن وفات پائے جمعہ کے دن یا رات میں

سنت ہے" اور صلوات نازل فرمائی سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "جو مومن وفات پائے جمعہ کے دن یا رات میں

الْجُمُعَةَ لَمْ يُسَلِّ وَيَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ وَصَلِّ عَلَى

اس سے باز پرس نہیں ہوگی اور نیک لوگ یکے بعد دیگرے انتقال کرتے جائیں گے۔ اور صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ إِنَّ أَعْجَلَ دُعَاءِ إِبْرَاهِيمَ دُعَاءُ غَائِبٍ لِّغَائِبٍ

سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "سب سے جلد قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو غائب کی غائب کے لیے ہو

وَإِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَةَ بَنِي فِئْتَاهِمِنْ أَعْظَمِ

اور جب پہنچے تم میں سے کسی کو مصیبت تو وہ میری جدائی والی مصیبت کو یاد کرے کیونکہ وہ سب

الْمَصَائِبِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ وَالْإِيمَانُ

مصائب سے بڑی ہے۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "حکمت بھی اہل یمن کی ہے اور ایمان کامل

يَمَانِيٌّ وَمَنْ شَمَّ الْوَرْدَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى فَقَدْ جَفَانِي وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

بھی اہل یمن کا ہے اور جس نے پھول سونگھا اور مجھ پر درود نہ پڑھا تو اس نے مجھ پر جفا کی اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مِنْ تَمَامِ إِسْلَامِكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَا

محمد پر جن کا قول ہے "تمہارے اسلام کی تکمیل اس امر میں ہے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو اور بیشک اللہ تعالیٰ

يُنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ وَصَلِّ عَلَى

تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے قلوب و اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ يُغْفِرُ الشَّهِيدَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ وَالْقَائِلِ أَنَا

سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ بخشا جاتا ہے شہید کا ہر گناہ ماسوائے قرض کے اور جن کا قول ہے میں

وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ شَرُّ

اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان دو یعنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی مانند ہوں گے اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الْمَأْكَلِ مَالِ الْيَتِيمِ وَإِيَّاكُمْ وَبِكَاءِ الْيَتِيمِ فَإِنَّهُ يَسْرِى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ

جن کا قول ہے کہ سب سے بدتر کھانا مال یتیم (کا کھانا) ہے اور درور رکھو اپنے آپ کو یتیم کی آہ و بکاہ سے کیونکہ وہ چلتی ہے رات کو جبکہ لوگ

نِيَامُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ هَلَاكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى يَدِ رَجُلٍ

سوئے ہوتے ہیں۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "اس امت کی ہلاکت منافق عالم کے ہاتھ پر

مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ وَلَا يُعَذِّبُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ رَجَعَ الْيَتِيمَ وَلَا نَكَهَ فِي

ہوگی اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عذاب نہ دے گا اسے جس نے رقم کیا یتیم پر اور اس کے لیے کلام

الْكَلَامِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ لَا تَوْضَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا فِي قَلْبِ تَقِيٍّ

میں نرمی کی۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "نہیں رکھی جاتی رحمت مگر متقی کے دل میں

وَلَا تُنَزَّعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ قَلْبِ شَقِيٍّ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ اجْعَلُوا

اور نہیں کھینچی جاتی مگر بد بخت کے دل سے۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "کچھ نمازیں

فِي بَيْوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا قُبُورًا وَالْقَائِلِ لَوْ عَلِمْتُمْ مَا أَعْلَمُ

یعنی نقلی گھروں میں ادا کرو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور جن کا قول ہے "اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں

لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَكَبَيْتُمْ كَثِيرًا وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الْحَلْفُ

تو ہنستے تھوڑا اور روتے زیادہ۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "قسم اٹھانا

حِنْتُ أَوْ نَدَامٌ وَلَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ فَتَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحَلَّةً

موجب ہے حانت ہونے کا یا ندامت کا اور نہیں فوت ہوتے مرد مسلم کے لیے تین بچے پھر مس کرے اسے آتش دوزخ

الْقَسَمِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ ابْغِضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ وَ

مگر ایفائے عہد کے لیے اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ سب زیادہ ناپسندیدہ امر اللہ تعالیٰ کے ہاں طلاق ہے

أَحَبُّ الْبُقَاعِ إِلَى اللَّهِ الْمَسَاجِدُ وَابْغِضُ الْبُقَاعِ إِلَى اللَّهِ الْأَسْوَاقُ وَصَلَّى

اور محبوب ترین قطعہ زمین سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مساجد ہیں اور سب سے مبغوض اللہ تعالیٰ کے ہاں بازار ہیں۔ اور صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الشَّامُ صَفْوَةٌ اللَّهِ مِنْ بِلَادِهِ وَأَهْلُ الشَّامِ

نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "شام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ قطعہ ہے تمام بلاد سے اور اہل شام

سَوُّطُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ يَنْتَقِمُ بِهِمْ مِمَّنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَصَلَّى عَلَى

اللہ تعالیٰ کا تازیانہ ہیں اس کی زمین میں انتقام لیتا ہے ساتھ ان کے جن بندوں سے لینا چاہے۔ اور صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الشَّامُ أَرْضُ الْمُحْشِرِ وَالْمُنْشِرِ وَإِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ

سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے "شام حشر و نشر کی زمین ہے اور جب روح قبض کی جاتی ہے

اتَّبِعَهُ الْبَصْرُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الْمُؤْمِنِ مِرَاةَ أَخِيهِ وَلَا يَحِلُّ

تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اور صلوٰۃ نازل فرماستیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "مومن اپنے بھائی کیلئے مانند آئینہ کے ہے اور نہیں

لِمُسْلِمٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مُسْلِمٍ نَظْرَةَ تُوْذِيَةٍ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ

حلال مسلمان کیلئے کہ دیکھے طرف مسلمان کے ایسی نظر سے جو اسے تکلیف دے اور صلوٰۃ نازل فرماستیدنا محمد پر جن کا قول ہے

كُلُوا الزَّيْتِ وَذَهْنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ يَبَاهِي بِأَهْلِ

کہ زیتون کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو کیونکہ وہ مبارک درخت ہے اور بیشک اللہ تعالیٰ فخر کا اظہار فرماتا ہے اہل

الْمَسْجِدِ الْمَلِكَةِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الْإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنْ

مساجد کے ساتھ ملائکہ پر۔ اور صلوٰۃ نازل فرماستیدنا محمد پر جن کا قول ہے "وصیت میں کسی کو ضرر پہنچانا

الْكِبَائِرِ وَالْقَائِلِ إِيَّاكَ وَالظَّمْعُ فَإِنَّهُ الْفَقْرُ الْحَاضِرُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کبیرہ گناہوں سے ہے۔ اور جن کا قول ہے "بچا اپنے آپ کو طمع سے کیونکہ وہ فوری موجود فقر ہے۔ اور صلوٰۃ نازل فرماستیدنا محمد پر

الْقَائِلِ لَا تَشْمُهُ الضَّبَاءُ وَيَجْزِي مِنَ الوُضُوءِ الْمُدُّ وَمِنَ الْجَنَابَةِ الصَّاعُ

جن کا قول ہے کہ "نہیں سونگھتے (بے طمع کو) کفتار اور کفایت کرتا ہے وضو میں ایک سیر پانی اور غسل جنابت میں صاع یعنی

وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ عَمَّ الرَّجُلِ صِنُوْا بِبَيْتِهِ وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ

تقریباً چار سیر۔ اور صلوٰۃ نازل فرماستیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "آدمی کا بچھا اس کے باپ کے ساتھ والی شاخ ہے اور نہ پیغام نکاح کے

عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِيْعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ

مرد مسلم اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اور نہ سودا کرے اس کے سودا پر اور صلوٰۃ نازل فرماستیدنا محمد پر جن کا قول ہے

لَا تُصَلِّي الْمَلَائِكَةُ عَلَى نَائِحَةٍ وَالذُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْءُ الصَّالِحُ

کہ "ملائکہ نوحہ کرنے والی پر درود نہیں بھیجتے اور دنیا سامان منفعت ہے اور اس کا سب سے بہتر متاع نیک عورت ہے

وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ بَاكِرٌ وَإِنِّي طَلِبُ الرِّزْقِ فَإِنَّ الْغَدُوَّ

اور صلوٰۃ نازل فرماستیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ صبح سویرے جاؤ رزق کی طلب میں کیونکہ سویرے جانا برابر

بِرَكَّةٍ وَنَجَاحٌ وَأَرْبَعَةٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْجَنَاحُ وَالتَّعْطُرُ وَالسَّوَاكُ وَ

برکت اور کامیابی ہے اور چار چیزیں مرسلین کی سنت سے ہیں۔ ہندی۔ خوشبو۔ مسواک اور

التَّكَاحُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الصُّومِ جَنَّةٌ وَغَنِيَةٌ بِجَالِسِ

تکاح۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "روزہ (گناہ کے لیے) اُدھال ہے اور مجالس

الذِّكْرِ الْجَنَّةُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ سَتَرَ

ذکر کی فوری منفعت حصول جنت ہے" اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا فرمان ہے کہ "جس نے اپنی زبان کو محفوظ کر لیا اللہ تعالیٰ اسکے

اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَانَتْ هَمَّتُهُ الْآخِرَةُ جَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ ضِعْفَتَهُ وَصَلَّ

عیوب پر پردہ دے گا اور جس کا مطیع نظر حرف آخرت ہو گا اللہ تعالیٰ اس پر جمع فرمائے گا اس کی پراگندگیوں کو۔ اور صلوٰۃ نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمُ بِالسَّلَامِ

سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ بے شک سب لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے قریب وہ ہے جو ان پر سلام میں پہل کرے

وَالزُّكُوةُ قَنْطَرَةٌ الْإِسْلَامِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ لَا يَدْخُلُ

اور زکوٰۃ اسلام کا ہل ہے۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "نہیں داخل ہوگا

الْجَنَّةَ سِوَى الْمَلَكَةِ وَسَبَابُ الْمُسْلِمِ كَالشَّرَفِ عَلَى الْهَلَكَةِ وَصَلَّ عَلَى

جنت میں بری عادات والا اور مرد مسلم کو گالی دینا ہلاکت کے کنارے پر پہنچنے کے مترادف ہے۔ اور صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ عَوْدٌ وَأَقْلُوبِكُمْ الرِّقَّةُ وَإِنْظَارُ الْمَعْسِرِ صَدَقَةٌ

سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "عادی بناؤ اپنے قلوب کو رقت اور نرمی کا اور تنگ دست کو محبت دینا صدقہ ہے

وَلَا تُدَيِّمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْدُومِينَ وَلَوْ سَبَقَ شَيْءٌ الْقَدْرَ لَسَبَقَتْهُ

اور ہمیشہ جذامیوں کو نہ دیکھو۔ اور اگر سبقت لے جاتی (بالفرض) کوئی شئی تقدیر سے

الْعَيْنُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ ذُو الْجُوهَيْنِ لَا يَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ

تو نظر بد سبقت لی جاتی۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "چہل نور اللہ تعالیٰ کے ہاں

وَجِيهًا وَمَنْ حَفِظَ مِنْ أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِنْ أَمْرِ دِينِنَا بَعَثَهُ اللَّهُ

آبرو مند نہیں ہوگا اور میری امت کا جو فرد یاد کرے گا چالیس احادیث اپنے دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ اسکو مہوٹ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمًا فَاقِيهَا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ أَلِفٌ مَوْلَى الْعَالَمِ

فرمائے گا قیامت کے دن عالم و فقیہ کی شان سے اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "علماء کی تحرم کیا کرو

فَاتَمُّكُمْ كَرَمًا عَلَى اللَّهِ وَتَبَجَّلُوا الْمَشَائِخَ فَإِنَّ تَبَجُّلَهُمْ مِنْ تَعْظِيمِ جَلَالِ

کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مکرم ہیں اور مشائخ کی تعظیم کیا کرو کیونکہ ان کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم و اجلال سے

اللَّهُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ إِنَّكَ عَفْوٌ نَجِبٌ الْعَفْوُ فَاعْفُ عَنَّا

ہے اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "اے اللہ تو درگزر فرمانے والا ہے درگزر کو محبوب رکھنا ہے پس ہم

وَمَنْ كَانَ مُوسِرًا لَا يَنْكُحُ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ حَلَفَ بِمَكَّةَ غَيْرَ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا

سے درگزر فرما اور جو خوشحال ہوتے ہوئے نکاح نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے اور جو حلف اٹھائے مکہ مکرمہ میں ملت کفر کے ساتھ ورنہ نیک

فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ وَ

وہ کاذب ہے تو وہ اسی طرح ہے جس طرح اس نے کہا اور اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہے غیرت عورتوں کے حق میں اور جہاد مردوں پر اور

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ وَمَنْ

صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "سب لوگوں سے بہتر وہ ہے جس سے لوگ نفع اٹھائیں اور جو

أُحْتَكِرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُدَامِ وَالْإِفْلَاسِ وَ

روک رکھے لوگوں سے طعام کو اللہ تعالیٰ اس کو جذام اور افلاس کا نشانہ بنائے گا اور

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الْجَنَابِعُ التَّوْرَةِ أَمَانٌ مِّنَ الْجُدَامِ وَمَنْ

صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے "منہدی کا استعمال جو تہ استعمال کرنے کے بعد جذام سے امان ہے اور

ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَالْقَائِلِ الْأَنْصَارُ شِعَارٌ

جس نے اپنی نسبت کی باپ کے علاوہ دوسرے شخص کی طرف حالانکہ وہ جانتا ہے تو جنت اس پر حرام ہے اور جن کا قول ہے "انصار مانند بالوں

وَالنَّاسُ دِثَارٌ وَذُؤَالُ وَجْهَيْنِ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُهَانٌ مِنَ النَّارِ وَصَلِّ

سے متصل لباس کے ہیں اور دوسرے تمام لوگ اس کے بعد والے کپڑے کی مانند اور چیلنور کیلئے قیامت کے دن دو منہ ہوں گے آتش دوزخ سے اور

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الْمُسْتَشَارُ مَأْمُونٌ وَالْجَالِبُ مَرْنُوقٌ وَ

صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "جس سکول طلب کیا گیا وہ امین ہے اور باہر سے مال تجارت لایا وہ وسیع رزق والا ہے

الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ أَنْ تَنْتَظِرَ الْفَرَجَ وَبَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

اور طعام روک رکھنے والا ملعون ہے اور سب سے افضل عبادت فراخی کا انتظار ہے اور پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی ہو

وَحَدَّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرْجَ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ

اور بیان کرو بنی اسرائیل سے اور اس میں حرج نہیں ہے اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ وَلَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَخَيْرُ

”نہیں ہے کوئی شئی زیادہ عزت والی اللہ تعالیٰ پر دُعا سے اور قضاء کو رد نہیں کر سکتی مگر دُعا اور سب سے بہتر

النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الرُّوحَ وَالْفَرْحَ وَالْيَقِينَ فِي الرِّضَا

شخص وہ ہے جو قضاے دیوں میں بہتر ہے اور بیشک اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے راحت اور فرحت اور یقین رضاء (باقضاء) میں

وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ أَعْلَمُ أَنَّ التَّصْرِمَ مَعَ الصَّبْرِ وَالْفَرْحَ مَعَ

اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا فرمان ہے ”یقین جانو کہ نصرت صبر کے ساتھ ہے اور کشائش

الْكُرْبِ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَمَنْ يَشِئْ إِلَى طَعَامٍ لَمْ يَدْعُ إِلَيْهِ فَقَدْ

پریشانی کے بعد ہے اور بیشک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور جو چلے طرف اس کھانے کے جس کی طرف نہیں بلایا گیا تو وہ

دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغَيَّرًا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ أَعْمَلُ

داخل ہوا بچھیت چور کے اور نکلا بطور غارتگر کے اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ اللہ کے فرشتوں پر

بِفِرَائِضِ اللَّهِ تَكُنْ عَابِدًا وَأَرْضٌ بِقَسَمِ اللَّهِ تَكُنْ زَاهِدًا وَأَنْزُ هَدِي فِي

عمل پیرا ہو گا تو عابد بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو گا تو زاہد بن جائے گا اور دنیا سے بے رغبتی

الدُّنْيَا يَحِبُّكَ اللَّهُ وَإِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَاعُ وَسَكَتَ الْعَالَمُ لَعَنَهُ اللَّهُ وَصَلَّ

اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا اور جب بدعات ظاہر ہوں اور عالم چپ رہے تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے گا

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَنْ مَاتَ بِأَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَثَ مِنَ الْأَمِينِ

اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا فرمان ہے ”جو حرام مکہ اور حرم مدینہ میں سے کسی میں مرے گا تو اس کو اہل امن میں اٹھایا جائے گا

وَمَنْ أَذَلَّ عَالِمًا أَذَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

اور جس نے عالم کو ذلیل کیا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلیل کرے گا تمام اولین اور آخرین کے سامنے

وَلَا خُلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَيَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِخُسْبَانَةٍ

اور اسلام میں (دور جاہلیت کی ادھڑے بندی نہیں ہے اور فقراء مومنین داخل ہوں گے جنت میں اغنیاء سے پہلے سو

عَامٍ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ التَّمَسُّو الْجَارِقِبْلُ شِرَاءِ الدَّارِ

سال پہلے۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ تلاش کرو پڑوسی کو مکان خریدنے سے قبل

وَالْمَكْرُ وَالْخَدَاعُ فِي النَّارِ وَقِيدُوا الْعِلْمَ فِي الْكِتَابِ وَانْتَفُوا الْحَرَامَ فِي

اور مکر اور دھوکہ فریب (والا) دوزخ میں ہے اور مقید کرو علم کو کتاب میں اور بچو حرام کے استعمال سے

الْبُنْيَانِ فَإِنَّهُ أَسَاسُ الْخُرَابِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ

تعمیرات میں کیونکہ وہ خرابی کی بنیاد ہے۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ

عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْكَلَامِ وَبَدْلِ الطَّعَامِ وَبِرِّ الْحَاجِّ وَاطْعَامِ الطَّعَامِ وَ

”لازم پکڑو اچھی کلام کو اور طعام صرف کرنے کو اور حاجیوں سے نیکی واحسان کو اور کھانا کھلانے کو اور

طَيِّبِ الْكَلَامِ وَالتَّمَسُّو الرِّزْقِ مِنْ خَبَايَا الْأَرْضِ وَدَعُو النَّاسِ

پاکیزہ کلام کو اور تلاش کرو رزق کو زمین کے مخفی خزانوں سے اور چھوڑو لوگوں کو (اپنے حال پر)

يُرْسِقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لِسِحْرًا وَإِيَّاكَ وَ

روزی دے گا اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے اور بیشک بعض بیان البتہ جادو (کی مانند) ہیں اور بچاؤ اپنے آپ کو

دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ

مظلوم کی دعائے بد سے اگرچہ کافر ہی ہو اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ كُلَّ قَلْبٍ حَزِينٍ وَرَضِيَ اللَّهُ فِي رَضَى الْوَالِدِينَ وَكُلُّ

”بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے ہر غمزدہ دل کو اور اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا مندی میں ہے اور ہر

ذِي نِعْمَةٍ مَّحْسُودٌ وَأَوَّلُ مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ وَوَضَعَتْ لَهُ النُّورَةَ

نعمت والا حسد کیا جاتا ہے اور سب سے پہلے جو داخل ہوئے حمام میں اور ان کے لیے چونہ بسایا گیا

سَلِيمَانَ بْنِ دَاوُدَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ تَهَادُوا تَهَادُوا

وہ سلیمان بن داؤد علیہما السلام ہیں۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ ”باہم تحائف کا تبادلہ کرو تو باہم محبت

وَحَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسِبُوا وَتَهَادُوا وَتُرَادُوا وَحَبَّاءُ سَارِقِي

ہوگی تم میں اور اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے اور باہم ہدیے دو تم میں باہم محبت بڑھے گی اور

الْقَوْمِ اٰخِرُهُمْ شُرْبًا وَلَا تَكْشِفُ فِجْدَاكَ فَاِنَّ الْفَجْدَ عَوْرَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ

قوم کو پلانے والا ان سے مؤخر ہے رہنے میں اور اپنے ران کو برہنہ نہ کر کیونکہ وہ شرمگاہ میں داخل ہے اور یقیناً اللہ

يَنْظُرُ فِي خَلْقِهِ كُلَّ يَوْمٍ سِتِّينَ نَظْرَةً وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ

نظر فرماتا ہے اپنی مخلوق میں ہر دن ستر بار۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ

اٰصْدَقُ الرُّؤْيَا بِالْاَسْحَارِ وَاِنَّ فُرُوجَ الرِّزَاةِ لَيُوْذِيْ اَهْلَ النَّارِ وَفِي

”سب سے سچے خواب وقت سحر والے ہیں اور زنا کاروں کی شرمگاہیں البتہ ایذا دیں گی اہل دوزخ کو اور

كُلِّ رَطْبٍ اَجْرٌ وَاِنَّ الرِّزَاةَ يُوْرِيْثُ الْفَقْرَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ

ہر ذی روح میں اجر ہے (کھلانے پلانے پر) اور زنا فقر کا موجب ہے اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ

الْمُقِيْمُ عَلَى الرِّزَاةِ كَعَابِدٍ وَثَنٍ وَّمِنْ اَقْتَرَبَ مِنْ اَبْوَابِ السَّلَاطِيْنِ

”زنا پر برقرار شخص بت پرست کی مانند ہے اور جو سلاطین کے دروازوں کے قریب ہوا تو وہ

اَفْتِنَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ حَصِّنُوْا مَوَالِكُمْ بِالزَّكٰوةِ وَ

فتنہ میں مبتلا ہوگا“ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ ”محفوظ کرو اپنے اموال کو زکوٰۃ ادا کر کے اور

حَفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْبَكَارِهِ وَالتَّارُ بِالشَّهْوَاتِ وَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

ڈھانپا گیا ہے جنت کو ساتھ مشقتوں کے اور آگ کو ساتھ خواہشات نفس کے اور بچو تم آگ سے اگرچہ ادھی کھجور کے

وَمَا اَصْرٌ مِنْ اَسْتَفْرَفِي الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صدقہ سے اور نہیں اصرار کیا (گناہ پر جس نے استغفار کی) اگرچہ گناہ کرے) دن میں ستر مرتبہ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الْقَائِلِ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقِهْهُ فِي الدِّيْنِ وَلَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ

جن کا قول ہے کہ ”اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے اور نہیں ڈسا جاتا مومن

مِنْ جُحْرٍ مَّرَّتَيْنِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ رَحِمَ اللّٰهُ الْمُتَحَلِّينَ

ایک پل سے دو مرتبہ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے ”رحم فرمائے اللہ تعالیٰ میرے متحلال کرنے

مِنْ اُمَّتِيْ فِي الْوَضُوْءِ وَصَنَائِعِ الْمَعْرُوْفِ تَنْهَى مِنْ مَّصَارِعِ الشُّرُوْءِ وَلَا

وائے اُمیوں پر وضو میں اور نیک کام دور رکھتے ہیں بری ہلاکت اور موت کے مقامات سے اور نہیں

هَمَّ الْاَهِمُّ الدِّينِ وَلَا وَجَعَ الْاَوْجَعُ الْعَيْنِ وَلَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَصْمِ

غم مگر غم دین کا اور نہیں درد مگر درد آنکھ کا اور نہیں جائز گواہی درمی کی اور

وَلَا ظَنِّينَ وَصَلَّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ طُوبٰی لِمَنْ وُجِدَ فِيْ صِحْفَتِهِ

نہ متہم کی اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے "مبارک" اس کیلئے جس کے نامہ اعمال میں

اِسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰی يَتَسَاوَدَ النَّاسُ فِي الطَّرِيْقِ تَسَاوُدًا

بہت استغفار پائی گئی اور نہ قائم ہوگی قیامت یہاں تک کہ لوگ علانیہ جماع کریں گے راہوں میں مانند

الْحَمِيْرِ وَاِدْرُمَعُ الْحَقِّ حَيْثُ دَارَ وَيُبْعَثُ شَاهِدُ الزُّوْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوَلِّفَا

گدھوں کے اور پھر ساتھ حق کے جدھر وہ پھرے اور اٹھایا جائے گا جھوٹا گواہ قیامت کے دن اس حال میں کہ اس وقت

لِسَانُهُ فِي النَّارِ وَصَلَّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ هُدٰیةً اِلٰلِهِ الْمُؤْمِنِ السَّائِلِ

والی ہوگی اس کی زبان آگ سے۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے اللہ تعالیٰ کا ہدیہ ہے مومن کے لیے سائل کا

عَلٰی بَابِهِ وَاِنَّ النَّاسَ اِذَا رَاوُ الظَّالِمَ وَلَمْ يَأْخُذْ وَاَعْلٰی يَدِيْهِ يُوْشِكُ اَنْ

اس کے دروازے پر ہونا اور بیشک لوگ جب دیکھیں ظالم کو اور نہ پکڑیں اس کے ہاتھ تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ

يَعْمَهُمُ اللّٰهُ بَعْدَ اِيَّاهُ وَاِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ حَدِيْثًا ثَمَّ التَّفَتَّ فَمَا اَمَانَةٌ وَلَا

اپنا عذاب سب پر عام کر دے اور جب آدمی کوئی بات کرے پھر ادھر ادھر دیکھے تو وہ بات امانت ہے اور نہ

تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰی يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ لِيَلِيْتَنِيْ كُنْتُ مَكَانَهُ

قائم ہوگی قیامت یہاں تک کہ گزرے گا مرد دوسرے کی قبر پر سے پس کہے گا اے کاش میں ہوتا اس کی جگہ میں

وَصَلَّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ شَرُّ مَا فِي الرَّجُلِ ثُمَّ هَالَعٌ اَوْ جِيْنٌ خَالِعٌ

اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے بدترین شئی جو آدمی میں ہے وہ نخل ہے بے صبر کرنیوالا ہے یا بزلی

وَمِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمَرْكَبُ الْهَيْنِيُّ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَشَرُّ الْكَسْبِ

جو مالک کرنیوالی ہے اور مرد کی سعادت مندی سے ہے خوشگوار سواری اور نیک پڑوسی اور کشادہ رہائش گاہ۔ اور بدترین کمائی سود

كَسْبُ الرِّبَا وَبِدَاءُ الْاِسْلَامِ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا فُطُوْبِيْ لِلْغُرَبَاءِ وَلَا يَنْبَغِيْ

کی کمائی ہے۔ ابتداء ہونی اسلام کی غریبوں میں اور عنقریب رہ جائے گا صرف عربوں میں پس مبارکبادی ہے غریب کیلئے بالکل نہیں لائق

لِلصِّدِّيقِ أَنْ يَكُونَ لَعَانًا وَمَنْ أَنْتَهَرَ صَاحِبَ بُدَاعَةٍ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ مَكَا

صدیق کے کہ وہ ہو لعنت کرنے والا۔ اور جس نے جھٹک دیا بدعتی کو اللہ تعالیٰ بھر دے گا دل اس کا امن اور

وَإِيمَانًا وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ لَا تَرْضَيْنَّ أَحَدًا بِسَخَطِ اللَّهِ وَلَا تَحْسُدُو

ایمان کے ساتھ۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "ہرگز نہ راضی کر کسی کو اللہ تعالیٰ کو ناراضی کر کے اور نہ حسد کرے

أَحَدًا عَلَى فَضْلِ اللَّهِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ إِيَّاكَ وَالظَّمْعَ فَإِنَّكَ

کسی سے اللہ تعالیٰ کے فضل پر اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ دور رکھ اپنے آپ کو طمع سے کیونکہ وہ

فَقَرَّ حَاضِرًا وَأَفْضَلُ الْجِهَادِ كُلِّهِ حَقٌّ عِنْدَ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ وَمَنْ رَغِبَ عَنِ

حاضر فقر ہے اور افضل ترین جہاد کلمہ حق کنا ہے سامنے ظالم بادشاہ کے۔ اور جس نے اعراض کی

سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَإِنَّمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُبَلِّغُنِي وَكُلُّ أَمْرٍ

میری سنت سے تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ اور ہر

ذِي بَالٍ لَا يُبَدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَجْزَمُ وَالْخَيْرُ بِالْخَيْرِ وَالْبَادِي الْأَكْرَمُ وَالشَّرُّ

ذیشان امر جس میں آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد سے نہ کیا جائے پس وہ بے برکت ہے۔ اور خیر بدلہ ہے خیر کا اور ابتداء کرنا زیادہ مکرم ہے

بِالشَّرِّ وَالْبَادِي أظْلَمُ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ أَهْنُ مَنْ أَهَانَكَ وَلَوْ

اور شر بدلہ ہے شر کا اور آغاز کرنا نیکو ظالم ہے۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے امانت کرا سکی جو تیری امانت کرے اگرچہ

كَانَ حُرًّا قَرَشِيًّا وَكَرْمًا مِنْ الْأَكْرَمِ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا وَلَا يَنْبَغِي لِمُؤْمِنٍ أَنْ

آزاد مرد اور قریشی ہی ہو اور عزت کرا س کی جو تیری عزت کرے اگر عبد حبشی ہی ہو اور نہیں لائق مومن کے کہ اپنے

يُدَالَّ نَفْسَهُ وَمَنْ بَاتَ فِي بَرِيحٍ غَيْرِ فَاصَابَهُ رُضْحٌ فَلَا يَلُوفَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَ

آپ کو ذلیل کرے اور جو شخص رات گزارے چکنائی اور چربی کی بو میں پس پیچھے اسے شکتگی پس نہ ملامت کرے کہ اپنے

صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ

نفس کو اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے جو اپنے والد پر لعنت کرے اور نہ قائم ہوگی قیامت

حَتَّى تَقْتُلَ فِتْنَتَانِ عَظِيمَتَانِ دَعَوَاهُمَا وَاحِدَةٌ وَمَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

یہاں تک کہ باہم جنگ لڑیں گے دو عظیم گروہ جن کا دعویٰ ایک ہو گا یعنی اسلام کا۔ اور جس نے قتال کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں

فَوَاقِ نَاقَةَ حَرَمِ اللَّهِ وَجْهَهُ عَلَى النَّارِ وَإِنْ لَلْقُلُوبِ صَدَاءٌ كَصَدَاءِ النَّحَّاسِ

اور مٹنی دوسنے کی مقدار حرام ٹھہرے گا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آگ پر اور بیشک دلوں پر زنگ ہوتا ہے مانند زنگ تانبے کے

وَجَلَاءُهَا الْإِسْتِغْفَارُ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الطَّاعُونَ شَهَادَةً لِّكُلِّ مُسْلِمٍ

اور اس کا صیقل استغفار ہے۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ "طاعون شہادت ہے واسطے ہر مسلمان کے

وَسَتَكُونُ فِتْنٌ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ وَنَرِيْنُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ الْمَكْرَمِ

اور عنقریب ہوں گے فتنے مانند تاریک رات کے قطعات کے اور مزین کرو اپنی آوازوں کو ساتھ قرآن کریم کے۔ اور قرآن

وَالْبَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْبِرَّةِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَقْرُبُ الْبَيْتَ الَّذِي

میں ماہر نیک ملائکہ یعنی کراما کا تبین کے ساتھ ہوگا۔ اور بیشک شیطان نہیں قریب ہوتا اس گھر کے جس میں پڑھی

تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَنْ مَشَى بَيْنَ

جائے سورۃ البقرہ۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا قول ہے کہ جو شخص چلا

الْفُرْصَيْنِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٌ وَكُلُّ رَاِعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

دو فرصوں کے درمیان اس کے لیے ہر قدم پر نیکی ہوگی اور تم میں سے ہر فرد نگران ہے اور ہر نگران باز پرس کیا جائیگا اپنی رعیت

وَمَنْ أَنْظَرَ مَعْسِرًا إِلَى مَيْسَرَتِهِ أَنْظَرَهُ اللَّهُ إِلَى تَوْبَتِهِ وَإِنْ أَوَّلَ مَا يَوْضَعُ فِي

کے متعلق۔ اور جس نے مہلت دی تنگ دست کو اس کی خوشحالی تک اس کو اللہ تعالیٰ مہلت دے گا اس کی توبہ تک اور بیشک سب پہلی چیز جو

الْبَيْزَانَ الْخُلُقُ الْحَسَنُ وَثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ الْوَسَائِدُ وَالذُّهْنُ وَاللَّبَنُ وَصَلَّى

بیزان میں رکھی جائیگی وہ خلق حسن ہے اور تین اشیاء کو واپس نہیں کرنا چاہیئے۔ تیلئے۔ تیل اور دودھ۔ اور صلوات نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ رَبِّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا الشَّهْرُ وَمَنْ

سیدنا محمد پر کہ جن کا قول ہے "بہت سے شب نغیز ہیں کہ نہیں ہے ان کیلئے ان کے قیام سے مگر صرف بیداری۔ اور جس

أَهَانَ صَاحِبُ بَدْعَةٍ أَمَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَزَعِ الْأَكْبَرِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نے اہانت کی صاحب بدعت کی اللہ تعالیٰ اس کو امن دے گا بہت بڑی گھبراہٹ کے دن۔ اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

مَنْ لَهُ الرَّفِيقُ الْأَعْلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الذَّاتِ الْحَمْدِيَّةِ اللَّطِيفَةِ الْأَحَدِيَّةِ

کہ جن کے لیے رفیق اعلیٰ ہے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما ذات محمدی پر جو پاکیزہ و لطیف یکتا و یگانہ۔ فلک

شَمْسِ سَمَاءِ الْأَسْرَارِ وَمُظْهِرِ الْأَنْوَارِ وَمَرْكَزِ مَدَارِ الْجَلَالِ وَقَطْبِ كَالِ

اسرار کے آفتاب اور منظر انوار ہیں اور دائرۃ جلال کے مرکز اور فلک جمال کے

الْجَمَالِ اللَّهُمَّ أَفْضُ صَلَاةٍ صَلَوَاتِكَ وَسَلَامَةٌ تَسْلِيمَاتِكَ عَلَى أَوَّلِ

قطب ہیں۔ اے اللہ جاری فرما عظیمہ اپنی صلوات کا اور سلامتی اپنی تسلیمات کی تمام تعینات

التَّعْيِينَاتِ الْمَفَاضَةِ مِنَ النَّعْمَاءِ الرَّبَّانِيَّةِ وَأَخِرِ التَّنَزُّلَاتِ الْمُضَافَةِ

سے اول تعین و تشخص پر جن کا فیضان کیا گیا ربانی نعمتوں سے اور آخری تنزل پر ان تنزلات میں سے جو منسوب ہیں

إِلَى النَّوْعِ الْإِنْسَانِيِّ الْمُهَاجِرِ مِنْ مَكَّةَ كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ قَعْدَهُ شَيْءٌ تَانِ إِلَى

طرف نوع انسانی کے جو ہجرت کرنے والے ہیں اس حرم مکہ سے کہ اللہ تعالیٰ تھا اور نہ تھی ساتھ اس کے کوئی دوسری چیز طرف اس

مَدِينَةٍ وَهُوَ الْآنَ عَلَى مَا عَلَيْهِ كَانَ مُحْصَى عَوَالِمِ الْحَضَرَاتِ الْإِلَهِيَّةِ الْخَمْسِ

حرم مدینہ کے کہ وہ اب بھی اسی طرح ہے جس طرح کہ پہلے تھا۔ احاطہ کئے ہوئے ہے پانچوں حضرات الہیہ کے عوالم کا اپنے

فِي وَجُودِهِ وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَرَاحِمٍ وَسَائِلِي لِاسْتِعْدَادِهَا

وجود میں اور ہر شئی کو ہم نے محفوظ کر رکھا ہے امام مبین میں۔ اور رحم فرمانے والے ہیں میرے وسائل پر بسبب بیعت حاصل

بِنْدَاءِ وَجُودِهِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَنُقْطَةَ الْبَسْمَلَةِ الْجَامِعَةِ

کرنے ان کے ساتھ آپ کے اس اعلان وجود کے اور نہیں مبعوث فرمایا ہم نے آپ کو مگر رحمت واسطے تمام جہانوں کے اور وہ بسملہ کا نقطہ (باد) ہیں

لِيَأْيَكُونَ وَلِيَأْكُونَ نَقْطَةَ الْأَمْرِ الْجَوَالَةِ بِدَاوَيْرِ الْأَكْوَانِ فِي سِرِّ الْهُوِيَّةِ الْبَقِيَّةِ

جو جامع ہے مایکون اور ماکان کو اور نقطہ ہیں امر کن کا جو گردش میں لائیا لایہ موجودات کے دائروں کو اس ہویت کے بطون میں جو

فِي كُلِّ شَيْءٍ سَارِيَةٍ وَعَنْ كُلِّ شَيْءٍ مُّجَرَّدَةٌ وَعَارِيَةٌ وَإِيْنُ اللَّهِ عَلَى خَزَائِنِ

ہر شئی میں سرایت کئے ہوئے ہے اور ہر شئی سے مجرد اور بے تعلق بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے امین ہیں متعدی خیرات کے خزان پر

الْفَوَاضِلِ وَمُسْتَوْدِعَهَا وَمَقْسِمَهَا عَلَى حَسْبِ الْقَوَابِلِ وَمُؤَيِّنَهَا وَكَلِمَةَ الْأَسْمِ

اور ان کو ودیعت رکھنے والے اور تقسیم کرنے والے بانٹنے والے ہیں مطابق اہلیتوں اور صلاحیتوں کے اور اسم اعظم والا کلمہ ہیں

الْأَعْظَمِ وَفَاتِحَةَ الْكَنْزِ الْبَطْلَسِيِّ وَمُظْهِرَ الْأَتْحَامِ بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَالرَّبِّدَةِ

اور کنز طلسمی کا آغاز ہیں اور منظر اتم ہیں جو جامع ہیں درمیان عبودیت و ربوبیت کے

وَالنَّشَاءُ الْأَعْمُ الشَّامِلُ لِلْمَكَانِيَةِ وَالْوُجُوبِيَّةِ وَالطُّوْدُ الْأِسْمُ الَّذِي لَمْ يَزْحَرْهُ

اور نشاء شامل ہے امکان و وجوب کو اور مضبوط چٹان میں جن کو نہیں جنبش دے سکی

تَجَلَّى التَّعَيِّنَاتِ عَنْ مَقَامِ التَّهْكِيمِ وَالْبَحْرُ الْخَطْمُ الَّذِي لَمْ تَعُدَّهُ جِيفُ الْغَفَلَاتِ

تعیّنات کی تجلّی مقام تمکین و رسوخ سے اور وسیع سمندر ہیں کہ نہیں گدلا کر سکے اس کو غفلتوں کے مزار

صَفَاءُ الْيَقِينِ وَالْقَلَمُ النَّورَانِي الْجَارِي بِمَدَادِ الْحُرُوفِ الْعَالِيَاتِ وَالنَّفْسُ

صلوٰۃ ہو، صفاء یقین پر اور قلم نورانی پر جو جاری ہے حروف عالیہ کی روشنائی کے ساتھ اور نفس

الرَّحْمَانِي السَّارِي بِمَوَادِّ الْكَلِمَاتِ التَّامَّاتِ وَالْفَيْضُ الْأَقْدَسُ الذَّاتِي

رحمانی پر جو چلنے والا ہے کلمات تامہ کے مواد کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ذاتی فیض اقدس پر کہ جن کے

الَّذِي تَعَيَّنَتْ بِهِ الْأَعْيَانُ وَاسْتَعْدَادُ أَتْهَا وَالْفَيْضُ الْمُقَدَّسُ الصِّفَاتِي

ذریعے تعین پذیر ہوئے جملہ اعیان اور ان کی استعدادات۔ اور صفاتی فیض مقدس پر کہ

الَّذِي تَكُونَتْ بِهِ الْأَكْوَانُ وَاسْتِمْدَادُ أَتْهَا وَمَطْلَعُ شَمْسِ الذَّاتِ فِي

جن کی بدولت موجود ہوئے اور ان کی استعدادات۔ اور آفتاب ذات خداوندی کے مطلع و منظر پر

سَمَاءِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَمَنْبِعُ النُّورِ الْإِفَاضَاتِ وَرِيَاضِ النَّسَبِ وَ

آسمان اسماء و صفات میں۔ اور نور افاضات کے سرچشمہ پر۔ نسبتوں اور

الْإِفَاضَاتِ وَخَطُّ الْوَحْدَةِ بَيْنَ قَوْسِي الْأَحَدِيَّةِ وَالْوَأْحِدِيَّةِ وَوَاسِطَةُ

اضافتوں کے باغات پر اور احدیت و واحدیت کی دونوں قوسوں کے درمیانی خط وحدت پر اور

التَّنْزِيلِ مِنْ سَمَاءِ الْأَزَلِيَّةِ إِلَى الْأَرْضِ الْأَيْدِيَّةِ وَالنُّسخَةِ الصُّغْرَى الَّتِي تَصْرَعَتْ

آسمان ازلیت سے ارض ابدیت کی طرف واسطہ تنزل پر۔ اور اس نسخہ صغریٰ پر کہ جس سے غذا حاصل کی نسخہ کبریٰ

عَنْهَا الْكُبْرَى وَدَرَّةَ الْبَيْضَاءِ الَّتِي تَنْزَلَتْ إِلَى الْيَاقُوتَةِ الْحَمْرِ وَجَوْهَرَةَ الْحَوَادِثِ

نے اور درہ بیضاء پر جس نے تنزل فرمایا سرخ یاقوت کی طرف۔ اور حوادث امکانیہ کے جوہر پر جو

الْإِمْكَانِيَّةِ الَّتِي لَا تَخْلُوعُ عَنِ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ وَمَادَّةِ الْكَلِمَةِ الْفُهَوَانِيَّةِ الطَّالِعَةِ

خالی نہیں ہوتے حرکت و سکون سے۔ کلمہ اولی کے مادہ پر جو طلوع والا ہے کُن کے پردہ سے

مَنْ كُنْ كُنْ إِلَى شَهَادَةٍ فَيَكُونُ وَهِيَ لِي الصُّورُ الَّتِي لَا تَتَجَلَّى بِأَحَدٍ إِلَّا لِرَبِّهِ

طرف "فیکون" کے عالم شہادت کے۔ اور ان صورتوں کے ہیولی پر کہ نہیں جلوہ گر ہوتا ان میں سے کسی کے ساتھ دوسرے

الْإِثْنَيْنِ وَلَا بِصُورَةٍ مِّنْهَا لِأَحَدٍ قَرَّتَيْنِ وَالْقُرْآنُ الْجَمْعُ الشَّامِلُ لِلْمُهْتَمِّعِ وَالْعَدِيمِ

اور نہ ساتھ کسی صورت کے ان میں سے کسی کے لیے جلوہ گر ہوتا ہے دو دفعہ اور قرآن جامع پر جو شامل ہے متنع و معدوم کو

وَالْفَرْقَانِ الْفَرْقُ الْفَاصِلُ بَيْنَ الْحَادِثِ وَالْقَدِيمِ وَصَائِمٌ نَهَارًا رَأَى آيَاتِ

اور فرقان فرق و فصل پر جو حد فاصل ہے درمیان حادث و قدیم کے اور "میں رات گزارتا ہوں اپنے رب کے ہاں" والے دن

عِنْدَ رَبِّي وَقَائِمٌ لَيْلٍ تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي وَوَاسِطَةٌ مَّابَيْنَ الْوُجُودِ

کے روزہ دار پر اور "میری آنکھ سوتی ہے اور میرا دل نہیں سوتا" والی رات کے شب خیز پر اور وجود و عدم کے واسطہ

وَالْعُدْمِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ وَرَابِطَةٌ تَعْلُقُ الْحَدُوثَ بِالْقَدَمِ بَيْنَهُمَا

پر یعنی طایا دو سمندروں کو درآغنا لیکہ باہم متصل ہیں اور حدوث کے قدم سے موجب تعلق رابطہ پر یعنی درمیان دونوں کے

بِرِزْقٍ لَا يَبْغِيَانِ فَذَلِكَ دَفْتَرُ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ وَمَرْكَزُ أَحَاطَةِ الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ

برزخ ہے جس سے تجاوز نہیں کرتے پس وہی دفتر ہے اول و آخر کا اور مرکز ہے احاطہ باطن و ظاہر کا

وَحَبِيبِكَ الَّذِي اسْتَجَلَيْتَ بِهِ جَمَالَ ذَاتِكَ عَلَى مَنْصَةِ تَجَلِّيَاتِكَ وَنَصَبْتَهُ

اور وہی تیرا حبیب ہے جس کے ذریعے ظاہر کیا تو نے اپنے جمال ذات کو تجلیات کی جلوہ گاہ پر اور مقرر کیا ہے تو نے

قَبْلَهُ لِتَوَجُّهَاتِكَ فِي جَامِعِ تَجَلِّيَاتِكَ وَخَلَعْتَ عَلَيْهِ خَلْعَةَ الصِّفَاتِ

اس کو بطور قبلہ کے اپنی تجلیات جامعہ میں توجہات کے لیے اور تو نے ان کو خلعت پہنائی اپنی صفات

وَالْأَسْمَاءِ وَتَوَجَّهَتْ بِتَارِجِ الْخِلَافَةِ الْعُظْمَى وَأَسْرَيْتَ بِجَسَدِهِ يَقْظَةً

و اسماء کی اور تاج پہنایا خلافت عظمیٰ کا۔ اور ان کے جسد اطہر کو سیر کرائی حالت بیداری میں

مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى حَتَّىٰ أَنْتَهَىٰ إِلَى سِدْرَةِ

مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک حتیٰ کہ پہنچے سدرۃ المنتہیٰ تک اور

الْمُنْتَهَىٰ وَتَرَقَّىٰ إِلَى قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَنْشَرَهُ فُؤَادَهُ بِشَهَادَتِكَ حَيْثُ لَا

ترقی پائی قاب قوسین او ادنیٰ تک پس وسیع ہو گیا قلب ان کا بسبب تیرے مشاہدہ کے اس مقام میں جہاں پر

صَبَاحٍ وَلَا مَسَاءً مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ وَقَرَّبَ بَصَرَہٗ یُوجِدُكَ حَیثُ لَا تَحْتَسِبُ وَلَا

صبح ہے اور نہ شام۔ نہ جھٹلایا ان کے دل نے جو دیکھا ان کی آنکھ نے اور فرار پایا ان کی نگاہ نے ساتھ تیرے وجود کے جہاں

مَا لَا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۗ اللَّهُمَّ اَعْدَلْتُ فِي تَرْجِيحِ اِیْجَادِ الْمَوْجُودَاتِ

پر نہ خلاء ہے اور نہ طلاء۔ نہ ترہیجی ہوئی آنکھ ان کی اور نہ حد سے متجاوز ہوئی۔ اے اللہ تو نے عدل کیا ایجاد موجودات کی ترجیح میں

فَقَدْ مُتَّ وَحَكِمْتَ بِالْحَقِّ وَاجْرَيْتَ الْاَحْكَامَ فِي الْمُحْدَثَاتِ فَوَضَعْتَ كُلَّ

پس تو نے مقدم کیا بعض کو اور حکم فرمایا ساتھ حق کے اور جاری کیا احکام کو مخلوقات میں پس رکھا ہر شئی کو

شَیْءٍ فِي مَوْضِعِهِ عَلٰی اَحْسَنِ التَّرْتِیْبِ وَنَعْتِ الصِّفَاتِ فَسَبَقَتْ الْاَسْمَاءُ

اس کے مناسب مقام میں بہترین ترتیب پر اور صفات مناسبہ پر پس تو نے سبقت دی اسماء کو بمع اس کے

بِمَا فِیْهَا بِحَسَنِ نِظَامِ الْاَجْزَاءِ الْمَوْضُوعَاتِ لِلْاَحْكَامِ وَالْاَمْلَکِ الْمَسْخَرَاتِ

جو ان میں ہے بسبب نظام اجزاء کے حسن کے جو وضع کئے گئے ہیں واسطے احکام کے اور مسخر ملائکہ کے۔

وَوَضَعْتَ الْاَرْضَ وَمَا فِیْهَا مِنَ الْمَعَادِنِ وَالْجَوَاهِرِ وَالنَّبَاتَاتِ وَجَمِیْعِ مَا فِی

اور تو نے وضع فرمایا زمین کو اور جو کچھ اس میں ہیں معادن و جواہرات اور نباتات سے اور جو کچھ ہے

الْاَبْدَانِ وَالْجُرُیَّاتِ وَمَا فِی الْبِحَارِ الرَّاحِرَاتِ مِنْ اَصْنَافِ اَنْوَاعِ الْمَخْلُوقَاتِ

ابدان اور جزئیات میں اور جو کچھ ہے بحار متموجہ میں مخلوقات کے انواع و اصناف کے

وَاسْئَلْكَ اللّٰہُمَّ بِالْعِلْمِ وَالْمَعْلُومِ اَنْ تُحِیَّ قَلْبِیْ وَتُكْشِفَ لِیْ عَنْ حَقَائِقِ

اور سوال کرتا ہوں تجھ سے اے اللہ بظہیر علم و معلوم کے کہ زندہ فرمائے میرے قلب کو اور پردہ ہٹائے میرے لیے معلومات

الْمَعْلُومَاتِ وَلَا تُؤَفِّقْنِیْ اِلَّا لِكُلِّ عَمَلٍ یُّقَرِّبُنِیْ اِلَیْكَ زُلْفٰی بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ

کے حقائق سے۔ اور نہ توفیق دے مجھے مگر واسطے ہر اس عمل کے جو مجھے قریب کرے از روئے منزلت کے ساتھ عدل و احسان

وَ اَنْ تُقْضِیْ حَاجَتِیْ اللّٰہُمَّ اَنْتَ الْحَقُّ بِمَا رِیْدُ وَاظْہَرُ لِیْ فِیْ خَلْقِیْ یَا شَہِیْدُ شَہَادَہٗ

کے اور پورا کرے میری حاجت کو۔ اے اللہ تو ہی حق ہے جس کا میں ارادہ رکھتا ہوں اور ظاہر کر اپنی تجلیات کو مجھ پر میری خلوت میں

الْعَالِیُّ عَلٰی کُلِّ بَرٍّ اَوْ یٰ اَطِیْفُ یَا اَنْتَ الْحَاکِمُ لَا یُحْکَمُ عَلَیْكَ حَاکِمٌ اَنْتَ السُّلْطٰنُ

اے بلند سے بلند تر اور عالی ہر کشادہ و بلند برائے لطیف اے ہویت محضہ تو ہی حکمران ہے تجھ پر کوئی حکمران نہیں۔ تو ہی سلطان

الْقَوِيُّ لَمْ يَقْوِعْ عَلَيْكَ قَوِيٌّ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللَّطِيْفُ الْخَافِيُّ عَنْ نَظْرِ الْعَيُنِ الْمُنْزَهَةِ

قوی ہے تجھ پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ اے اللہ تو ہی لطیف ہے جو پوشیدہ ہے آنکھوں کی پہنچ سے۔ جو منزہ ہے

عَنْ اِدْرَاكِ الْعُقُولِ وَالْاَفْكَارِ الْعَالِمِ بِاِحَاظَةِ الْمَوْجُودَاتِ الْمُتَجَلِّيِّ بِاسْرَارِ

عقول و افکار کے ارادہ سے۔ جو علم رکھتا ہے موجودات کے احاطہ کا جو جلوہ فگن ہے اسرارِ قلوب کے ساتھ

الْقُلُوبِ فِي حَنَادِ سِرِّ الْغُيُوبِ بِاِظْهَارِ الظُّهُورِ فِي الْبُطُونِ الْعَالِمِ بِاِلْحَاظَاتِ

غیب کی تاریکیوں میں بسبب ظاہر کرنے ظہور کے بطون میں۔ جو عالم ہے احاطات کا اور تقدیرات کے

وَ اِخْتِلَافِ التَّقْدِيْرِ وَ بِمَا اَوْجَدَتْ مِنْ الْعَالِمِ الْجَلِيْلِ مِنْهُمْ وَالْحَقِيْرِ وَ بِمَا تَشَاءُ

اختلافات کا اور بسبب ایجاد فرمانے عالم کے جلیل کو بھی اور حقیر کو بھی اور بسبب اس کے جو تو چاہتا ہے

مِنْ حُسْنِ التَّدْبِيْرِ وَ التَّحْرِيرِ اَسْأَلُكَ بِمَا بَطْنِ مِنْ غَوَائِضِ حَقَائِقِ الْاَسْرَارِ وَ بِمَا ظَهَرَ

حسن تدبیر اور حسن تحریر سے۔ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بطنیں بطون میں رہنے والے باریک حقائق اسرار کے اور جو ظہور پذیر

مِنْ دَقَائِقِ التَّكْوِيْنِ فِي ظُلْمِ الظُّلُمَاتِ مِنْ ضِيَاءِ اَنْوَارِ الْاَنْوَارِ اَنْ تَجْذِبَ قَلْبِي

ہوئے تکوین و ایجاد کے دقائق سے تاریکیوں اور اندھیروں میں انوار کی ضیاء اور شعاعوں سے کہ جذب کر لے میرے دل کو

بِالْكَشْفِ اِلَى شُهُوْدِكَ مِنَ الْاَسْرَارِ لِتَنْعَمَ قَلْبِي بِكَ فِي سِرِّ اللَّطَائِفِ وَ الرَّقَائِقِ

بسبب اپنے کشفِ شہود کے (مطالعہ) اسرار سے تاکہ میرا دل تیری ذات کے ساتھ نعمت پائے لطائف اور باریکیوں کے

وَ تَزُولَ عَنِّي شِبْهُ الْمَشْكَلَاتِ بِظُهُورِ تِلْكَ الْحَقَائِقِ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْنِي بِسِرِّ

سیر و بطون میں اور زائل ہو جائیں مجھ سے مشکلات و شبہات بسبب ظاہر ہونے ان حقائق کے۔ اے اللہ مجھے محفوظ فرما اپنے اسم

اسْمِكَ اللَّطِيْفِ مِنْ شَرِّ كُلِّ مُؤَدِّ وَ حَاسِدٍ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الَّذِي اَلْهَيْتَ عِبَادَكَ

لطیف کے راز سر بستہ کی بدولت ہر مؤدی اور حاسد کے شر سے۔ اے اللہ تو ہی ہے جس نے الہام کیا ہے اپنے

الْحَمْدَ وَ الشُّكْرَ وَ قَوَّيْتَهُمْ عَلَى الطَّاعَاتِ وَ الذِّكْرِ فَاَنْتَ الشُّكْرُ الْمَحْسِنُ

بندوں کو حمد و شکر کا اور تقویت دی ہے ان کو طاعات اور ذکر پر پس تو ہی شکر و محسن ہے اپنی

بِحَلَائِلِ الْاَيْدِ وَ تَقَدَّسَتْ صِفَاتُكَ بِجَارِي التَّهْلِيلِ مِنَ الطَّاعَاتِ

بزرگ ترن نعمتوں کے ساتھ۔ اور پاکیزہ ہیں صفات تیری بمع جاری و ساری تہلیل کے طاعات سے

بِجَزِيلِ التَّفْضِيلِ وَالْحَسَنَاتِ وَرَفَعِ الْعَوَالِي مِنْ الدَّرَجَاتِ أَسْأَلُكَ بِأَحْسَانِكَ

ساتھ جزیل فضل اور حسنات کے اور بلند کرنے کے درجات عالیہ پر میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بطفیل تیرے احسان

الْقَدِيمِ بِظُهُورِ الْبِبَادِي الْمَوْجُودَاتِ وَأَحْسَانِكَ بِمَا أَلْهَمْتَنِي بِصِفَاتِ

قدیم کے ساتھ ظاہر ہونے موجودات کے مبادی کے اور بطفیل اپنے احسان کے بسبب الہام فرمانے کے مجھے اپنی صفات

قُدْسِكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ عِبَادِكَ الشَّاكِرِينَ وَبِفَضْلِ انْعَامِكَ مِنْ الْحَامِدِينَ

مقدسہ کا بنا دے مجھے اپنے شکر گزار بندوں سے اور بطفیل اپنے وافر انعام کے بنا دے مجھے اپنے حامدین اور

الذَّاكِرِينَ فَتَقَبَّلْ قَلِيلَ عَمَلِي بِجَزِيلِ فَضْلِكَ وَنُورَ قَلْبِي بِنُورِ قُدْسِي

ذاکرین سے۔ پس قبول فرما میرے عمل قلیل کو اپنے فضل عظیم سے اور منور فرما میرے دل کو اپنے نور قدس کے ساتھ

لَا كُونَ مِنْ أَهْلِكَ وَاجْمَعْ لِي جِوَامِعَ الْخَيْرَاتِ وَنَوَاحِي الْبَرَكَاتِ فِي الْمَحْيَا وَ

تاکہ ہو جاؤں تیرے خواص سے اور جمع فرما میرے لیے تمام تر خیرات کو اور جملہ جوانب کی برکات کو زندگی میں اور

الْمَيَاتِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الَّذِي خَلَقْتَ لِكُلِّ شَيْءٍ قُوَّةً وَجَعَلْتَ لَهُ فِيهِ الصَّلَاحَ

موت کی حالت میں اے اللہ تو ہی نے پیدا کیا ہے ہر شئی کے لیے روزی کو اور بنائی تو نے اس کی بہتری اس میں

وَأَوْجَدْتَ أَنْوَاعَ الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرِبِ وَجَعَلْتَهَا عِنْدَ الْأَشْبَاحِ وَأَبْرَنْتَ

اور ایجاد فرمایا ماکولات و مشروبات کے انواع و اقسام کو اور سپرد کیا انہیں اشباح و اجسام کے۔ اور نظر فرمایا

أَصْنَافَ الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ وَجَعَلْتَهَا عِنْدَ الْأَرْوَاحِ أَسْأَلُكَ يَا مَنْ أَعْطَى

علوم و معارف کے اصناف و اقسام کو اور حوالے کیا انہیں ارواح کے۔ سوال کرتا ہوں میں تجھ سے اے کہ عطا کی تو نے

كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَجَعَلَ لَهُ قُوَّةً وَأَصْدَاقَ سِرِّ ذَاتِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَوَكَانَ

ہر شئی کو صورت اس کی اور مقرر فرمائی روزی اس کی اور راسخ کیا اپنے سِرِّ ذات کو ہر شئی میں اور یہ سب کچھ اس پر

عَلَيْهِ يَتَقَاتَا أَنْ تَدْفَعَ عَنِّي الْعَاهَاتِ وَالْأَفَاتِ مِنْ سَائِرِ الْجِهَاتِ فِي كُلِّ السَّاعَاتِ

متعین و مقرر تھا کہ دور کرے مجھ سے عیوب کو اور آفات کو تمام جہات سے تمام ساعات اور اوقات

وَالْأَوْقَاتِ وَاجْعَلْ لِي قُوَّةً عَلَى الطَّاعَاتِ الْمُقْرَبَةِ إِلَيْكَ يَا رَبَّ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ

میں اور پیدا فرما میرے لیے قوت ان طاعات کی جو تیرے قریب کریں اے رب آسمانوں اور زمینوں کے

اللَّهُمَّ أَفْضُ عَلَى رُوحِي أَقْوَاتًا مِّنَ الْمَعْلُومَاتِ وَاللَّطَائِفِ مَا تُقَرِّبُنِي إِلَى

اے اللہ فیضان فرما میری روح پر معلومات و لطائف والی روزی کو جو قریب کر دے مجھے طرف

الْأَسْرَارِ وَالْمَعَارِفِ اللَّهُمَّ حَلِّ مِنْ أَسْرَارِ قُوَادِي بِدَقَائِقِ اسْرَارِكَ مَا يُؤْصِلُنِي

اسرار و معارف کے - اے اللہ کھول دے میرے دل کے اسرار کو اپنے دقائق اسرار کے ساتھ جو اہل کرنے

إِلَى مَشْهُودٍ حَقَائِقُهَا بِسِرِّ ذَاتِكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْكَافِي لِكُلِّ ذُرَّةٍ مِّنَ

مجھے تیرے حقائق مشہودہ معلوم تک بسبب تیرے سزوات کے - اے اللہ تو ہی کافی ہے موجودات کے ہر ذرہ

الْمَوْجُودَاتِ أَخْرَجْتَهَا مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ وَحَفِظْتَ قُوَّةَ وُجُودِهَا

کو جسے تو نے نکالا عدم سے وجود کی طرف اور محفوظ کیا اس کے وجود کی قوت و صلاحیت کو

فِي كُلِّ حَالٍ مِّنَ التَّنَادَاتِ فَكْفَيْتَهَا فِي كُلِّ حَالٍ بِقُوَّةِ الْبَسَائِطِ الرَّحْمَانِيَّةِ

ہر حال میں متضاد اشیاء سے پس تو نے کفایت فرمائی اسے ہر حال میں بسائط رحمانیہ کی قوت کے ساتھ

وَكَفَيْتَهَا فِي حَالِ الْقَيْدِ بِالتَّرَاكِيِبِ التَّالِيفِيَّةِ الْكُونِيَّةِ اسْأَلُكَ اللَّهُمَّ

اور کفایت فرمائی اسے مقید ہونے کی حالت میں ساتھ ترکیبات تالیفیہ کونیہ کی قیود کے میں سوال کرتا ہوں تجھ سے

بِكِفَايَتِكَ وَصَنَعَ التَّرَاكِيِبِ الظَّاهِرَةِ السَّبْعَةَ أَنْ تَكْفِيَنِي شَرِّ مَنْ يُؤْذِينِي

اے اللہ بظہیر تیری کفایت کے اور تراکیب ظاہرہ ہفت گونہ کی صنعت کے کہ کفایت فرمائے مجھے موزیوں کے شر سے

أَوْ مَنْ يُرِيدُنِي بِسُوءٍ أَوْ يَحَاوِلُنِي بِشَرِّ اللَّهِمَّ اجْعَلْنِي فِي حِصْنِ

اور برائی کا ارادہ اور شر کی جیلہ گری کرنے والوں کے شر سے - اے اللہ مجھے داخل فرما اپنی کفایت اور

كِفَايَتِكَ وَحِفْظِكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ بَاذِلُ الْعَطَايَا وَالْجَوَادِ بِالْفَضْلِ

حفاظت کے قلعہ میں - اے اللہ تو صرف کرنے والا ہے عطیات کا - اور جو دو نوال فرمانے والا ہے ساتھ فضل

بِدَوَامِكَ عَلَى الْبِرِّ يَا تَتَكَّرُ بِالْخَيْرِ الْكَثِيرِ عَلَى الشُّكْرِ الْقَلِيلِ وَتَجَاوِزُ

دوام کے مخلوقات پر - جو دو کرم فرماتا ہے ساتھ خیر کثیر کے قلیل شکر پر اور درگزر فرماتا ہے

عَنْ ذَنْبِ الْكَبِيرِ الْمَعْبُودِ الْمُتَضَرِّعِ الدَّلِيلِ اسْأَلُكَ بِتَطَاوُلِ فَضْلِكَ

کبیرہ گناہوں سے واسطے زاری اور عجز و انکساری والے بندے کے - میں سوال کرتا ہوں بظہیر تیرے مسلسل فضل کے

فَضْلِكَ مِنْ جُودِ الْمَوْجُودَاتِ مِنَ اللَّطَائِفِ الْعُلُوبِيَّاتِ وَالْأَسْرَارِ

تجھ سے تیرے فضل کا موجودات کے جو دو انعام میں سے یعنی لطائف علویہ اور اسرار علویہ

الْعُلُوبِيَّةِ الرَّبَّانِيَّةِ الْمُنْظَرَةِ لِلْحَضْرَةِ الْقُدْسِيَّةِ وَأَنْ تُبَدِّلَنِي بِطَبِيبَاتِ

ربانیہ کا جو منظر ہیں حضرات قدسیہ کے اور یہ کہ میری امداد فرمائے پاکیزہ ارضی نعمتوں کے ساتھ

النَّعْمِ الْأَرْضِيَّةِ بِالْأَرْزَاقِ الْمُنْظَرَةِ مِنَ الشُّبُهَاتِ الرَّدِيَّةِ وَتَجْعَلْ لِي ذَلِكِ

بسیب ان ارزاق کے جو پاکیزہ ہیں ردی شہات سے اور بنائے تو انہیں میرے لیے قوت (کا موجب)

قُوَّةً عَلَى حَسْبِ اقْبَالِي بِالطَّلَاعَاتِ الْمَوْصَلَةِ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ تَكْرِمًا عَلَيَّ بِرَدِّ

مطابق میری توجہ اور التفات کے بسبب ان طامعات کے جو پہنچا میں طرف تیری۔ اے اللہ مجھ پر کرم فرما ساتھ رو فرمانے

الْأَسْوَأِ مِنْ الْأَعْدَاءِ وَيَقْهَرِ الْأَضْدَادَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُهَيِّبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي

برے اعداء کے اور مغلوب فرمانے اعداؤ و مخالفین کے۔ اے اللہ تو ہی قبول کرنے والا ہے دُعا سائلوں کی

إِذَا كَانَ مُخْلِصًا فِي دُعَائِهِ وَمُسْعِفُ الْمُضْطَرِّينَ بِالْإِجَابَةِ قَبْلَ سُؤْلِهِمْ

جبکہ ہوں وہ مخلص اپنی دعائیں اور مجبوروں کی حاجات پوری کرنے والا ہے ان کے سوال سے پہلے

لَأَنَّكَ عَالِمٌ بِحَاجَةِ الْمُحْتَاجِينَ بِمَا سَبَقَ فِي عِلْمِكَ الْقَدِيمِ مِنَ الْأُمُورِ الْمَقْدُورَاتِ

کیونکہ جانتے والا ہے محتاجوں کی حاجات کو بسبب اس کے جو سبقت لے جا چکے ہیں امور مقدرہ تیرے علم قدیم میں

وَنَعُوذُ بِكَ مِنْهَا قَضَيْتَ مِنَ الْإِرَادَاتِ الْمُحْكَمَاتِ وَأَسْرَعَ أَمْرَكَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ

اور ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں ان محکم ارادوں سے جن کا تو نے فیصلہ فرما دیا ہے اور تیرے سریع ترین امر سے جو مؤثر ہے زمین کے

وَطَبَقَاتِ السَّمَوَاتِ أَسْأَلُكَ أَنْ تُجِيبَ دَعْوَتِي وَتُسْرِعَ بِقَضَائِ حَاجَتِي

اطراف اور سموات کے طبقات میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ میری دُعا قبول کرے اور جلدی میری حاجت کو پورا فرمائے

وَتَكْشِفْ عَنِّي شَرَّ مِلَّتَاتِي وَتَأْمِنْ رُوعَاتِي وَمَخَافَاتِي وَتَقْهَرْ مَنْ أَرَادَ

اور دور فرمائے مجھ سے نازل شدہ مصائب کا شر اور مجھے مخاوف سے امن بخشنے اور مغلوب کرے اسے جو میری

مَضْرَتِي وَتَرْفَعْ دَرَجَاتِي إِلَى غَايَةِ غَايَاتِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

ضرر رسانی کا ارادہ کرے اور بلند کرے میرے درجات کو آخری حد امکان تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِأَذْلِ الْإِحْسَانِ فِي سَبِيلِ الْحَلِيمِ السُّبْحَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

سیدنا محمد پر جو صرف کرنے والے ہیں احسان کو عظیم و سبحان کی راہ میں - اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَافِعِ الْكُفْرِ وَالطُّغْيَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو دور فرمانے والے ہیں کفر اور سرکش کے - اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ يُقْطَانِ الْأَجْفَانَ وَالْغَالِبِ بِالسُّلْطَانِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو بیدار پلکوں (آنکھوں) والے ہیں اور غالب ہیں ساتھ برہان کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الظَّاهِرِ بِالْبُرْهَانِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو ظاہر ہیں ساتھ برہان کے

وَطَوِيلِ الْأَحْزَانِ وَعَدِيلِ الْقُرْآنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اور لمبے حزن و ملال والے ہیں اور اپنے ہمزمانوں سے عدل کرنیوالے ہیں - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّعْطَىٰ الْأَمَانِ وَبِدْيَعِ التَّبْيَانِ وَمَلِيحِ الْوَجْهِ وَالْأَسْنَانِ

کی آل اطہار پر جو امان بخشنے والے - انکھے بیان والے اور جاذب چہرہ اور پرکشش دانتوں والے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ إِلَىٰ الْبَدْرَانِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل امجاد پر جو احسان کرنے والے ہیں پڑوسیوں

وَالدَّاعِي إِلَىٰ الْأَذَانِ وَالْمَبْلَغِ إِلَىٰ الْجَنَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

پر اور بلانے والے ہیں طرف اذان کے اور پہنچانے والے ہیں طرف جنتوں کے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُنْجِي عَنِ النَّيْرَانِ وَالْمَبِينِ لِأَشَدِّ الْإِيْقَانِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو نجات دینے والے ہیں آتشخانے دوزخ سے - اور واضح کرنے والے ہیں مضبوط ترین کو

وَالنَّاطِقِ بِالْفُرْقَانِ وَالصَّافِحِ عَنِ أَهْلِ الْعَدْوَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور کلام فرمانے والے ہیں ساتھ فرقان کے اور درگزر کرنے والے ہیں دشمنوں سے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْوَاضِحِ بِالرُّجْحَانِ وَالْمَبْعُوثِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو واضح ہیں باعتبار وزنی شہیت ہونے کے اور مبعوث ہیں

إِلَى كَافَّةِ الْإِنْسَانِ وَالْمُسْتَغْفِي عَنِ التَّيْبَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

طرف تمام انسانوں کے اور بے نیاز ہیں "اپنی شہنشاہی کے اظہار میں" تاجمانے شاہی سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَامُونَ عَنِ الْخُدْلَانِ وَالْمَشْهُورِ فِي الْبُلْدَانِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو مامون ہیں محرومی سے اور مشہور ہیں تمام بلاد و امصار میں

وَالْعَافِي عَنِ الْعَمِيدِ وَالنَّسِيَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور عفو فرمانے والے ہیں دیدہ و انتہ اور بھول چوک والی خطاؤں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُثْقِلِ الْمِيزَانِ وَالْمُنْعِمِ عَلَى الْخَصْمَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کی آل اطہار پر جو میزان حسنات کو ثقیل فرمانے والے ہیں اور دشمنوں پر بھی انعام فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُرْتَفِعِ الشَّانِ وَالْمَحْرَمِ عَلَى الْأَرْضِ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو رفیع الشان ہیں اور جن کا جسم اقدس حرام کر دیا گیا ہے زمین پر اور

الذَّيْدَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّائِرِ

کیڑوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو پردہ پوش ہیں

بِالْكُتْمَانِ وَالْعَابِسِ عَنِ الْكُذْبِ وَالْبَهْتَانِ وَالْمُرْعَبِ إِلَى خَيْرَاتِ حَسَنِ اللَّهُمَّ

ساتھ کتمان کے۔ اور اطہار نفرت کرنے والے ہیں کذب و بہتان سے اور ترغیب دینے والے ہیں طرف اچھی عادات اور خصلتوں

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَعْطَى بِلَا حِسْبَانَ وَوَاهِبِ

کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو عطا کرنے والے ہیں بغیر حساب کے اور مہیا کرنے والے

الْوَلِيُّ وَالْمَرْجَانِ وَالْمَحْفُوظِ عَنِ النُّقْصَانِ اللَّهُمَّ احْرُسْنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا

ہیں نولو اور مرجان کے اور محفوظ ہیں نقصان سے۔ اے اللہ میری حفاظت فرما اپنی نگاہ مقدس کے ساتھ جو نہیں

تَتَأَمُّ وَالنَّفْسِ بِرُكْنِكَ الَّذِي لَا يُرَامُ وَارْحَمْنِي بِقُدْرَتِكَ عَلَى فَلَا أَهْلَكَ

سوتی اور میرا احاطہ فرما ساتھ اس شکر عظیم کے جس کے مقابلہ کا ارادہ نہیں کیا جاسکتا اور رحم فرما مجھ پر ساتھ اپنی قدرت کے پس میں نہ ہلاکت

وَأَنْتَ رَجَائِي فَلَئِنْ نَعِمْتَ بِهَا عَلَيَّ قَلَّ لَكَ بِهَا شُكْرِي وَكَمْ مِنْ بَلِيَّةٍ

ہونگا جگہ تو میری امید و رجاء سے کتنی زیادہ نعمتیں ترنے مجھے عطا کی ہیں کہ قلیل ہے تیرے لیے مقابل ان کے میرا شکر اور کتنی بلیات ہیں

إِتْلَيْتَنِي بِهَا قَلَّ لَكَ بِهَا صِدْرِي فَيَأْمَنْ قَلَّ عِنْدَ نِعْمَتِهِ شُكْرِي فَلَمْ يُحْرِمْنِي وَيَأْمَنْ

کہ تو نے مجھے ان میں مبتلا کیا کہ قلیل ہے ساتھ ان کے میرا صبر پس لے کہ قلیل ہے اس کی نعمت کے وقت شکر میرا پس نہ محروم کیا مجھے اور لے کہ

قَلَّ عِنْدَ بِلَيْتِهِ صِدْرِي فَلَمْ يَخْذُلْنِي وَيَأْمَنْ رَأَيْتَنِي عَنِ الْخَطَايَا فَلَمْ يَفْضَحْنِي وَيَأْمَنْ

قیل ہے وقت مصیبت کے صبر میرا پس اس لے مجھے محروم نہ کیا۔ لے کہ دیکھا اس نے مجھے گناہوں پر پس مجھے رونا نہ کیا اور لے کہ جو

ذَالْمَعْرُوفِ الَّذِي لَا يَنْقُصُ أَحْسَانُهُ أَبَدًا وَإِذَا التَّعْمَاءُ الَّتِي لَا يُحْطَى أَبَدًا

ایسے احسان والا ہے جو کبھی کم نہیں ہوتا اور لے کہ جو ایسی نعمتوں والا ہے جن کا کبھی احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي الْمَوْتِ وَقِيَمًا بَعْدَ الْمَوْتِ اللَّهُمَّ اقْبَلْ بِقَلْبِي إِلَى دِينِكَ وَ

اے اللہ برکت دے مجھے میری موت میں اور بعد از موت۔ اے اللہ متوجہ فرما میرے دل کو طرف اپنے دین کے

أَحْفَظْ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا بِرَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور حفاظت فرما ہمارے پیچھے سے ساتھ اپنی رحمت کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الْمَحْبُوبِ عِنْدَ الرَّحْمَنِ وَالْمَتَوَكِّلِ عَلَى الدِّيَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جو محبوب ہیں نزدیک رحمن کے اور متوکل ہیں اوپر بہت جزا دینے والے کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَطِيْعِ بِأَمْرِ الْمَنَانِ وَالْمَشْغُولِ بِذِكْرِ الْغُفْرَانِ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو اطاعت گزار ہیں امر منان کے اور مشغول ہیں ساتھ ذکر بخشنے والے کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَعْجَزِ الْخَلْقِ بِبَيْتِ أَقْصَرِ سُوْرَةٍ مِّنْ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو عاجز کر دینے والے ہیں سب مخلوق کو قرآن کی مختصر ترین سورت

الْقُرْآنِ عَنِ الْإِثْيَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الثَّابِتِ عَلَى

کی مثل لانے سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو ثابت قدم ہیں

التُّكْلَانِ وَالنَّبِيِّ الْغَافِرِ الْجَنَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

توکل میں۔ اور نبی ہیں بخشنے والے جنات کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو

الْمَحْمُودِ فِي كُلِّ الْمَكَانِ وَالْحَبِيبِ السَّاتِرِ لِلرَّحْمَانِ وَكَلِيمِ الْمَالِكِ الدِّيَانِ وَالرَّسُولِ

محمود ہیں ہر مکان میں اور حبیب ہیں پردہ والے رحمان کے لیے اور ہمکلام ہیں ملک دیان کے اور رسول ہیں

ہیں

لِلْمَلِكِ الْمَنَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَابِجِ الْأَصْفِيَاءِ

ملک منان کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب اصفیاء کے تاج

وَسِرَاجِ الْأَتْقِيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَحْدَرِ

اور اتقیاء کے لیے روشن چراغ ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو دور رکھنے

عَنِ النَّارِ وَمَهَا لِكُهَا وَلَهُ الْفَضْلُ الْعَلِيُّ وَعَرِضُ لَهُ السَّمَوَاتُ بِمَلَكُوتِهَا اللَّهُمَّ

والے ہیں آتش دوزخ سے اور اس کی ہلاکتوں سے۔ اور وہ بندترین فضل کے مالک ہیں اور پیش کئے گئے ہیں ان پر تمام آسمان بمع ان

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَرِضُ لَهُ الْأَرْضُ

کے خزانے کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کو پیش کی گئی زمین بمع تمام اطراف اور

بِأَطْرَافِهَا وَالنُّفُوسُ وَأَرْكَانُهَا وَالْجِبَالُ بَغَارِهَا وَالْجَنَّةُ بِنَعِيمِهَا وَدَرَجَاتُهَا وَالنَّارُ بِأَبْوَابِهَا

اکٹاف کے اور ارکان کے اور پہاڑ بمع غاروں کے اور جنت بمع نعمتوں کے اور درجات کے۔ اور آگ بمع تمام ابواب اور

وَدَرَجَاتِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نُصِرَ لَهُ

درکات کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کو عطا کی گئی

نَصْرًا عَزِيزًا وَفَتْحَ لَهُ فَتْحًا قَرِيبًا اللَّهُمَّ اعْطِفْ عَلَى قُلُوبِ عِبَادِكَ بِالْحَبِيبَةِ

عزیز و غالب نصرت اور فتح دی گئی ان کو فتح قریب۔ اے اللہ مائل فرما مجھ پر اپنے بندوں کے دل ساتھ دائمی

الدَّائِمَةِ وَالْمَوَدَّةَ الْقَائِمَةَ وَالْعَطْفَ وَارْتُقِنِي الْحِطَّ الْجَزِيلَ وَسَخِّرْ لِي قُلُوبَ

محبت کے اور پائیدار مودت اور مہربانی کے اور نصیب فرما مجھے عظیم حصہ اور مسخر فرما میرے لیے اپنے

عِبَادِكَ وَكُنْ لِي عَوْنًا وَمُعِينًا وَحَافِظًا وَنَاصِرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بندوں کے دل اور ہو میرا معاون و معین اور حافظ و ناصر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُعْصُومِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْمُطَهَّرِ مِنَ الْعَيُوبِ وَالْمَعْرُوفِ فِي

اور آپ کی آل پر جو محبوب معصوم ہیں ذنوب سے اور مطہر ہیں عیوب سے اور معروف ہیں

الْأَدَبِ وَالْمَرْوَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ قَامَ

آداب اور مروت میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے

لَيْلَةَ الْبِرَاتِ وَكَامِلِ الْفُتُوَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

شب برات قیام میں گزاری اور جو کامل جو انمدی والے ہیں۔ اسے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الْمُرْشِدِ بِالرَّحْمَةِ وَالْمَوْئِدِ بِالنُّصْرَةِ وَالرَّحِيمِ عَلَى الْأُمَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل پر جو رہنا ہیں ساتھ رحمت کے اور توفیق و تقویت دئے گئے ہیں ساتھ نصرت خداوندی کے اور رحیم ہیں اُمت پر اسے اللہ صلوات و

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْخَطِيبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْمَشْرِفِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو خطیب ہیں روز قیامت کے اور شرف خاص پانے والے ہیں روز قیامت میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَبْرِ السَّاعَةِ وَفَتْحِ لَهْ

اسے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو قیامت کے ماہتاب ہیں اور کھولا گیا ہے ان کے لیے

الْكَرَامَةِ وَالنَّبِيِّ الْمُبْعِثِ وَالْفَصِيحِ وَذِي الْخَيْرَاتِ الرَّاسِخِ وَأَمِنَ أُمَّتَهُ عَنِ

باب اکرام اور فریاد اس نبی اور فصیح اللسان۔ پائیدار خیرات والے اور جنہوں نے اپنی اُمت کو بے خوف کر دیا ہے

الْمَسْخِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْإِخْصِ بْنِ الْعِبَادِ

مسخ سے۔ اسے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو مخصوص ترین ہیں عباد سے

وَالْهَادِي إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور رہتا ہیں طرف بھلائی کی راہوں کے۔ اسے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ رَبِيعِ الْبِلَادِ وَمَعْدِنِ الرَّهَادِ وَالْعِبَادِ وَمَوْطِنِ التَّقَى وَالرُّهْدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو محبوب بہار ہیں بلاد کی اور سرچشمہ ہیں زاہدین و عابدین کا اور محل اقامت و سکونت ہیں تقوائے وزہد کا۔ اسے اللہ صلوات و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّسُولِ تَكَلَّمَ مَعَهُ الْحَنِيدُ وَوَلِيَّ بِحُكْمِهِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر وہ رسول کہ جن سے کلام کیا جھنے ہوئے گوشت نے اور بدل گیا ان کے حکم سے نبیذ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثِ بِأَكْرَمِ الصَّوَابِ

اسے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو مبعوث ہوئے ساتھ بزرگ ترین صبروں کے

وَالنَّجْمِ الظَّاهِرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبُرِّ الرَّاحِ

اور روشن ستارے کے۔ اسے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب ٹھانیں مارتا سمندر

وَهُوَ أَسْرَعُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا وَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ہیں اور وہ سب سے پہلے نکلنے والے ہیں قبر انور سے جب لوگ اٹھائیں گے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَعَزِّ الْمَعْرُوفِ صِنَادِ يَدِ الْقُرَيْشِ الْفَائِضِ الْبَاسِطِ الرَّابِطِ

آپ کی آل پر جو بنی عزیز تر ہیں اور عزت دینے والے اور قریش کے سردار صاحب فیض۔ فراخی پیدا کرنے والے ربط و تعلق پیدا

الْوَاعِظِ الْكَافِظِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْفَيْضَ وَالْبُسْطَ وَالرِّبْطَ وَالْحِفْظَ وَالْوَعْظَ فِي

کرنے والے نصیحت گزار اور محافظ۔ اے اللہ ہم طلب کرتے ہیں تجھ سے فیض اور بسط و ربط اور حفاظت و موعظت

سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الشُّمْسِ

اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آفتاب تباہاں ہیں

الطَّالِعِ وَالنَّبِيِّ الْمُتَوَاضِعِ الْمُبْلَغِ الْمُبْلَغِ الْعَارِفِ الْمَرْفُوعِ إِلَى الْخَلْقِ اللَّهُمَّ

اور صاحب تواضع بنی اور مبلغ مبلغ احکام اور بلند مرتبت صاحب عرفان بارگاہ خلاق عالم میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَعْشُوقِ اللَّهُمَّ اشْهَدُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو ذات اقدس محبوب ہیں خالق و خلاق کے۔ اے اللہ گواہ

بِفَرْشِ شَادِ التَّقِيِّ بَعْرُشِ عَادِ الشَّقِيِّ بِفَرَاشِ الْأَوْحَادِ الْمُهَيِّ بِخَرِشِ عِبَادِ

بن ساتھ مضبوط فرش متقی کے۔ ساتھ عرش عاد شقی کے۔ ساتھ بچھونے کی تانیل گایوں کے۔ ساتھ شب بیدار پاکیزہ بندوں

النَّقِيِّ بِقَرِشِ خَدَادِ الْفَيْيِّ بِقُرَيْشِ أَرْدَادِ الْقَوِيِّ بِهَوْشِ عِدَادِ الْبُهَيِّ

کے ساتھ انقطاع لمبے پھٹن منہ والے کے۔ ساتھ قریش قوی جماعت والوں کے۔ ساتھ کثیر تعداد والی جماعت حسینوں کے

بِلَوَارِشِ عِمَادِ الْأَمَانِيِّ بِمُرْعَشِ بَادِ الْحُبِّيِّ بِبَدْرِشِ كَارِ الْمَحْبُوبِيِّ بِأَمْرِشِ

ساتھ درازی آرزوؤں کے ستونوں کے۔ ساتھ باد حبیبی کے مرعش کے۔ ساتھ رنگ برنگے مرکب محبوبی کے اور ساتھ تاوان

فَسَادِ الْغَيْرِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

فساد غیر کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جیسے کہ

سَبَقَ الْيَتَابِ بِرَحْمَتِكَ وَأَتَى بِهَلْ أُنْكَ وَالِدًا عَمِي بِبَصِيرَةٍ إِلَى سَبِيلِكَ اللَّهُمَّ

سبقت لے گئے طرف ہمارے ساتھ تیری رحمت کے اور لائے سورۃ ہل اتی کو اور جو بلانے والے ہیں ساتھ بصیرت کے طرف تیری راہ کے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَصَبَهُ بِخَلْقِكَ وَ

لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خلوص و ہمہ روی فرمائی تیری مخلوق کے ساتھ اور

قَامَ بِحَقِّكَ وَالصَّادِقِ بِأَمْرِكَ وَالْمَشْغُولِ بِذِكْرِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

قیام فرمایا تیرے حق کے ساتھ اور قوت سے ظاہر کیا تیرے امر کو اور مشغول ہیں تیرے ذکر کے ساتھ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَوَاطِبِ عَلَى شُكْرِكَ وَأَكْرَمِ الْخَلْقِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو ہمیشہ تیرا شکر ادا کرنے والے ہیں اور تمام مخلوق سے مکرم ہیں

عِنْدَكَ وَأَعْظَمِ الْخَلْقِ لَدَيْكَ وَحُجَّتِكَ فِي أَرْضِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

نزدیک تیرے اور عظیم تر ہیں تمام مخلوق سے تیری بارگاہ میں اور تیری مجسم دلیل ہیں روئے زمین پر لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلْتَهُ وَأَسْطَةَ بَيْنِكَ وَبَيْنَ خَلْقِكَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کو واسطہ بنایا ہے تو نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّى بِسَبْعَتِهِ

لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے روشن فرما دیا اپنی بعثت سے

الظُّلْمَ وَكَشَفَ عَنْ أُمَّتِهِ الْغَمَّ وَأَمْرٍ بِوَجُوبِ إِحْتِرَامِ الْحَرَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

تاریکیوں کو اور دور فرما دیا اُمت سے غم و اندوہ کو اور حکم دیا احترام حرم کے وجوب و لزوم کا لے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْوَفِيِّ بِالْعَهْدِ وَالذَّامِعِ الْمَجْتَبَى

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو بتانے والے ہیں عہد اور فہم داریوں کو اور چہنئے ہوئے ہیں

بِخَيْرِ الْأُمَّمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّسُولِ

ساتھ خیر ائم کی (نبوت کے) لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب رسول ہیں

إِلَى الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَأُوتِي بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَسَبَقَتْ أُمَّتُهُ بِخَيْرِ الْأُمَّمِ اللَّهُمَّ صَلِّ

طرف عرب و عجم کے اور عطا کئے گئے ہیں جامع کلمات اور سبقت لے گئی ہے اُمت ان کی خیر ائم کے (لقب کے ساتھ) لے اللہ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الشَّافِي السَّقْمِ وَالْفَصِيرِ الْكَلَامِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو بیماریوں میں شفا دینے والے ہیں اور فصیح کلام والے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلْتَهُ وَأَسْطَةَ بَيْنِكَ وَبَيْنَ خَلْقِكَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کو واسطہ بنایا ہے تو نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان

وَالْفَقِيهِ الْعَلَامِ وَالْمُتَوَجِّعِ بِالْغَمَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور بہت زیادہ علم والے فقیہ اور بادلوں کے تاج سجانے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِدُرِّ التَّمَامِ وَكَرِيمِ الْبَسَامِ وَعَدْلِ الْقَسَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کی آل پر جو ماہ تمام اور بہت بزرگ تبسم فرمانے والے اور بہت عدل کے ساتھ تقسیم فرمانے والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِي الْجُودِ وَالْإِكْرَامِ وَذِي الْعَفْوِ الْإِنْعَامِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو مالک جوود اکرام ہیں اور عفو عام والے ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شَفِيعِ الْمَلِكِ وَالْإِنَامِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو شفیع ہیں ملک اور مخلوقات کے

وَالْمُبَشِّرِ بِالْمَقَامِ وَالْمُطَهِّرِ مِنَ الْأَثَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور بشارت یافتہ ہیں مقام محمود کی اور مکمل طور پر پاک ہیں گناہوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِي الْكَرَمِ الْعَمِيمِ وَالْخَلْقِ الْعَظِيمِ وَالْقَلْبِ السَّلِيمِ وَذِي الْعَطَاءِ

کی آل پر جو مالک ہیں کرم عام اور خلق عظیم اور قلب سلیم اور عظیم ترین جنات کے

الْجَسِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِي الْعَفْوِ عَنِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کمینوں سے عفو و

اللَّيْمِ وَذِي الْمَسَلِكِ الْمُسْتَقِيمِ وَالْعِزِّ الْمُبْقِيهِ وَرَسُولِ الْمَلِكِ الْقَدِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ

درگزر کرنے والے ہیں درست اور راست راستے والے۔ پائیدار عزت والے اور ملک قدیم کے رسول ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَطِيبِهِمْ إِذَا انصَبُوا اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب خطیب خلائق ہوں گے جبکہ وہ بولنے سے قاصر ہوں گے۔ اے

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَن شُبِّهَ بِالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَفَن لَّمْ يُضِلَّ

اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو تشبیہ دی گئی ہے ساتھ نجم کے جبکہ وہ معراج سے لوٹے اور جو

وَمَا عَوَىٰ وَلَمْ يُنطِقْ عَنِ الْهَوَىٰ وَمَنْ نطِقَ بِوَجْهِ يُوْحَىٰ وَمَا يُنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

کہ گراہ ہوئے اور نہ ٹھکے اور نہ کلام کیا خواہش نفس سے بلکہ نطق کیا ساتھ اس کے جو ان کی طرف نازل کی جاتی ہے اور نہیں بولتے مگر خواہش نفس سے

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ وَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نہیں وہ مگر وحی جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

مَنْ عَلَيْهِ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۖ وَمَنْ دُنِيَ فَتَدَلَّىٰ ۖ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۗ وَاللَّهُمَّ

جن کو تعلیم دی بہت قوت والے نے اور جو قریب ہوئے پس مزید قریب ہوئے یہاں تک ہو گئے مانند قوس کے دوسروں کے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۖ فَمَنْ أَوْحَىٰ إِلَيْهِ رَبُّهُ مَا أَوْحَىٰ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کی طرف وحی کی ان کے رب نے جو وحی کرتی تھی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۖ فَمَنْ صَدَّقَ فَوَادَةَ مَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ تصدیق کی ان کے دل انور نے جو

رَأَىٰ وَكَسَّرَ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۗ وَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دیکھا آپ نے رانکھوں اور کڑے کڑے کر آیا آپ نے لات و عزی کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

مَنْ أَبِي قَسِمَةَ ضِيْرِي ۖ وَمَنْ لَمْ يُؤْتِرِ الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

جنہوں نے انکار فرمایا غیر منصفانہ تقسیم سے اور جنہوں نے نہ ترجیح دی دنیوی زندگی کو آخروی پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۖ فَمَنْ بَلَغَتْهُ غَايَةُ الْغِنَىٰ ۖ وَمَنْ وَعَدْتَهُ أَنْ يُرْضَىٰ ۗ وَاللَّهُمَّ

محمد پر اور آپ کی آل پر جنہیں پہنچایا تو نے انتہائے استغناء تک اور جنہیں وعدہ دیا راضی کرنے کا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۖ فَمَنْ أَعْرَضَ عَنَّا تَوَلَّىٰ وَجْهَيْتَهُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے درگزر فرمائی پیٹھ پھیرنے والوں سے اور جنہیں تو نے

بِالْحَسَنِ ۗ وَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۖ فَمَنْ أَمْرَتْكَ فَأَقْدَمَىٰ

جنت دی جزا میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہیں تو نے حکم دیا پس انہوں نے تعمیل کی

وَكَانَ فَوَادَةَ أَوْفَىٰ ۖ وَمَنْ وَفَىٰ ۖ وَمَنْ سَعَىٰ ۗ وَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اور جن کا دل اقدس بہت وسیع و کشادہ تھا اور جنہوں نے وفا کی اور سعی بلیغ فرمائی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۖ فَمَنْ سَعَىٰ سَعِيَةً سَوْفَ يَرَىٰ وَيُجْزَىٰ جِزَاءَ الْأَوْفَىٰ ۖ وَمَنْ إِلَىٰ رَبِّهِ الْمُنْتَهَىٰ

کی آل پر جن کی سعی ضرور دیکھی جائے گی اور جنہیں کامل ترین جزا دی جائے گی اور جن کا اپنے رب کی طرف ہی منتہی ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ رَبُّهُ أَغْنَى وَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہیں ان کے رب نے غنا بخشا اور

أَقْنَى وَرَبُّهُ أَصْحَكَ وَأَبْكَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

راضی کیا ان کا رب ہی ہنسانے اور لانے والا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ رَبُّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَى وَرَبُّهُ بِالنَّشْأَةِ الْآخِرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آل پر کہ جن کا رب ہی مارنے والا اور زندہ کرنے والا اور دوسری نشأت بخشنے والا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ رَبُّهُ رَبُّ الشَّعْرَى وَرَبُّهُ خَلَقَ الذَّكْرَ وَالْأُنثَى

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کا رب ہی مالک ہے شعری ستارے کا۔ اور اس نے پیدا کیا مذکر و مؤنث کو

مِنْ نُطْقَةٍ إِذَا تَمَنَّى وَرَبُّهُ أَهْلَكَ قَوْمًا طَغَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

نطفہ سے جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے اور ان کے رب نے ہی ہر سرکش قوم کو ہلاک کیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ أَحْبَبَهُ رَبُّهُ وَمَا قَلَى وَلَا آخِرَةَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ الْأُولَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل پر جن کو محبوب بنایا ان کے رب تعالیٰ نے اور نہ ناراض ہوا اور یقیناً آخرت ان کیلئے بہتر ہے دنیوی زندگی سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ بَلَغَ عِنْدَ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَنَزَلَ عِنْدَ سِدْرَةِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو پہنچے اپنے رب اعلیٰ کے پاس اور اترے سدرۃ المنتہیٰ

الْمُنْتَهَى وَزَارَهُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کے پاس بھی۔ اور زیارت کی ان کی ملا اعلیٰ نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ مَنْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى وَعَلِمَ الصُّحُفَ الْأُولَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آل پر جنہوں نے دیکھیں اپنے رب کی بعض بہت بڑی آیات اور جان لیا پہلے صحیفوں کو اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ لَمْ يَزِغْ بَصَرَهُ وَمَا طَغَى وَلَهُ دَارٌ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی نگاہ رشب معراج نہ ادھر ادھر مائل ہوئی اور نہ پیاک ہوئی اور جن کا دار بہترین اور دائمی

عَيْشُ الْمُنْتَهَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ لَهْ دِينٌ

ہے اور گزاراں انتہائی عمدہ ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کا دین

وَعَلَىٰ وَقَلْبُ الْمُبَجَّلِ وَحَوْضُ الْمَصْفَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

بندشان . دل صاف و شفاف اور حوض صاف ستھرا ہے ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ لَهٗ الشَّرْفُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

آل پر جن کے لیے عظیم شرف ہے دنیا اور آخرت میں ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ لَهٗ الْعِلْمُ وَالْحِلْمُ بِمَا مَنَّتْهُي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کی آل پر کہ جن کا علم بھی اور حلم بھی بے حد و نہایت ہے ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ لَهٗ الْعِزُّ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آپ کی آل پر کہ جن کے لئے عزت اور دنیا میں عزت ہے ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ كَانَ مَعَ اللَّهِ كَانَ

اور آپ کی آل پر کہ جن کا قول ہے " جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا ۔ اور جو اللہ کے ساتھ ہو گا

اللَّهُ مَعَهُ اللَّهُمَّ وَسِّعْ عَلَيَّ الْخَيْرَاتِ وَأَدْفَعْ عَنِّي الْمَصْرَبَاتِ أَنْ تُوسِّعَ عَلَيَّ كُلَّ

اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو گا ۔ اے اللہ مجھ پر امور خیر وسیع فرما اور مجھ سے مضر اشیاء کو دور فرما اور مجھ پر کشادہ فرما

أَمْرٍ ضَيِّقَ اللَّهُمَّ يَا حَكِيمَ حِكْمَتِكَ بِاللِّغَةِ لَا مَرَكَ لَا رَادَّ لِمَرَكٍ وَلَا مُعَقَّبَ

ہر تنگ امر کو ۔ اے اللہ اے حکیم تیری حکمت کامل کرنے والی ہے تیرے امر کو ۔ کوئی رد کر سکنے والا نہیں تیرے امر کو اور نہ موڑنے

لِحُكْمِكَ وَأَسْأَلُكَ بِالْحِكْمَةِ وَمَا حَوَتْ مِنْ بَدَائِعِ الصُّنْعِ وَمُدْرِكَاتِ الرَّحْمَةِ

والا ہے اسے ۔ اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بظہیر تیری حکمت کے اور اس کے احاطے میں آئے ہوئے انوکھے صنائع اور محیط رحمت

وَسَوَائِعِ التَّعْمَةِ أَنْ تَفْتَحَ لِي خَزَائِنَ رَحْمَتِكَ بِمَفَاتِيحِ حِكْمَتِكَ مِنْ بَحَارِ

اور کامل نعمتوں کے کہ کھول دے میرے لیے اپنی رحمت کے خزانے اپنی حکمت کی چابیوں کے ساتھ اپنے بحار

فِيضِكَ بِسَوَائِعِ نِعْمَتِكَ وَأَقْبَتِي عَلَىٰ قَدَمِ الْعِبَادِيَّةِ لِطَاعَتِكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ

فیض سے ساتھ کامل ترین نعمتوں کے اور مجھے قائم فرما عبودیت کے قدموں پر اپنی اطاعت کے لیے ۔ اے اللہ تو ہی

الرَّشِيدُ الَّذِي أَلْهَمْتَ أَهْلَ طَاعَتِكَ الرُّشْدَ بِالصَّوَابِ وَالسَّدَادَ وَالْهَمَّتْ

مالکِ رشد ہے جس نے الہام فرمایا ہے اپنے اہل اطاعت کو رشد اور بھلائی کا ساتھ دینے اور مضبوطی کے اور الہام فرمایا

الذاکرین بالتوفیق بالإقبال والاعتقاد عليك وأسئلك يا من أعطى كل

اہل ذکر کو اپنی توفیق سے اپنی طرف توجہ اور اعتماد کا۔ اور سوال کرتا ہوں تجھ سے اے کہ جس نے عطا کی ہے ہر

شیء خلقہ من الموجودات ودبرك لہا من شانہ من التدبیرات وأسئلك

شیء کو موزوں صورت اور تدبیر فرمائی اس کے شایان شان تدبیر کے ساتھ اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ ہمیشہ

ان تدبیر نظرك الی بالتدبیر اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی ال سیدنا

رکھے مجھ پر اپنی نگاہ کرم ساتھ تدبیر کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

محمد بابك الذی من لم یقصد منه سدا علیہ الطرق والابواب اللہم صل

آل پر جو تیرے ایسے دروازے ہیں کہ جس نے اس سے خیرات لینے کا ارادہ نہ کیا بند کر دئے گئے اس پر تمام راستے اور دروازے

وسلم علی سیدنا محمد وعلی ال سیدنا محمد النور الاعظم وکنز البطلسم

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب نور اعظم ہیں اور طلسمی خزانہ

اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی ال سیدنا محمد الجوهر الفرد والسر

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ جوہر یکتا ہیں اور ایسے

المتد الذی لیس له مثل منطوق ولا شیه مخلوق اللہم صل وسلم علی

طولانی راز کہ جن کی مثل نہ بیان کی گئی ہے اور نہ ان کا مشابہ پیدا کیا گیا ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سیدنا محمد وعلی ال سیدنا محمد الذی جعلته لك طلا و لحوایج خلقك

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہیں بنایا تو نے اپنا عکس و پرتو اور مخلوق کی حاجات کے لیے

قبلہ و محلا اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی ال سیدنا محمد الذی اصطفیٰ

قبلاً اور مرکز۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہیں تو نے چن لیا ہے

لنفسك واقمتہ بحجتك واظهرتہ بصورتك واکمل مخلوقاتك اللہم صل

اپنی ذات کے لیے اور قائم فرمایا ساتھ اپنی محبت کے اور ظاہر کیا انہیں اپنی پسندیدہ صورت پر اور کامل ترین خلقت پر اے اللہ

وسلم علی سیدنا محمد وعلی ال سیدنا محمد الذی اخترتہ مستوی لتجلیك

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کو چن لیا تو نے اپنی تجلی کے لیے موزوں منظر کے

وَمَنْزِلًا لَتَنْفِذًا وَأَمْرًا وَتَوَاهِيكَ وَوَاسِطَةً بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَكُونَاتِكَ

طور پر اور اپنے احکام کے نفاذ کی منزل کے طور پر اور اپنے اور مخلوقات کے درمیان واسطہ وسیلہ کے طور پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ارْتَقَتْ بِهِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی بدولت ارتقاء پائی

الْحَقَائِقُ وَتَنْزَلَتْ عَنْهُ عُلُومٌ آدَمَ فَأَعْجَزَ الْخَلَائِقُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

حقائق نے اور ان کے علوم سے نیچے اترے علوم آدم علیہ السلام کے لیے پس انہوں نے مخلوقات کو عاجز کر دیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَهُ تَضَاءٌ لَيْلِ الْفَهْمِ فَلَمْ يُدْرِكْهُ مِنَّا

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے لیے کمزور و نحیف ہو گئے فہم و ادراک پس نہ پایا انہیں ہم میں سے

سَابِقٌ وَلَا حَقٌّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَرِيَاضُ

کسی پہلے نے اور نہ پچھلے نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ ملکوت خداوندی

الْمَلَكُوتِ بظُهُورِ جِبَالِهِ مُوْنِقَةٌ وَحِيَاضُ الْجَبُرُوتِ بَغِيضِ أَنْوَارِهِ مُتَدَفِّقَةٌ

کے سبزہ زار ان کے ظہور جمال سے متعجب و حیران ہیں عالم جبروت کے حوض ان کے انوار کے فیض سے پھلکنے والے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَا شَيْءَ إِلَّا وَهُوَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ نہیں کوئی شئی مگر وہ ساتھ انہیں کے

بِهِ مَتَوَطُّ وَإِذْ لَوْلَا الْوَاسِطَةُ لَنَهَبَ كَمَا قِيلَ الْمَوْسُوطُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

متعلق و مرتبط ہے کیونکہ جیسے کہا گیا ہے اگر واسطہ نہ ہو تو محتاج قوسل بھی بقرار نہیں رہتا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرِّكَ الْجَامِعِ الدَّالِّ عَلَيْكَ وَحِجَابِكَ الْأَعْظَمِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ تیرے جامع راز ہیں جو تجھ پر دلالت کرنے والے ہیں اور تیرے حجاب اعظم ہیں

الْقَائِمِ لَكَ بَيْنَ يَدَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو تیرے لیے تیرے حضور قائم ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الْحَوْهْرَةَ الْيَتِيمَةَ الَّتِي دَارَتْ عَلَيْهَا أَصْنَافُ الْمَكُونَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کہ جو محبوب ایسے یتیم ہیں کہ انہیں پر مدار سے مخلوقات کے جملہ اقسام کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ التُّورِ الَّذِي فَلَا إِشْرَاقَ لَهُ الْأَرْضِينَ وَالسَّمَوَاتِ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ ایسے نور ہیں کہ ان کی چمک نے معمور کر دیا ہے تمام زمینوں اور آسمانوں کو۔

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَتْ شَرِيعَتُهُ مُقَدَّسَةً طَاهِرَةً

اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی شریعت مقدس و طاہر ہے

وَمُعْجَزَاتُهُ بِأَهْرَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَوَّلِ فِي

اور معجزات واضح ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ اول ہیں

النِّظَامِ وَالْآخِرِ فِي الْخِتَامِ وَالْبَاطِنِ بِالْأَسْرَارِ وَالظَّاهِرِ بِالْأَنْوَارِ وَجَامِعِ الْفُضْلِ وَ

نظام کائنات میں اور آخر ہیں اختتام میں۔ باطن و مخفی ہیں ساتھ اسرار کے اور ظاہر ہیں ساتھ انوار کے اور جمعی ہیں تمام فضائل کے

خَطِيبِ الْوَصْلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبُخْصُوصِ

والے ہیں اور باہم وصل و پیوند کا درس دینے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو مخصوص ہیں

بِالشَّفَاعَةِ الْوَسْطَىٰ وَبِالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ الْعَلِيِّ الْأَسْمَىٰ وَيُدَوِّءُ الْحَمْدَ الْمَعْقُودَ وَالْكَرَمِ

ساتھ عظیم المرتبت شفاعت کے اور ساتھ مقام محمود کہ جو بلند مرتبت اور بلند شان ہے اور ساتھ لواؤ حمد کے جو آپ کیسے تیار کیا گیا ہے اور

وَالْفُتُوَّةِ وَالْجُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ التُّورِ

ساتھ کرم۔ جو انوری اور جود کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کی ذات مجسم نور ہے

الذَّاتِي وَالسِّرِّ السَّارِي فِي سَائِرِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور جو کہ ایسا سرستہ لائے ہیں جو سرایت کئے ہوئے ہیں تمام اسماء و صفات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْبَيَانِ فَصِيحِ اللِّسَانِ طَهَّرِ الْجَنَانَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب صاحب بیان۔ فصیح اللسان ہیں۔ پاکیزہ دل والے ہیں

مِنَ الْأَزَلِ إِلَى الْأَبَدِ سَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ فِي الدَّهْرِ وَالسَّرْمَدِ حَقٌّ قُدْرَةُ عِنْدَكَ وَحَقٌّ

ازل سے ابد تک۔ سردار ہیں دونوں جہان کے ہر زمانہ میں اور ازل سے ابد تک بظہیر ان کی قدر کے اور منزلت کے

جَاهُكَ لَدَيْكَ يَا اللَّهُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ أَفْضَلَ وَأَجْمَلَ وَأَنْبَلَ وَأَظْهَرَ

توڑیک تیرے یا اللہ۔ یا حئی۔ یا قیوم۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما ایسی صلوٰۃ جو کہ تیری تمام صلوات سے افضل و اجمل اور

وَأُظْهِرُوا أَحْسَنَ وَأَبْرَ وَأَكْرَمَ وَأَعَزَّ وَأَعْظَمَ وَأَشْرَفَ وَأَعْلَى وَأَزْكَى وَأَبْرَكَ وَالطَّفَّ

عظیم انسان زیادہ ظاہر اور پاکیزہ تر اور خوبتر اور زیادہ بروا احسان والی بکرامت و عزت والی عظمت و شرافت والی اور اعلیٰ و پاکیزہ تر اور زیادہ برکت و

صَلَوَاتِكَ وَأَوْفَى وَكَثْرًا وَزَيْدًا وَارْتَفَى وَارْفَعَ وَأَدْوَمَ سَلَامِكَ صَلَوَةً وَسَلَامًا

لطافت والی ہو اور ایسا سلام جو زیادہ وافی کثیر و زائد اور بلند و بالا اور دائم ہو تیرے سلاموں سے۔ صلوات و سلام

وَرَحْمَةً وَرِضْوَانًا وَعَفْوًا وَعُفْرَانًا تَمْتَدُّ وَتَزِيدُ بِوَابِلِ سَخَائِبِ مَوَاهِبِ

اور رحمت و رضوان اور عفو و عفران نازل فرما جو بڑھیں اور زیادہ ہوں ساتھ موسلا دھار بارش کے جو نازل ہو تیرے جو و کرم کے

جُودِكَ وَكَرَمِكَ وَتُتَمُّ وَتُدْكَرُ بِنَفَائِسِ شَرَائِفِ لَطَائِفِ لُطْفِ جُودِكَ وَ

مواہب کے بادلوں سے اور کامل ہو اور ذکر کی جائے تیرے جو و احسانات کے نفائس و شرائف اور لطائف لطف کے ساتھ جو دائم ہوں

مِنْكَ دَائِمَةً بِدَوَامِكَ بِأَقْيَةِ بِبِقَائِكَ لَا مُنْتَهَى لِهَادُونَ عَلَيْكَ وَالْأَسْتَهَى

تیرے دوام کے ساتھ باقی ہوں تیری بقا کے ساتھ نہ انتہاء ہو ان کے لیے بغیر تیرے علم کے اور نہیں انتہاء

لِتَعْلُقَ عَلَيْكَ بِمَعْلُومَاتِكَ وَلَا غَايَةَ وَلَا آخِرَ لِقَضَائِكَ وَقَدْرِكَ وَلَطْفِكَ وَ

واسطے تیرے علم کے تعلقات کے ساتھ معلومات کے اور نہیں غایت و انتہاء واسطے تیری قضاء و قدر اور لطف و

عِنَايَتِكَ وَنَصْرَتِكَ لِعِبَادِكَ أَزَلِيَّةً بِأَزَلِيَّتِكَ لَا تَزُولُ أَبَدِيَّةً بِأَبَدِيَّتِكَ

عنايت کے اور تیری نصرت کے واسطے اپنے بندوں کے جو ازلی ہوں مطابق تیری ازلیت کے کبھی زائل نہ ہو۔ ابدی ہوں مطابق تیری

لَا تَحُولُ عَلَى عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ وَحَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

ابدیت کے کبھی متغیر نہ ہوں اپنے عبد خاص اور نبی و رسول اور حبیب محمد صلی اللہ علیہ و آلہ

وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنَبِيِّهِدَايَتِكَ الْأَعْظَمِ وَسِرِّ رَادَتِكَ الْمَكْنُونِ مِنْ

و سلم پر سے اللہ میں سوال کرتا ہوں بظیفیل تیری ہدایت کے نیر اعظم کے اور بظیفیل تیرے ارادہ کے سر مکنون کے جو

نُورِكَ الْمَطْلُوسِ مُخْتَارِكَ مِنْكَ لَكَ قَبْلُ كُلِّ شَيْءٍ وَنُورِكَ الْمَجْرُودِ بَيْنَ سَائِلِكَ

تیرے نور کے نور سے ہیں تیرے مختار جو تجھی سے ہیں اور تیرے لیے ہیں ہر شئی سے پہلے تھے اور تیرے مجرور و خالص نور ہیں

النُّقِيِّ وَكَتَبْتُكَ الَّذِي لَمْ يَحِطْ بِهِ سِوَاكَ وَأَشْرَفِ خَلْقِكَ الَّذِي بِحُكْمِ إِرَادَتِكَ

پاکیزگی کی راہوں میں اور تیرے وہ کتیز کہ جنہیں تیرے سوا کوئی محبط نہیں ہو سکتا اور تیری ساری مخلوق سے اشرف کہ تو نے اپنے ارادہ کے تقاضا کے

تَوْنَتْ مِنْ نُورِهَا أَجْرَامَ الْأَفْلَاكِ وَهِيَ كُلُّ الْأَمْلاِكِ فَطَافَتْ بِهِ الصَّافُونَ

مطابق پیدا کیا ان کے نور سے فلکی اجسام کو اور ملائکہ کے اشخاص کو پس طواف کیا ان کا

حَوْلَ عَرْشِكَ تَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَأَمَرْتَنَا بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ بِقَوْلِكَ وَنَشَرْتَ

تیرے عرش کے گرد صف بستہ ملائکہ نے از روئے تعظیم و تکریم کے اور علم دیا تو نے ہمیں ان پر صلوٰۃ و سلام کا اپنے کلام میں

فَوْقَ هَامَتِهِ فِي تَحْتِ مُلْكِكَ لِيُؤَاءَ حَمْدِكَ وَقَدْ مَتَّعَهُ عَلَى صِنَادِ دِيْدِ جِيُوشِ

اور پھیلایا تو نے ان کے سرناز پر اپنے زیر تصرف اپنا لواہ حمد اور مقدم و قائد بنایا انہیں اپنے تسلط اور قوی غلبہ کے عساکر کے

سُلْطَانِكَ وَبِقُوَّةِ عِزَّتِكَ وَأَخَذْتَ لَهُ عَلَى أَصْفِيَاءِكَ بِالْحَقِّ مِيثَاقَكَ الْأَوَّلَ

سرداروں پر۔ اور لیا ان کی خاطر اپنے اصفیاء پر ساتھ حق کے میثاق اول

وَقَرَّبْتَهُ بِكَ وَمِنْكَ وَلَكَ وَجَعَلْتَ عَلَيْهِ الْمَعُولَ وَمَتَّعْتَهُ بِجَمَالِكَ فِي مَطْهَرٍ

اور مقرب بنایا بطیفیل اپنی ذات کے اور اپنی طرف سے اور اپنے لیے۔ اور کیا انہیں پر اعتماد اور نفع اندوز فرمایا انہیں ساتھ اپنے جمال کے

بِحَبْلِكَ وَخَصَّصْتَهُ بِقَابِ قَوْسَيْنِ قُرْبِ الدُّنُوِّ وَالتَّدْلِيِّ وَرَجَّيْتَهُ فِي نُورِ

اپنے نظر تجلیات میں اور مخصوص ٹھہرایا انہیں ساتھ "قاب قوسین" کے قرب و نزدیکی کے اور چلایا انہیں اپنے

الْوَهْيَتِكَ الْعُظْمَى وَعَرَفْتَهُ بِأَدَمِ حَقَائِقِ الْحُرُوفِ وَالْأَسْمَاءِ فَمَا عَرَفَكَ مَنْ

الوہیت عظمیٰ کے نور میں اور انہیں کے طفیل جتلائے آدم علیہ السلام کو حروف و اسماء کے حقائق پس نہیں پہچانا تجھے جس کے

عَرَفَكَ إِلَّا بِهِ وَمَا وَصَلَ مِنْ وَصَلٍ إِلَيْكَ إِلَّا مَنْ اتَّصَلَ بِسَبَبِهِ وَخَلِيفَتِكَ

پہچانا مگر ساتھ ان کے اور نہیں واصل ہوا جو بھی واصل ہوا تجھ تک مگر بوسیدہ ان کے۔ اور تیرے خلیفہ ہیں

بِمَحْضِ الْكَرَمِ عَلَى سَائِرِ مَخْلُوقَاتِكَ وَسَيِّدُ أَهْلِ أَرْضِكَ وَسَمَوَاتِكَ وَخَصِيصٌ

محض تیرے کرم سے ساری مخلوق پر اور سردار ہیں تمام اہل ارض اور اہل سموات کے اور مخصوص ہیں

حَضْرَتِكَ بِمَخَصَّائِصٍ نِعْمَاتِكَ وَفِيُوضَاتِ الْأَرْبَابِ وَأَعْظَمُ مَنَعُوتٍ وَأَقْسَمَتْ

تیری بارگاہ کے تیری مخصوص نعمتوں اور تیرے نعمات کے فیوض کے ساتھ اور عظیم ترین موصوف ہیں اور قسم اٹھائی ہے تو نے

بِعَمْرِهِ فِي كِتَابِكَ وَفَضَّلْتَهُ بِمَا فَضَّلْتَ بِهِ مِنْ أَسْرَارِ خَطَابِكَ وَفَتَحْتَ بِهِ أَقْفَالَ

ان کی حیات مقدسہ کی اپنی کتاب میں اور فضیلت دی انہیں بے نہایت اپنے اسرار خطاب سے۔ اور کھولے ان کے ذریعے

أَبْوَابِ النَّبُوءَةِ وَالْجَلَالَةِ وَخَتَمَتْ بِهِ دُورَ دَائِرِ مَظَاهِرِ الرِّسَالَةِ وَرَفَعَتْ ذِكْرَهُ

ابواب نبوت و جلالت کے تالے اور ختم فرمایا انہیں کے ساتھ مظاہر رسالت کے دائروں کا دور اور بلند کیا ان کا ذکر ساتھ

مَعَ ذِكْرِكَ وَسَيِّدَاتِهِ بِنِسْبَةِ الْعُبُودِيَّةِ إِلَيْكَ فَخَضَعَ لِأَمْرِكَ وَشِيدَتْ بِهِ قَوْلَانِهِمْ

اپنے ذکر کے اور شرف بخشا انہیں اپنی طرف عبودیت کی نسبت سے پس انہوں نے تسلیم فرمایا تیرے امر کیلئے اور مضبوط کیا بطفیل ان کے

عَرْشِكَ الْمَحْوَطِ بِحَيْطَتِكَ الْكُبْرَى وَأَنْطَقَتْهُ بِسُنْطِقَةِ الْعِزِّ فِي سُنْطِقَةِ عِزِّهِ عَزُّ

اپنے عرش کے پاویں کو جس کا احاطہ کیا ہے تو نے اپنے عظیم وسعت کے ساتھ اور ان کو عزم و جہاد کا کر بند باندھا پس ان کے منطقہ عزت سے ہی

أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَى وَالْبِسْتَةَ مِنْ سُرَادِقَاتِ جَلَالِكَ أَشْرَفَ حُلَّةٍ وَتَوَجَّهَتْ

ہے عزت دنیا و آخرت والوں کی۔ اور پہنایا تو نے ان کو اپنے سراپردہ جلال سے شریف ترین حلد اور ان کو پہنایا

بِتَاجِ الْكِرَامَةِ وَالْمُحِبَّةِ وَالْخُلَّةِ وَنَبِيِّ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمَبْعُوثِ بِأَمْرِكَ

کرامت اور محبوبیت اور خلعت کا تاج اور انبیاء و مرسلین کی نبوت کا تاج، جو مبعوث ہیں تیرے امر سے

إِلَى الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ بِحَرْفِيضِكَ الْمَتَلَاظِمِ بِأَمْوَاجِ الْأَسْرَابِ وَسَيْفِ عِزِّكَ

ساری مخلوق کی طرف۔ جو تیرے فیض کا بحر موج میں ساتھ امواج اسرار کے۔ اور تیرے عزم کی سیف قاہرہ ہیں

الْقَاهِرِ الْحَاسِمِ لِحَزْبِ الْكُفْرِ وَالْبَغْيِ وَالْإِنْكَارِ أَحْمَدُكَ الْمَحْمُودُ بِلِسَانِ التَّكْرِيمِ

جو جلانے والے ہیں کفر و بغاوت اور انکار کے شکر کو جو تیرے احمد ہیں جن کی حمد کی گئی ہے ساتھ زبان تکریم کے

وَمُحَمَّدُكَ الْعَاشِرُ الْعَاقِبُ الْمَسْتَبِيُّ بِالرَّءُوفِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي بِرَأْسِي

اور تیرے محمد ہیں جو صاحب حشر اور آخر الزمان ہیں جن کو رؤف و رحیم کا لقب دیا گیا ہے۔ اے اللہ بنا میرے لیے بطفیل اپنی

بَسَاطٍ وَوَحْدَانِيَّةٍ وَيَا زَعَايِرَ تَجَاجِرَ أَمْوَاجِ بَحْرِكَ الْمَحِيْطِ فَإِنَّ الْمَحِيْطَ الْبَحْرُ

بساط و وحدانیت کے ربط و تعلق کے اور بطفیل اپنے بحر محیط کی موجوں کی جنبش اور تحریک کے کیونکہ جو محیط محض ہو

لَا يُحَاطُ وَالْبَسِيطُ الْمَحْضُ تَعَالَى عَنِ الْجِنْسِ وَالْجِهَاتِ يَا بَرَأْنْتَ الَّذِي أَحْسَنْتَ

اس کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا اور بسیط محض جنس اور جہات سے بالاتر ہے اے نیکو کار تو ہی ہے جس نے احسان کیا

لِكُلِّ مَخْلُوقٍ بِقُدْرَتِكَ وَأَنْتَ الَّذِي أَحْفَيْتَ كُلَّ نَاقِصٍ وَأَخْفَيْتَ أَمْرًا فِي

ہر مخلوق پر اپنی قدرت سے اور تو ہی ہے جس نے پردہ ڈالا ہر ناقص پر اور پوشیدہ کیا اس کے امر کو اپنے امر میں

أَمْرِكَ وَأَنْتَ الْمُحْسِنُ التَّفَضُّلُ عَلَى مَنْ أَقْبَلَ عَلَيْكَ بِخُلُوصِ الْإِيمَانِ

اور تو ہی ہے فضل و احسان فرمانے والا ان پر جو متوجہ ہوئے تیری طرف ساتھ خلوص ایمان کے جب کہ

رَاجِعًا إِلَيْكَ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَأَنْتَ الَّذِي تُقْصِمُ الْبُعَاثَ وَتَشْدِدُ الْعِقَابَ

رجوع کرنے والے ساتھ طرف تیرے ساتھ دل اور زبان کے اور تو ہی ہے جو کمر توڑتا ہے باغیوں کی اور سخت کرتا ہے عتاب

عَلَى الطُّغَاةِ وَتَعْفُو عَنِ الْمُدْبِئِينَ وَتُبْتَلُّ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ذُو الرَّأْفَةِ فِي حَقِّ

سرکشوں پر اور گناہگاروں سے درگزر کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدلتا ہے۔ رافت والا ہے رضا پیشہ کے

الرَّاضِينَ وَالرَّحِمَةَ فِي حَقِّ الطَّالِبِينَ وَالْعِزَّةَ وَالْكَبْرِيَاءَ فِي حَقِّ الْأَرْبَابِ وَالرَّازِحِينَ

حق میں۔ اور رحمت والا ہے اہل طلب کے حق میں اور عزت و کبریاہ والا ہے رجوع اور بازگشت والوں کے لیے

إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَا مَنَعَ أَنْتَ الَّذِي نَعَتَ حَيَاتِكَ مِنْ قُلُوبِ الْفَجْرَةِ وَأَنْتَ الَّذِي

تا روز قیامت۔ اے روکنے والے تو ہی جو روک رکھتا ہے اپنی حیات کو فجر کے قلوب سے۔ اور تو ہی ہے جس نے

أَعْيَيْتَ الْفِتْنَةَ الْكُفْرَةَ وَأَنْتَ الَّذِي حَجَبْتَ قُلُوبَ الْأَعْدَاءِ عَنْ رُؤْيَةِ مَنَازِلِ

اندھا کیا جماعت کفار کو اور تو ہی ہے جو محبوب و محروم رکھتا ہے اعداء کے قلوب کو بزرگوں اور نیکو کاروں کے

الْكَرَامِ الْبَرَّةِ أَسْأَلُكَ بِحَيَاتِكَ الْقَائِمِ وَظُهُورِ فَضْلِكَ الدَّائِمِ أَنْ تَسْمَعَ عَنِّي

منازل کرامت کے دیکھنے سے میں طلب کرتا ہوں بطفیل تیری پائیدار حیات کے اور تیرے دائم و ظاہر فضل کے کہ روکے مجھ

كَيْدِ الشَّيْطَانِ وَأَنْ تُدْخِلَنِي دَارَ الْأَمْنِ وَالْأَمَانَ وَتَجْعَلَنِي رَاضِيًا بِحَقِّي

سے شیطان کے مکر و فریب کو اور داخل فرمائے مجھے امن و امان کے دار میں اور مجھے رضا مند فرمائے ساتھ میرے

مِنْكَ فِي الْجَنَّةِ يَا قَوِيَّ الْبُرْهَانَ يَا عَظِيمَ الشَّانِ وَالْإِحْسَانَ اللَّهُمَّ أَبْرِدْ

جنت والے حصے کے اے قوی برہان والے۔ عظیم شان اور احسان والے۔ اے اللہ ٹھنڈا فرما

عُغْلَلِ الْوَالِ بِوَلُولِ الْوَالِ هَاطِلِ الْكَافِلِ مُهَلِّلِ التَّوَابِلِ عَلَى هَائِلِ قَرَاوِلِ

والی کی شدت کو ساتھ والی کی فریاد و زاری کے جو سلا دھار بارش جو کفالت کرنے والی ہو۔ چمکتے زائد بادلوں والی خوفزدہ محتاط آبی

أَرَادِلِ الْأَفِلِ السَّافِلِ وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ حِمْلَهُ

جانوروں پر اور گھٹیا۔ ڈوبنے والے بستی میں گرنے والوں پر اور وہی ہے جو نازل فرماتا ہے بارش بعد ان کی مایوسی کے اور عام کرتا ہے اپنی

وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى الْحَمَالِ الْأَنْفَسِ وَالنُّورِ الْأَقْدَسِ وَ

رحمت کو وہی مالک تصرف قابل حمد و ثنا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما مجسم جمال نفیس اور نور اقدس پر اور

الْحَبِيبِ مِنْ حَيْثُ الْهَوِيَّةُ وَالْمَرَادُ فِي اللَّاهُوتِيَّةِ وَمُتَرَجِّمِ كِتَابِ الْأَزْلِ وَالْمُنْتَهَى

جو حبیب ہیں از روئے ذات و حقیقت کے اور مراد و مطلوب ہیں لاہوت میں اور ترجمان ہیں کتاب ازل کے اور بالا و بلند ہیں

بِالْحَقِيقَةِ عَنِ حَقِيقَةِ الْأَثَرِ كَأَنَّهُ الْمَثَلُ وَالْجَنْسُ وَالْأَعْلَى وَالْمَخْصُوصِ وَالْأُولَى وَ

ساتھ حقیقت کے حقیقت اثر اور عکس و پرتو سے گویا کہ وہ مثل و جنس ہیں (ظاہر میں) اور اعلیٰ و ارفع اور مخصوص و اولیٰ ہیں حقیقت

الْحِكْمَةِ السَّارِيَةِ فِي كُلِّ مَوْجُودٍ وَالْحِكْمَةِ الْكَابِحَةِ لِكُلِّ كُتُوبِ رُوحِ صُورِ الْأَسْرَارِ

میں، اور سرا یا حکمت جو سر بیان کئے ہوئے ہے ہر موجود میں اور ایسی حکمت جو کام لینے والی ہے ہر سرکش کو۔ اسرار ملکوتیہ کی صورتوں کے لیے روح ہیں

الْمَلَكُوتِيَّةِ وَكُتُوبِ نَقُوشِ الْعُلُومِ الْأَحَدِيَّةِ مُحَمَّدًا وَاحِدًا وَتُرَا الْعَدَدِ وَلِسَانِ

اور علوم احدیت کے نقوش کے لیے لوح ہیں اور جو تیری طرف سے بار بار حمد کئے ہوئے اور تیری بہت زیادہ تعریف کرنے والے۔ یکتا۔ ترجمان

الْأَبَدِ وَالْعَرْشِ الْقَائِمِ بِتَحْمِيلِ كَلِمَةِ الْإِسْتِوَاءِ الذَّاتِيَّ بِلَا عَارِضٍ وَالْمُتَجَلِّيَّ

ابد اور ایسے عرش جو قائم ہیں بلا کی معارض کے ساتھ استواء ذاتی والے کلمہ کو برداشت کرنے کے اور جلوہ نگن ہیں

بِسُلْطَانِ قَهْرِكَ عَلَى ظُلْمِ الْأَغْيَارِ لِمَحَقِّ كُلِّ مُعَارِضٍ وَالنَّقْطَةِ الَّتِي عَلَيْهَا

ساتھ تیرے قہر و تسلط کے ظلمتہائے اغیار کے تاریک سایوں پر واسطے مٹانے ہر معارض کے اور جو ایسے نقطہ ہیں کہ انہیں پر ہے

مَدَارِ حُرُوفِ الْمَوْجُودَاتِ بِجَمِيعِ الْأَعْتِبَارَاتِ وَالصَّاعِدِ فِي مُعَارِجِ الْقُدْسِ

حروف موجودات کا دار و مدار پر اعتبار سے اور جو چڑھنے والے ہیں تقدس کی بلندیوں پر

حَتَّى لَا يَدْرَكَ كُنْهَهُ وَعَلَى إِلَهٍ وَصَحْبِهِ وَشِيعَتِهِ وَحَزْبِهِ أَيْدِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

یہاں تک کہ نہیں پائی جاسکتی کُنْہ اور حقیقت ان کی اور آپ کے اہل و اصحاب اور جماعت و حزب تمام پر آمین۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا

أَنْ تُصَلِّيَ وَتُسَلِّمَ بِأَفْضَلِ مَا تُحِبُّ وَأَكْمَلِ مَا تُرِيدُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبِيدِ وَرِئَاسَةِ أَهْلِ

ہوں کہ تو صلوٰۃ و سلام نازل فرمائے پسندیدہ صلوات میں سے افضل اور مراد و مطلوب صلوات میں اکمل صلوٰۃ اپنے بندوں کے سردار اہل توحید

التَّوْحِيدِ وَنُقْطَةِ دَوَائِرِ الْمَزِيدِ وَكُتُوبِ الْأَسْرَارِ وَنُورِ الْأَنْوَارِ وَمَلَاذِ أَهْلِ الْأَعْصَارِ وَ

کے امام اور مزید انعام و اکرام کے مرکز و دائرہ اور لوح اسرار اور نور الانوار۔ تمام اہل ازمنہ کے علما و ماویٰ پر

وَحَاطِبٍ مُنَابِرٍ لَا يَدْبُرُ لِسَانِ الْأَزَلِ وَظَهَرَ أَنْوَارِ اللَّاهُوتِ فِي النَّاسُوتِ وَالْمَثَلِ

اور ابدیت کے منبروں پر ازلیت کی زبان میں خطبہ دینے والے پر۔ الوہیت کے انوار کے عالم اجسام میں منظر پر اور اعلیٰ تحقیق پر

الْقَائِمِ بِكُلِّ حَقِيقَةٍ سِرًّا كَانَ أَوْ مُحْكِمًا وَالْوَاسِعِ لِتَنْزَلَاتِ الرَّضَى تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا

جو قائم رکھے ہر حقیقت کو۔ اور ماکان و مایحون کے راز سر بستہ پر اور تشریف و تعظیم کی خاطر تنزلات رضا کی گنجائش رکھنے والے

وَمَا لِكَ أَرْمَةِ الْأَمْرِ الْإِلَهِيِّ تَهَيُّنًا وَاسْتِعْدَادًا اللَّهُمَّ اسْأَلُكَ فَسَالِكَ الْعِبُودِيَّةِ ائْتَادًا

پر اور امر الہی کی باگ ڈور کے مالک پر از روئے لیاقت و استعداد کے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عبودیت کی راہوں کا

وَاسْتِعْدَادًا اِسْتِمْدَادًا جُنُودِ الْمَظَاهِرِ الْكَمَالِيَّةِ وَشَمْسِ افَاقِ الْمَشَاهِدِ الْجَمَالِيَّةِ وَ

از روئے امداد و استمداد کے بطفیل مظاہر کمالیہ کے سلطان جنود کے اور مشاہد جمالیہ کے شمس آفاق کے اور

الْمَصَلِيِّ لَكَ بِكَ عِنْدَكَ فِي جَوَامِعِ أَسْمَائِكَ وَصِفَاتِكَ وَالْمَحَلِيِّ بِزَوَاهِرِ جَوَاهِرِ

بطفیل نماز ادا کرنے والے کے واسطے تیرے ساتھ تیرے۔ نزدیک تیرے۔ تیرے تمام جامع اسماء و صفات میں اور بطفیل زینت

اِخْتِصَاصَاتِ أَوْلِيَاءِ حَضْرَاتِكَ وَالْوُتْرِ الْمَطْلُوقِ فِي حَقِّ نُبُوَّتِهِ عَنِ الْأَشْبَاهِ وَ

بانے والے کے ساتھ چمکدار جواہر اختصاصات کے جو واسطے تیرے اولیاء اور مقربان بارگاہ کے ہیں اور جو کیتائے مطلق ہیں اپنی نبوت کے

النَّظَائِرِ وَالْفُرْدِ الْمُقَدَّسِ بِسِرِّ الْمَحْمُودِيَّةِ عَنِ اقْتِرَانِ مَدَانَةِ مَقَامِهِ فِي الْبَاطِنِ

معاملہ میں اشیاء و نظائر سے اور بطفیل اس فرد و یگانہ کے جو سر محمدیت کی بدولت پاکیزہ ہیں اپنے مقام میں حقارت و ذالت کے اقتران سے باطن

وَالظَّاهِرِ وَالْأَبِ الرَّحِيمِ وَالسَّيِّدِ الْعَلِيمِ مَا حِي ظُلُمَاتِ الْأَوْهَامِ بِشِعَاءِ الْحَقِّ وَ

و ظاہر میں اور رحیم باپ اور صاحب علم آقا۔ اوہام کی ظلمتوں کے مٹانے والے ساتھ حق و یقین کی شفاعتوں کے

الْيَقِينِ وَقَاطِعِ شُبُهَاتِ التَّمْوِيهِ الشَّيْطَانِيِّ بِقَاهِرِ بَاهِرِ التُّورِ الْمُبِينِ وَالشَّافِعِ

اور شیطانی ملع کاری کے شبہات کے قطع کرنے والے ہیں ساتھ غالب اور واضح نور مبین کے۔ عظیم ترین شفیع

الْأَعْظَمِ وَالْمَشْفَعِ الْكَرِيمِ وَالصِّرَاطِ الْأَقْوَمِ وَالذَّاكِرِ الْمُحْكَمِ وَالْحَبِيبِ الْأَخْصِ

اور مکرم ترین مقبول الشفاعت اور مضبوط ترین راہ اور مستحکم صاحب ذکر۔ حبیب اخص اور

وَالدَّلِيلِ الْأَنْصِ وَالْمُتَجَلِّيِّ بِلَا يَسِ الْحَقَائِقِ الْفُرْدِ اِنِّيَّةِ الْمَتَّبِعِ بِصَفْوَةِ الشُّيُونِ

اور واضح ترین دلیل اور جلوہ نگر حقائق فردانیہ کے مہوسات میں۔ ممتاز ساتھ خالص شیون

الرَّبَّانِيَّةَ وَالْحَافِظَةَ عَلَى الْأَشْيَاءِ وَقَوَاهَا بِقُوَّتِكَ الْمُهَيَّبَةَ لِذَرَاتِ الْكَائِنَاتِ بِمَا بِهِ

ربانیہ کے اور محافظت فرمانے والے اشیاء اور ان کے قوائے مدبرہ پر ساتھ تیری قوت و قدرت کے۔ امداد ہم پہنچانے والے۔ ذرات

بُرَزَاتٍ مِنْ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ بِقُدْرَتِكَ وَكِعْبَةِ الْإِخْتِصَاصِ الرَّحْمَانِيِّ وَمُحِبَّةِ

کائنات کو کہ جس کی بدولت ظاہر کئے گئے عدم سے وجود کی طرف ساتھ تیری قدرت کے اختصا صرحمانی کے کعبہ اور

التَّعِينِ الصَّمَدَانِيِّ وَقِيَّومِ الْمَعَاهِدَةِ الَّتِي سَجَدَتْ لَهَا جِبَاهُ الْعُقُولِ وَأَقْتَنُومِ

تعیین صمدانی کے مقصود و مدعا۔ اور قائم رکھتے والے اس معاہدہ کے جس کی وجہ سے سجدہ ریز ہوئیں پیشانیوں عقول کی اور

الْوَحْدَةِ وَلَا أَقْتَنُومِ وَإِنَّمَا نُورُكَ بِنُورِكَ مُوَصُولٌ وَأَفْضَلُ مَنْ أَظْهَرْتَ وَ

وحدت کے عنصر و جوہر جبکہ درحقیقت کوئی عنصر نہیں اور جزا ای نیست کہ تیرا ہی نور تیرے نور کے ساتھ موصول ہے۔ اور جو افضل ہیں ان تمام

سَتَرْتَ مِنْ خَلْقِكَ الْكِرَامِ وَأَكْمَلْ مَا أَبْدَيْتَ وَأَخْفَيْتَ مِنْ مَخْلُوقَاتِكَ

اسے جنہیں تو نے ظاہر کیا اور چھپا یا اپنی بزرگ مخلوق میں سے اور اکمل ترین ہیں تیری مخلوقات عظیمہ سے جنہیں تو نے نمایاں کیا اور مخفی فرمایا

الْعِظَامِ وَمُنْتَهَى كِمَالِ النُّقْطَةِ الْمَفْرُوضَةِ فِي دَوَائِرِ الْإِنْفِعَالِ وَمَبْدِءِ مَا

اور منتمائے کمال ہیں اس نقطہ کے جو فرض کیا گیا ہے انفعال و تاثر کے دائروں میں اور مبدء ہیں ہر اس شئی کے

يَصِحُّ أَنْ يَشْبَهَهُ اسْمُ الْوُجُودِ الْقَابِلِ لِتَنَوُّعَاتِ الْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ فِي الْأَقْوَالِ

جس کو وجود کا اسم شامل ہو سکتا ہے جو قابل ہے واسطے اقسام و انواع قضاء کے اور قدر کے اقوال و

وَالْأَفْعَالِ وَظِلِّكَ الْوَارِفِ عَلَى مَمَالِكِ حَيْطَتِكَ الْإِلَهِيَّةِ وَفَضْلِكَ الدَّارِفِ

انفعال میں اور جو تیرے ظل دراز و وسیع ہیں تمام ممالک پر جو تیرے احاطہ الہیہ میں ہیں اور تیرے فضل میں جو بڑے والے

عَلَى مَا سَوَاكَ مِنْ حَيْثُ أَنْتَ أَنْتَ بِمَا شِئْتَ مِنْ فَيُوضَاتِكَ الْعَلِيَّةِ وَسَرِيرِ

ہیں تمام ما سوائے تیری ذات کے اس حیثیت سے کہ تو ہے جو چاہا تر نے اپنے فیوضات عالیہ سے اور معنوی

الْإِسْتِوَاءِ الْمَعْنَوِيِّ وَسِرِّ السَّرَائِرِ الْكَثْرِ الْأَحَدِيِّ الصَّمَدِيِّ وَشَامِلِ الدَّعْوَةِ لِلْعَالَمِ

استواء کے معنوی ہیں اور سرا سرائر ہیں واسطے کثر احمدیت و صمدیت کے اور محیط دعوت والے ہیں واسطے تمام جہان کے

تَفْصِيلاً وَجَمَالاً وَأَكْمَلَ خَلْقِكَ تَفْصِيلاً وَجَمَالاً لَمْ يَبْهَأْ قَلَّتِ الْعَثَرَاتُ وَ

ازروئے تفصیل و جمال کے اور تیری ساری مخلوق سے اکمل ہیں ازروئے تفصیل و جمال کے اور جن کے طفیل رجوع کیا گیا لغزشتات اور

لِاجْلِهِ غُفِرَتْ الزَّلَّاتُ وَبِفَضْلِهِ عُبِدَتْ الْأَرْضُونَ وَالسَّمَوَاتُ وَبِذِكْرِهِ عُبِدَتْ

کے طفیل نبی گئیں غلطیاں اور ان کے فضل و کرم سے ہی آباد ہوئیں زمینیں اور آسمان اور ان کے ذکر سے ہی آباد ہوئے

شَرَّائِفُ الْمَقَامَاتِ وَلَهُ أَخْدَمَتْ الْمَلَائِكَةُ وَالْأُولَى

بزرگ مقامات اور انہیں کے خدمت گزار ہوئے ملائکہ اور انہیں ہر شے فرمائی ہے تو نے آخرت میں اور دنیا میں

وَمِمَّا أَوْدَعَتْ فِي كَنْزِهِ أَنْفَقَتْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ مُمْلُوٌّ عَلَى حَالِهِ وَكَمَا

اور جو ودیعت فرمایا ان کے خزانہ میں اسی سے خرچہ فرمایا تو نے ہر شے پر اور وہ خزانہ اسی طرح بھرا ہوا ہے اور جیسے تو نے

أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ وَحَقَّقْتَهُ فِيهِ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى جَمِيعِ خَوَاصِّ مَقَامِكَ الْأَقْدَسِ

نازل کیا ان پر اور محقق فرمایا ان میں۔ اور فضیلت دی تو نے انہیں اپنے مقام اقدس کے جملہ خواص پر۔

اللَّهُمَّ اهْدِنَا بِنُورِكَ إِلَيْكَ وَأَقْبِنَا بِصَدْقِ الْعِبَادِيَّةِ بَيْنَ يَدَيْكَ اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَرْئِ

اے اللہ ہمیں واصل فرما اپنے نور کے ساتھ اپنی ذات تک اور قائم فرما ہمیں عبودیت صادقہ کے ساتھ اپنے حضور میں۔ اے اللہ اے صاحب

الَّذِي لَا يَكْفَى إِمْتِنَانُهُ وَالطُّوْلُ الَّذِي لَا يَجْزِي إِعْطَاؤُهُ وَإِحْسَانُهُ نُسُوكُكَ

احسان جس کے احسان کا بدلہ نہیں دیا جاسکتا۔ اسے مالک قدرت و طاقت کہ نہیں جزا دی جاسکتی اس کے انعام و احسان کی سوال کرتے ہیں تجھ سے ساتھ تجھ کے

وَلَا نَسْأَلُ بِأَحَدٍ غَيْرِكَ أَنْ تُطْلِقَ السُّنْتَ عِنْدَ السُّؤَالِ وَتُوفِّقَنَا لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ

اور نہیں سوال کرتے تیرے غیر سے کہ رواں فرمائے ہماری زبانوں کو بوقت سوال اور توفیق دے واسطے اعمال صالحہ کے

وَتَجْعَلَنَا مِنَ الْأَمْنِينَ يَوْمَ الرَّجْفِ وَالزَّلْزَلِ يَا ذَا الْعِزَّةِ وَالْجَلَالِ أَسْأَلُكَ يَا

اور بنائے ہمیں امن والوں سے لرزوں اور زلزلوں کے دن اے عزت و جلال والے۔ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے

نُورِ النُّورِ قَبْلَ الْأَزْمِنَةِ وَالذُّهُورِ أَنْتَ الْبَاقِي بِلَا زَوَالٍ الْغَنِيُّ بِلَا مِثَالٍ

نور النور جو موجود تھا تمام زمانوں اور دہروں سے قبل تو ہی باقی ہے بغیر زوال کے اور بے نیاز ہے بغیر کسی مثال کے

الْقُدُّوسِ الطَّاهِرِ الْعَلِيِّ الْقَاهِرِ الَّذِي لَا يَحِيطُ بِهِ مَكَانٌ وَلَا يَشْتَبِلُ عَلَيْهِ

بہت پاکیزہ و مقدس ہے بلند شان اور غالب ہے جس کو نہ کوئی مکان محیط ہے اور نہ اس کو زمانہ محیط ہو

زَمَانٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَظِيمِ قَدِيمِ كَرِيمٍ مَكْنُونٍ مَخْرُومٍ أَسْأَلُكَ وَ

سنتے ہے۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بظہیر اپنے ان اسماء کے جو عظیم و قدیم۔ بزرگ و مخزون ہیں اور

وَبِأَنْوَاعِ اجْتِنَاسِ رُقُومِ نَقُوشِ أَنْوَارِكَ وَبِعَزِيزِ اعْزَازِ تَعَزُّزِ عِزَّتِكَ وَبِحَوْلِ

بطفیل تیرے انوار کے نشانات و نقوش انواع و اجناس کے اور بطفیل تیری عزت کے غلبہ

طَوْلِ جَوْلِ شَدِيدِ قُوَّتِكَ وَبِقَدْرِ مَقْدَادِ اقْتِدَارِ قُدْرَتِكَ وَبِتَأْيِيدِ تَحْيِيدِ

واعزاز کامل کے اور بطفیل تیری قوت شدیدہ کی جولانی اور طاقت و قدرت کے اور بطفیل تیری قدرت اقتدار کی قدر و مقدار کے اور بطفیل تیری عظمت

تَعْجِيدِ تَعْظِيمِ عَظَمَتِكَ وَبِسُوْنِ مَوْعَلُوْرُفْعَتِكَ وَبِقِيَوْمِ دِيَوْمِ دَوَامِ مَدَدَتِكَ

کی تعظیم و تمجید اور ستائش و تائید کے اور بطفیل اپنی رفعت کی بلندی و افزائش اور رفعت کے اور بطفیل اپنے دوام مدت کی پائیداری اور ہمیشگی کے

وَبِرِضْوَانِ عُفْرَانِ أَمَانِ مَغْفِرَتِكَ وَبِرَفِيعِ بَدَائِعِ مَنِيَعِ سُلْطَانِكَ وَسَطْوَتِكَ

اور بطفیل اپنی مغفرت کی امان و عفران اور رضوان کے اور بطفیل اپنے تسلط کے جو محفوظ انوکھا اور بلند و بالہے اور اپنی سطوت کے طفیل

وَبِرَهْوَتِ عَظْمَوْتِ جَبْرَوْتِ جَلَالِكَ وَبِصِدَاقِ سَعَاتِ سِعَةِ سَاطِرِ حَمَتِكَ

اور جلال کے غلبہ و عظمت و مضبوطی کے طفیل۔ اور اپنے بساط رحمت کی وسعت و فراخی کے صلہ جات کے طفیل اور

وَبِلَوَامِعِ بَوَادِقِ صَوَاعِقِ عَجْمِ رَهْمِ وَهَيْجِ بَهَيْجِ نُورِ ذَاتِكَ وَبِبَهْرَقَهْرِ

اپنے نور ذات کی رونق اور روشنی۔ برسات اور شہرت

جَهْرِ مِيْمُونِ ارْتِبَاطِ وَحْدَانِيَّتِكَ وَبِهْدِيرِ هَيْارِ تِيَارِ نِيَارِ أَمْوَاجِ بَحْرِكَ الْمِيْطِ

و بلند آوازہ اور صواعق اور بجلیوں کی چمک و دمک کے طفیل اور بطفیل اپنی وحدانیت کے مبارک ربط و تعلق کے ظہور و غلبہ اور وضاحت

بِمَلَكُوتِكَ وَبِالْتِّسَاحِ انْفِصَاحِ مِيَادِيْنِ بَرَازِ خُكْرِ سِيْكَ وَبِهَيْكَلِيَّاتِ عَلَوِيَّاتِ

کے۔ اور بطفیل تیرے ملکوت کو محیط سمندر کی امواج کی آواز جو واضح شدید متحرک اور کثیر پانی والی ہیں۔ اور بطفیل اپنی کرسی کے برزخوں اور میدانوں کی

رُوحَانِيَّاتِ أَمْلَاكِ أَفْلَاكِ عَرْشِكَ وَبِالْأَمْلَاكِ الرُّوحَانِيَّةِ الْمُدَبَّرِيْنَ لِلْكُؤَاكِبِ

وسعت و کشادگی کے اور بطفیل اپنے عرش کے افلاک کے ملائکہ کی روحانیات علویہ کے ہیاکل و اشخاص کے اور بطفیل ان ملائکہ روحانیین کے جو مدبر ہیں ان

الْمُدَبِّرَةِ بِأَفْلَاكِكَ وَبِحَنِيْنِ أُنْيُنِ تَسْكِيْنِ قُلُوبِ الْمُرِيْدِيْنَ بِقُرْبِكَ وَبِخَصَعَاتِ

کواکب کیلئے جو گردش کنعالت ہیں ساتھ تیرے افلاک کے اور بطفیل شوق و رغبت اور آہ و بکا اور تسکین قلوب ان لوگوں کے جو ارادہ رکھتے ہیں تیرے قریب اور بطفیل

حَرَاقَاتِ زَفْرَاتِ الْخَائِفِيْنَ مِنْ سَطْوَتِكَ وَبِأَمْالِ نَوَالِ الْمَجْتَهِدِيْنَ فِي

خضوع اور تپش و حرارت اور آہائے سردان لوگوں کے جو خوفزدہ ہیں تیری سطوت اور بطفیل آرزوں۔ عطاؤں اور اقوال ان لوگوں کے جو جہد و جدوجہد کرتے ہیں

مَرْضَاتِكَ وَ بِتَخَضُّعٍ تَفْضِيْعٍ تَقْطَعُ تَعْظِيْمًا مَرَاتِرِ الصَّابِرِيْنَ عَلٰی بَلْوَايِكَ وَ

تیری رضامندی میں اور بطفیل سرنگونی۔ زردی۔ گھبراہٹ اور عظمت ان لوگوں کے تہوں کے جو صبر کرنے والے ہیں تیری آزمائشوں پر اور

بِتَعَبُدٍ تَمَجِّدٍ تَجَلِّدِ الْعَابِدِيْنَ عَلٰی طَاعَتِكَ فِيْ حُبِّكَ وَ اِتِّبَاعِهِ بِحُرْمَتِهِ وَ بِعِزَّتِهِ

بطفیل سخت عبادت اور مجدد شرف اور جرات جسارت ان لوگوں کے جو عبادت گزار ہیں تیری اطاعت پر تیری محبت میں اور ان کی اتباع میں بطفیل ان کی

و بِشَرَفِهِ وَ يَقْبُوْلُهُ عِنْدَكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَ الدُّنْيَا

حرمت و عزت اور شرف و قبولیت کے تیرے ہاں۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عفو و عافیت کا دینے و دنیا

وَ الْاٰخِرَةِ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْنَا بِسُتْرِكَ الْجَمِيْلِ وَاَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَ تَسْتُرَ لِيْ عِيُوْبِيْ

اور آخرت میں۔ اے اللہ ہمیں مستور فرمانا اپنے ستر جمیل کے ساتھ اور میرے گناہ معاف فرما اور تمام عیوب پر پردہ ڈالا

كُلِّهَا وَ تُجَيِّرُنِيْ مِنْ النَّارِ وَ تُوَجِّبُ لِيْ رِضْوَانَكَ وَ اَمَانَكَ وَ غُفْرَانَكَ وَ اِحْسَانَكَ

اور بچانا آگ سے اور لازم کرنا میرے لیے اپنی رضامندی اور امان۔ غفران اور احسان کو

وَ تَتَّبِعُنِيْ فِيْ جَنَّتِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّیْقِيْنَ وَ

اور نفع اندوز فرمائے مجھے اپنی جنت میں ان حضرات کے ساتھ جن پر تو نے انعام فرمایا یعنی انبیاء و صدیقین اور

الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

شہداء و صالحین۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

اَرْفَعِ النَّاسَ عِيَانًا وَ اَنْفَعِ النَّاسَ بَيَانًا وَ اَفْصَحِ النَّاسَ لِسَانًا اَللّٰهُمَّ اَنْتَ

جو سب سے بلند مرتبت ہیں از روئے مشاہدہ کے اور نافع ترین ہیں از روئے بیان کے اور فصیح ترین ہیں از روئے زبان کے۔ اے اللہ

الْبَاعِثُ عَلٰی الْاِطْلَاقِ فِيْ كُلِّ الْاَحْوَالِ وَ وَجَدْتَ الْاَشْيَاءَ مِنْ لَطِيْفٍ يَسِيْرٍ

تو ہی اٹھانے والا ہے (مردوں کو) علی الاطلاق تمام احوال میں اور ایجاد فرمایا تو نے اشیاء کو پاکیزہ اور قلیل سے

الْمَاءِ السَّيَالِ وَ بَعَثْتَ كُلَّ رُوْحٍ اِلٰی جَسَدِهِ بِاَمْرِكَ الْعَزِيْزِ الْمَتَعَالِ

سیال پانی سے اور بھیجا ہر روح کو اس کے جسم کی طرف اپنے امر سے جو غالب و بلند تر ہے

فَعَرَفْتَ بِلَطِيْفِ الْاَرْوَاحِ فِيْ كَثِيْفِ الْاَشْبَاحِ عَلٰی مَا اِخْتَرْتَ بِنِ الْفَسَادِ

پس پہچان کرانی لطیف ارواح کے ساتھ کثیف و مادی اجسام میں جیسے کہ اختیار کیا تو نے فساد اور

وَالصَّلَاحِ فَإِذَا تَكَامَلَ فَيُضُّ كُلُّ لَطِيفٍ وَتَنَاهَى فِيهِ أَعْدَاتُ لِكُلِّ بَيْعَةٍ

اصلاح سے پس جب کامل ہو گیا فیض ہر لطیف کا اور انتہاء کو پہنچ گیا تو اعادہ کیا اس کا واسطے ہر ایک کثیف کے بعث

وَالنُّشُورِ وَبَعَثَتْ مَوَاطِنَ مِنَ الْقُبُورِ لِتَحْصِيلِ مَا حَوَتْ بِهِ أَسْرَارَ الصُّدُورِ

ونشور کے وقت اور اٹھایا تو نے موطن قبور سے واسطے حاصل کرنے ان امور کے جن کا احاطہ کئے ہوئے ہیں اسرار صدور

لِمَا سَبَقَ مِنْ جَرِيَانِ الْقَلَمِ فِي اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ الْمَسْتُورِ أَسْأَلُكَ بِسِرِّهِ هَذَا

بسبب اس کے جو سبقت لے جا چکا قلم قدرت کے لوح محفوظ و مستور پر چلنے اور لکھنے کی وجہ سے میں سوال کرتا ہوں تجھ سے

الْبُعْثِ الْعَظِيمِ وَمَا فِيهِ مِنْ خَفَايَا الْأَمْرِ الْقَدِيمِ إِنْ تَبَعْتُ لِي مِنْ سِرِّهِ

بطویل اس عظیم بعثت کے بسر اڑ کے اور جو کچھ ہیں امر قدیم کے مخفی راز ہیں کہ تو برا بیگنہ کرے میرے لیے سر اڑ

لَطْفِكَ مَا تَدْفَعُهُ عَنِّي قَضَايَا نِقْمَتِكَ وَتُوجِبُ لِي خَفَايَا رَحْمَتِكَ وَنَوَاحِي

لطف سے اس قدر کہ دور کر دے بسبب اس کے مجھ سے اپنے انتقامی فیصلے اور واجب کرے میرے لیے اپنی مخفی رحمتیں اور اپنے

حِفْظِكَ مِنْ لَطَائِفِ رَحْمَتِكَ وَصِفْ قَلْبِي بِوَصْفِ الْهِئَتِكَ لِيُطْلِعَ عَلَيَّ قُوَادِي

حفظ و امان کے ترقی یافتہ الباب اپنی رحمت کے لطائف سے اور موصوف فرما میرے دل کو اپنی اوصاف الہیہ کے ساتھ تاکہ طلوع فرما ہوں

سُرْحِيَّاتِ رَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الشَّهِيدُ عَلَيَّ كُلِّ ذَرَّةٍ بِمَا أَظْهَرْتَ فِي عَالَمِ

میرے دل پر تیری رحمت و حیات کا سر تھاں ۔ اے اللہ تو ہی مطلع ہے ہر ذرہ پر بسبب اس کے جو تو نے ظاہر کیا ہے عالم

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ بِمَا جَرَى بِهِ قَلَمُ التَّفْضِيلِ فِي صَفْحَاتِ اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ الشَّاهِدِ

غیب و شہادت میں بسبب اس کے جو جاری ہوا ساتھ اس کے قلم تفضیل لوح محفوظ کے صفحات میں بسبب مطلع ہونے تیرے

عَلَيَّ كُلِّ ذَرَّةٍ فِي الْمَوْجُودَاتِ وَبِقُدْرَتِكَ عَلَى الْمَوْجُودَاتِ وَمَا سَبَقَ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ

ہر ذرہ موجودات پر اور بسبب تیری قدرت کے اوپر موجودات کے اور بسبب اس کے جو سبقت لے گیا علم غیب میں

مِنَ السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ وَمَا سَبَقَ فِي الْعِلْمِ الْمَكْنُونِ وَأَشْهَدُ نِي بِفَضْلِكَ تَفْضِيلَ

سعادت و شقاوت سے اور بسبب اس کے جو سابق ہے علم مکنون و مستور میں اور مشاہدہ کر اے مجھے اپنے فضل سے ان

الْمَقَامَاتِ الَّتِي هِيَ مَقَامَاتُ الشُّهَدَاءِ وَأَشْهَدُ نِي بِذَلِكَ وَحَقِّقْ نِي بِحَقَائِقِ

مقامات کی فضیلت کا جو کہ مقامات شہداء ہیں اور مجھے اس کا گواہ بنا اور مجھے ثابت رکھ معلومات کے حقائق

المعلومات اللہم انت الحق المطلق الموجود في حقيقة ذاتك الموصوف

کے ساتھ۔ اے اللہ تو ہی ہے حق مطلق جو موجود ہے مرتبہ حقیقت ذات میں جو موصوف ہے

بحقائق الصفات الحسنى في قدسيتك بسرا نوار اسمائك الحسنی ان تحقق

صفات حسنی کے حقائق کے ساتھ اپنی شان قدسی میں ساتھ اپنے اسما و صفات کے سرانوار کے کہ ثابت کرے میرے

لی كل حق في الوجود وتبطل لي كل باطل معدوم ومفقود واسئلك بسر

یہ ہر پائیدار شئی کو موجود ہے۔ اور باطل کرے میرے لیے ہر باطل و معدوم اور گناہ کو اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بظہیر تیرے

وجودك الذي حققت به حقائق صفاتك ان ترفع فؤادي بحق الحق

موجود کے جس کے ساتھ تو نے محقق فرمایا اپنے حقائق صفات کو کہ بلند فرمائے میرے دل کو بظہیر حق الحق کے

الی شهود حقائق ذاتك فاكون بك مع وجود كل موجود ابدًا ايمًا واسئلك

اپنے حقائق ذات کے مشاہدہ تک پس میں ہو جاؤں تیری توفیق سے ساتھ ہر موجود کے وجود کے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے۔ اور میں سوال

اللهم يرادك من متبوع الاشياء ان تقطع عني كل قاطع يقطع عني عنك و

کرتا ہوں تجھ سے۔ اے اللہ بظہیر تیرے مقصود کے یعنی جملہ اشیاء کے سرچشمہ کے کہ قطع کرے مجھ سے ہر قاطع کو جو مجھے منقطع کرے تجھ سے اور

يحجيني منك واسئلك ان تجمع علي ادراكاتي وذاتي بالسلامة القدسية

محبوب رکھے تجھ سے۔ اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ میرے ادراکات اور ذات کو تسکین بخشنے ساتھ قدسی سلامتی کے

وتتجلي علي روجي دوام حفظك ووفقي لخدمتك وحضور بين يديك

اور جلوہ گر فرمائے میری روح پر اپنی حفاظت دائمہ کو اور مجھے توفیق دے اپنی خدمت کی اور اپنے حضور میں حاضر رہنے کی

اسئلك يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لي كل شيء حتى لا

میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے رب ہر شئی کے بظہیر تیری قدرت کے اوپر ہر شئی کے کہ بخش میرے لیے ہر شئی حتی کہ نہ

تسئلي عن كل شيء اناك على كل شيء قد يريامن بيده ملكوت كل

سوال کرے مجھ سے کسی بھی شئی کے متعلق بیشک تو ہر شئی پر قدریر ہے اے کہ جس کے دست قدرت میں ہر شئی کی روحانیت ہے اے کہ

شيء يامن لا يضركه شيء ولا يغلبه شيء ولا يعزب عنه شيء ولا يورده

جسے کوئی شئی ضرر نہیں دے سکتی اور نہ اس پر غالب ہو سکتی ہے اور نہ اس سے مخفی رہ سکتی ہے اور نہ تھکا سکتی ہے

شَيْءٌ وَلَا يَسْتَعِينُ بِشَيْءٍ وَلَا يُشْغَلُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ وَلَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ وَلَا

اور نہ ہی وہ اعانت طلب کرتا ہے کسی سے اور نہ ہی اس کو مشغول کر سکتی ہے کوئی شئی دوسری سے اور نہیں مشابہ اس کے کوئی شئی اور

يُعْزُّهُ شَيْءٌ يَأْمَنُ هُوَ أَخَذُ بِنَاصِيئِهِ كُلِّ شَيْءٍ وَوَيْدَاهُ مَقَالِيدُ كُلِّ شَيْءٍ

نہ عزت دے سکتی ہے اس کو کوئی شئی۔ اے کہ جو پچڑانے والا ہے ہر شئی کو پیشانی سے اور اسی کے دست قدرت میں ہیں چابیاں ہر شئی کی

إِصْرُفُ عَنِّي ضَرْ كُلِّ شَيْءٍ وَسَهْلُ كُلِّ شَيْءٍ وَبَارِكُ لِي بِكُلِّ شَيْءٍ وَلَا

دور کر مجھ سے ضرر ہر شئی کا اور آسان فرما ہر شئی اور برکت دے میرے لیے ساتھ ہر شئی کے اور نہ

غَالِبِي بِكُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَوَاخَذُنِي بِكُلِّ شَيْءٍ وَوَيْسِرْ لِي كُلَّ شَيْءٍ وَهَبْ لِي

غلبہ دے مجھ پر کسی شئی کو اور نہ مواخذہ فرما مجھ سے ساتھ کسی شئی کے اور آسان فرما میرے لیے ہر شئی کو اور عطا فرما مجھے

كُلَّ شَيْءٍ وَأَعْطِنِي خَيْرَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْفَيْئُ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ يَا أَوَّلَ كُلِّ شَيْءٍ

ہر شئی اور عطا کر مجھ کو ہر چیز کی بہتری۔ اور کفایت فرما مجھے ہر شئی کے شر سے۔ اے ہر شئی سے اول

يَا آخِرَ كُلِّ شَيْءٍ يَا ظَاهِرَ كُلِّ شَيْءٍ يَا بَاطِنَ كُلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ

ہر شئی سے آخر۔ ہر شئی سے ظاہر اور ہر شئی سے باطن۔ ہر شئی سے اوپر اور غالب ہے

وَمُحْصِي كُلِّ شَيْءٍ وَمُبْدِي كُلِّ شَيْءٍ وَمُعِيدُ كُلِّ شَيْءٍ وَعَلِيمُ بِكُلِّ

ہر شئی کا احاطہ کرنے والا۔ ہر شئی کا موجد ہر شئی کا اعادہ کرنے والا۔ ہر شئی کا علیم۔ ہر

شَيْءٍ وَمُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَبَصِيرٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَشَهِيدٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَ

شئی کو محیط۔ ہر شئی کے ساتھ بصیر۔ ہر شئی پر مطلع۔ نگران ہے ہر شئی کا۔ مہربان ہے ہر شئی پر۔

رَقِيبٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَطِيفٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَخَيْرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَوَارِثٌ كُلِّ

خبیر رکھنے والا ہے ہر شئی کی اور وارث ہے ہر شئی کا۔ محافظ

شَيْءٍ وَقَائِمٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ آمِنْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

دنگران ہر شئی کا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شئی پر قادر ہے۔ اے اللہ امن دے ہر شئی سے

وَكُلِّ شَيْءٍ خَائِفٌ مِنْكَ يَا مَنْكُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَخَوْفٌ كُلِّ شَيْءٍ بِتَنكِ اللَّهُمَّ

اور ہر شئی تجھ سے خوفزدہ ہے پس بسبب مامون ہونے تیرے ہر شئی سے اور خوفزدہ ہونے ہر شئی کے تجھ سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سُرَارِ الْإِلَهِيَّةِ الْمُنْطَوِيَّةِ فِي الْحُرُوفِ الْقُرْآنِيَّةِ وَمَهْبِطِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما اسرار الہیہ کی سیڑھی پر جو پوشیدہ ہیں حروف قرآنیہ میں اور دقائق

الدَّقَائِقِ الرَّبَّانِيَّةِ النَّازِلَةِ فِي الْحَضْرَةِ الْعَلِيَّةِ الْمَفْصَلَةِ فِي الْأَنْوَارِ بِالنُّورِ الْمُتَجَلِّيَةِ

ربانیہ کے محل نزول پر جو اترنے والے ہیں بارگاہ عالیہ میں جو پھینے والے ہیں انوار میں ساتھ نورانیت کے جلوہ گن ہیں

فِي لُبَابِ بَوَاطِنِ الْحُرُوفِ الْقُرْآنِيَّةِ الصِّفَاتِيَّةِ فَهُوَ النَّبِيُّ الْعَظِيمُ مَرْكَزُ حَقَائِقِ

حروف قرآنیہ صفاتیہ کے بواطن کے مقرب لباب میں پس وہی ہیں نبی عظیم جو مرکز ہیں حقائق

الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَمَفِضِ الْأَنْوَارِ إِلَى حَضْرَاتِهِمْ مِنْ حَضْرَتِهِ الْمَخْصُومَةِ

انبیاء و مرسلین کے اور فیضان رسا ہیں انوار کے ان کی بارگاہوں تک اپنی بارگاہ مخصوصہ

الْخَمِيَّةِ وَشَارِبِ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ مِنْ بَاطِنِ الْكِبْرِيَاءِ وَمَوْصِلِ

خمتی مرتبت سے اور پینے والے ہیں مرغی شراب باطن کبریاء سے اور پہنچانے والے ہیں

الْخُصُوصِيَّاتِ الْإِلَهِيَّاتِ إِلَى أَهْلِ الْأَصْطِفَاءِ وَمَرْكَزِ دَائِرَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ

خصوصیات الہیہ کو اہل اصطفاء تک اور مرکز ہیں انبیاء و اولیاء کے دائرہ کے

وَمَنْزِلِ النُّورِ بِالنُّورِ الشَّاهِدِ بِالذَّاتِ وَالْمُكَاشِفِ بِالصِّفَاتِ وَالْعَارِفِ بِظُهُورِ

اور منزل نور ہیں ساتھ اس نور کے جو شاہدہ کرنے والا ہے ذات کا اور کشف رکھنے والا ہے صفات کا۔ اور عارف ہیں

تَحَلِّيِ الذَّاتِ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَالْعَارِفِ بِظُهُورِ الْقُرْآنِ الذَّاتِي فِي الْفُرْقَانِ

تخلی ذات کے اسماء و صفات میں ظہور پذیر ہونے کے اور عارف ہیں ساتھ قرآن ذاتی کے ظہور کے فرقان

الصِّفَاتِيَّ فَمِنْ هُنَا ظَهَرَتِ الْوَحْدَاتَانِ الْمُتَعَاكِسَتَانِ الْحَاوِيَتَانِ عَلَى الطَّرْفَيْنِ

صفاتی میں پس یہیں سے ظاہر ہوئیں دونوں وحدتیں جو ایک دوسری کے برعکس ہیں اور حاوی ہیں دو طرفوں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْكَاشِفِ عَنِ الْمُسْتَهْيِ بِالْوَحْدَةِ الذَّاتِيَّةِ اللَّهُمَّ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو کشف و اظہار کرنے والے ہیں مستہی کا ساتھ وحدت ذاتیہ کے لئے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَامِعِ الْإِجْمَالِ الذَّاتِي الْقُرْآنِيَّ وَحَاوِيِ التَّفْصِيلِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو جامع ہیں اجمال ذاتی قرآنی کے اور حاوی ہیں تفصیل

الصَّفَاتِي الْفُرْقَانِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى حَقِيقَةِ الصَّلَاةِ وَرُوحِ الْكَلِمَةِ وَقَوِّمِ

صفات فرقانی پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما حقیقت صلوٰۃ اور روح کلمہ اور

الْمَعَانِي الدَّائِيَّاتِ وَحَقِيقَةِ الْحُرُوفِ الْقُدْسِيَّاتِ وَصُورِ الْحَقَائِقِ الْفُرْقَانِيَّةِ

معانی ذاتیہ کے قوام پر حروف قدسیہ کی حقیقت پر اور حقائق فرقانیہ تفصیلیہ کی

التَّفْصِيْلِيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّوَصَّلِ الْأَرْوَاحِ بَعْدَ عَدَمِهَا إِلَى

صورتوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو پہنچانے والے ہیں ارواح کو ان کے (اجسام سے)

نَهَايَاتِ غَايَاتِ الْوُجُودِ وَالنُّورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاسِطَةِ الْأَرْوَاحِ

معدوم ہونے کے بعد وجود و نور کی غایات و نہایات تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو واسطہ ہیں ارواح

الْأَزَلِيَّةِ فِي الْمَدَارِجِ الظُّهُورِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّسْتَقْبِرِ رُوزِ

ازلیہ کا مدارج ظہور میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو عمل قرار ہیں معانی رحمانیہ کے

الْمَعَانِي الرَّحْمَانِيَّةِ مِنْهَا خَرَجَتِ الْخُلَّةُ الْإِبْرَاهِيمِيَّةُ وَمِنْهَا حَصَلَ التَّدَاعِي بِالْمَعَانِي

بروز و ظہور کا۔ انہیں معانی سے برآمد ہوئی خلعت ابراہیمی اور انہیں سے حاصل ہوئی معانی

الْقُدْسِيَّةِ لِلْحَقِيقَةِ الْمَوْسُوِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلَتْ

قدسیہ کے ساتھ نداء واسطے حقیقت موسویہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کے

وَجُودُهُ الْبَاقِي عَوْضًا عَنْ وَجُودِهِ الْفَانِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

وجود باقی کو بنایا تو نے بدل ان کے وجود فانی سے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و اصحابہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى طَائِمَةِ الْحَقَائِقِ الْكُبْرَى وَسِرِّ الْخُلُوةِ الْإِلَهِيَّةِ لَيْلَةِ الْأَسْرَى وَتَاجِ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما حقائق کبریٰ کے محل اجتماع پر اور شب معراج میں خلوت الہیہ کے راز سر بستہ پر

الْمَمْلَكَةِ الْإِلَهِيَّةِ وَيَنْبُوعِ الْحَقَائِقِ الْوُجُودِيَّةِ وَبَصْرِ الْوُجُودِ وَسِرِّ بَصِيرَةِ الشُّهُودِ

اور مملکت الہیہ کے تاج پر اور حقائق وجودیہ و بصیر الوجود و سیر بصیرت الشہود کے راز سر بستہ

وَحَقِّ الْحَقِيقَةِ الْعَيْنِيَّةِ وَهُوِيَّةِ الْمَشَاهِدِ الْعَيْبِيَّةِ وَتَفْصِيلِ الْأَجْمَالِ الْكُلِّيِّ وَالْأَيَاتِ

اور حقیقت عینیہ کے تحقق و ثبوت اور مشاہد غیبیہ کی ہویت پر اور اجمال کلی کی تفصیل پر اور

الْكُبْرَى فِي التَّجَلِّيِ وَالتَّدَلِّيِ وَنَفْسِ الْأَنْفَاسِ الرُّوحِيَّةِ وَكَلِيَّةِ الْأَجْسَامِ الصُّورِيَّةِ

تجلی و قرب کے مقام کی آیات کبریٰ اور انفاس روحیہ کے نفس و روح پر اور اجسام صوریہ کی کلیت و حقیقت پر

وَعَرْشِ الْعَرْشِ الذَّاتِيَّةِ وَصُورَةِ الْكَمَالَاتِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَلَوْحِ مَحْفُوظِ عِلْمِكَ

اور عرش ذاتیہ کے عرش بالا پر۔ کمالات رحمانیہ کی صورت پر اور اپنے علم مخزون کی لوح محفوظ

الْمَخْزُونِ وَسِرِّ كِتَابِكَ الْمَكْنُونِ الَّذِي لَا يَسْهُوُ إِلَّا الْمَطْهَرُونَ اللَّهُمَّ يَا فَاتِحَةَ

پر اور اپنی کتاب مکنون کے راز نہانی پر جس کتاب کو نہیں چھو سکتے مگر پاکیزہ لوگ۔ اے اللہ اے آغاز

الْمَوْجُودَاتِ يَا جَامِعَ بَحْرِ الْحَقَائِقِ الْأَزَلِيَّاتِ وَالْأَبَدِيَّاتِ يَا عَيْنَ جَمَالِ الْإِخْتِرَاعَاتِ

وابتداء موجودات کی۔ اے حقائق ازلیہ وابدیہ کے جامع بحر۔ اے اختراعات اور انفعالات کی چشم جمال

وَالْإِنْفِعَالَاتِ وَتَعْلَمُ الْمَكْنُونَاتِ وَجَمَعْتَ الْكَائِنَاتِ لِإِخْفَاءِ فِي سِرِّكَ الْمَصُونِ

تو جانتا ہے پوشیدہ اور مستور امور کو اور تو نے جمع فرمایا کائنات کو۔ نہیں خفا تیرے محفوظ راز میں

أَسْأَلُكَ بِيَدَيْهِ فِطْرَتِكَ وَلَوْامِعِ رَأْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ أَنْ تَجْعَلَنِي ظَاهِرًا فِي كُلِّ

میں سوال کرتا ہوں تیرے انوکھے شاہکار فطرت کے طفیل اور تیری رأفت ورحمت کے چمکتے انوار کے طفیل کہ کہے مجھے غالب

أَمْرٍ وَأَجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِكَ الْبَالِغِ أَمْرًا وَأَيِّدْنِي بِقُدْرَتِكَ وَأَبْرِزْ لِي مِنْ عُسْرِي

پر امر میں اور بنا میرے لیے اپنے امر بالغ سے امر اور مجھے تقویت بخش اپنی قدرت کے ساتھ اور ظاہر فرما میرے لیے تنگدستی سے

يَسْرًا يَا وَلِيَّ أَنْتَ الَّذِي تَوَلَّيْتَ أَمْرَ الْبَرِّيَّةِ وَكَمَلْتَ زَوَانِمَهُمْ بِرَفْعِ الْبَلِيَّةِ وَ

خوشحالی کو۔ اے ناصر تو ہی متولی ہے ساری مخلوق کے معاملہ کا اور تو نے کامل فرمایا ان کی ذاتوں کو بلیات دور فرما کر اور

أَوْصَلْتَ كُلَّ مَخْلُوقٍ لِمَا خَلَقْتَهُ لَهُ مِنَ الْمَوَاهِبِ السَّنِيَّةِ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ الْوَلَايَةَ

واصل فرمایا ہر مخلوق کو طرف ان بلند شان مواہب جن کے لیے انہیں پیدا کیا تھا۔ میں طلب کرتا ہوں تجھ سے اے اللہ ولایت

وَالْكُبْرَى وَالْحِكْمَةَ الْعُلْيَا وَالتُّورَ الْأَبْهَى وَالْوَصُولَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَأَرْزُقْنِي

کبریٰ۔ حکمت عالیہ اور روشن نور اور رسائی مسجد اقصیٰ تک اور مجھے عطا فرما

رُؤْيَةَ حَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ بِكَشْفِ مَنَازِلِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ إِنَّكَ جَزِيلُ الْخَيْرِ وَ

دیدار حقائق اشیاء کا ساتھ منکشف فرمانے منازل انبیاء و اولیاء کے بیشک تو عظیم خیر اور

التَّعْمَاءِ يَا غَنِيَّ أَنْتَ الْمَغْنِيُّ وَأَنْتَ الْقَادِرُ عَلَى مَا تَشَاءُ وَقَادِرٌ عَلَى قَهْرِكُلِّ شَيْءٍ

انعام والا ہے۔ اے غنی تو ہی غنا بخشے والا ہے اور تو ہی قادر ہے ہر اس شئی پر جو چاہے اور قادر ہے ہر شئی کے مغلوب کرنے پر

وَكُلِّ قَوِيٍّ وَأَنْتَ الْاِخْذُ بِنَاصِيَةِ كُلِّ شَيْءٍ وَالْمُعْطَى جَلَائِلَ نِعْمِكَ لِكُلِّ مَخْلُوقٍ

اور ہر قوی پر اور تو ہی پکڑنے والا ہے ہر شئی کی پیشانی کو اور عطا کرنے والا ہے اپنی بڑی نعمتیں ہر مخلوق کو

أَسْأَلُكَ بِمَا فِيهِ فَتْحٌ وَنَصْرٌ أَنْ تَقْوِيَنِي بِحَيَاتِكَ الْأَزَلِيَّةِ حَتَّى أَقِفَ لَدَيْكَ عَلَى

میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری فتح و نصرت کے واسطے کہ مجھے قوی و توانا کرے اپنی حیات ازلیہ کے ذریعے یہاں تک کہ ٹھہروں

قَدَمِ التَّوَكُّلِ وَالْاِفْتِقَارِ وَأَنْصُرْنِي عَلَى دَفْعِ مَا يَسْتَعِينُ عَنْكَ إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْعَزِيزُ

تیرے ہاں توکل و افتقار کے قدموں پر اور مدد فرما میری ان امور کے دفع کرنے پر جو مجھے دور کریں تجھ سے بیشک تو ہی الشریف

الْغَفَّارُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَرُوحِ الْمَجِيدِ

غفار ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام اور برکت نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ مجسم روح ہیں

وَالْفَرْدِ الْمُسْتَعِدِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حُجَّةَ اللَّهِ

اور صاحب استعداد فرد۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو اللہ تعالیٰ کی حجت ہیں

فِي الْأَقْصِيَّةِ وَعُمْدَةَ اللَّهِ فِي الْأَمْصِيَّةِ وَمُنْقِذَ أَحْكَامِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

قضا یا میں اور عمدہ ترین ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں گزرے زمانوں میں اور نافرمانیوں کے اس کے احکام کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَظَرَ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ وَالْبَفِيزِ عَلَيْهِمْ مِنْ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو اللہ تعالیٰ کے منظور نظر ہیں مخلوق سے اور بقیض رساں ہیں ان پر اپنی

نُورٍ نَوْرَانِيَّتِهِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَلَى صُورَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

نورانیت کے نور سے۔ مخلوق ہیں (مگر) اللہ تعالیٰ کی صفات پر ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

آپ کی آل پر جن کو مشاہدہ کرایا ارواح ملائکہ کا اور مخصوص ٹھہرایا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَلِّ السُّبُوعِ وَالشُّهُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی پیر جو عمل ہیں سننے کا اور مشاہدہ کا واسطے کلام خدا اور اس کی ذاتی تجلیات کے اے اللہ صلوات و سلام

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَا تَتَحَرَّكُ ذَرَّةٌ فِي الْكُونِ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَلَا

نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ نہیں حرکت کرتا کوئی ذرہ جہاں میں مگر ساتھ ان کے علم کے اور نہیں

تَسْكُنُ إِلَّا بِحُكْمِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَظَهَرَ الْحَقُّ

ساکن ہوتا مگر ساتھ ان کے حکم کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل پر جو منظر حق ہیں

وَمَعِينِ الصِّدْقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْهَادِي

اور صداقت کا شفاف چشمہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل پر جو ہادی ہیں

إِلَىٰ أَرْشِدِهَا وَالْقَائِدِ إِلَىٰ خَيْرِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

بہت ہی سیدھی راہ کے اور قائدِ خیر ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الرَّائِدِ عَنِ الْهَلَكَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پر جو نگہبانی کرنے والے ہیں ہلاکت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل پر

الْمَانِعِ عَنِ مَوَارِدِ السُّوءِ فِي خِلَافِ الرَّشْدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

جو روکنے والے ہیں میرے مقامات سے جو خلافِ رشد و ہدایت ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُنْتَبِهَةِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُوْرِدُ بِهَا الْهَلَكَةُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آپ کی آل پر جو متنبہ کرنے والے ہیں ان اسباب سے جو وارد کرتے ہیں ہلاکت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِمِ بِالنَّصِيحَةِ فِي الْإِرْشَادِ وَالْإِنْدَارِ اللَّهُمَّ

ستینا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا قائم ہیں خلوص و ہمدردی پر رہنمائی میں اور ڈرانے میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لَوْ رَحِمَانِيَّتِكَ الَّتِي كَتَبْتَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا تیری لوحِ رحمانیت ہیں جس میں لکھا تو نے

فِيهِ بِقَلَمِ رَحِيمِيَّتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَدَادِ

رحیمیت کے قلم سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل پر جو تیری رحمت کاملہ کی

مَدَادِ رَحْمَوِيَّتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَرْشِ

روشنائی اور مادہ و سمعت ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو عرش ہیں

اِسْتَوَاءٍ وَحَدَايَتِكَ مِنْ حَيْثُ احَاطَةٌ اَحَدِيَّةٌ اَلْوَهِيَّتِكَ يَا اَوَّلَ فَلَيسَ قَبْلَكَ

تیرے استواء وحدانیت کا از روئے تیری الوہیت کے احدیت کے احاطہ کے۔ اے اول کہ نہیں تجھ سے پہلے

شَيْءٌ عَمَّا اٰخِرُ فَلَيسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ عَمَّا ظَاهِرٌ فَلَيسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ عَمَّا بَاطِنٌ فَلَيسَ دُونَكَ

کوئی شئی۔ اے آخر کہ نہیں تیرے بعد کوئی شئی۔ اے ظاہر کہ نہیں تجھ سے زیادہ ظاہر کوئی شئی۔ اے باطن کہ نہیں تجھ سے زیادہ

شَيْءٌ اِسْمَعُ نِدَائِي فِي بُقَاتِي وَفَنَائِي بِمَا سَمِعْتَ بِاِنْدَاءِ عَبْدِكَ زَكَرِيَّا وَاجْعَلْنِي

پوشیدہ کوئی شئی سن میری پکار کو میری بقا و فناء میں مانند سنتے نداء اپنے عبد خاص حضرت زکریا کی۔ اور کر مجھے

عَنْكَ رَاضِيًا وَعِنْدَكَ مُرْضِيًا وَانْصُرْنِي بِكَ عَلَى عَوَالِمِ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالْمَلَائِكَةِ

راضی اپنے آپ سے اور پسندیدہ اپنے ہاں۔ اور مدد فرما میری ساتھ اپنی ذات کے واسطے اپنی ذات کے عالم جن وانس اور

وَإِيْدَانِي بِكَ لَكَ بِتَأْيِيدٍ مَنْ سَلَكَ فَمَا لَكَ وَمَنْ مَلَكَ فَسَلَكَ وَاجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ

ملائکہ پر اور تقویت دے مجھے ساتھ اپنی ذات کے واسطے اپنی ذات کے مانند تقویت اس شخص کے جو تیری راہ پر چلا پس مالک (ملک) ہو گیا اور مالک ہوا

وَازْبِرْ عَنِ الْعَيْنِ غَيْبِكَ وَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ غَيْرِكَ وَاجْعَلْنِي مِنْ اُمَّةٍ خَيْرِكَ وَ

پس تیری راہ پر چلا اور محبت پیدا فرما درمیان میرے اور اپنے۔ اور زائل کر میری آنکھ سے حجاب اپنا اور مائل ہو درمیان میرے اور اپنے غیر کے اور

مَيْرِكَ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ مِنْهُ يَدِيْ اَلْاَمْرُ اَللّٰهُ اَلْاَمْرُ اَلْيَهْ يَعُوْدُ اَللّٰهُ اَحَبُّ اَلْوَجُوْدِ

بنائے مجھے خیر اور فیض رسالتی کے ائمہ سے۔ اللہ۔ اللہ۔ اللہ۔ اسی سے آغاز ہوا امر کا۔ اللہ اسی کے لیے ہر امر کی بازگشت ہے اللہ محبوب ترین وجود

وَمَا سِوَاهُ مَفْقُوْدٌ اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَاٰدُكَ اِلَى مَعَادٍ فِيْ كُلِّ اقْتِرَابٍ

والہے اور اس کا ماسوا معدوم ہے۔ بیشک جس نے فرض کیا آپ پر قرآن البتہ لوٹنے والا ہے تجھے مقام موعود کی طرف ہر قرب اور

وَابْتِعَادٍ وَابْتِهَاضٍ وَاِقْتِعَادٍ رَبَّنَا اِنْتَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ وَهِيَ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا

بغد میں اور ہر اٹھنے اور بیٹھنے میں۔ اے رب ہمارے دے ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت اور تیار فرما ہمارے لیے ہمارے امور سے

رَشْدًا وَاَجْعَلْنَا مِّنْ اَهْتَدَى بِكَ فَهْدَى حَتَّى لَا يَفْقَهُ مَنَّا نَظْرًا اِلَيْكَ وَلَا

درست ترین امر۔ اور بنا ہمیں ان سے جنہوں نے ہدایت پائی ساتھ تیرے پس ہادی بن گئے۔ یہاں تک کہ نہ پڑے نظر ہماری مگر تجھی پر اور

يَسِيْرِنَا وَطَرًّا اِلَيْكَ وَسِرِّيْنِيْ فِي مَعَارِجِ الْمَدَارِجِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيسَ

نہ چلائے ہمیں حاجت مگر طرف تیری اور چڑھا ہمیں مدارج عالیہ کی سیڑھیوں پر۔ اے اللہ تو ہی اول ہے کہ نہیں

نہ چلائے ہمیں حاجت مگر طرف تیری اور چڑھا ہمیں مدارج عالیہ کی سیڑھیوں پر۔ اے اللہ تو ہی اول ہے کہ نہیں

قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ

تجھ سے پہلے کوئی شئی اور تو ہی آخر ہے کہ نہیں بعد تیرے کوئی شئی اور تو ہی ظاہر ہے کہ نہیں زائد تجھ سے ظہور میں کوئی شئی

وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ فَكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ

اور باطن ہے کہ نہیں ہے زیادہ مخفی تجھ سے کوئی شئی۔ پس تیرے لیے ہی حمد ہے۔ نہیں موجود برحق مگر تو۔ تو پاک ہے

إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ لِقُوَّةِ إِلَّا بِاللَّهِ

بیشک تمہاری ظالمین سے۔ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا اور جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ نہیں قوت و توانائی مگر ساتھ اللہ کے

يَا مَنْ هُوَ الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ وَالظَّاهِرُ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ

اے کہ جو اول ہے ہر شئی سے قبل اور آخر ہے بعد ہر شئی کے۔ اور ظاہر ہے اوپر ہر شئی کے

وَالْبَاطِنُ دُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْقَاهِرُ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ يَا نُورَ الْأَنْوَارِ يَا عَالِمَ الْأَسْرَارِ

اور باطن ہے آگے ہر شئی کے اور غالب ہے اوپر ہر شئی کے۔ اے نور الانوار۔ اے عالم اسرار

يَا مُدَبِّرَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَا مَالِكُ يَا عَزِيزُ يَا قَهَّارُ يَا رَحِيمُ يَا وَدُودُ يَا غَفَّارُ يَا عَلَّامُ

اے مدبر شب و روز کے۔ اے مالک۔ اے عزیز۔ اے تمہارے رحیم۔ اے بہت محبت والے۔ اے غفار۔ اے

الْغُيُوبِ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ يَا سِتَّارَ الْعُيُوبِ يَا غَفَّارَ الذُّنُوبِ يَا مَنْ هُوَ

علامہ تمام غیب کے۔ اے تبدیل کرنے والے قلوب کے۔ اے پر وہ دینے والے اوپر عیوب خلائق کے۔ اے بخشنے والے گناہان خلائق کے

الْمُطَّلِعُ عَلَى مَكْنُونِ الصَّمَائِرِ يَا مَنْ هُوَ فَوْقَ عِبَادِهِ رَاحِمٌ رَاحِمٌ عَلَى عَبْدِكَ

اے کہ وہی مطلع ہیں دلوں کے پوشیدہ اسرار پر۔ اے کہ وہی رحم فرمانے والا ہے اپنے بندوں پر رحم فرما اپنے اس بندے پر

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو

رَحْمَتِكَ الشَّامِلَةَ وَبَرَكَاتِكَ الْكَامِلَةَ مِنْ حَيْثُ احَاطَ قَوْلُكَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ

محبوب تیری رحمت محیط ہیں اور برکت کاملہ از روئے احاطہ و عموم تیرے اس قول کے اور نہیں بھیجا ہم نے آپ

إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کو مگر رحمت بنا کہ واسطہ تمام جہانوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

أُنْسَانَ عَيْنِ الْكَلِّ فِي حَضْرَةِ وَحْدَانِيَّتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو تمام مخلوق کی آنکھ کی پتلی ہیں تیری بارگاہ وحدانیت میں ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَمِيعًا جَمِيعًا مِنْ حَيْثُ احاطة قَوْلِكَ يَا أَيُّهَا

اور آپ کی آل پر جو تیرے مقام احدیت کے جمع الجمع ہیں از روئے احاطہ و عموم اس قول کے ” اے

النَّبِيِّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

نبی بیشک بھیجا ہم نے آپ کو مطلع اور حاضر و ناظر بنا کر ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ هَاهُنَا هَدَايَتِكَ وَكَافٍ كِفَايَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

پر جو تیری ہدایت کی ہاں ہیں اور تیری کفایت کے کاف ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ يَا عَيْنَ عَصَمَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آپ کی آل پر جو تیرے عین کی یاد اور تیری عصمت کی عین ہیں ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَادِ صِرَاطِكَ صِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو صاد ہیں تیرے صراط کی صراط ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے

مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

یعنی انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کا ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِكَ الْأَسْمَى الْمَشْفَعَةِ فِي حَضْرَةِ الْأَسْمَى

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو تیرا بلند مرتبت نور ہیں شفیع بنائے گئے ہیں حضرت اسماء میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَظَاهِرِهَا الْوُجُودِيَّةِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو مظاہر وجودیہ ہیں

مِنْ حَيْثُ احاطة عِلْمِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

باعتبار تیرے احاطہ علمی کے ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ عَيْنِ أَسْرَارِهَا الْوُجُودِيَّةِ مِنْ حَيْثُ احاطة كَرَمِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل پر جو سراپا اسرار جو دروہا ہیں باعتبار تیرے احاطہ کرم کے ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ اخْتِرَاعَاتِهَا الْكُلِّيَّةِ الْكُونِيَّةِ مِنْ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو سراپا ایجادات کلیہ کونیہ میں باعتبار

حَيْثُ ارَادَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ

تیرے ارادہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو جسم

مَقْدُورَاتِهَا الْجَبْرُوتِيَّةِ مِنْ حَيْثُ احَاظَةُ قُدْرَتِكَ وَقَهْرِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

مقدورات جبروتیہ ہیں از روئے احاطہ قدرت و قہر کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ انْشَاءَاتِهَا الْاِحْسَانِيَّةِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو مجسم انشاءات احسانیہ ہیں (کائنات کے)

مِنْ حَيْثُ سَعَةِ رَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

از روئے تیری وسیع و محیط رحمت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِمُّ مَلِكِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور آپ کی آل پر جو مہم ہیں تیرے ملک کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَاءِ حِكْمَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور آپ کی آل پر جو حاء ہیں تیری حکمت کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِمُّ مَلِكُوتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کی آل اطہار پر جو آقا مہم ہیں تیرے ملکوت کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَالِ دِيَوْمِيَّتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آل اطہار پر جو آقا دال ہیں تیری دیومیت و دوام کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْوَاحِدِ الثَّانِي الْاِلْتِصَافِ بِسَبْعِ الْمَثَانِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کی آل پر جو آقا واحد ہیں (ذات میں) ثانی ہیں (ہجرت میں) مخصوص ہیں ساتھ سبع مثنائی (سورۃ فاتحہ) کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّادِي فِي مَنَازِلِ الْاُفُقِ الرَّحْمَانِي

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا ایسا راز مخفی ہے کہ سرایت کئے ہوئے ہے افق رحمانی کی منازل میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَلِيمِ الْجَارِي بِرَبِّهِ

لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا جاری ہونے والے قلم ہیں

الْمَدَدِ الرَّبَّانِيِّ عَلَى مَسْطُورِ الْعَقْلِ الْإِنْسَانِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مدد ربانی کی روشنائی کے ساتھ عقل انسانی کے مسطور (اوراق) پر۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَلَأَتْ قَلْبَهُ مِنْ جَلَالِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ بھر پور فرما دیا ہے تو نے ان کا قلب انرا اپنے جلال سے۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَلَأَتْ عَيْنَهُ مِنْ جَمَالِكَ اللَّهُمَّ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ معمور فرما دیا ہے تو نے ان کی ذات کو اپنے جمال سے۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَلْفَ أَحَدِيَّتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب تیری احدیت کی الف ہیں۔ لے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَاءَ وَحُدَّ إِنِّيكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو تیری وحدانیت کی حاء ہیں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِيمٌ مَلِكِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو محبوب میم ہیں تیرے ملک کی لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَالٌ دِينِكَ إِلَّا لَهُ الدِّينُ الْخَالِصُ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب دال ہیں تیرے اس دین کی "آگاہ رہو اسی کیلئے ہے دین خالص" لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَامَ إِلَيْكَ بِمَا أَضْفَقْتَهُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب قائم ہوئے تیرے بسبب اس کے جو انہیں

عَلَى التَّحْقِيقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نسبت و تعلق بختا تو نے یقیناً لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي أَقَامَ الْبُرْهَانَ عَلَى وَحْدَانِيَّتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جنہوں نے قائم فرمایا برہان تیری وحدانیت پر۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَثَبْتَ فِي الْقُلُوبِ أَحَدِيَّتَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے ثابت کر دی دلوں میں تیری احدیت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرِّكَ الْمَصُونِ بِهَيْبَتِكَ وَجَلَالِكَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو تیرے راز نہانی ہیں محفوظ ہیں بسبب تیری ہیبت و جلال کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُتَوَجِّحِ نُورِ اسْرَارِكَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو تاج پہنے ہوئے ہیں تیرے نور اسرار

وَجَمَالِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

و جمال کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

مَوْضِعِ نَظْرِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو محبوب تیری نگاہ کرم کے مقام و محل ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

مُظَهَّرِ خَزَائِنِ كَرَمِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

جو آقا مظہر ہیں تیرے خزان کرم کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ مَجْلَىٰ عِزِّكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

پر جو جلوہ گاہ ہیں تیری عز و جاہ کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ مِفْتَاحِ قُدْرَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

پر جو مفتاح ہیں تیری قدرت کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَحَلِّ رَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سیدنا محمد کی آل پر جو تیرے محل رحمت ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَجْلَىٰ عَظَمَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

اور آپ کی آل پر جو جلوہ گاہ ہیں تیری عظمت کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُمْطَهْرِ خُلُقِ صَبَاتِكَ مِنْ كُنْهٍ كُنْهِكَ اللَّهُمَّ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب مظہر ہیں تیری کتنی حقیقت کے خلاصہ کا۔ اے اللہ

ارْضِنِي بِقَضَائِكَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا قَدَّرَ لِي حَتَّى لَا أَحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ

مجھے راضی فرما اپنی قضاء ہر اور برکت عطا فرما میرے لیے اس میں جو مقدر فرمایا ہے میرے لیے حتیٰ کہ نہ پسند کروں اس امر کی تعجل

وَلَا تَأْخِرْ مَا عَجَّلْتَ اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي

جس کو تو نے مؤخر کیا اور نہ اس کی تاخیر جس کو تو نے جلد تمنا کیا ہے اللہ نہیں ہے زندگانی مگر زندگانی آخرت کی۔ اے اللہ مجھے زندہ رکھ

مُسْكِينًا وَأَمْتِنِي مُسْكِينًا وَأَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي

مسکینی کی حالت میں اور موت دے مسکینی کی حالت میں اور میرا حشر فرما مساکین کی جماعت میں۔ اے اللہ مجھے بنا

مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَإِذَا سَاءُوا اسْتَغْفَرُوا اللَّهُمَّ

ان لوگوں سے جو نیکی کریں تو خوش ہوں اور برائی کریں تو استغفار کریں۔ اے اللہ

اعْطِنِي إِيْمَانًا لَا يَرْتَدُّ وَيَقِينًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ

مجھے عطا فرما ایسا ایمان جو ارتداد میں نہ بدے اور ایسا یقین کہ جس کے بعد کفر نہ ہو اور ایسی رحمت کہ پاؤں ساتھ اس کے تیری

كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْزَلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصُرَ

کرامت کا شرف دنیا و آخرت میں۔ اے اللہ بیشک میں پیش کرتا ہوں تجھ پر اپنی حاجت اور اگر قصور ہو

رَأْيِي وَضَعْفَ عَمَلِي افْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيدِ

راے میری اور ضعیف ہو عمل میرا تو محتاج ہوتا ہوں تیری رحمت کی طرف۔ اے اللہ مضبوط رسی والے

وَالْأَمْرِ الرَّشِيدِ أَسْأَلُكَ الْآمِنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ

اور درست امر والے میں سوال کرتا ہوں تجھ سے امن کا وعید کے دن اور جنت کا خلود ہمیشگی کے دن ساتھ

الْمُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ الرُّكْعِ السُّجُودِ الْمَوْفِينَ بِالْعَهْدِ إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ

مقربین و شہود کے جو رکوع کرنے والے سجدے کرنے والے وفائے عہد والے ہیں۔ بیشک تو رحیم و دود ہے۔

إِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِينَ مُهْتَدِينَ غَيْرِ ضَالِّينَ

بے شک تو کرتا ہے جس کا ارادہ کرتا ہے۔ اے اللہ بنا ہمیں ہدایت کرنے والے۔ ہدایت یافتہ نہ گمراہ ہونے والے

وَلَا مُضِلِّينَ سَلِمًا لِأَوْلِيَاءِكَ وَحَرْبًا بِأَعْدَائِكَ نَحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ

اور نہ گمراہ کرنے والے۔ صلح رکھنے والے تیرے دوستوں کے ساتھ اور صفت آرا تیرے اعداؤ کے مقابل۔ محبوب رکھیں تیری

أَحَبُّكَ وَتُعَادِي بَعْدَ أَوْتِكَ مَنْ خَالَفَكَ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ لَا تَكِلْنِي

محبت کی وجہ سے جو تجھ سے محبت رکھے اور عداوت رکھیں تیری عداوت کی وجہ سے تیرے مخالف کو مخلوق میں سے۔ اے اللہ سوچ رکھے

إِلَى نَفْسِي طُرْفَةً عَيْنٍ وَلَا تَنْزِعْ مِنِّي صَالِحَ مَا أَعْطَيْتَنِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ لَسْتَ

طرف میرے نفس کے آنکھ بھینکنے کی دیر اور نہ چھین مجھ سے وہ اچھی شئی جو مجھے عطا فرمائی۔ اے اللہ بیشک تو وہ الٰہ نہیں

بِإِلَهٍ اسْتَحْدَثْنَا هَ وَلَا يَرْبُّ يَبِيدُ ذِكْرُهُ ابْتَدَأَ عَنَاةً وَلَا عَلَيْكَ شُرَكَاءُ يَقْضُونَ

کہ جسے ہم نے ایجاد کیا ہو اور نہ وہ رب کہ اس کا ذکر فنا ہو جائے جس کو ہم نے از سر نو بنایا ہو اور نہیں تیرے ساتھ شریک جو حکم نافذ

مَعَكَ وَلَا كَانَ لَنَا قَبْلَكَ مِنْ إِلَهٍ نَلْبَأُ إِلَيْهِ وَنَدْرَكَ وَلَا أَعَانِكَ عَلَى

کریں ساتھ تیرے۔ اور نہ تھا ہمارے لیے تجھ سے قبل کوئی الٰہ کہ اس کی پناہ حاصل کریں اور تجھے چھوڑ دیں اور نہیں اعانت کی تیری کسی نے

خَلْقِنَا أَحَدًا فَشُرِكَةٌ فِيكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ فَسُئِلَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

ہماری تخلیق پر تاکہ ہم شریک ٹھہرائیں اسے تیرے ساتھ تو بابرکت اور بلند شان ہے پس طلب کرتے ہیں تجھ سے اے کہ نہیں معبود برحق

إِغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

مگر تو کہ میرے لیے مغفرت اور رحمت فرما بیشک تو ہی غفور رحیم ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَجْلَى الذَّاتِ وَقَطْرُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب تیرا منظر جلوہ ذات ہے اور نظر اسماء و صفات ہے

وَحَاءِ الرَّحْمَةِ وَمِيْمِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور حاء رحمت ہے اور ملک و ملکوت کے دو میم۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَالِ الدَّوَامِ وَسِرِّ حَيَاةِ الْعَالَمِ وَعِلَّةِ السُّجُودِ لِأَدَمَ

اور آپ کی آل پر جو دال ہیں دوام کی اور راز سنائی ہیں حیات عالم کا۔ اور علت سجدہ ہیں واسطے آدم کے

وَرُوحِ الْأَرْوَاحِ السَّارِي فِي جَمِيعِ الْأَشْبَاحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور روح الارواح ہیں جو موثر ہیں تمام اجسام و اشباح میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَجْمَعِ حَقَائِقِ الْلَاهُوتِ وَمَتْبَعِ دَقَائِقِ النَّاسُوتِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب محل اجتماع ہیں حقائق لاهوتیہ کے اور متبع ہیں دقائق ناسوتیہ جہانیہ کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَأْيَةَ إِمَامِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو پرچم امامت کا ہیں اس امامت کا

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

”فرمادیجئے اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے تو میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنائے گا“ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَلَعَهُ خِلَافَةَ إِبْرَاهِيمَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب خلعت ہیں اس خلافت کی ”بے شک وہ لوگ جو

يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بیعت کرتے ہیں تمہارے ساتھ وہ بیعت کرتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَاجَ مَحَبُّوهُ يَتَّبِعُونَكَ وَسَوْفَ يُعْطِيكَ مَرَاتِكَ

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی شان محبوبی کا یہ تاج ہے ”اور البتہ ضرور عطا کرے گا تمہیں رب تمہارا

فَتَرْضَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پس تم راضی ہو جاؤ گے“ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

بِسَاطِ خَلَّةٍ لَعَمْرُكَ وَعَفَا اللَّهُ عَنْكَ وَمَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى

جن کی بساط خلعت ہیں یہ آیات۔ مجھے تیری زندگانی کی قسم ”اور“ درگزر فرمائے اللہ تعالیٰ تم سے“ اور نہیں چھوڑا تمہیں تمہارے رب نے اور نہ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ

ناراض ہو اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے

فِي حَقِّهِ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْإِفْلَاقَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ان کے حق میں ”اگر تم نہ ہوتے تو میں البتہ نہ پیدا کرتا افلاک کو“ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَامِلِ لُؤَاءِ الْحَمْدِ وَأَدْمُرْ مَنْ دُونَهُ تَحْتَ لُؤَاءِهِ

اور آپ کی آل پر جو لواء الحمد اٹھائے ہوئے ہوں گے اور آدم علیہ السلام اور ان کے بعد والے آپ کے پرچم کے نیچے ہونگے

اللَّهُمَّ سَابِقُ الْأَسْبَاقِ وَرَازِقُ الْأَرْزَاقِ وَخَالِقُ الْخَلَائِقِ وَقَادِرُ

اے اللہ سب سے اول و سابق۔ اے ارزاق کے عطا کرنے والے اور خلائق کے پیدا کرنے والے اور جملہ مقدرات پر

الْمَقْدُورِ وَقَاهِرِ الْمَقْهُورِ وَعَادِلٍ فِي يَوْمِ الْحَشْرِ وَالنُّشُورِ إِلَهُ الْأَلْهَةِ جَامِعُ

قادر اور جملہ مغلوب و مقهور اشیاء پر قاهر اور حشر و نشر کے اور صاحب عدالت تمام معبودات مزعمہ کا بھی الٰہ جمع فرمانے والا

النَّاسِ يَوْمَ الْوَأَقَعَةِ رَبُّنَا غَفُورٌ رَحِيمٌ حَلِيمٌ شَكُورٌ الْأَوَّلُ الْقَدِيمُ

لوگوں کو قیامت کے دن ہمارا رب غفور رحیم اور حلیم و شکور ہے۔ اول و قدیم ہے

خَالِقُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قَابِلُ

خالق ہے عرش عظیم کا اور سموات و ارضین کا۔ اور وہی سنتے جاننے والا ہے۔ توبہ قبول

التَّوْبِ شَكُورٌ عَلِيمٌ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ هُوَ

کرنے والا ہے۔ جزائے شکر دینے والا حلیم۔ غفور۔ رحیم ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے عرش عظیم کا وہی

الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَالذَّائِمُ الرَّازِقُ لِلْخَلَائِقِ وَالْبَهَائِمِ صَاحِبُ

اول ہے اور آخر بھی اور ظاہر ہے اور باطن بھی اور دائم ہے اور رازق بھی تمام مخلوقات کا اور چار پائیوں کا

الْعَطَايَا دَافِعُ الْبَلَايَا مَنْ يُشْفِي السَّقِيمَ وَيَغْفِرُ الْخَاطِئِينَ وَيُبَوِّءُ النَّادِمِينَ وَ

عطاؤں والا۔ بلیات کا دفع کرنے والا۔ اے کہ بیماروں کو شفا دیتا ہے اور خطا کاروں کو بخشتا ہے۔ اور ٹھکانا دیتا ہے پشیمانوں کو

يَعْفُو الظَّالِمِينَ وَيُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَيُنْجِي الْمَغْمُومِينَ وَيُنذِرُ الْمُنْذِرِينَ

اور درگزر فرماتا ہے ظالموں سے اور محبت رکھتا ہے صالحین سے اور نجات دیتا ہے غمزدگان کو۔ اور عذاب خداوندی سے ڈراتا ہے ڈرانے کے لائق لوگوں کو

وَيَسْتُرُ الْمُنْذِرِينَ وَيَوْمَ مَنْ الْخَائِفِينَ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

اور پروردہ دیتا ہے گناہگاروں پر اور امن دیتا ہے خوفزدگان کو تو سبحان ہے۔ تو سبحان ہے۔ نہیں معبود برحق مگر تو

الْكَرِيمُ الْمَعْبُودُ كَثِيرُ الْعَطَايَا وَغَافِرُ الْخَطَايَا سَاتِرُ الْعُيُوبِ شَكُورٌ رَحِيمٌ

جو کریم معبود ہے۔ بہت عطاؤں والا۔ اور خطائیں بخشتے والا۔ عیوب پر پردہ دینے والا۔ شکور۔ رحیم۔

عَالِمٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ مَاهُ مَنِيَّتُ الزَّرْعِ وَالْأَشْجَارِ وَمُدَبِّرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ خَالِقُ

دلوں کے معاملات کا عالم۔ کھیتیاں اور درخت لگانے والا۔ رات اور دن کی تدبیر فرمانے والا

الْحَبُوبِ خَالِقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ غَنِيٌّ عَنِ الْخَلَائِقِ قَاسِمُ الْأَرْزَاقِ عَلَامُ

دوٹیوں کو پردے پیدا کرنے کیلئے اچھاڑنے والا۔ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمانے والا۔ تمام مخلوقات سے بے نیاز۔ ارزاق کو تقسیم فرمانے والا

الْغُيُوبِ مَذْهَبُ الْهُمُومِ أَنْتَ الَّذِي سَجَدَ لَكَ سَوَادُ اللَّيْلِ

غیوب کا جاننے والا۔ غموم و احزان کو دور کرنے والا۔ تو ہی ہے جس کو سجدہ کیا تاریکی شب نے۔ اور تو رنہارنے

وَضَوْءُ الْقَمَرِ وَشُعَاعُ الشَّمْسِ وَذَوِيُّ الْمَاءِ وَخَفِيُّ الشَّجَرِ اللَّهُمَّ

اور چاندنی ماہتاب نے اور شعاع آفتاب نے اور پانی کے بہاؤ نے اور درختوں کی جنبش نے۔ اے اللہ۔ اے پیرا

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَا كُنَّا

کرنے والے آسمانوں اور زمین کے۔ جاننے والے غیب اور شہادت کے رب ہر شئی کے اور مالک اقتدار ان کے

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَ

میں شہادت دیتا ہوں کہ نہیں معبود برحق مگر تو میں پناہ طلب کرتا ہوں تجھ سے اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر اور

شُرَكَاءِ فَسُبْحَانَ مَنْ تَحَيَّرَتِ الْعُقُولُ فِي شَانِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اس کے دام فریبے (بیاشرک سے) پس پاک ہے وہ ذات کہ حیرت زدہ ہیں عقول اس کی شان میں۔ نہیں معبود برحق مگر وہی عزیز حکیم

أَذْهَبِ الْبَأْسَ رَبِّ النَّاسِ أَشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا بِشَفَاكَ

دور فرما شدت اور سختی کو اے پروردگار انسانوں کے۔ شفا عطا فرما۔ تو ہی شفا بخشنے والا ہے۔ نہیں شفا مگر صرف تیری شفا

شِفَاءً لَا تُغَادِرُ سَقْبًا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نُذَلَّ وَنُخْزَى اللَّهُمَّ صَلِّ

ایسی شفا (بخش) کہ نہ چھوڑے کسی بیماری کو۔ اے اللہ بیشک ہم پناہ طلب کرتے ہیں تیری اس سے کہ ذلیل اور رسوا ہوں۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلَى نَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ أَجْمَعِينَ وَإِخْوَتِهِ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ

نازل فرما ہمارے نبی اور آقا محمد پر اور آپ کی تمام آل پر اور آپ کے تمام بھائیوں یعنی انبیاء و مرسلین پر

وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ كُفُوًا

اور سلام بھیج ان تمام پر۔ جزایں نیست کہ اللہ ہی معبود یگانہ ہے۔ وہ پاک ہے اس سے کہ ہر اس کا کوئی بیٹا

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝

فرما دیجئے وہ اللہ یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ خود جنا گیا

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

اور نہیں ہے اس کا کوئی ہم پلہ اور ہم بیا پیر۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

الحمد لله
کہ دین زمان ستمت اقمران ہل

ایر و مغان تحفه عجائب و ہدیہ غرائب الی اللہ اللہ
مقبول بارگاہ کونین حضرت محمد ﷺ
مُسَمَّیٰ بِهِ

مجموعۃ السؤل

الجزء الخامس عشر

فِ نَبْوَتِهِ وَرِسَالَتِهِ ﷺ

از تالیفات جناب مولانا محمد رفیع صاحب مدظلہ العالی

حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد عبدالرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور
صوبہ سرحد پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاَفْضَلِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ بِاَفْضَلِ

لے اللہ بیشک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بظیفیل سب سے زیادہ کامران یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور بظیفیل سب سے زیادہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ بِاَصْطَحِّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

موجب فرحت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے۔ اور بظیفیل سب سے زیادہ موجب اصلاح یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے

وَ بِاَنْجَحِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

اور بظیفیل سب سے زیادہ موجب فلاح یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ

غایت رحمت والا مہربان ہے۔ مالک، روز جزاء کا لے ان صفات کے موصوف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے توفیق طلب کرتے ہیں

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَیْرِ

چلا ہمیں راہ راست پر راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا نہ ان کی

الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَلَمَّا جَاءَهُمْ

جن پر غضب کیا گیا ہے اور نہ گمراہوں کی۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور جبکہ آئے ان کے پاس

رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِیْرًا

عظیم رسول اللہ تعالیٰ کے پاس سے " اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیشک ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ جبکہ تم بشارت دینے والے ہو راہل

وَنذِیْرًا وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَیَكُوْنُ الرَّسُوْلُ عَلَیْكُمْ شَهِیْدًا وَقَالَ

طاعت کو اور ڈرانے والے ہو راہل عاصیوں کو اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور ہوں گے رسول اللہ تمہارے حق میں گواہی دینے والے " اور فرمایا

اللّٰهُ تَعَالٰی تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰی بَعْضٍ وَقَالَ اللّٰهُ

اللہ تعالیٰ نے " وہ عظیم الشان جماعت رسولوں کی ہے فضیلت دی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر " اور فرمایا اللہ تعالیٰ

تَعَالٰی كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَّآ عَلَیْهِ وَكُتِبَ لَهُ وَاَرْسَلْنَاكَ لَمْ نَفْرِقْ بَیْنَ

نے سبھی ایمان لائے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے ملائکہ اور جملہ کتابوں اور تمام رسولوں کے ساتھ۔ ہم نہیں تفرق کرتے درمیان

أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ

کسی کے رسولوں میں سے (از روئے ایمان کے) اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے "پھر آئیں تمہارے پاس وہ عظیم رسول جو تصدیق کر نیوے ہیں

لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَكَيْفَ

ان تمام امور کی جو تمہارے ساتھ ہیں تو ضرور بالضرور ایمان لاؤ گے ساتھ ان کے اور مدد کرو گے ان کی" اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور کس طرح

تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُثَلِّي عَلَى كُم آيَاتِ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَقَالَ

کفر کرتے ہو تم حالاً حکم پر تلاوت کی جاتیں اللہ تعالیٰ کی آیات اور تمہارے اندر موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا

اللَّهُ تَعَالَى وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَ

اللہ تعالیٰ نے "اور نہیں محمد مگر رسول (نہ کہ اللہ) تحقیق گزر چکے ان سے قبل رسول" اور

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ

فرمایا اللہ تعالیٰ نے "جبکہ مبعوث فرمائے ان میں رسول انہیں میں سے جو تلاوت کرتے ہیں ان پر

آيَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ

اللہ کی آیات اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب اور حکمت کی" اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے "اور

مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطَّلِعَ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُّسُلِهِ

نہیں نمایاں اللہ تعالیٰ کے کہ اطلاع دے تمہیں غیب کی لیکن اللہ تعالیٰ جن لیتا ہے جسے چاہے یعنی رسولوں کو

مَنْ يَشَاءُ فَاْمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ

(اطلاع غیب کے لیے) پس ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے اور اگر ایمان لاؤ اور تقویٰ اختیار کرو تو تمہارے لیے

أَجْرٌ عَظِيمٌ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن

عظیم اجر ہوگا " اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے " اور کہہ دیجئے تحقیق آئے تمہارے پاس بہت رسول مجھ سے

قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ

پہلے سہت سی آیات بینات" اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے " اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو اللہ تعالیٰ اسے داخل

جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ

فرمائے گا ان جنات میں کہ بہتی ہیں ان کے درختوں کے نیچے نہریں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں اور وہ بہت عظیم

الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ

کامیابی ہے اور جو نافرمانی برداری کرے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اور اس کے حدود سے تجاوز کرے تو داخل کرے گا

تَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَطِيعُوا

اللہ اس کو آتش دوزخ میں ہمیشہ اس میں ہوگا اور اسی کیلئے ہوگا سوا کرنے والا عذاب۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے "اطاعت کرو

اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی اور اپنے اصحاب امر کی پس اگر جھگڑا کرو کس شے میں

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

تو اس کو لوٹاؤ طرف اللہ کے اور رسول کے اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے "اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ

کے اذن سے اور اگر وہ ظلم کریں اپنی جانوں پر۔ آئیں آپ کے پاس پس بخشش طلب کریں اللہ تعالیٰ سے اور بخشش طلب کریں

لَهُمُ الرَّسُولَ لَوْجَدُوا وَاللَّهِ تَوَّابًا حَنِيمًا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ

ان کے لیے رسول اللہ البتہ ضرور پائیں گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان" اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے "اور جو

يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ

اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے یعنی

التَّيِّبِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَقَالَ اللَّهُ

انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کے ساتھ اور فرمایا اللہ تعالیٰ

تَعَالَى وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَ

نے "اور بھیجا ہے ہم نے آپ کو واسطے انسانوں کے رسول بنا کر اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور گواہ اور

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ

جس اطاعت کی رسول اللہ کی تو پس یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی اور جس نے اعراض کیا تو نہیں بھیجا ہم نے

عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ

آپ کو ان پر نگران و محافظ بنا کر کہ تم سے جواب طلبی ہو اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے "اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر

وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابَ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ رَأْسُوهُ وَالْكِتَابَ الَّذِي نَزَّلَ

اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے رسول پر نازل فرمائی اور ہر اس کتاب پر نازل کی اس

مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ

سے پہلے اور جو کفر کرے ساتھ اللہ کے اور ملائکہ اور کتابوں اور رسولوں اور روز

الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ

قیامت کے تو پس یقیناً گمراہ ہوا بہت گمراہ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے " بیشک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں

بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَ

ساتھ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے اور ارادہ کرتے ہیں تفرقہ کا درمیان اللہ اور اس کے رسولوں کے اور

يَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا

کہتے ہیں ایمان لاتے ہیں ساتھ بعض کے اور کفر کرتے ہیں ساتھ بعض کے اور ارادہ رکھتے ہیں کہ بنائیں اس کے

بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى

درمیان میں راستہ وہی لوگ ہی پکے کافر ہیں - اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے

رَسُولًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ

کہ بھیجے اس نے "رسول جو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے ہیں تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت

بَعْدَ الرُّسُلِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَقَالَ اللَّهُ

رسولوں کی بعثت کے بعد اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے " پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر " اور فرمایا اللہ تعالیٰ

تَعَالَى وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ

نے " اور جب ان کے پاس رسول اللہ کے پاس سے جو تصدیق کرنے والے ہیں ان تمام امور کی جو ان کے ساتھ ہیں "

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى

اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے حتیٰ کہ رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے کیسا ہے

نَصْرَ اللَّهِ الْإِنِّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَبَعَثَ اللَّهُ

مدد اللہ تعالیٰ کی آگاہ رہو بیشک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے "پس بھیجا اللہ نے

النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

انبیاء کو بشارتیں دیتے اور ڈراتے اور نازل فرمائے ساتھ ان کے کتاب ساتھ حق کے۔

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ

اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے "اور جبکہ لیا اللہ نے عہد انبیاء سے جب میں دوں تمہیں

مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ

کتاب اور حکمت " اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے "اور نہیں شایاں کسی نبی کے لیے کہ خیانت کرے

وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ

اور جو خیانت کرے گا تو آئے گا بمع اس شی کے جو اس نے بطور خیانت کی قیامت کے دن اور فرمایا اللہ نے "اور

كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرَةٌ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّا

کتنے نبی ہیں کہ ان کی معیت میں قتال کیا بہت سے خدا رسیدہ لوگوں نے " اور فرمایا اللہ نے "بے شک ہم نے

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَقَالَ

وحی کی طرف تمہارے جیسے کہ وحی کی طرف نوح کے اور ان کے بعد والے انبیاء کے " اور فرمایا

اللَّهُ تَعَالَى رَبَّنَا مَا وَعَدْتُنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ

اللہ تعالیٰ نے "اے رب ہمارے عطا کر ہمیں جس کا وعدہ دیا ہے تو نے اپنے رسولوں کی زبان پر اور نہ رسوا کرنا ہمیں

الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ

قیامت کے دن۔ بیشک تو نہیں خلاف کرتا وعدہ کا " اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور جس نے دوستی کی اللہ تعالیٰ

وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ وَقَالَ

اور اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے پس تحقیق اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب ہے اور فرمایا

اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ

اللہ تعالیٰ نے "اے رسول پہنچا دیجئے جو نازل کیا گیا ہے آپ پر تمہارے رب کی طرف سے اور اگر (بالفرض)

لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ وَقَالَ

آپ نہیں کرو گے تو تم نے نہیں پہنچائے اس کے بھیجے ہوئے پیغام اور اللہ محفوظ رکھے گا تمہیں لوگوں سے اور فرمایا

اللَّهُ تَعَالَى لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ

اللہ تعالیٰ نے "البتہ تحقیق لیا ہم نے عہد بنی اسرائیل سے اور بھیجے طرف ان کے

رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ وَقَالَ اللَّهُ

رسول ہر بار کہ آئے ان کے پاس رسول ساتھ ان امور کے کہ میں محبوب رکھتے تھے انہیں ان کے قوس اور فرمایا اللہ

تَعَالَى مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ

تعالیٰ نے "نہیں ہیں مسیح بن مریم مگر رسول (نہ خدا ہیں نہ اس کے بیٹے) تحقیق گزرے ان سے پہلے

الرُّسُلُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذْ أَسْبَعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَى الرَّسُولِ

بہت رسول اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے "اور جب سنا انہوں نے جو نازل کیا گیا طرف رسول اللہ کے

تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا

دیکھو گے ان کی آنکھیں بہتی ساتھ آنسوؤں کے بسبب عرفان حق کے در آنحالیکہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار

أَمْثَلًا كُتِبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَ

ہم ایمان لائے پس لکھ دے ہیں ساتھ شہادت دینے والوں کے اور فرمایا اللہ تعالیٰ اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور

أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا

اطاعت کرو رسول اللہ کی اور احتیاط و پرہیز کرو پس اگر اعراض کرو تو یقین جانو کہ نہیں لازم ہمارے رسول پر

الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَ

مگر واضح تبلیغ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے "اور نہیں لازم رسول اللہ پر مگر پہنچانا احکام خداوند تعالیٰ کا اور

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذْ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ تَعَالَى إِلَيْهِمْ تَعَالَى إِلَيْهِمْ تَعَالَى إِلَيْهِمْ

فرمایا اللہ تعالیٰ نے "اور جب انہیں کہا جائے آؤ طرف اس کے جو اللہ نے نازل فرمایا اور طرف

الرُّسُولِ قَالُوا احْسِبْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَائَنَا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى

رسول کے تو وہ کہتے ہیں کافی ہے ہمیں جس پر پایا ہم نے اپنے آباء کو " اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے

وَلَقَدْ جَاءَ مِنْ نَبَايَ الْمُرْسَلِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَلَنَسْئَلَنَّ

اور البتہ تحقیق آئیں آپ کے پاس مرسلین کی خبروں سے " اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے " پس ہم ضرور سوال کریں گے

الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى

ان سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور ضرور سوال کریں گے مرسلین سے " اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ

" اے ایمان والو نہ خیانت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ کی اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں حالانکہ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا

تم اہل علم ہو اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے " واسطے ہر امت کے رسول ہے پس جب

جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَقَالَ

آپھے رسول ان کا تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان میں ساتھ انصاف کے اور وہ ظلم نہیں کئے جائیں گے۔ اور فرمایا

اللَّهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي أُرْسِلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ

اللہ تعالیٰ نے " وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ساتھ ہدایت اور دین حق کے تاکہ

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَطِيعُوا اللَّهَ وَ

عالم کرے انہیں تمام تر ادیان پر - اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے " اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور

أَطِيعُوا الرَّسُولَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَهُ

اطاعت کرو رسول اللہ کی " اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن سے کلام کیا

الصَّبِيُّ يَوْمَ وِلَادَتِهِ وَشَهِدَ بِنُبُوَّتِهِ وَرَسَّالَتِهِ وَصَلِّ عَلَى

بچے نے ولادت کے دن اور گواہی دی آپ کی نبوت و رسالت کی اور صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَهُ الْحَجْرَ الْأَسْوَدَ وَأَقْرَبِرَسَّالَتِهِ وَ

سیدنا محمد پر جن سے کلام کیا حجر اسود نے اور اقرار کیا آپ کی رسالت کا اور

وَحَدَّ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمَهُ الشَّجَرُ بِقَوْلِ لَا إِلَهَ

وحدانیت باری تعالیٰ بیان کی۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن سے وزحت نے کلام کیا ساتھ اس قول کے " لا الہ

إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جُلِّ

إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ " اور صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر جنہیں پیدا کیا گیا

عَلَى الطَّبِيعِ الْكَرِيمِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ عَزَّ

کریم طبیعت پر اور صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر جو مراد ہیں اللہ عزوجل کے اس

وَجَلَّ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ صَلَّى اللَّهُ

قول سے جو ذکر حکیم میں ہے " بے شک وہ البتہ قول ہے کریم رسول کا صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَلْبَسَ اللَّهُ أَدَمَ

علیہ وسلم اور صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر کہ رکھا اللہ تعالیٰ نے تاج آدم کی

تَاجًا مِنْ نُبُوتِهِ عَلَى جَبِينِهِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

جبین پر آپ کی نبوت کی وجہ سے اور صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کی

خَرَّتْ لِرِسَالَتِهِ الْأَصْنَامُ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

رسالت رکھے سلام نیاز پیش کرنے کیلئے گر پڑے بت سجدہ میں اور صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر جو کہ

خَلَّصَهُ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوتَ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

خلاصہ اور جوہر ہیں رسالت و نبوت کا اور صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جنہیں

خَاطَبَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ

خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے (ساتھ اس قول کے) ایمان لائے رسول ساتھ اس کے جو ان پر نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے

وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاصَّةً رُسُلِ اللَّهِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا

اور صلوة نازل فرما سیدنا محمد پر جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں خاص رسول ہیں اور صلوة نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَشْرَقَ وَجْهَهُ بِنُورِ النُّبُوتِ وَالرِّسَالَةِ وَصَلَّى

محمد پر کہ جن کا چہرہ انور چمک گیا نور نبوت و رسالت کے ساتھ اور صلوة نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَقْرَلَهُ بِالْفَضْلِ وَالْإِعْلَاءِ مِمَّنْ كَانَ

سیدنا محمد پر کہ جن کے لیے اقرار کیا فضل و شرف اور بلندی و رفعت کا

قَبْلَهُ مِنَ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

پہلے رسولوں اور نبیوں نے - اور صلوٰۃ نازل فرماستینا محمد پر کہ جنہیں

فَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَى أَوْلَى الْعِزْمِ مِنَ رُسُلِهِ وَأَنْبِيَاءِهِ وَصَلِّ عَلَى

فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے اولوالعزم رسل اور انبیاء پر اور صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ رَسُولٍ وَنَبِيٍّ قَبْلَهُ وَ

ستینا محمد پر کہ جنہیں فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے ہر پہلے نبی و رسول پر اور

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرًّا نَجْمِ نُبُوَّتِهِ عَلَى مِنْهَا بِحِ شَرِيعَتِهِ

صلوٰۃ نازل فرماستینا محمد پر جو راز سربستہ ہیں انجم نبوت کا شاہراہ شریعت پر

وَسِرِّ الَّذِي خَلَعَتْ عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ الْجَلَالَةِ وَفَاقَ أَهْلَ النَّبُوَّةِ

اور تیرا وہ راز مخفی کہ جس کو تو نے پہنائیں خلقمائے جلالت اور فوقیت لے گئے اہل نبوت

وَالرِّسَالَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ لَقَدْ

ورسالت پر - اور صلوٰۃ نازل فرماستینا محمد پر جو مراد ہیں اللہ عزوجل کے اس قول سے

مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا

اللہ تعالیٰ نے مومنین پر جبکہ بھیجا ان میں رسول انہیں میں سے جو تلاوت کرتا ہے

عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْمُرْسَلِ

ان پر آیات باری تعالیٰ کی اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی

إِلَى كَافَّةِ الْخَلْقِ رَحْمَةً وَنِعْمَةً وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اور جو بھیجے گئے تمام مخلوق کی طرف از روئے رحمت و نعمت ہونے کے - اور صلوٰۃ نازل فرماستینا محمد پر جو

سَرَى لِنَيْلِ الْقَصْدِ وَالْأَمَلِ وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا الَّذِي

شب اسراچلے مقاصد اور تمناؤں کو حاصل کرنے اور منادی حق پکار کر کہہ رہا تھا یہی ہیں وہ جن

عُقِدَتْ لَهُ النَّبُوَّةُ فِي الْأَنْزَلِ وَسَرَى وَأَنْوَارُهُ تَتَوَقَّدُ وَالْمُنَادِي

کے لیے عہد نبوت لیا گیا ازل میں اور شب معراج چلے جبکہ انوار ان کے خوب روشن تھے اور منادی حق کہہ رہا تھا

يُنَادِي هَذَا الَّذِي نَبَّأَهُ اللَّهُ وَأَدْمُرَبَيْنِ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ وَسَرَى

یہی ہیں وہ جن کو نبی بنایا گیا جبکہ آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے

إِلَى قَابِ قَوْسَيْنِ وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا الَّذِي نَبَّأَهُ اللَّهُ وَ

اور جو پینچے قاب قوسین کے قریب تھک اور منادی حق کہہ رہا تھا یہی ہیں وہ جنہیں اللہ نے نبی بنایا

أَدْمُرَبَيْنِ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ وَسَرَى عَلَى مَتْنِ الْبُرَاقِ وَالْمُنَادِي

جبکہ آدم ہنوز آب و گل میں تھے۔ اور چلے براق کی پشت پر اور منادی حق کہہ رہا تھا

يُنَادِي هَذَا رَسُولُ الْمَلِكِ الْخَلْدَقِ وَسَرَى إِلَى الْمَحَلِّ الْأَعْلَى

یہی ہیں ملک خلاق کے رسول۔ اور چلے بلند ترین مقام کی طرف

وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا رَسُولُ الْمَوْلَى وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جبکہ منادی حق نداء دے رہا تھا یہی ملک مولیٰ کے رسول۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي سَرَى إِلَى أَسْرَافٍ مَنْزِلَةٍ عِنْدَ اللَّهِ وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا

جو چلے قریب ترین منزل کی طرف اللہ تعالیٰ کے پاس اور منادی نداء دے رہا تھا یہ ہیں

حَبِيبُ اللَّهِ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ وَسَرَى وَقَدْ خَصَّهُ اللَّهُ بِرُؤْيَاةٍ

حبیب اللہ یہ ہیں رسول اللہ اور چلے جبکہ مخصوص ٹھہرایا انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کے ساتھ

وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا خَيْرٌ مِّنْ نَّبَّأَهُ اللَّهُ وَأَصْطَفَاهُ وَسَرَى

اور منادی نداء دے رہا تھا یہ بہتر ہیں ان تمام سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے شرف نبوت بخشا اور چن لیا۔ اور منتخب اسرار چلے

وَالْمَلَائِكَةُ وَالْأَنْبِيَاءُ تُقْبَلُهُ وَتُحَيِّيهِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جبکہ ملائکہ اور انبیاء ان کے بوسے لیتے تھے اور ہدیے پیش کرتے تھے اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي قَفَلَ مِنْ مَّسْرَاةٍ وَقَدْ مَلَكَ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الدَّارِ الْإِنْسَانِ

جو لوٹے اپنی سیر سے جبکہ مالک ہو چکے تھے دارین کے خزانوں کی چابکدہوں کے

وَسَمَاعِلِي مَنَاصِبِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اور حاوی ہو چکے تھے تمام انبیاء و مرسلین کے مناصب و مراتب پر اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ إِلَىٰ مَحَلِّ فَوْزِهِ وَنَجَاتِهِ وَالْمُنَادِيُّ يُنَادِي

محمد پر جنہوں نے معراج فرمایا مقام فوز و نجات تک اور منادی کہہ رہا تھا

هَذَا النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

یہ ہیں نبی امی جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے کلمات پر۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ إِلَىٰ عَلْوِ مَكَانَتِهِ وَرُتَبَتِهِ وَ

سیدنا محمد پر جنہوں نے معراج فرمائی اپنے بلند تر مکان اور مرتبہ تک اور

الْمُنَادِيُّ يُنَادِي هَذَا الَّذِي نَبَّأَهُ اللَّهُ وَأَدْمُ مَنْجِدٍ فِي

منادی نداء دے رہا تھا یہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا جبکہ آدم ہنوز پڑے تھے

طِينِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَالْمَلَكَةُ

بیکچڑ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو معراج پر چلے تو ملا کہ

وَالْأَنْبِيَاءُ تُقْبَلُهُ وَتُحْيِيهِ وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْجَامِعِ

اور انبیاء ان کے بوسے پیتے تھے اور تحفے پیش کرتے تھے۔ اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو جامع ہیں

بِحَقِيقَتِهِ لِجَمِيعِ الْحَقَائِقِ وَبِرُوحِهِ لِجَمِيعِ الْأَرْوَاحِ وَبِشَرِيعَتِهِ

باعتبار اپنی حقیقت کے تمام حقائق کے اور باعتبار اپنی روح کے تمام ارواح کے لیے اور باعتبار شریعت کے

لِجَمِيعِ الشَّرَائِعِ وَبِطَرِيقَتِهِ لِجَمِيعِ الطَّرِيقِ وَبِحَقِيقَتِهِ لِجَمِيعِ

تمام شرائع کو اور باعتبار طریقیت کے تمام طریقوں کو اور باعتبار حقیقت کے تمام حقیقتوں کو اور

الْحَقَائِقِ وَبِمَعْرِفَتِهِ لِجَمِيعِ الْمَعَارِفِ وَبِنُبُوتِهِ لِجَمِيعِ

باعتبار معرفت کے تمام معارف کو اور باعتبار نبوت کے تمام

النُّبُوتَاتِ وَبِوَلَايَتِهِ لِجَمِيعِ الْوَلَايَاتِ وَيَقْلِبُهُ لِجَمِيعِ

نبوتوں کو اور باعتبار اپنی ولایت کے تمام ولایتوں کو اور باعتبار اپنے قلب کے تمام

الْقُلُوبِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ كُنْتُ

قلوب کو۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جنہوں نے فرمایا " میں

بَيِّنًا وَادْمَرَبَيْنِ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ حَيٌّ لَا تَمُوتُ وَ

نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام ہنوز آب و گل میں تھے " اے اللہ بیشک تو زندہ ہے جو مرنے سے پاک ہے

دَائِمًا لَا تَفُوتُ وَخَالِقٌ لَا تُخْلَقُ وَسَبِيْعٌ لَا تُشْكُ وَيَصِيْرٌ لَا

دائم ہے جو زوال سے پاک ہے۔ پیدا کرنے والا ہے پیدا کئے جانے سے پاک ہے اور سننے والا ہے نہیں شک کیا جاتا ہے

تُرْتَابٌ وَرَبٌّ لَا تُعَابُ وَشَاهِدٌ لَا تَغِيْبُ وَأَبْدِيٌّ لَا تَفْقُدُ

اور دیکھتا ہے نہیں ترود کیا جاتا اس میں۔ اور پروردگار ہے نہیں عیب لگایا جاسکتا۔ اور مشاہدہ کرنے والا ہے جو غائب نہیں ہوتا ہے اور

وَلَا تَنْفَدُ وَصَادِقٌ لَا تُكْذِبُ وَقَاهِرٌ لَا تُغْلَبُ وَقَرِيْبٌ لَا يُبْعَدُ

ابدی ہے نہ معلوم ہوتا ہے اور نہ ختم ہوتا ہے اور سچا ہے جھوٹا نہیں قرار دیا جاسکتا اور غالب ہے مغلوب نہیں۔ قریب ہے بعید نہیں

وَقَادِرٌ لَا تُضَارُّ وَغَافِرٌ لَا تُظْلَمُ وَصَمْدٌ لَا تُطْعَمُ وَقِيَوْمٌ لَا تُتَامُ

قادر ہے قابل ضرر نہیں۔ غافر ہے مظلوم نہیں۔ بے نیاز ہے محتاج طعام نہیں۔ قیوم ہے سوتا نہیں

وَمُجِيْبٌ لَا تُسَامُ وَجَبَّارٌ لَا تُكَلِّمُ وَعَلِيْمٌ لَا تُرَامُ وَعَالِمٌ لَا تُعْلَمُ

اور قبول کرنے والا ہے تنگدل نہیں ہوتا اور جبار ہے جس سے کلام نہیں کیا جاسکتا اور علیم ہے اس کا قصد نہیں کیا جاسکتا۔ عالم ہے

وَقَوِيٌّ لَا تُضْعَفُ وَعَظِيْمٌ لَا تُوصَفُ وَوَفِيٌّ لَا تُخْلَفُ وَعَدْلٌ لَا

محتاج تعلیم نہیں۔ قوی ہے کمزور نہیں اور عظیم ہے کما حقہ وصف نہیں کیا جاسکتا اور اہل وفا ہے خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ سراسر عدل ہے

تَحِيْفٌ وَغَنِيٌّ لَا تُفْتَقِرُ وَمَعْرُوْفٌ لَا تُنْكِرُ وَكَبِيْرٌ لَا تُغْدِرُ وَ

ظلم نہیں کرتا اور غنی ہے محتاج نہیں اور جانا پہچانا ہے اجنبی نہیں اور صاحب کبریا ہے عمدہ شکنی نہیں کرتا۔

حَكِيْمٌ لَا تُجُوْرُ وَمَنِْيْعٌ لَا تُقْهَرُ وَوَكِيْلٌ لَا تُخْفِرُ وَغَالِبٌ لَا

حکیم ہے جو نہیں کرتا۔ مستحکم ہے مقهور نہیں ہوتا اور کارساز ہے ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کرتا۔ غالب ہے

مُغْلَبٌ وَوِتْرٌ لَا تُسْتَامِرُ وَفَرْدٌ لَا تُسْتَشِيْرُ وَوَهَّابٌ لَا تُمَلُّ

مغلوب نہیں اور یگانہ ہے رائے نہیں لیتا اور یکتا ہے مشورہ نہیں لیتا اور بہت ہمہ کرنے والا ہے رنجیدہ نہیں ہوتا

وَسَرِيْعٌ لَا تُذْهَلُ وَحَلِيْمٌ لَا تُعْجَلُ وَجَوَادٌ لَا تُبْخَلُ وَعَزِيْزٌ

اور صاحب سرعت ہے بھولتا نہیں اور صاحب علم ہے جلد بازی نہیں کرتا اور صاحب جود ہے بخل نہیں کرتا صاحب عزت ہے

اور صاحب سرعت ہے بھولتا نہیں اور صاحب علم ہے جلد بازی نہیں کرتا اور صاحب جود ہے بخل نہیں کرتا صاحب عزت ہے

لَا تُذَلُّ وَقَائِمٌ لَا تَنَامُ وَحَافِظٌ لَا تَغْفَلُ وَمُحْتَجِبٌ لَا تُرَى

مغلوب نہیں ہوتا۔ قائم ہے نہیں سوتا اور محافظ ہے غافل نہیں ہوتا اور بوجہ کمال ظہور نگاہوں سے اوچھلے نہیں دیکھا جاسکتا

وَدَائِمٌ لَا تَفْنَى وَبَاقٍ لَا تَبْلَى وَوَاحِدٌ لَا تُشْبَهُهُ وَمُقْتَدِرٌ لَا

اور دائم ہے فنا پذیر نہیں اور باقی ہے بسیدہ نہیں ہوتا اور اکیلا ہے کسی کے مشابہ نہیں اور صاحب اقتدار ہے جس

تُنَازِعُ وَمَلِكٌ لَا تَزُولُ يَا كَرِيمُ الْجَوَادُ الْمَكْرُمُ يَا جَبَّارُ الْمُتَجَبَّرُ

سے نزاع نہیں کیا جاسکتا اور بادشاہ ہے جس کی بادشاہی کو زوال نہیں۔ اے کریم۔ جواد۔ مکرم اے جبار۔ متجبر۔

الْمُتَكَبِّرُ يَا جَلِيلُ الْمُتَجَلِّلُ يَا عَزِيزُ الْعِزِّ الْمُتَعَزِّزُ يَا

متکبر۔ اے جلیل۔ جلال کو پوری طرح ظاہر کر نبوالے۔ اے بہت جمال والے۔ اے عزیز۔ اے عزت دینے والے عزت کاملہ کا

مَنْ يُنَادِيكَ مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَمِيْقٍ يَا ظَاهِرَ الظُّهُورِ الْمُظْهِرِ يَا

مظاہرہ کرنے والے۔ اے کہ جسے پکارتے ہیں ہر گہرے راستے سے۔ اے ظاہر۔ سراسر ظہور۔ ظاہر کرنے والے۔ اے

ظَاهِرَ الظُّهُورِ الْمُظْهِرِ يَا قَاهِرَ الْبُقْتَدَارِ يَا عَزِيزَ الْعِزِّ

ظاہر سراسر ظہور۔ پاک کرنے والے اور پاکیزگی کاملہ والے۔ اے قاہر۔ صاحب اقتدار۔ اے عزیز۔ اے عزت دینے والے

الْمُتَعَزِّزِ يَا مَنْ يُنَادِيكَ مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَمِيْقٍ وَمِنْ شَوَاهِقِ

اے عزت کاملہ والے۔ اے کہ جس کو پکارتے ہیں (مخلوق) ہر گہرے راستے سے اور پہاڑوں کی بند

الْجِبَالِ وَأَقْعَارِ الْبِحَارِ وَأَوْكَارِ الطُّيُورِ بِالسَّنَةِ شَتَّىٰ وَ

چوٹیوں اور سمندروں کی گہرائیوں اور پرندوں کے گھونسلوں سے مختلف زبانوں اور بولیوں کے

لُغَاتٍ مُّخْتَلِفَةٍ وَحَوَائِجِ آخِرَىٰ يَا مَنْ لَا يُشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ

ساتھ اور اور مختلف حاجات میں۔ اے کہ جسے نہیں مشغول کرتی ایک حالت

شَأْنٍ يَا مَنْ لَا يُشْغَلُكَ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ أَنْتَ الَّذِي لَا تُغَيِّرُكَ

دوسری سے۔ اے کہ جسے نہیں مشغول کرتی کوئی شئی دوسری سے تو ہی ہے جس کو نہیں متغیر کرتے

الْأَنْرُمَةَ وَلَا تُحِيْطُ بِكَ إِلَّا مَكِيْنَةٌ وَلَا تُصِفُكَ إِلَّا لِسَانَةٌ وَلَا

زمانے اور نہیں محیط ہو سکتے مکان اور نہ تیری توصیف کر سکتی ہیں زبانیں اور نہ تجھے

تَأْخُذُكَ نَوْمٌ وَلَا سِنَّةٌ وَلَا يُشْبِهُكَ شَيْءٌ وَكَيْفَ لَا تَكُونُ كَمَا تَكُونُ

اپنی لپیٹ میں لیتی ہے نیند اور نہ ہی اونگھ اور نہیں مشابہ تیرے کوئی شئی اور کیونکر تو ایسے نہ ہو جبکہ

وَأَنْتَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَكَ الْكَرِيمَ

ترہر شئی کا خالق ہے اور ہر شئی ہلاک ہونے والی ہے سوائے تیری ذات کریم کے پاکیزہ

سُبُوْحٌ ذَكَرَكَ قَدَّوْسٌ أَمْرُكَ وَاحِدٌ حَقُّكَ نَافِدٌ قَضَاؤُكَ

ہے ذکر تیرا مقدس ہے امر تیرا واحد ہے حق تیرا نافذ ہے قضاء تیری

وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَيَسِّرْ لِي مِنْ أَمْرِي مَا

و صلوات بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور آسان فرما میرے لیے میرے امر سے

أَرْجُو مِنْكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ وَاصْرِفْ عَنِّي مَا أَخَافُ عَنْهُ

جس کی میں امید رکھتا ہوں تجھ سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اور دور فرما مجھ سے جس سے میں خوف کھاتا ہوں

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ وَيَسِّرْ لِي مِنْ أَمْرِي مَا أَخَافُ عُسْرَتَهُ يَا

یا اللہ یا اللہ اور آسان فرما میرے لیے میرے امر سے جس کی تنگی سے میں ڈرتا ہوں یا

اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ وَفَرِّجْ عَنِّي مَا أَخَافُ ضَيْقَتَهُ يَا اللَّهُ

اللہ یا اللہ یا اللہ - اور دور فرما مجھ سے جس کی تنگی سے میں خوف کھاتا ہوں یا اللہ یا اللہ

يَا اللَّهُ وَسَهِّلْ لِي مَا أَخَافُ حُرُونَتَهُ يَا اللَّهُ اللَّهُمَّ صِفْنَا

یا اللہ - اور آسان فرما میرے لیے جس کی سختی سے میں ڈرتا ہوں یا اللہ - اے اللہ مصفی و صفا

بِصِفَائِهِ وَاجْعَلْنَا مِنْ إِخْلَائِهِ وَصُدُورِنَا فِي صُدُورِ دِيْوَانِهِ

ہمیں بطفیل ان کے صفا و خلوص کے اور بنا ہمیں ان کے دوستوں سے اور ہمارے سینوں کو داخل فرما ان کے اولیاء کے

أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَعْدِهِ صَلَوةٌ وَسَلَامٌ مَا دَامَ السَّمِينُ بِدَامِ عَطَائِهِ

دیوان کے سینوں میں ان کے بعد صلوات و سلام نازل ہو ان پر جو دائم ہو ان کے دام عطا کے مطابق

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَلَا أَسْأَلُ مِنْكَ

صلی اللہ علیہ وسلم - اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور نہیں سوال کرتا تیرے غیر سے

وَأَرْغَبُ إِلَيْكَ وَلَا أَرْغَبُ إِلَى غَيْرِكَ وَأَسْأَلُكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ

اور تیری طرف رغبت کرتا ہوں اور نہیں رغبت رکھتا تیرے سوا کی طرف اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے خوفزدگان کی

وَجَارِ الْمُسْتَجِيرِينَ أَنْتَ الْفَتْاحُ إِلَى الْخَيْرَاتِ وَمُقِيلُ الْعَثَرَاتِ

امان اور پناہ پکڑنے والوں کی پناہ۔ تو ہی ہے کھولنے والا دروازہ طرف خیرات کے اور درگزر کرنے والی لغزشوں سے

وَمَا حَى السَّيِّئَاتِ وَكَاتِبُ الْحَسَنَاتِ وَمَرَا فَعُ الدَّرَجَاتِ وَمَا نَعُ

اور مٹانے والا گناہوں کا اور لکھوانے والا نیکیوں کا اور بلند کرنے والا درجات کا اور روکنے والا

الْبَلِيَّاتِ وَدَافِعُ الْأَفَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

مصائب کا اور دور کرنے والا آفات کا۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ

شَهِدَ بِرِسَالَتِهِ الْمَلِكُ الْغَفَّارُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

شہادت دی ان کی رسالت کی ملک غفار نے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الْأَنْسَانَ لِعُيُونِ الْمَهَالِكِ وَالرُّوحَ لِدَاوَابِّ الْمَدَدِ وَالسَّالِكِ

جو پتلی ہیں ممالک کی آنکھوں کے لیے اور روح ہیں واسطے مدد کے دائروں اور راستوں کے لیے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ظَلَمْتَ الْمَدَّ وَدَلِكُلِّ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو کہ تیرا ظل ممدود ہیں

مُقَرَّبٍ وَقَبِيكَ الْمَسْعُودِ لِكُلِّ مُحِبِّبٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

واسطے ہر مقرب کے اور سایہ سعادت ہیں واسطے ہر محبوب کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَطْلَعِ الْأَنْوَارِ الْإِلَهِيِّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو انوار الہیہ کے مطیع ہیں

وَمَخْزَنِ الْعُلُومِ الْوَحْدَةِ الرَّبَّانِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور وحدت ربانیہ کے علوم کے خزانہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَبْلَةَ التَّجَلِّيِ الدَّائِي وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو قبلہ ہیں تجلی ذاتی کا اور

وَمُظْهِرِ أَسْرَارِ الصَّفَاتِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مظہر ہیں اسرار صفائی کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْحَائِزِ لِعِلْمِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ اللَّهُمَّ

اور آپ کی آل پر جو محبوب جامع ہیں ماکان و مایکون کے علوم کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَجَلَى الْإِسْمِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو جلوہ گاہ ہیں پوشیدہ

الْأَعْظَمِ الْمَكْنُونِ وَحَقِيقَةِ الْعَرْشِ الْمَخْرُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

اسم اعظم کی اور حقیقت ہیں مخزون و محفوظ عرش کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ الرَّحْمَةِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو عین رحمت ہیں

وَسِرِّ الْحِكْمَةِ وَبَابِ الْحَضْرَةِ وَمَقْصُودِ النَّظَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور راز حکمت ہیں اور بارگاہ خداوندی کا دروازہ ہیں اور مقصود نظر ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْأَرْوَاحِ وَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو روحوں کے طبیب ہیں اور

قُوَّةِ الْأَشْبَاحِ وَالصَّلَاحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اجسام کے لیے قوت اور بہتری کا سامان ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَرُورِي الظُّلْمِ وَمُذْهِبِ الْعَمَى مَنْ

اور آپ کی آل اطہار پر کہ سیراب کرنے والے ہیں پیاس کے اور دور کرنے والے ہیں اندھے پن کو جو کہ

هُوَ الْحَمِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

سزایا حمایت و نگرانی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ مَفِيضِ النَّبَاتِ وَالنُّورِ السَّرَّاجِ وَمُتَلَاطِعِ الْأُمُورِ

پر جو فیض دینے والے ہیں تنابج کا اور روشن چراغ ہیں۔ زور سے بہتا دریا ہیں جس کی موجیں باہم متلاطم ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ الْبَصَائِرِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو مجسم نور ہیں بصیرتوں کیلئے

وَمَدَدِ الدَّوَائِرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور مدد میں دائروں کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ مَطْلُوبِ الْحَضَائِرِ وَالرَّسُولِ الظَّاهِرِ وَالنَّبِيِّ الْفَاخِرِ اللَّهُمَّ

پر جو مطلوب ہیں قدسی بارگاہوں کے۔ صاحب طہارت رسول اور صاحب فخر نبی ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُبِيدِ الْمَنَاكِرِ وَمُشِيدِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو تباہ کرنے والے ہیں بلائوں کے اور بخشنے والے

الْأوامِرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللہ تعالیٰ کے احکام کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

حَبِيبِ الْكُلِّ وَالْمُطَّلِعِ عَلَى الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جو آقا ہر ایک کے حبیب ہیں اور غیب پر مطلع ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حِجَابِ كُلِّ عَارٍ وَازْدِيَادِ حَبَابَةٍ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو حجاب و رکاوٹ ہیں ہر عار کے آگے اور موجب ہیں محبت میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرِّ الْعُدَدِ

ترقی کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا راز مخفی ہیں اعداد کا

وَمِيمِدِّ الْمَدَدِ مَنْ لَا يُسَاوِيهِ أَحَدٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ

اور موجب و باعث ہیں مدد کا جن سے کوئی بھی مساوی نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ بیشک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بطفیل میری

أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ

اس شہادت کے کہ تو ہی اللہ ہے۔ نہیں معبود برحق مگر وہی اور اس گواہی کے کہ محمد تیرے عبد اور رسول

وَمَحْبُوبِكَ وَالْأَوْلِيَاءُ وَالصُّلَحَاءُ بِمَحَبَّتِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

اور محبوب ہیں اور تمام اولیاء و صلحاء بھی یہی شہادت دیتے ہیں بسبب تیری محبت کے۔ اے اللہ بیشک میں سوال

يَا لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ الْحَمْدُ

کرتا ہوں تجھ سے بظہیر اس کے کہ تیرے لیے ہی حمد ہے نہیں معبود برحق مگر تو اکیلا نہیں کوئی شریک تیرا بہت مہربان

الْمَثَانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

بہت صاحب احسان۔ از سر نو پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا اور جو ان کے درمیان ہے۔ پاک ہے میرا رب عظیم

وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى الْوَهَّابُ اللَّهُمَّ فَاطِرُ

اور حمد ہے اس کی۔ پاک ہے وہ اور بلند شان۔ پاک ہے میرا رب اعلیٰ جو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ پیدا کرنے والے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَفَلْيَكْفُرُوا

آسمانوں اور زمین کے۔ جاننے والے غیب و شہادت کے۔ رب ہر شئی کا اور بادشاہ اور

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ

میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں معبود برحق مگر تو اکیلا نہیں شریک واسطے تیرے۔ اے اللہ بے شک صبح کی میں نے

وَأَشْهَدُكَ وَأَشْهَدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ يَا نَبِيَّ

جنگ گواہ بناتا ہوں تجھے اور گواہ بناتا ہوں تیرے حاملین عرش اور تمام ملائکہ کو اور تمام مخلوق کو ساتھ اس کے

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ

کہ نہیں معبود برحق مگر تو اور بیشک محمد تیرے عبد خاص اور رسول ہیں۔ اور صبح کی ہم نے اور صبح کی

الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ

ملک نے واسطے اللہ تعالیٰ کے اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی کیلئے

وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ وَ

ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر شئی پر قادر ہے۔ صبح کی ہم نے اور صبح کی ملک نے واسطے اللہ کے

الْعِزَّةُ وَالْعُظْمَى وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْجَبْرُوتُ وَالسُّلْطَانُ وَالْبُرْهَانُ

اور عزت و عظمت اور کبریاء و تسلط اور غلبہ و برہان

لِلَّهِ وَالْآلَاءُ وَالنِّعْمَاءُ لِلَّهِ وَالْخَلْقُ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالْأَمْرُ لِلَّهِ وَمَا

واسطے اللہ تعالیٰ کے اور تمام نعمتیں ظاہری اور باطنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور خلق و امر اور شب و روز اللہ کیلئے ہیں اور

سَكَنَ فِيهَا كُلُّهُ اللَّهُ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ

ان میں سکون پذیر ہے وہ سبھی اللہ واحد قہار کے لیے ہیں۔ صبح کی ہم نے فطرت اسلام پر

وَكَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ

اور کلمہ اخلاص پر اور اپنے نبی محمد کے دین پر صلی اللہ علیہ وسلم اور

عَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الْحَمْدُ

اپنے باپ حضرت ابراہیم کی ملت پر جو حق کی طرف راغب اور سراپا تسلیم ورضا تھے اور نہیں تھے مشرکین سے تمام تعریفیں

لِلَّهِ عَلَى حُسْنِ الصَّبَاحِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى حُسْنِ الْمَسَاءِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى

اللہ کے لیے ہیں صبح کی حسن و خوبی پر اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں شام کے حسن و خوبی پر اور حمد ہے اللہ کیلئے

حُسْنِ الْبَيْتِ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا دَائِمًا مَعَ دَوَامِكَ وَلَكَ

رات گزرنے کے حسن و خوبی پر۔ اے اللہ تیرے ہی لیے ہے حمد جو دائم ہو ساتھ تیرے دوام کے۔ اور تیرے ہی لیے

الْحَمْدُ حَمْدًا خَالِدًا مَعَ خُلُودِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا مَنْتَهَى لَهُ دُونَ

ہے حمد جو ہمیشہ ہو تیرے خلود کے ساتھ۔ اور تیرے ہی لیے ہے حمد کہ نہیں منتنا اس کے لیے بغیر

مَشِيَّتِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ وَتَنْفَسٍ كُلِّ

تیری مشیت کے اور تیرے ہی لیے ہے حمد ہر دفعہ آنکھ جھپکنے پر اور ہر سانس کی

نَفْسٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا دَائِمًا عَدَدَ الْقَطْرَاتِ وَالنَّبَاتَاتِ وَالْحَجَرِ

آمدورفت پر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے حمد دائمی مطابق تعداد قطرات اور نباتات اور ہر حجر

وَالشَّجَرِ وَالْأُورَاقِ الْحَمْدُ لِلَّهِ كِفَاةً وَالصَّلَاةُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ

و شجر کے اور تمام پتوں کے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور وہی کافی ہے اور صلوٰۃ نازل ہو اس کے نبی محمد پر

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَهِي بِرَحْمَتِكَ أَرْجُو فَلَا تَكْلِفْنِي إِلَى

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اے میرے الہ میں تیری رحمت کے ساتھ امیدوار ہوں پس مجھے نہ

نَفْسِي وَلَا إِلَى غَيْرِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا أَقْلًا مِنْ ذَلِكَ وَأُصَلِّحُ

سوزن میرے نفس کی طرف اور نہ طرف اپنے ماسوا کے آنکھ جھپکنے کی دیر اور نہ ہی اس سے کم۔ اور درست فرما

لِي شَانِي كُلَّهُ بِإِلَهِ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَتُبَّ عَلَيَّ وَ

میرے لیے میرے تمام حالات بظیف اس کے کہ نہیں معبود برحق مگر تو اکیلا نہیں شریک تیرے لیے اور نظر رحمت فرما مجھ پر اور

اغْفِرْ لِي وَأَرْحَمْنِي وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَ

مغفرت فرما اور رحم فرما اور تو بہتر ہے تمام رحم کرنے والوں سے۔ اے اللہ تیرے لیے ہی حمد ہے اور

إِلَيْكَ الْمُسْتَكِي وَالْأَسْتَعَانُ وَالْأَحْوَالُ وَالْقُوَّةُ إِلَا بِكَ يَا لَطِيفُ

طرف تیرے ہی جاتے شکایت ہے اور تو معاونت طلب کئے جانے کے لائق ہے اور نہیں طاقت اور نہ قوت مگر ساتھ تیرے اے

الطُّفُ بِي وَيُؤَدِّي فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى يَا

لطیف لطف فرما مجھ پر اور میرے والدین پر تمام احوال میں جیسے کہ تجھے محبوب اور پسند ہے۔ اے

عَلِيمُ يَا قَدِيرُ وَاغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ

علیم۔ اے قدیر اور بخش مجھے اور میرے والدین کو بیشک تو ہر شئی پر کمال دسترس والا ہے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِي الْوَجْهِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو چاند سے حسین چہرے

الْأَقْمَرِ وَاللَّوْنِ الْأَنْزَهَرِ وَالرَّيْحِ الْأَعْطَرِ وَالسَّيِّدِ الْأَكْبَرِ وَحَبِيبِكَ

والے ہیں اور بہت چمک دار رنگت والے۔ انتہائی معطر خوشبو والے اور بہت بڑے سردار اور تیرے انتہائی

الْأَفْخَرِ وَخَلِيلِكَ الْأَطْهَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

قابل فخر حبیب اور حد درجہ پاکیزہ خلیل۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ بِهِ تُقْبَلُ الْأَعْمَالُ وَبِهِ تُصْلَحُ الْأَحْوَالُ

آپ کی آل اطہار پر جن کے طفیل اعمال خیر قبول ہوئے ہیں اور احوال کی اصلاح ہوتی ہے

وَبِهِ يُحْسَنُ خَتَامُ الْأَجَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور جن کے طفیل اچھا ہوتا ہے خاتمہ مقدرہ عمروں کا۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِزَابِ حَضْرَتِكَ الْعُنْدِيَّةِ وَسَقْفِ كَعْبَةِ كَمَالَتِكَ

آل اطہار پر جو تیری بارگاہ قرب کا میزاب رحمت ہیں اور کمالات ربانیہ کے کعبہ چھت ہیں

الرَّبَّانِيَّةَ وَحَجْرِيَّتِكَ الرَّحْمَانِيَّةَ وَرُكْنَ الْيَمَانِيَّةِ لِاسْرَارِكَ الْفُرْدَانِيَّةَ

اور بیت رحمانیت کا حجرا سود ہیں اور تیرے اسرارِ فردانیہ کا رکنِ یمانی ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَرَامُنِكَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو تیرے امن کا قلعہ ہیں

الَّذِي مِنْ دَخَلِهِ آمِنٌ مِنْ سَطَوَاتِكَ الرَّهْبُوتِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کہ جو اس میں داخل ہو گیا تیری سطوت اور ہیبت سے امن پا گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَقَامِ خُلَّتِكَ الَّذِي مِنْ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو تیری خلعت کے مقامِ ابراہیم ہیں کہ جو اس میں

غَابَ فِيهِ لَمْ تُدْرِكْ حَقِيقَتَهُ الْعَوَالِمُ الْخَلْقِيَّةُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

غائب ہوا اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتی مخلوق جہاں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُتَزِمِ التَّزَامِكِ الَّذِي مِنْ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو تیری بارگاہ کو لازم پکڑنے کے لیے مقام ملتزم ہیں کہ جس

تَمَسَّكَ بِهِ أَدْرَاكُ الْفَرَائِضِ الرَّغْبُوتِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

نے ان کا سہارا لیا تو پایا مرغوب فرائض اور حصص کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَاءِ نَرْمِزِكَ الَّذِي مِنْ شَرِبَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی اولاد امجاد پر جو تیرا ماءِ نرزم ہیں کہ جس نے ان کے چشمہ

مِنْ إِفَاضَتِهِ اسْتَكْمَلَ الْأَنْسِيَّةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

فیض سے پیا کامل کر لیا انس و مجتت کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رُكْنِكَ الْمَشِيدِ وَخَلِيفَتِكَ الْبُؤَيْدِ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو تیرے مضبوط رکن ہیں اور تائید و توفیق یافتہ خلیفہ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَيْتِكَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو تیرا بیت حرام ہیں

الْوَاسِعِ لِتَجَلِّيكَ وَعَرُّشِكَ الْحَامِلِ لِتَوَلِّيكَ وَكَرْسِيِّكَ

جو گنجائش رکھتے ہیں تیری تجلی کی۔ اور تیرا عرش عظیم ہیں جو حامل ہیں تیرے اقتدار و تصرف کے اور تیری وسیع

القَادِرِ لِتَدَلِّيكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

کری ہیں جو قادر ہیں تیرے نزول و جلال کیلئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِأَطْنِ دِيْوَانِ قُدْسِكَ الْأَعْلَى وَظَاهِرِ دِيْوَانِ

آپ کی آل پر جو حقیقت باطنہ ہیں تیرے مقدس دیوانِ اعلیٰ کی اور ظاہر ہیں تیری کبریائی کے

كِبْرِيَاءِكَ الْأُولَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

دیوانِ اولیٰ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ السَّابِعِ بِكَ مِنْكَ وَالْأَخِذَ لَهْ عَنْكَ وَالْقَائِمِ لَكَ فِيكَ وَ

جو کمال و وسعت والے ہیں ساتھ تیری طرف سے اور حاصل کرنیوالے ہیں اپنے لیے اہر کمالِ انجھ سے اور قائم ہیں تیرے لیے تیری خاطر

الطَّالِعِ لِأَعْلَى مَرَاقِيكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور چڑھنے والے ہیں تیری انتہائی بلندیوں تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

إِلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْدَّاخِلِ فِي أَعْلَى بَجَائِلِكَ وَالْخَارِجِ لِمَعَالِيكَ اللَّهُمَّ

آل پر جو محبوب داخل ہونے والے ہیں تیری بلند ترین جلوہ گاہوں میں اور نکلنے والے ہیں تیرے اعلیٰ مقامات کی طرف۔ اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْغَائِبِ فِي تَعَالِيكَ

اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو مستغرق ہونیوالے ہیں تیری بلندیوں میں

وَمُقْنَا طَيْسٍ ظُهُورِ مِبَادِيكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور مقناطیس ہیں تیری پہلی مخلوقات کے ظہور کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ يَعْسُوبِ بَطُونِ تَنَاهِي الْعُظْمَةِ يَا مَلِيكَ

اور آپ کی آل پر جو آقا امیر و رئیس ہیں تیری انتہائی عظمت کے بطون کے اے شہنشاہ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَحْمَدُكَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو تیرے لیے احمد ہیں

المَحْصُودِ لِتَوَلِّيكَ وَمُحَمَّدِكَ الْمَقْصُودِ لِتَبْلِيكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کہ محمد کے ہوئے ہیں تیری دوستی کی وجہ سے اور تیرے محمد ہیں جو مقصود میں تیری بزم آرائی سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَعْصُومِ مِنَ الْاَدْنَانِ

نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو آقا معصوم ہیں گناہوں کی میل و کچیل سے

وَالْمَحْفُوظِ مِنْ مَّلَاحِظَةِ الْاَرْجَاسِ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي وَاحْفَظْ

اور محفوظ ہیں پدیدوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے بھی۔ اے اللہ مجھے محفوظ فرما اور میری اولاد کو بھی

اَوْلَادِي مِمَّا لَا تَرْضَاهُ وَمِنْ غَلْبَةِ الْاَعْدَاءِ وَمِنَ التَّدَلُّلِ عَلَى

اپنے ناپسندیدہ املا سے اور دشمنوں کے غلبہ سے اور ذُنب اور اہل دنیا کے

بَابِ الدُّنْيَا وَاَهْلِهَا اللَّهُمَّ يَدُكَ فَوْقَ كُلِّ يَدٍ وَقُوَّتُكَ اَعَزُّ

دروازے پر ذلیل و خوار ہونے سے۔ اے اللہ تیرا دست قدرت ہر ہاتھ پر غالب ہے۔ اور تیری قوت

مِنْ كُلِّ قُوَّةٍ وَسُلْطَانُكَ اَجَدُّ وَاَمْنَعُ مِنْ كُلِّ ذِي سُلْطَانٍ

ہر قوت پر غالب ہے۔ اور تیری سلطنت زیادہ سخت اور زیادہ محفوظ ہے ہر سلطنت والے سے۔

وَاَدْرَأُ بِكَ فِي نَحْوِهَا اَعْدَائِي وَاَسْتَعِينُ بِكَ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ

اور تجھے مد مقابل بنانا ہوں اعداء کے سینوں کے اور توفیق طلب کرتا ہوں۔ اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں

شُرُورِهِمْ وَالْجَا إِلَيْكَ فِيمَا أَشْفَقْتُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ فَصَلِّ عَلَى

ان کے شرور سے اور تیرا سہارا لیتا ہوں ان امور میں جن میں ان سے خوفزدہ ہوں پس صلوٰۃ نازل فرما

مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَآلِهِ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ احْفَظْ عَن جَمِيْعِ

سیدنا محمد نبی امی پر اور آپ کی آل پر اور سلام نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں محفوظ فرما تمام دشمنوں سے

اَعْدَائِنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْنَا وَمِنْ خَلْفِنَا وَعَنْ اَيْمَانِنَا وَعَنْ شَمَائِلِنَا

آگے سے۔ پیچھے سے اور دائیں سے۔ اور بائیں سے

اَبَدًا مَا اَبْقَيْنَا وَاحْفَظْ دِيْنَنَا وَدِيْنَانَا بِمَا حَفِظْتَ بِهِ الذِّكْرَ حَيْثُ

ہمیشہ کے لیے جب تک ہمیں باقی رکھے اور محفوظ فرما ہمارے دین کو اور دنیا کو جس طرح کہ تو نے محفوظ فرمایا قرآن مجید کو جبکہ

قُلْتُ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝ وَبِمَا حَفِظْتَ بِهِ

فرمایا: " بیشک ہم نے نازل کیا قرآن کو اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں " اور جس طرح تو نے محفوظ فرمایا

كِتَابِكَ الْعَزِيزِ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ

اپنی کتاب عزیز کو کہ جسے نہیں پیش آسکتا باطل سامنے سے اور نہ ہی پیچھے سے جو

تَنْزِيلٍ ۝ مَنْ حَكِيمٌ حَمِيدٌ ۝ وَبِمَا حَفِظْتَ بِهِ عَبْدَكَ الَّذِي فَهَّمْتَهُ

اتارا ہوا ہے حکمت والے لائق حمد و ثناء کی طرف سے اور جس طرح تو نے محفوظ فرمایا۔ اپنے عبد کو جنہیں فہم و دانش سے نوازا

وَسَحَّرْتَ لَهُ الشَّيَاطِينَ حَيْثُ قُلْتَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَبِمَا

اور مسخر فرمایا ان کے لیے شیاطین کو جس مقام پر فرمایا " اور تھے ہم ان کے لیے محافظ " اور جس طرح تو نے

حَفِظْتَ بِهِ عَبْدَكَ وَنَبِيَّكَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ

محفوظ فرمایا اپنے عبد خاص اور نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو جس مقام پر فرمایا

قُلْتَ فَإِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَبِمَا حَفِظْتَ بِهِ

پس اللہ تعالیٰ بہترین محافظ ہے اور وہ بہت مہربان ہے بہت تمام رحم کرنے والوں کے اور جس طرح تو نے محفوظ فرمایا

السَّمَاءَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ وَبِمَا حَفِظْتَ بِهِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

آسمانوں کو ہر شیطان سرکش سے اور محفوظ فرمایا تمام آسمانوں اور زمینوں کو

حَيْثُ قُلْتَ وَلَا يُؤَدُّهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝ وَبِمَا حَفِظْتَ

جس مقام پر فرمایا " اور نہیں تھکا سکتی اسے ان کی حفاظت اور وہی بلند شان عظمت والا ہے " اور جس طرح محفوظ فرمایا

بِهِ السَّقْفَ الْمَحْفُوظَ حَيْثُ قُلْتَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا

محفوظ چھت کو جس مقام پر فرمایا تو نے " اور بنایا ہم نے آسمان کو محفوظ چھت " اور

وَبِمَا حَفِظْتَ بِهِ الْقُرْآنَ حَيْثُ قُلْتَ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مُجِيدٌ فِي لَوْحٍ

جس طرح تو نے محفوظ فرمایا قرآن مجید کو جہاں پر فرمایا " بلکہ وہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں "

مَحْفُوظٍ ۝ وَبِمَا حَفِظْتَ بِهِ عَبْدَكَ حَيْثُ قُلْتَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ

اور جس قدرت سے محفوظ فرمایا اپنے بندگان خاص کو جہاں پر فرمایا " وہی ہے غالب اپنے بندوں پر

عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً وَحَيْثُ قُلْتُمْ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ

اور بھیجتا ہے تم پر محافظ ملائکہ اور جس مقام پر فرمایا تو نے اس کے بلک میں ہیں حفاظت کرنے والے ملائکہ

يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَكَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ان کے آگے سے اور پیچھے سے جو حفاظت کرتے ہیں اللہ کے امر و اذن سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّبَدَّدًا جَمِيعِ النَّاسِ وَسِرِّ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو سب انسانوں کے مدد و معاون ہیں اور راز مخفی ہیں

الْأَسَاسِ وَالنُّورِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اساس رکائات کا اور نور ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرٍ مِّنْ دَعَا إِلَىٰ جَنَابِكَ وَأَدْخَلَ الْخَوَاصَّ

اور آپ کی آل اطہار پر جو بہتر و برتر ہیں تمام داعیانِ بارگاہِ عزت سے اور جنہوں نے داخل کیا خواص کو

مِنْ بَابِكَ وَصَارَ مِنْ جَارِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

تیرے دروازہ سے اور وہ ہو گئے تیرے پڑوسیوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَشْرَافِ وَالْإِشْرَافِ وَسَيِّدِ السَّادَاتِ الْعِزَّافِ

آل اطہار پر جو سردار ہیں اشرف اور اہل فطانت کے اور سند و سہارا ہیں پاکباز سادات کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْكَرِيمِ مِنْ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو مکرم ترین ہیں انصاف قائم

قَامَ بِالْإِنْصَافِ وَالْمَوْصُوفِ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کرنے والوں سے اور جن کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں سورۃ اعراف میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّبَدَّدًا الْقَادَاتِ وَغَيْثِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو اہل قیادت کے مددگار ہیں اور آقاؤں

السَّادَاتِ وَغَوْثِ أَهْلِ الْعُظَمَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کے لیے بارانِ رحمت اور اہل عظمت کے فریاد رس ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرِّ عَنَابَتِكَ وَنُورِ رِعَايَتِكَ وَمُظْهِرِ هِدَايَتِكَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو تیرے سر عنایت اور نور حفظ و نگہبانی اور مظہر ہدایت ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ يَا بَابَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو دروازہ ہیں

حَضْرَاتِكَ وَمَقْصُودِ نَظْرَاتِكَ وَمَطْلُوبِ تَجَلِّيَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

تیری بارگاہوں کا اور مقصود ہیں تیری نگاہوں کا اور مطلب ہیں تیری تجلیوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِمِ يَا أَمِيرَكَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو قائم کرنے والے ہیں تیرے بلند شان

الْعَلِيَّةِ وَالسَّاعِي فِي مَرْضَاتِكَ الْبِهِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

احکام کو اور سعی کرنے والے ہیں تیری پر بہار پسندوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّاصِرِ لِدِينِكَ يَا كَافِرِي

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو ناصر ہیں تیرے دین کے ساتھ تیری توفیق کے اور تقویت بخشنے

لشَرِيعَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

والے ہیں تیری شریعت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الرَّاضِي لِرِضَائِكَ وَالْعَاضِبُ لِعَضْبِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

پر جو حبیب تیری رضا پر راضی اور تیری ناراضگی کی وجہ سے ناراض ہونے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الدَّالِّ عَلَىٰ جَنَابِكَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو رہنمائی کرنے والے ہیں تیری بارگاہ کی طرف

وَالدَّاعِي إِلَىٰ رَحَابِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اور دعوت دینے والے ہیں تیری کشادہ و وسیع جناب کی طرف۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ يَابِكِ وَحَبِيبِ أَحْبَابِكَ وَأَنْبِيَسِ طَلَابِكَ وَ

سیدنا محمد پر جو بذات خود تیرے حرم نازکا باب ہیں اور حبیب احباب اور انبیس طلب ہیں اور

خَلِيلُ بِأَيْكَ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

خلیل ہیں تیرے در کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ مُصْطَفَاكَ لِعَدَاكَ وَمُجْتَبَاكَ لِسَنَّاكَ وَمُنْتَقَاكَ لِرِضَاكَ

پر جو تیرے منتخب ہیں واسطے بندگیوں کے اور چنے ہوئے ہیں واسطے انوار کے اور مغز و خلاصہ ہیں واسطے تیری رضا کے۔

اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

سِرِّ الْقُرْبِ وَبَابِ الْحُبِّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ

جو راز مخفی ہیں تیرے قرب کے اور دروازہ ہیں واسطے تیری محبت کے۔ اے اللہ میں طلب کرتا ہوں تجھ سے تیری محبت

يُحِبُّكَ وَالْعَمَلِ الَّذِي يُبَلِّغُنِي إِلَى حُبِّكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ

کو اور تیرے محبوب کی محبت اور ایسا عمل جو تیری محبت تک پہنچائے۔ اے اللہ بنا دے اپنی محبت محبوب تر

إِلَى مَنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ

طرف میرے میری جان سے اور اہل اور ٹھنڈے پانی سے (واسطے پیاسے کے) اے اللہ مجھے نصیب فرما اپنی محبت

وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبَّهُ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ فَكَمَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أَحَبُّ

اور محبت ان کی جن کی محبت مجھے نفع دے تیرے ہاں۔ اے اللہ جیسے تو نے عطا فرمائی پسندیدہ روزی ایسے

فَجَعَلَهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ اللَّهُمَّ وَمَا ذَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أَحَبُّ فاجعله

بنا اس کو میرے لیے ذریعے قوت کا اپنے پسندیدہ امور میں۔ اے اللہ اور جو تو نے سیمٹ لیا مجھ سے میرے پسندیدہ امور سے

لِي فَرَاغًا فِيمَا تُحِبُّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ اللَّهُمَّ

پس بنا اس کو میرے لیے ذریعہ فراغت کا اپنے پسندیدہ امور کے لیے۔ اے دلوں میں انقلاب لانے والے ثابت رکھ میرے دل کو

ارْزُقْنَا حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ تُحِبُّهُ أَنْتَ وَأَوْصِلْنَا

اپنے دین پر۔ اے اللہ ہمیں نصیب فرما اپنی محبت اپنے محبوب کی محبت اور اپنے پسندیدہ امور کی محبت اور پہنچا ہمیں مقاصد

إِلَى مَقَاصِدِنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَتَوَجَّعْنِي يَا عَظِيمُ يَا مُعْزِتَ تَاجِ

تک دنیا و آخرت میں اور مجھے پہنا اے عظیم۔ اے عزت بخشنے والے تاج

مَهَابَةٌ كَبِيرِيَاءٍ جَلَالٍ مَلَكُوتٍ عِزَّةٍ وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ

اس ہیبت و کبریاء اور جلال ملکوت اور عزت و عظمت کا اور نہ غمزدہ کریں آپ کو ان کی باتیں۔ بیشک عزت اللہ کے

لِلَّهِ وَالْإِسْنَىٰ يَا جَلِيلٌ يَا كَبِيرٌ خَلَعَةٌ إِجْلَالٍ إِكْبَالٍ إِقْبَالٍ فَلَمَّا رَأَيْتَهُ

یہ ہے اور پہنا مجھے اے جلیل۔ اے کبیر خلعت اس جلالت و کمال اور نیکی کی پس جب دیکھا ان عورتوں نے

الْكِبْرِيَّةَ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ وَاللَّيْقَىٰ عَزِيزًا وَدُودًا

انہیں بہت بڑا جانا انہیں اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور پکارا اٹھیں پناہ بخدا اور ڈال لے عزیز۔ اے دود

عَلَىٰ فَحِبَّةٌ مِّنْكَ حَتَّىٰ تَنْقَادَ وَتَخْضَعَ لِي قُلُوبُ عِبَادِكَ بِالْحِبَّةِ وَ

مجھ پر محبت اپنی طرف سے حتی کہ مطیع و فرمانبردار ہو جائیں میرے لیے تیرے بندوں کے دل ساتھ محبت

الْبِعْزَةِ وَالْمَوَدَّةَ مِنْ تَعْطِيفٍ تَأْلِيفٍ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ

عزت اور مودت کے بسبب اس عنایت و الفت کے "محبت رکھتے ہیں ان سے مانند اللہ کی محبت کے اور ایمان

أَمِنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ وَأَظْهَرَ عَلَىٰ يَظَاهِرِيَا بَاطِنٍ إِثَارَ اسْرَارِ

والے زیادہ محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور ظاہر فرما مجھ پر۔ اے ظاہر۔ اے باطن۔ آثار ان اسرار و انوار

أَنْوَارٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ

کے۔ اللہ ان سے محبت رکھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ مؤمنین پر نرم ہیں کفار پر سخت اور غالب

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَوَجْهَهُ اللَّهُ يَا صِدْقٌ نُورٌ وَجْهِي

جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ اور اس کی ذات میں۔ اے اللہ اے بے نیاز منور فرما میرے چہرہ کو

بِصَفَاءِ جَمَالِ النَّاسِ إِشْرَاقٍ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلْتُ وَجْهِي

ساتھ اس صفائی اور حسن و جمال اور انس و اشراق کے "پس اگر وہ جھگڑا کریں ساتھ تمہارے تو فرما دیجئے میں نے

لِلَّهِ وَحَمَلْنِي يَا جَبِيلٌ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ

جھکا دیا اپنے چہرہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے" اور جمیل بنا مجھے اے جمیل۔ اے موجد آسمانوں اور زمینوں کے۔ اے جلال و اکرام والے

وَالْإِكْرَامِ بِفَصَاحَةٍ بَرَّاعَةٍ بِلَاغَةٍ وَأَحْلَلُ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي يُفْقَهُوا

اتھ اس فصاحت اور عمدہ بیانی اور بلاغت کے" اور کھول دے بندش میری زبان سے تاکہ سمجھ سکیں

قَوْلِي وَبِرَافَةِ رَحْمَةِ رِقَّةٍ تَلِينُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

میرے قول کو اور ساتھ اس رافت اور رحمت کے اور رقت قلبی کے "نرم ہوتی ہیں کھالیں ان کی اور دل ان کے طرف ذکر خداوند تعالیٰ کے

وَقَلْدُ يَأْشِدُّ يَدَ الْبَطْشِ يَا جَبَّارُ بِسَيْفِ الْهَيْبَةِ وَالشَّدَاةِ وَالْقُوَّةِ وَالْبُنْعَةِ

اور جھائل کر مجھے اے سخت گرفت والے۔ اے جبار ساتھ اس شمشیر سبب و شدت اور قوت و طاقت کے جو تیار شدہ

مِنْ بَأْسِ جَبْرُوتِ عِزَّةٍ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَدِمْ عَلَيَّ

ہے اس شدید جبروت اور غلبہ (کے فولاد) سے " اور نہیں مدد مگر اللہ تعالیٰ کے پاس سے اور دائم رکھ

يَا بَاسِطُ يَا فَتَّاحُ بِهَيْجَةِ مَسْرَّةٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي

مجھ پر اے کشادگی عطا کرنے والے۔ اے بندشیں دور کرنے والے اس بھجت و مسرت کو " اے رب میرے کشادہ فرما میرے سینہ کو اور

وَبَلِّغْ عَوَاطِفَ الْمُنْشَرِّحِ لَكَ صَدْرَكَ وَبِأَشَاءِ بِشَائِرِ يَوْمِئِذٍ

آسان فرما میرے امور کو اور ان عنایات اور مہربانیوں کو " کیا ہم نے کشادہ نہیں کر دیا تمہارے سینہ کو اور ان اشارات و بشارات کے " اس دن

يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ وَأَنْزِلِ اللَّهُمَّ يَا لَطِيفُ يَا رَوْفُ فِي

خوش ہوں گے مومن اللہ کی نصرت کے ساتھ " اور نازل فرما اے اللہ۔ اے لطیف۔ اے روف میرے

قَلْبِي الْإِيمَانَ وَالْإِطْمِينَانَ وَالسَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ لَا كُونَ مِنَ الَّذِينَ

دل میں ایمان و اطمینان اور سکینت و وقار کو تاکہ میں ہو جاؤں ان لوگوں سے جو ایمان

أَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ وَأَفْرِغْ عَلَيَّ يَا صَبُورُ يَا شَكُورُ صَبْرُ

لائے اور مطمئن ہوتے ہیں دل ان کے ساتھ ذکر خداوند تعالیٰ کے اور انڈیل مجھ پر اے صبور۔ اے شکور صبران

الَّذِينَ يَدْرَعُونَ بِثَبَاتٍ يَقِينٍ كَمَنْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً

کا جو جہاد کرتے ہیں ساتھ ثابت قدمی اور یقین کے " کتنے قلیل ترین جماعتیں غالب آئیں کثیر التعداد جماعتوں

كَثِيرَةً يَا ذُنَّ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

پر اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ " اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْأَفِيدَةِ وَمِيمِدِ الْمَائِدَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آل پر جو دلوں کی دوا ہیں اور مسلسل پہنچنے والی غذا ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ظِلُّ الْأَنْوَارِ الْعَالِيَةِ وَفِي

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو عکس ہیں انوار عالیہ کا۔ اور پر تو ہیں

التَّيَّرَاتِ الْبِهِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

روشن و نورانی اجرام کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شُؤْسِ الْحَقَائِقِ وَقَمْرِ الرَّقَائِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل اطہار پر جو آفتاب حقائق ہیں اور ماہتاب لطافت ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّاقِي فِي أَعْلَى الْمَرَاتِبِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو چڑھنے والے ہیں اعلیٰ مراتب کی طرف۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَرِّقِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو درماتند اچکنے

الْخَاطِفِ وَالرَّعْدِ الْقَاصِفِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

والی بجلی اور اکھیر پھینکنے والی گرج کے ہیں (اعلام دین کیلئے) اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِكُلِّ عَارِفٍ وَمُبَدِّ كُلِّ غَارِفٍ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور آپ کی آل اطہار پر جو سردار ہیں ہر صاحب عرفان کے اور بھردینے والے ہیں ہتھیلی پر سائل کی۔ اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِنَا وَسِرِّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو ہمارے حبیب۔ ہمارے عقول

عُقُولِنَا وَشَارِحِ صُدُورِنَا وَقُرَّةِ أَعْيُنِنَا وَثَمَرَةَ فُؤَادِنَا وَسِرَاجِنَا

کے راز مخفی۔ اور ہمارے سینوں کو کھولنے والے۔ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے دلوں کے ثمر اور روشن

اللَّهُمَّ اشْرُحْ صُدُورَنَا بِشَرْحِ صُدُورِهِ وَقُرَّةِ أَعْيُنِنَا بِعَيْنِ قُرَّتِهِ

چراغ ہیں۔ اے اللہ کتاوہ فرما ہمارے سینوں کو بطفیل ان کے شرح صدر کے۔ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دے بطفیل ان کے قرۃ عین کے

ثَمَرَةَ فُؤَادِنَا بِقَلْبِ ثَمَرَتِهِ وَسِرَاجِنَا بِسِرِّهِ صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ

اور ہمارے دلوں کو بار آور فرما بطفیل ان کے دل اقدس کی بار آوری کے اور ہمارے چراغ روشن فرما بطفیل ان کے سراج منیر کے صلی اللہ علیہ و

سَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللَّيْبِ

وسلم۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو اعلیٰ درجہ کے دانائزیک

الْأَعْلَى وَالطَّيِّبِ الْأَعْلَى وَالْحَبِيبِ الْأَوْلَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اعلیٰ درجہ کے طیب اور سب سے مقدم حبیب ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَعِدِ الْعَالَمِينَ وَسَيِّدِ الْخَلْقِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو سب جہانوں کی سعادت مجسم ہیں اور سردار ہیں

أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

تمام مخلوق کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ رُوحِ الْوَسِيلَةِ الْعَظْمَى وَكَثِيبِ تَجَلَّى الْمَنِيَّةِ الْأَسْهَى

پر جو محبوب و وسیلہ عظمیٰ کی روح ہیں اور بلند ٹیلہ (طور) ہیں واسطے بلند شانِ تمنا و آرزو کی تجلی کے بیسے

وَحِجَابِ حِجَابِ صَوْنِ الْأَحْيَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور حجاب و مانع ہیں محفوظ ترین حفظ و نگہبان کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَرَقِ جَبَالِ الْوَجْهِ الْبُقْدَسِ وَقَابِ

پر اور آپ کی آل اطہار پر جو برقع ہیں ذات مقدسہ کے جمال مطلق کا اور وتر ہیں جلال

جَدَلِ الْعُظْمَى الْأَقْدَسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

و عظمت مقدسہ (کے دائرہ) کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَسْ جَدَارِ عَوَالِمِ الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ اللَّهُمَّ

اور آپ کی آل پر جو محبوب بنیاد و اساس ہیں ملک و ملکوت کے جہانوں کی دیوار کیلئے اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَصْلِ مَدَارِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو اصل و مدار ہیں

مَبْنَى الْجَبْرُوتِ وَالرَّحْمُوتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

شان جبروت اور شان رحمت کے دار و مدار کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُقْطَةُ حَضْرَةِ اللَّاهُوتِ وَسِرِّ خَلْقِ

پر اور آپ کی آل اطہار پر جو مرکزی نقطہ ہیں دائرہ لاہوت کا اور راز سربتہ ہیں عالم اجسام

النَّاسُوتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

کی تخلیق کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ قُوَّةَ قُوَّةِ الْبَهْمَوْتِ أَمِينِ الرَّغَبَوْتِ وَالرَّهَبَوْتِ اللَّهُمَّ

پر جو آقا قوت و توانائی ہیں کہ اس کی ہمسری نہیں ہو سکتی امین ہیں اللہ کی طرف رغبتوں کے اور اس سے خشیتوں کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا وَقَفَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جب تک ٹھہرے

بِبَابِهِ وَاقِفٌ وَمَا عَكَفَ عَلَىٰ جَنَابِهِ عَاكِفٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ان کے در اقدس پر کوئی بھی ٹھہرنے والا۔ اور ڈیرہ لگنے ان کی بارگاہ میں کوئی ستر جانے والا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا لَا ذِيْبَهُ خَائِفٌ وَمَا طَمَعُ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جب تک پناہ حاصل کرتے رہیں ساتھ ان کے خوفزدگان اور جب

فِي فَضْلِهِ عَارِفٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

امیدوار ہیں ان کے جو در فضل سے اہل عرفان۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا طَلَبَ لِسَبِيلِهِ عَارِفٌ وَمَا أَعْدَابَ لِشُرْعِهِ

پر جب تک طلب کرے ان کی راہ کو کوئی عارف۔ اور جب تک بیٹھا سمجھے ان کی شریعت کو کوئی

أَلْفٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الفٹ رکھنے والا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

مَطْلُوبُ الْخُصُوصِ وَبِحُرِّ النَّصُوصِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

جو مطلوب ہیں خصوصیات کے اور سمندر ہیں دلائل ظاہرہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَوْهَرُ الْفُصُوصِ وَعَيْنُ كُلِّ مَنْ هُوَ فِي

محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ نگینوں والا جوہر ہیں اور عین ہیں ہر اس ذات کا جو بارگاہ

الْحَضْرَةَ مَنْصُوصَةً اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

خداوندی میں منصوص و مخصوص ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هَبَامَ أَكْبَارِ الْعُظْمَاءِ وَالْمُقَرَّبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

اطہار پر جو بلند ہمت ہیں تمام اکابر۔ عظام اور مقربین سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَافِي الْأَعْيَانِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو ان تمام موجودات سے خالص تر ہیں

مِنْ حَضْرَةِ الْمَنَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

جو بارگاہ منان سے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُرَقِّي الْأَكَابِرِ إِلَى طُلُوعِ الْمَنَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد کی آل پر جو ترقی دینے والے ہیں اکابرین کو منبروں پر جلوہ گری کی طرف۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَشْرَفِ الْخَلَائِقِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو بزرگتر ہیں ساری مخلوقات اور

وَبِحُرِّ الرَّائِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

غوش منظر سمندر ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبُرْقِ اللَّامِعِ وَالتُّورِ السَّاطِعِ اللَّهُمَّ صَلِّ

آل اطہار پر جو چمکتی بجلی اور بلند شان نور ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَحْبُوبِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو محبوب ہیں

الْحَضْرَاتِ الْإِلَهِيَّةِ وَيَعْسُوبِ الْحَضْرَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ اللَّهُمَّ

حضرات الہیہ کے اور رئیس مقدم ہیں حضرات ربانیہ کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَطْلُوبِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو مطلوب ہیں

النَّظَرَاتِ الْحَقِيقَةِ وَعَيْنِ الْمِيَاهِ الصَّافِيَةِ وَحَيَاتِ الْقُلُوبِ الْجَلِيَّةِ

حقانی نگاہوں کے اور چشمہ ہیں صاف ستھرے پانیوں کے اور روشن و واضح قلوب کی زندگانی ہیں

وَشَمْسِ الْأَنْوَارِ الْبَارِقَةِ وَإِضَاءِ الْأَرْوَاحِ التُّورِيَّةِ اللَّهُمَّ

چمکتے انوار کا آفتاب اور ارواح نورانیہ کی ضیاء ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرِّيْسِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو زمیں ہیں

دِيَوَانَ الْكِبْرِيَاءِ وَفَرِيدِ الْأَجْلِيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

دیوان کبریاء کے اور بیکتا ہیں روشن و نورانی لوگوں میں سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ أَهْلِ بَسَاطِ الْقُرْبِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اجداد پر جو بساط قرب والوں کے امام

وَذِي الْجَبَالِ الْمَحْبُوبِ لِأَهْلِ الْحُبِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور محبوب جمال والے ہیں واسطے اہل محبت کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَبَلِ قَافِ عَظِيمَةِ التَّجَلِّيَّاتِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو تجلیات عظیمہ کے کوہ قاف ہیں

وَبَحْرِ مَحِيْطِ أَسْرَارِ الصِّفَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور اسرار صفت کے بحر محیط ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَبَالِ حَضْرَاتِكَ وَجَمِيْلِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو تیری بارگاہ کا جمال ہیں اور تمام مخلوقات سے جمیل تر ہیں

مَصْنُوعَاتِكَ وَمِرَاةِ ذَاتِكَ وَمَجْلَى صِفَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

تیری ذات کا آئینہ اور تیری صفات کی جلوہ گاہ ہیں۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَبْلَةَ تَجَلِّيَّاتِكَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب قبلہ ہیں تیری تجلیات کا

وَوَجْهَةً عَظِيمَةً وَمِنْحَةً هَيَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور وہیل ہیں تیری عظمتوں کے لیے اور عظیم عطیہ ہیں تیرے عطیات میں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَظِيمٍ مَمْلُوكَتِكَ وَأَنْسَانِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو تیری مملکت میں معظم ترین ہیں اور مخلوقات کی

عَيْنِ مَكُونَاتِكَ وَفَرِيدِ جَلِيلِ مَخْلُوقَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

آنکھ کی پتلی اور تمام مخلوق میں سے یکتا و بزرگتر ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُصَفَّى

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو خالص ہیں بذات خود

الْمُصْطَفَىٰ وَالْمَوْفَىٰ ذِي الْوَفَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

چنے ہوئے ہیں مخلوق میں سے۔ کامل و فاولے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُنْفَىٰ الْمُنْتَفَىٰ وَالْمَرْفَىٰ الْمَرْفَىٰ وَالْحَبِيبِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو مطہر ہیں اور نکھارے ہوئے۔ بلند ہی تک پہنچائے ہوئے بلند مرتبت ہیں اور

الْبِجْتَبِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

چنے ہوئے حبیب ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

وَسَيِّلَةِ آدَمَ وَالْخَلِيلِ وَوَأَسْطَةِ مُوسَىٰ وَنُورِ الْجَلِيلِ وَمُهَيْدِ

جو وسیلہ ہیں حضرت آدم اور حضرت خلیل کے اور واسطہ ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت نوح بزرگتر کے اور فیض رساں

عِيسَىٰ وَدَاوُدَ خَلِيفَتِكَ الْجَمِيلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

ہیں عیسیٰ روح اللہ اور داؤد کے جو تیرے صاحب جمال خلیفہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَيَاضِ عَلَىٰ كُلِّ نَبِيٍّ وَرَسُولٍ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو فیوض کی بارش برسانے والے ہیں اہر نبی اور ہر رسول پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

المَوَاهِبِ الوَهْبِيِّ لِكُلِّ وِليِّ فَاضِلٍ وَمَفْضُولٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

جو خدا داد مواہب و عطیات ہیں واسطے ہر ولی کے فاضل ہو یا مفضول۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خِرَاتٍ عَطَاءِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو بزرگ ملائکہ کی عطاء کا خزانہ

الْمَلَكَةِ الْكِرَامِ وَوَلِيِّ خِرَاتِكَ لِكُلِّ الْكَاثِنَاتِ بِدَلَامِ

ہیں اور تیرے خزانہ کے متولی ہیں واسطے ساری کائنات کے بلا کلام۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

حَبِيبِنَا الصَّافِي وَطَيْبِنَا الشَّافِي وَخَلِيلِنَا الْوَافِي اللَّهُمَّ صَلِّ

جو ہمارے خالص حبیب ہیں اور شافی طیب اور صاحب وفا خلیل ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَوْعِدِنَا الْمَوْافِي

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو ہمارے مقام ہیں وعدہ وفائی کے

وَخَلِيلِنَا الشَّافِي وَغِيَاثِنَا الْكَافِي وَالْمَعَا فِي اللَّهِ الْكَافِي وَقَصْدَتْ

اور خلیل شافی ہیں اور فریاد رس کفایت فرما ہیں اور عفو و درگزر والے ہیں۔ اللہ ہی کافی ہے اور میں نے قصد کیلئے

الْكَافِي وَوَجَدْتُ الْكَافِي وَلِكُلِّ الْكَافِي وَكَفَانِي الْكَافِي وَنِعْمَ

کافی کا اور پا لیا ہے کافی کو اور سبھی کے لیے کافی ہے اور کفایت کی مجھے کافی نے اور وہ اچھا

الْكَافِي وَهُوَ الْكَافِي وَبِاللَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

کفایت کرنے والا ہے اور وہی کافی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَاطِنِ الْعُلُومِ الْقُرْآنِيَّةِ وَظَاهِرِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو علوم قرآن کے باطن اور حقیقت ہیں اور انوار ذات

الْأَنْوَارِ الْوُجْهِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

جل و علی کے ظاہر ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَثِيْبِ الزِّيَادَاتِ فِي الْجَنَانِ وَغَوْتِ حَضْرَةِ

کی آل پر جو بند چوٹی ہیں جنات میں ترقیوں کے لیے اور فریاد رس ہیں

الْوَسِيْلَةِ وَالْاِحْسَانِ وَالْفَائِضِ نُوْرًا عَلٰى جَمِيْعِ الْخُلَاِنِ اَللّٰهُمَّ

وسیلہ و احسان والی بارگاہ میں اور جاری و ساری ہے نوران کا تمام دوستوں پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَحْمُوْدِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو تیرے محمود محمد ہیں

وَصَفِيْكَ الْبَحْمُوْدِ وَعَيْشِكَ الْمَجْدُوْدِ يَا وَهَّابُ يَا سَرِيْقُ يَا

اور مخدوم مخلص دوست اور تیرا نصیب والا عیش ہیں اے وہاب۔ اے رزاق اے

شَرِيْفُ يَا غَنِيُّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

شریف۔ اے غنی۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ مِنْ تَجَلِّيْ عَلٰى قَلْبِهِ صَارَ الْاَنْوَارِ اَللّٰهُمَّ

کی آل پر کہ ان کا عکس و پرتو جس کے دل پر پڑ گیا وہ انوار کا سمندر بن گیا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ مِنْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ ان کا

تَجَلِّيْ لِقَلْبِهِ نَالَ سِرَّ الْاَخْيَارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جلوہ جس کے دل پر پڑ گیا اس نے اخبار کے اسرار نہانی کو پایا۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُوَّةِ الْاَرْوَاحِ وَالْاَشْبَاحِ وَقُوَّةِ دَوَائِرِ

اور آپ کی آل اظہار پر جو مجسم قوت ہیں ارواح و اجسام کی اور توانائی ہیں

التَّنَابُجِ وَالْفَلَاحِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

نیچے نیچی اور کامیابی کے دائروں کی۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرِّ مَقَامِ النَّجَاحِ وَالصَّلَاحِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کی آل پر جو راز سر بستہ ہیں کامیابی اور درستگی کے مقام کا۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَحْمُودِكَ فِي كُلِّ حَضْرَةٍ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو تیرے محمود ہیں حضرات

الْهِبَةِ وَمَقْصُودِكَ فِي كُلِّ نَظْرَةٍ رَحِيمِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

الہیبہ میں اور تیرے مقصود ہیں ہر رحیمی نگاہ میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْعِلْمِ الَّذِي بِفُؤَادِهِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو محبوب مجسم علم ہیں واسطے ان کے دل اقدس

مَحْتَمٌ وَعَنْ سِوَاكَ عَنِ الْغَيْرِ مَحْتَمٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

سے قوی ربط و تعلق والوں کے۔ اور ان کے ماسوا دوسروں سے محفی اور سر بہرے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُتَخَلِّقِ بِأَخْلَاقِكَ الرَّبَّانِيَّةِ وَالْمُتَّصِفِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو متخلق ہیں تیرے اخلاق ربانیہ کے ساتھ اور متصف ہیں

بِأَوْصَافِكَ السَّنِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

تیرے اوصاف عالیہ مقدار کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَانِي فِيكَ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ وَالْبَاقِي بِكَ

کی آل اطہار پر جو محبوب تجھ میں فانی ہیں تمام اوقات میں اور تیرے ساتھ ہی باقی ہیں

فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

تمام احوال میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّامِعِ مِنْكَ فِي جَمِيعِ الْمَخَاطَبَاتِ وَالنَّاطِقِ لَكَ

کی آل پر جو تجھی سے سنتے والے ہیں تمام تر مخاطبات میں اور تیری ذات کی طرف دیکھنے والے ہیں

فِي سَائِرِ النَّظَرَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

تمام نظروں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّاطِقِ بِسِرِّ الْوَحْدَانِيَّةِ وَالْمُشَاهِدِ لِكِبَالِ

کی آل اطہار پر جو محبوب ناطق ہیں ساتھ سر وحدانیت کے اور مشاہدہ کرنے والے ہیں کمال

الْأَحَدِيَّةُ اللَّهُمَّ احْرِقْ مِنْ لَهَيْبِ ذَبِيبِ حَبِيبِ حَبِيبِ الذِّكْرِ

احدیت کا۔ اے اللہ روشن کر دے شعلہ آتش شوق کا واسطے شیریں حبیب کے جس کا ذکر محبوب ہے واسطے فکر کے

لِلْفِكْرِ وَالْفِكْرُ لِلْهَجْرِ وَالْهَجْرُ لِلْوَصْلِ وَالْوَصْلُ لِمُؤْتَلِ الْأَصْلِ

اور فکر واسطے ہجر کے اور ہجرت واسطے وصل کے اور وصل واسطے اصل کے وصل کے

وَأَعْطِنِي إِعْتِدَالَ عَطَاءِ الْعَطَاءِ لِإِنْفِصَالِ فَنَاءِ الْفَنَاءِ وَإِسْتِقْبَالَ

اور عطا فرما مجھے میانہ سروی عطاء العطاء کی واسطے جدا ہونے فناء الفناء کے اور استقبال کرنے

فَنَاءِ الْبَقَاءِ وَإِضْهِحْلَالِ بَقَاءِ الْفَنَاءِ وَإِتِّصَالَ بَقَاءِ الْبَقَاءِ لِظُلَالِ

فناء البقاء کا اور ضعف و ناتوانی بقاء الفناء کی اور اتصال و وصول بقاء البقاء کا واسطے عکس و پرتو فتن

عَلَاءِ الْعَلَاءِ إِلَى قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ

ہونے علاء العلاء کے قاب قوسین او ادنیٰ تک۔ اے اللہ تو ہی تو ہی اول ہے

وَأَنْتَ أَنْتَ الْأَوْسَطُ وَأَنْتَ أَنْتَ الْآخِرُ وَأَنْتَ أَنْتَ الْأَوَّلُ الْآخِرُ

اور تو ہی تو آخر و اول ہے ظاہر میں اور باطن میں۔ وہی اول و آخر ہے اور

وَأَنْتَ أَنْتَ الْآخِرُ الْأَوَّلُ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ

تو ہی تو آخر و اول ہے ظاہر میں اور باطن میں۔ وہی اول و آخر ہے اور

وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ اللَّهُمَّ مَا أَصْبَرَ بَنِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ

ظاہر و باطن ہے۔ اے اللہ جو بھی میرے پاس نعمت ہے اور مخلوق میں سے کسی کے

مَنْ خَلَقَكَ فَمِنْكَ وَحُدُوكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَالْحَمْدُ وَ

پاس بھی تو وہ صرف و صرف تجھ یگانہ اور بے ہمتا کی طرف سے ہے پس تیرے ہی لیے حمد ہے اور

لَكَ الشُّكْرُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

تیرے ہی لیے شکر ہے۔ پاکیزگی ہے اللہ کے لیے اور حمد ہے اس کی۔ نہیں طاقت اور قوت مگر ساتھ اللہ کے

مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

جو اللہ نے چاہا وہ موجود ہو گیا اور جس کا وجود نہ چاہا وہ موجود نہ ہوا۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ ہر شئی پر

قَدِيرُهُ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ

قدیر ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر رکھا ہے ہر شئی کا از روئے علم کے۔ اے ہی۔ اے قیوم ساتھ تیری رحمت کے

أَسْتَعِيْثُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَ

فریادرسی کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ تو میرا رب ہے۔ نہیں معبود برحق مگر تو۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں

عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

اور تیرے عہد اور وعدہ پر قائم ہوں جہاں تک مجھ میں استطاعت ہے۔ اے اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ هُ فَاِنِّيْ اَعْهَدُ اِلَيْكَ

کے۔ جاننے والے غیب اور شہادت کے۔ جلال و اکرام والے۔ پس تحقیق میں عہد کرتا ہوں تیرے

فِيْ هَذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاَشْهَدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا اِنِّيْ اَشْهَدُ

ساتھ اس دنیوی زندگی میں اور تجھے گواہ بنانا ہوں اور تو کافی ہے بطور گواہ کے کہ میں گواہی دیتا

اَنَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ

ہوں کہ نہیں معبود برحق مگر تو یگانہ نہیں شریک تیرا۔ تیرے لیے ہی ملک ہے اور تیرے ہی لیے حمد ہے

وَاَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ

اور تو ہر شئی پر کامل دسترس والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد تیرے عبد خاص اور رسول ہیں

وَاَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَّلِقَاءُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ

اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی حق ہے اور تیرا وعدہ برحق۔ تیری ملاقات برحق اور تیرا قول برحق

وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ حَقٌّ وَ

اور جنت برحق۔ آتش دوزخ برحق اور تمام انبیاء برحق ہیں اور محمد رسول اللہ برحق اور

السَّاعَةُ حَقٌّ اَتِيَتْهُ لَا رَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّكَ تَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ

قیامت برحق ہے۔ آنے والی ہے نہیں جگہ شک و تردید کی اس میں اور تو اٹھائے گا اہل قبور کو

وَاَنَّكَ اِنْ تَكَلَّمْتَنِيْ اِلَى نَفْسِيْ تَكَلَّمْتَنِيْ اِلَى ضَعْفٍ وَّعَوْرَةٍ وَذَنْبٍ وَّ

اور بیشک تو نے اگر مجھے سوچا میرے نفس کی طرف تو سوچے گا مجھے طرف کمزوری اور عیب اور گناہ و

خَطِيئَةٍ وَإِنِّي لَأَنتَقِ الْأَبْرَحِيَّتَ فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي كُلَّهَا إِنَّكَ لَا

خطا کے اور میں نہیں بھروسہ کرتا مگر تیری رحمت پر پس بخش دے میرے تمام گناہ۔ بیشک نہیں

يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَتُبَّ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

بخشتا گناہ مگر تو ہی اور مجھ پر نظر رحمت فرما بیشک تو ہی توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے

اللَّهُمَّ لَا يَهْزُمُ جُنْدَكَ وَلَا يَخْلِفُ وَعْدُكَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ

اے اللہ نہیں شکست دیا جاتا تیرا شکر اور نہیں خلافت ہوتا تیرا وعدہ اور نہیں نفع دیتا کسی نجات والے کو

مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَا شَرِيكَ لَكَ

تجھ سے اس کا نجات و اقبال۔ پاک ہے تو اور حمد ہے تیری۔ نہیں معبود برحق مگر تو نہیں شریک تیرا

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ

تو پاک ہے۔ اے اللہ اے رب جبرائیل و میکائیل اور اسرافیل کے۔ پیدا کرنے والے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ

آسمانوں اور زمین کے۔ عالم غیب و شہادت کے۔ تو ہی فیصلہ فرماتا ہے اپنے بندوں کے

عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

درمیان جن امور میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا التَّزَمَ بِالْمِلَّةِ عَائِدًا وَمَاتَعَلَّقَ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جب تک ملتزم کے ساتھ چھٹتے رہیں پناہ کے طالب اور جب تک

بِاسْتِئْذَانِ الْبَيْتِ لَا يَدْخُلُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

چھٹتے رہیں بیت اللہ کے پردوں سے پناہ لینے والے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا وَقَفَ بِبَابِ الْكُعْبَةِ وَقَفَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد کی آل پر جب تک ٹھہرے کعبہ کے دروازے پر کوئی ٹھہرنے والا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا صَارَتْ تَحْتَ الْمِيزَابِ مُحْسِنٌ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جب تک منتقل ہوتے رہیں میزاب رحمت کے نیچے جو کار

وَمَا شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ عَلَى النَّيَّةِ مُؤْمِنٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور جب تک پیئیں زمزم سے خلوص نیت کے ساتھ مومن۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَمَزْدَلِفَةَ حَاجٌّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جب تک ٹھہرے عرفات اور مزدلفہ میں کوئی حاجی پختہ

مُتَّقِنٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا

یقین والا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جب

قَبْلَ بِبَرَكَتِهِ فِي هَذِهِ الشَّاعِرِ وَقَفَ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ اللَّهُمَّ صَلِّ

تک قبول کیا جاتا رہے ان کی برکت سے ان مشاعر میں سے کسی بھی مقام میں ٹھہرنے والا۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَيْتِ الْأَنْوَارِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو محبوب انوار الہیہ کے بیت اللہ

الْإِلَهِيَّةِ وَعَرْشِ الْأَسْرَارِ الْعَلِيَّةِ وَبِحَرِّ الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ اللَّهُمَّ

ہیں اور اسرار عالیہ کے عرش اعظم ہیں اور علوم لدنیہ کے تاپیدا کنار سمندر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَمِينِكَ الْبَامُونِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو محبوب تیرے امین اسرار

وَحَافِظِ عَلَيْكَ الْمَكْنُونِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور مامون ہیں اور تیرے مخفی علوم کے محافظ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ تَجَلَّىٰ فِي رُوحِهِ فَازٍ بِالْجُودِ وَمَنْ تَجَلَّىٰ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جس کی روح میں انہوں نے تجلی فرمائی تو وہ کامیاب ہوا ساتھ جود کے اور جس کی روح پر

عَلَىٰ رُوحِهِ نَالَ الشُّهُودَ وَمَنْ ظَهَرَ لِرُوحِهِ حُظِيَّ بِالسُّعُودِ اللَّهُمَّ

انہوں نے تجلی فرمائی اس نے پالیا مقام مشاہدہ اور جن کی روح پر ظہور فرما ہوئے تو وہ سعادتوں سے بہرہ ور ہوا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُطْبِ دَاوْرَةٍ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو مرکز و قطب ہیں دائرہ رسالت کے

الرِّسَالَةِ وَغُوثِ حَيْطَةِ النَّبُوَّةِ وَالْجَلَالَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

اور غوث و مددگار ہیں احاطہ نبوت اور جلالت و بزرگی کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ غَيْثِ دَوَائِرِ الْمَمْلَكَةِ وَالْعَدَالَةِ

ستینا محمد پر اور آپ کی آل پر جو مملکت خداوندی عدالت کے دائروں کی بارانِ رحمت ہیں

وَمَدَارِ حَيْطَاتِ الْوِلَايَةِ وَالْقَضَايَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

اور ولایت و قضیت کی چار دیواریوں کی اینٹیں ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما ستینا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَيْضِ فَجَائِزِ الْقُرْبِ وَالذَّلَالَةِ وَأَفْضَلِ هُنَّ

محمد پر اور ستینا محمد کی آل پر جو مجسم فیض ہیں قرب اور رہنمائی کی جلوہ گاہوں کا اور افضل تمام حضرات

قَامَ لَكَ بِالذَّلَالَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

سے جو تیری طرف رہنمائی کے ذمہ دار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما ستینا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ أَعْظَمَ مِنْ وَفِي بِحُقُوقِ الْكَمَالَةِ وَأَجَلٌ مَنْ تَجَلَّى بِالْجَلَالَةِ

پر جو محبوبِ عظیم تر ہیں حقوقِ کمالیت کو کما حقہ ادا کرنے والوں سے اور بزرگتر ہیں بزرگی کے ساتھ جلوہ گاہوں والوں سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَشْرَفِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما ستینا محمد پر اور ستینا محمد کی آل پر جو بزرگتر ہیں

مَنْ سَقَىٰ بِأَحْسَنِ مَقَالَةٍ وَأَكْمَلِ مَنْ لِكَمَالِ نَالَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

ان سب سے جنہوں نے حسن کلام سے شیریں جام پلائے اور کامل تر ہیں تمام اربابِ کمال سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَاحِجِ لِدَاوِينَ

و سلام نازل فرما ستینا محمد پر اور ستینا محمد کی آل پر جو آقا مٹانے والے ہیں بطالت کے

الْبَطَالَةِ وَالْبَصْفَىٰ مِنْ خَيْرِ سُلَالَةِ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

دفا تر کو اور چنے ہوئے ہیں بہترین نسل اور اولاد سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما ستینا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا تَعَلَّقَ بِشُبَّانِكِهِ مُحِبٌّ وَمَا وَقَفَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جب تک چٹا رہے ان کے روضہ کی جالی سے کوئی محب اور ٹھہرا رہے

بِمُوجَّهَتِهِ صَبَّ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ان کے مواجہہ شریف میں کوئی عاشق گزار۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا قَعَدَ فِي رَوْضَتِهِ مُخْلِصٌ نَقِيٌّ وَمَا دَخَلَ حُجْرَتَهُ

آل پر جب تک بیٹھا رہے ان کے روضہ میں کوئی مخلص پاکیزہ شخص اور جب تک داخل ہوتے رہیں ان کے

نَقِيٌّ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حجرہ مبارکہ میں صاف باطن لوگ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

مَا صَلَّى فِي مُحْرَابِهِ مُقْتَدٍ وَمَا طَلَعَ عَلَى مُغْبِرَةٍ مُتَرَقٍّ لِيَرْتَقِيَ

جب تک نماز پڑھتا رہے ان کے محراب میں کوئی نمازی اور جب تک نمودار ہوتا رہے ان کے منبر پر چڑھنے کیلئے چڑھنے والا

اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا تَقَرَّبَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جب تک فرحت حاصل

فِي مُتَهَجِّدِهِ زَائِرٌ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کرتا رہے ان کے مقام تہجد میں کوئی زائر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا تَأَدَّبَ عِنْدَ الْكُؤَاكِبِ الدُّرِيِّ دَاخِلٌ وَمَا قَبِلَ

کی آل پر جب تک اطہار ادب کرتا رہے روشن تمقوں کے پاس داخل ہونے والا اور جب تک بوسہ دیتا رہے

الْكُؤَاكِبِ وَاصِلٌ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ان تمقوں کو بارگاہ نبوی تک پہنچنے والا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا اسْتَجِيبَ فِي هَذِهِ الْأَمَاكِنِ لِدَاعِ

کی آل پر جب تک قبول ہوتی رہے ان مقامات میں دعا کسی بھی دعا کرنے والے مشتاق کی

مُشْتَاقٍ وَمَا نَالَ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ مَقْصُودَةً مِّمَّصْدَاقِ اللَّهِ

اور جب تک حاصل کرتا رہے ان مقامات میں کوئی بھی صادق و مخلص اپنا مقصود۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَعْظَمَ مِنْ قَامِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب عظیم تر ہیں تیرے دین کو قائم

بِذِيكَ وَأَشْرَفِ مَنْ دَعَى لَشْرَعِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کرنے والے سب حضرات سے اور بزرگتر ہیں تیری شریعت کی طرف بلانے والے تمام حضرات سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ مَنْ وُلِدَتْ أَدَمُ وَحَوَّاءُ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو سردار ہیں تمام اولاد آدم و حوا علیہما السلام کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أُخْبِرَتْ عَنْهُ أَنَّهُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے متعلق تو نے خبر دی کہ وہ

لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَأَعْلَمَتْ أَنَّ مَنْ أَحْبَبَهُ جَلَىٰ لَهُ الْجُودَىٰ وَنَالَ الرَّؤَىٰ

نہیں بولتے خواہش نفس سے اور جتلا دیا کہ جس نے ان سے محبت کی دور ہوئی اس سے سوزش شوق و عشق اور پالی سیرابی و ٹھنڈک

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِنْ تَسَابِقَتْ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے باطن

أَنْوَارِ الْخُصُوصِ لِإِدْرَاكِ سِرِّهِ فَلَمْ تُدْرِكْ إِلَّا خِيَالَهُ وَهُوَ مِنْ بَرَّةِ

اور حقیقت کے ادراک کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کی کوشش کی انوار مخصوصہ نے لیکن نہیں پایا جاسکا مگر ان کا خیال

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ

اور وہ بھی ان کا ہی احسان ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے

بِهِ الْأَوْزَارُ تَزَالُ وَيُحِبُّهُ الْأَسْرَارُ تَنَالُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ذریعے بارہائے گناہ زائل ہوتے ہیں اور جن کی محبت کے صدقے میں اسرار حاصل کئے جاتے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ بِهِ يَفْرَجُ الْكُرْبُ وَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کی بدولت رنج و الم دور کئے جاتے ہیں اور

تُدْفِعُ الْبَلَايَا الْآتِيَةَ بِالْكَيْبِ اللَّهُمَّ مَنْ عَادَانِي فَعَادِيهِ وَمَنْ

دور کی جاتی ہیں وہ مصیبتیں جو ہلاکت آفریں ہوں۔ اے اللہ جس نے مجھ سے عداوت کی اس سے عداوت رکھ اور جو

كَادَنِي فَكُدُّهُ وَمَنْ بَغَىٰ عَلَيَّ بِهَيْلِكَ فَاهْلِكْهُ وَمَنْ نَصَبَ لِي فُخًّا

میرے ساتھ مل کرے تو اس کے خلاف تدبیر فرما اور جو مجھ پر ہلاکت طلب کرے تو اسے ہلاک فرما اور جو میرے لیے جال نصب کرے

فَخَذَهُ وَأَطْفَ عَنِّي نَارٌ مِّنْ نَّارِهِ عَلَيَّ وَكَفَيْتَنِي مَا أَهْتَنِي مِنْ

اسے اپنی گرفت میں سے۔ اور بچھا مجھ پر سے آگ اس کی جس نے مجھ پر آگ بھڑکائی اور کفایت فرما مجھے غم و اندوہ میں ڈالنے

أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَصَدِّقُ رَجَائِي بِالتَّحْقِيقِ يَا شَفِيقُ يَا رَافِقُ

والمور دنیاویہ و آخرویہ سے اور میری امید و رجاء کو سچا فرما حقیقت تک رسائی کے ذریعے۔ اے شفیق۔ اے رفیق

فَرِّجْ عَنِّي كُلَّ ضَيْقٍ وَلَا تُحْمِلْنِي مَا لَا أُطِيقُ أَنْتَ أَنْتَ الْهَلِكُ بِالتَّحْقِيقِ

دور فرما مجھ سے ہر تنگی کو اور نہ ڈال مجھ پر وہ بوجھ جس کی میں طاقت نہیں رکھتا۔ تو ہی تو شہنشاہ حقیقی ہے۔

يَا مُشْرِقُ الْبُرْهَانَ يَا مَنْ لَا يَخْلُو مِنْهُ مَكَانٌ أَحْرَسَنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي

اے روشن برہان و دلیل والے۔ اے کہ نہیں خالی کوئی مکان (اس کی تجلیات سے) میری نگہبانی فرما ساتھ اپنی آنکھ کے جو

لَا تَنَامُ وَكَتَفُنِي بِكَتِفِكَ وَرُكْنِكَ الَّذِي لَا يُرَامُ إِنَّهُ قَدْ تَيَقَّنَ

نہیں سوتی اور مجھے اپنا پہلوئے رحمت اور مضبوط سہارا مہیا فرما جس کا قصد نہیں کیا جا سکتا (اعوار کی طرف سے) بیشک میرے

قَلْبِي إِنَّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَإِنِّي لَا أَهْلِكُ وَأَنْتَ مَعِيَ يَا رَحْمَنُ

دل نے یقین کر لیا ہے کہ نہیں معبود برحق مگر تو اور یقیناً میں ہلاک نہیں ہو سکتا جبکہ تو میرے ساتھ ہو اے رحمن

فَارْحَمْنِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيَّ يَا عَظِيمُ يَا رَجِي لِكُلِّ عَظِيمٍ يَا عَلِيمُ يَا

پس رحم فرما مجھ پر بسبب اپنے غلبہ کے مجھ پر۔ اے عظیم جو امید گاہ ہے ہر عظیم کی۔ اے علیم۔ اے

حَلِيمٌ وَأَنْتَ بِحَالِي عَلِيمٌ وَعَلَى خَلَاصِي قَدِيرٌ وَهُوَ عَلَيْكَ يَسِيرٌ

علیم اور تو میرے حال کا جاننے والا ہے۔ اور میرے چھٹکارے پر قادر ہے۔ اور وہ تجھ پر آسان ہے

فَأَمِّنْ عَلَيَّ بِقَضَائِهِ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَيَا أَجْوَدَ الْجَادِينَ وَأَسْرَعَ

پس احسان فرما مجھ پر اس کے حتمی فیصلہ کے ذریعے اے سب عزت والوں سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ جواد اور سب سے

الْحَاسِبِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ

جلد حساب لینے والے۔ اے رب العالمین۔ اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ نہ بنانا میری

لِعَيْشِي كَدًّا وَلَا لِدُعَائِي رَدًّا وَلَا تَجْعَلْنِي لِعَيْدِكَ عَبْدًا وَلَا تَجْعَلْ فِي

گذران کو سخت اور میری دعا کو مردود۔ اور نہ بنانا مجھے غیر کا بندہ۔ اور نہ پیدا کرنا میرے

قَلْبِي لِسَوَاكَ وَدَا فَاِنِي لَا اَقُولُ ضِدًّا وَلَا شَرِيكًا وَلَا نِدًّا اِفَانِكَ عَلِي

دل میں غیر کی محبت کیونکہ میں نہیں قائل تیری ضد اور شریک کا اور نہ تم مقابل کا۔ بیشک تو ہی ہر شئی

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اَللّٰهُمَّ

پر کامل دسترس والہ ہے۔ اور نہیں طاقت اور نہ قوت مگر ساتھ اللہ علی عظیم کی توفیق کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ بِهِ تُحَلُّ الْعُقَدُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے طفیل عقد سے حل کئے جاتے ہیں

وَتُرْفَعُ الْهُومُ وَالشَّدَادُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

اور غم و شدتیں اٹھالی جاتی ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ بِهِ تُقْضٰى الْحَوَائِجُ وَتُرْفَعُ الْهَمَمَاتُ اَللّٰهُمَّ

کی آل پر جن کے طفیل حاجات پوری کی جاتی ہیں اور مہمات دور کی جاتی ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ بِهِ تُنَالُ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے طفیل حاصل کئے جاتے ہیں

الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْعَطِيَّاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

مرغوبات اور حسین عطیات۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ كَانَ عَمُودَ نُوْرٍ صَاعِدًا اِلَى بَيْتِ الْمَعْمُورِ

آپ کی آل پر کہ جن کے نور کا عمود و ستون بلند ہونے والا تھا بیت معمور تک۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ تَجَلٰى

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو جلوہ گر ہوئے

فِي حَجْرَتِهِ لِزُوَارِهِ وَالْمَلَائِكَةِ تَحَفُّ وَتَكْشِفُ عَلَيْهِمْ مِنْ عَظِيْمِ اَنْوَارِهِ

اپنے حجرہ میں زاثرین کے لیے اور ملائکہ ان کے گرد گھیر ڈالے ہوئے تھے اور ظاہر کرتے تھے ان پر آپ کے عظیم انوار سے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّظْهَرِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو تیرے مقدس فیض کی

تَجَلَّىٰ فِيضِكَ الْمُقَدَّسِ وَمَجْلَىٰ نُورِ ذَاتِكَ الْأَقْدَسِ اللَّهُمَّ

تجلی کا مظہر ہیں اور تیرے ذاتی نور کی جلوہ گاہ ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُنْتَصِلِ بِسُرَّةِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ متصل ہے ان کا

مِنْ هَذَا الرَّمْسِ الْكَرِيمِ إِلَىٰ كِبَالِكَ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

باطن اور حقیقت قبر مکرم سے لے کر تیرے کمال عظیم تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِنْ يَمَدِّ الْمَدَدِ الْأَجَلِّ لِزُورِهِ الْوَاقِفِينَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو عظیم مدد بہم پہنچاتے ہیں اپنے زائرین اور در اقدس پر پھرنے والوں کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب

حَضْرَتُهُ حَضْرَةُ الْحَقِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

کی بارگاہ بارگاہ حق تعلق ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَظِيمِ مَمْلُكَةِ الْأَحَدِ بِلَا حَصْرٍ وَلَا حِدٍّ اللَّهُمَّ صَلِّ

کی آل پر جو محبوب احد تعالیٰ کی غیر محدود اور غیر محدود مملکت کے عظیم سربراہ ہیں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَبِيرِ دَوَائِنِ الرَّحِيمِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو بڑے ہیں رحیم و جلیل کے تمام

الْجَبِيلِ عَلَىٰ الْأَجْمَالِ وَالتَّفْصِيلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دیوانوں میں اجمالی ہیں یا تفصیلی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَرْشِ تَجَلَّىٰ الْقَدِيمِ بِغَيْرِ تَأْخِيرٍ وَلَا تَقْدِيمِ اللَّهُمَّ

اور آپ کی آل پر جو عرش معنی ہیں ذات قدیم کی تجلی کے لیے بغیر تاخیر و تقدیم کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَضْرَةِ الْكُرْبَلَاءِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محل عبادت ہیں کبریائی بارگاہوں کیلئے

وَمَحَلُّ مَدَدِ الْأَنْبِيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور جائے نزول ہیں مدد انبیاء کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ مِنْ مُّحْيَاةٍ ابْتَهَجَتِ الْكِيَانُ وَمِنْ ضِيَاءِ تَنْوِيرَاتِ

کی آل پر کہ جن کے چہرہ انور سے رونق پائی موجودات نے۔ اور ان کی ضیاء سے منور ہونے

الْإِنْسِ وَالْجَانِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

تمام انسان اور جن۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ مِّنْ مِنْ حِمَاةٍ تَكَمَّلَتْ الْخَوَاصُّ بِسِرِّ الْإِيقَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ

پر جن کے محفوظ مقامات سے کمال حاصل کیا خواص نے ساتھ راز یقین کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ مِنْ رِّبَاةٍ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے فراواں نفع کی وجہ سے

تَمَلَّتِ الْأَكَابِرُ بِفَيْضٍ وَعُرْفَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

بھرپور ہو گئے اکابر فیض اور عرفان کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ مِنْ سَنَاةٍ اسْتَبْصِرَتْ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کی چمک و رنگ سے بصیرت حاصل کی

الْأَعْيَانُ لِمَا شَاهَدُوهُ بِالْعِيَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اکابر نے جب ان کا مشاہدہ کیا علانیہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَحْمُودِ وَمُصْطَفَاكَ الْمَقْصُودِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو تیرے محمود محمود ہیں اور مصطفیٰ و مقصود اور

مَنْتَقَاكَ الْمَهْدُودِ وَمُجْتَلَاكَ الشُّهُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

چنے اور نکھارے ہوئے دراز (سایوں والے) ہیں اور تیری مشاہدہ کی ہوئی جلوہ گاہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَرْشِ تَجَلِّيَاتِ الصِّفَاتِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اظہار پر جو عرش اعظم ہیں تجلیات صفات خداوندی کے

وَكُرْسِيَّ أَنْوَارِ الصِّفَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور وسیع کرسی ہیں انوار صفات کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رُوحِ الْعَالَمِ وَسِرِّ الْمَكْنُونِ مُبْدِ الْكُونِ

اور آپ کی آل اطہار پر جو محبوب روح عالم اور سر مخفی ہیں۔ کائنات کے فیض رساں

وَأُسِّ جِدَارِهِ الْمَخْرُوجِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور جہاں کی مخزون و مخفی دیوار کی بنیاد و اساس ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ تَخْدُمُهُ رُسَاءُ الْمَلَائِكَةِ وَتَتَشَرَّفُ بِخِدْمَتِهِ

سیدنا محمد کی آل پر جن کی خدمت کرتے ہیں ملائکہ کے سردار اور ان کی خدمت سے شرف پاتے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَتَّخِذُهُ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ تو اسے کرتے ہیں ان

لَدَيْهِ أَكَابِرُ الرُّسُلِ وَتَتَّحَلَّى بِحِلْيَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کے پاس اکابر رسول اور زینت پاتے ہیں ان کی زیبائش سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَمِينِ خَزَائِنِ الْعَطَاءِ الْإِلَهِيِّ وَبَابِ فَيْضِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو امین ہیں عطاء الہی کے خزانے کے اور در فیض ہیں ہمارے رب

رَبِّنَا الرَّاهِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کے جو دران پر افرخ کرنے والا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ خَلِيفَةَ الْحَقِّ وَمُظْهَرَ الْحَقِّ وَبَابِ الْحَقِّ وَوَسْطَةَ الْحَقِّ وَقَائِلِ

پر جو خلیفہ حق اور مظہر حق اور حق کا دروازہ اور حق کا واسطہ حصول ہیں اور حق کا قول کرنے والے

الْحَقِّ وَلِسَانِ الْحَقِّ وَتَرْجَمَانِ الْحَقِّ وَعَاقِدِ الْحَقِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

حق کی زبان۔ حق کے ترجمان اور حق کا عقد و عہد کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَمِيرِ الْحَقِّ وَدَاعِيِ الْحَقِّ وَوَلِيِّ الْحَقِّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو حق کا امر کرنے والے ہیں۔ حق کی طرف بلائے والے حق کے مالک و

وَنَاصِرِ الْحَقِّ وَمُخْبِرِ الْحَقِّ وَمَائِلِ الْحَقِّ وَحَامِلِ الْحَقِّ وَبَيَانِ الْحَقِّ

متصرف حق کے مددگار۔ حق کی خبر دینے والے۔ حق کی طرف مائل۔ حق کے حامل اور سراپا بیان حق ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَوَادِ الْحَقِّ وَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو حق کا قلب ہیں اور

فَاتِحِ الْحَقِّ وَتَافِعِ الْحَقِّ وَحَقِّ الْحَقِّ وَحَقِيقَةِ الْحَقِّ وَمُحَقِّقِ الْحَقِّ

حق کا کشف کرنے والے اور حق کے لیے نفع بخش اور سراسر حق ہیں اور حقیقت حق اور حق کو ثابت کرنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِأَب

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو قرب حق کا دروازہ ہیں

الْقُرْبِ وَسِرِّ الْحَبِّ وَكَرِيمِ الْحَضْرَةِ وَوَلِيِّ النَّصْرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور راز محبت الہیہ۔ بزرگ بارگاہ والے اور مالک نصرت ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَشَرَّفَتْ بِهِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے ساتھ مشرف ہوئے

الْمَوْجُودَاتُ وَتَعَطَّرَتْ بِهِ الْكَائِنَاتُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

موجودات اور معطر ہوئی کائنات۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سُلْطَانَ الْمَمْلُوكَةِ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو مملکت الہیہ کے سلطان ہیں اور

إِمَامِ الْحَضْرَةِ الْمُقَدَّسَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اس کی بارگاہ مقدس کے امام ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُفِيضِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْأَعْلَى مِنْ وَرَاءِ حُجُبِكَ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو فیضان فرماتے ہیں ملاء اعلیٰ پر تیرے پردوں کے پیچھے سے

الْجَلَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نورانیت کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مَنْ قَامَتْ بِهِ عَوَالِمُ الْمَدَكُوتِ وَظَهَرَتْ عَنْهُ عَوَالِمُ

کہ جن کی بدولت قائم ہیں ملکوت کے جہان اور جن سے ظہور پذیر ہوئے ملک و جبروت

الْمَلِكِ وَالْجَبْرُوتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کے جہان۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُطَبَّرِ بِالنُّوَارِ الْعَالِيَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کی آل پر جو محبوب بھرپور ہیں انوار عالیہ کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْكَنْزِ الَّذِي لَا يَعْرِفُهُ عَلَى

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو ایسا خزانہ ہیں کہ جن کو حقیقت میں نہیں

الْحَقِيقَةَ إِلَّا مَالِكُ الْبَرِّيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پہچانتا مگر مخلوقات کا مالک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَرْجَمَانَ الرَّحْمَانِ لِعِبَادِهِ يَا لِحُسْنِ أَلِ اللَّهِ صَلِّ

اور آپ کی آل پر جو محبوب رحمان کے ترجمان ہیں واسطے اس کے بندوں کے احسن طریقہ۔ اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذُرُوعَ الدَّوَابِّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اظہار پر جو بلند مقام ہیں خداوندی

الْإِلَهِيَّةِ وَتَرْجَمَانَ الْحَضْرَةِ الصِّدْقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

دیوانوں کے لیے اور ترجمان ہیں بارگاہِ صمدیت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رُوحِ الْمَعَارِفِ الْعِلْمِيَّةِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو روح رواں ہیں معارفِ علمیہ کی

وَمَا دَّةِ الْحَقَائِقِ النُّورَانِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور مادہ و نمیر ہیں حقائقِ نورانیہ کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُتَجَلِّيِّ فِي سَمَاءِ الرَّبُّوبِيَّةِ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آپ کی آل پر جن کو جلوہ گر کیا گیا آسمانِ ربوبیت پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَلْبِ الْقُلُوبِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو وسیع قلوب کے

الْوَاسِعَةِ لِلْبِرِّ وَقُرْآنِ الَّذِي حَوَى سِرَّ الْمَقْدَمِ وَالْمَوْخِرِ اللَّهُمَّ

قلب ہیں واسطے برو احسان کے اور ایسا قرآن ہیں جو محیط ہے مقدم و موخر اسرار کو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَاطِنِ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب ایسے باطن ہیں کہ انہیں

مَنْهَيْرِي اللَّهُ وَالظَّاهِرِ الَّذِي بِهِ تَجَلَّى اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سے دیدار کیا جاتا ہے اللہ کے انوار کا اور ایسے ظاہر ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے جلوے ظاہر ہوئے۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ التُّورِ الْمُسْتَضَاءِ بِهِ فِي

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب ایسا نور ہیں کہ ضیاء حاصل کی گئی ہے ان سے

الدَّارَيْنِ وَالسِّرِّ الْمُسْتَكْمِلِ بِهِ فِي الْعُلَمَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

دارین میں اور ایسا راز ہیں کہ ان سے کمال حاصل کیا گیا تمام جانوں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِهِ يَكْمَلُ الْكَمَالَ وَالْفَيْضُ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کے ذریعے کمال تکمیل پذیر ہوتا ہے اور مجسم فیض ہیں

الَّذِي بِهِ يَعْرِفُ الْأَحْلُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

کہ ان کے ذریعے عرفان پاتے ہیں بزرگتر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الصِّرَاطِ الْمَسْلُوكِ الَّذِي سَلَكَ فِيهِ

آپ کی آل اظہار پر جو ایسی راہ سلوک ہیں کہ جس پر چلے

الْكَامِلِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اہل کمال۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ مَطْهَرِ التَّجَلِّيَّاتِ وَأَرْبَابِ الْعِنَايَةِ وَالرَّحْمَةِ الْمَرْحُومِ بِهَا جَمِيعِ

آل پر جو منظر ہیں تجلیات کے۔ مالک ہیں لطف و عنایت کے اور مجسم رحمت ہیں کہ جن کی بدولت رحمت کی گئی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

تمام مخلوقات پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ مِنْ لَدُنْكَ الْكَمَالِ عَدَاوَاتِهِ رَدَّ أَعْنَاجِ الْجَبَالِ اِنْتَهَى وَإِلَيْهِ الْجَمَالُ

پر کہ کمال سراسر انہیں کا ہو کر رہ گیا اور انہیں پر جمال کی چادر کی انتہاء ہوئی اور انہیں پر جمال کی

اِنْتَهَى اِلْتِمَاءً اِلَيْهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

انتہاء الالتماء ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ مَنْ بِهِ الْجَلَالُ اَضْحَى ظَاهِرًا وَمِنْهُ سِرُّ الْاَنْبِيَاءِ تَظَاهَرَ اَللَّهُمَّ

جن کی بدولت جلال خداوندی کا ظہور ہوا اور انہیں سے انبیاء کا راز نہانی ظہور پذیر ہوا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِاطْنِ الرَّحْمَةِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو رحمت کا باطن بھی ہیں

وَظَاهِرَهَا وَسِرِّ الرَّحْمَانِيَّةِ وَمَحْبُوبِهَا اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور ظاہر بھی۔ اور رحمانیت کا سر نہاں ہیں اور اس کے محبوب۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُنِيرِ الْمَلِكِ بِنُورِ ظُهُورِهِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو ملک خداوندی کو منور کرنے والے ہیں اپنے نور ظہور سے

وَمُنِيرِ الْمَلَكُوتِ بِسِرِّ بَطُونِهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور ملکوت کو روشن کرنے والے ہیں اپنے سر بطون سے۔ اے صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الظَّاهِرِ فِي الْجَبَرُوتِ بِحَقِيقَتِهِ وَمُهَيِّدِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو ظاہر ہیں جبروت و عالم تجرود میں اپنی حقیقت کے ساتھ اور معاون مددگار

الْبَهْمُوتِ عَلَى حِمْلِ مَا فِي ظَهْرِهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ہیں بے مثل زور آوروں کے لیے پشت پر آنے والے بوجھ کے برداشت کرنے میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَمِيعِ الْاَكْوَانِ مِنْهُ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ تمام جہان انہیں سے نورانیت

مُسْتَنْبِرًا وَجَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ مِنْهُ مُسْتَعِيرَةً اللَّهُمَّ صَلِّ

پاتے ہیں اور تمام مخلوقات انہیں کے در پر سوالی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْاَعْظَمِ يَكْتُرُ

و سلم نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب عظیم تر ہیں بسبب

الْكُتُوْبِ وَسِرِّ الرُّمُوْزِ وَبِحَقِّ رَمِزِ رَمُوْزِ رَمُوْزِ كُنُوْزِ

سب خزانہ کا مخزن ہونے کے اور تمام رموز کا راز نہانی ہونے کے اور لطیف حرمات رموز سے عظیم راز کے جو اشارہ کنویں والا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہے خداوندی خزانہ کے ظہور کی طرف۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

مَنْ تَجَلَّىٰ بِهِ عَلَى الْبَكْرِمِيْنَ الْبَكْرِمُوْنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جن کی بدولت ظہور پذیر ہوئے اہل کرامت پر اہل کرامت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْيَعْسُوْبِ فِي

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو محبوب سردار و رئیس ہیں

الْحَضْرَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ وَالْمَحْبُوْبِ عِنْدَ خِيَارِ الْبَرِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

ربانی بارگاہوں میں اور محبوب ہیں بزرگتر مخلوق کے نزدیک۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَخْتَصِّ فِي الْبِحَالِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صاحب اختصاص ہیں حسین جلوہ گاہوں

ذَاتِ الْحَسَنِ الْمَذْهَبِ حُسْنُهُ عَلٰی كُلِّ مَنْ رَأَاهُ الْعَيْنُ اللَّهُمَّ صَلِّ

میں جن کا حسن دور کرنے والا ہے ہر دیکھنے والے سے رنج و تکلیف کو۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ يَا بِحَضْرَاتِكَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو در اقدس ہیں تیری بارگاہوں کا

وَمَقْصُوْدِ نَظْرَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور مقصود اصلی ہیں تیری نگاہوں کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ أَسْرَىٰ بِهِ إِلَىٰ قَابِ قَوْسَيْنِ ۚ

آپ کی آل پر جن کو معراج کرایا گیا قاب قوسین تک اور دیکھا تجھے
يَا عَظِيمُ بِالْعَيْنِ وَذَٰكَ حَيْثُ لَا آيُنَ ۙ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اے عظیم سر کی آنکھوں سے اور وہ مقام ہے جہاں پر مکان نہیں ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما
عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ كُنْتُتْ وَلَا جُلَّهٖ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہیں تو نے بذات خود کامل کیا اور انہیں کی وجہ
اَكْرَمَتْ وَلِمَنْ تَبِعَهُ عَظُمَتْ ۙ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

سے عزت دی اور ان کے متبعین کو عظمت دی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا
مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَحْبُوبِ وَالْأَعْظَمِ وَالْخَلِيلِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو محبوب اعظم ہیں اور سب سے قدیم کے
الْأَقْدَمِ ۙ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

خلیوں ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَفْخَمِ وَالْكَلِيمِ الْأَكْلَمِ مِنْ قَبْلِ

آل اطہار پر جو محبوب عظیم المرتبت نبی اور بہت زیادہ کلام کرنے والے کلیم جو حضرت
مُوسَىٰ وَآدَمَ ۙ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

موسیٰ اور آدم سے بھی پہلے کے کلیم ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ
آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَفِيكَ عَلَى التَّحْقِيقِ وَمَحْبُوبِكَ مِنْ كُلِّ

آل پر جو تیرے خاص دوست ہیں یقیناً اور محبوب ہیں ہر فریق
فَرِيقٍ ۙ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل
مُحَمَّدٍ مَنْ شَقَّقْتَ لَهُ مِنْ إِسْبَاطِكَ لِأَجَلِهِ فَبِحَدِّدٍ مِّنْ مَّحْمُودٍ

پر جن کا نام نامی تو نے الگ کیا اپنے نام اقدس سے ان کے لیے پس محمد محمود سے ہے

فِيَالهِ مِنْ سَيِّدٍ مَقْرُونٍ اِسْمُهُ بِاِسْمِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

پس کتنے بلند مرتبت سردار ہیں وہ کہ ملا ہوا ہے نام ان کا تیرے نام کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جنہیں بنایا

جَعَلْتَهُ اَفْضَلَ خَلْقِكَ السَّيِّدِ ذِي الْاَنْفَاسِ الدَّائِمَةِ فِي

تو نے افضل المخلوق سردار جن کے سانس ہمیشہ مصروف ہیں تیرے ذکر

ذِكْرِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ قَدْ وُسِّ الْمَشَاهِدِ لَكَ فِي سَائِرِ الْاَوْقَاتِ وَالْقَائِمِ لَكَ

پر جو محبوب مقدس تیرا مشاہدہ کرنے والے ہیں تمام اوقات میں۔ اور قیام کر نیوالے ہیں تیرے

فِي جَمِيعِ السَّاعَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

یہ تمام ساعات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِنْ لِحْلِهِ بَرَزَتْ وَ لِحْجَالِهِ ظَهَرَتْ

اور آپ کی آل پر کہ جن کی بدولت ظاہر ہوئی دکائیات اور ان کے جمال کیلئے منظر نبی

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الرَّاقِيْ اَعْلٰی مَرَاتِقِ التَّوْحِيْدِ وَالْقَائِمِ فِيْ اَجْلٰی مَقَامِ التَّجْرِيْدِ

جو محبوب ترقی پانے والے ہیں توحید کے اعلیٰ مراتب پر اور قیام پذیر ہیں تجرید کے واضح مقام میں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

مَنْ حَصَلَ عَلٰی مَقَامَاتِ الْعِبُوْدِيَّةِ وَمِنْهُ اَفِيضَتْ عَلٰی خِيَارِ

جنہوں نے حاصل کر لیے اعلیٰ مقامات عبودیت کے اور انہیں سے فیضان کیا گیا مخلوقات کے

الْبِرِّيَّةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

بزرگوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الْمَشَاهِدِ لَكَ وَالْقَدِيمِ مِنْكَ وَالْأَخِيذِ عَنكَ اللَّهُمَّ

پر جو تیرا دیدار ذات کرنے والے ہیں اور تیری طرف سے آنے والے اور تجھی سے پانے والے ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ لَكَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے لیے ثبات ہے

غَايَةَ الْجَمَالِ وَنَهَايَةَ الْكَمَالِ وَالْمُتَجَلِّي بِالْجَلَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ

غایت جمال اور منتہائے کمال اور جو جلوہ نغمں ہیں ساتھ جلال کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ صَلَّى وَرَأَى

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے پیچھے نماز ادا کی

جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

تمام انبیاء نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ أَخَذَ عُلُومًا مِّنَ الْحَقِّ فَمَا أَمْرٌ بِكُتُبِهِ إِلَّا مَا

آل اطہار پر جنہوں نے حاصل کئے علوم حق تعالیٰ سے پس ان میں سے جن کے پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا

أَمْرٌ بِكُتُبَانِهِ فَكُتُبُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

گیا تو آپ نے اس کو مخلوق سے پوشیدہ رکھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ عِلْمٌ عِلْمِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ بِالضَّرْبَةِ الَّتِي

کی آل پر جنہوں نے جان لیے اولین و آخرین کے علوم اللہ تعالیٰ کے کف دست کی بدولت جو آپ کے دو کندھوں

بَيْنَ كَيْفِيَّتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کے درمیان رکھی گئی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ أَكْمَلَ عِبَادِكَ وَأَفْضَلَ مَخْلُوقَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر جو محبوب اکمل العباد ہیں اور افضل المخلوقات۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَجْمَلِ النَّاسِ عَلَى

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو سب لوگوں سے مطلقاً جمیل ہیں

الإِطْلَاقِ وَالْكَلِمَةُ بِإِلْتِفَاقِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور سب سے اکل ہیں بالاتفاق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَحْبُوبِ عِنْدَ الْأَوَّلِ وَالْمَعْشُوقِ عِنْدَ

اور آپ کی آل پر جو محبوب ہیں احد اول کے ہاں اور معشوق ہیں واحد

الْوَاحِدِ الْأَجَلِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اجل کے نزدیک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ مِنْ مَبِيتِهِ وَالْمَدَدِ وَحَاءِ الْحَيَاةِ مَدًّا أَبَدًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر جو مہم ہیں مد اور مدد کی اور حاء ہیں ابدی حیات کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِنْ مَبِيتِهِ وَالْمَدَدِ وَحَاءِ الْحَيَاةِ مَدًّا أَبَدًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو مہم ہیں مجد اور مجید کی اور وال ہیں دولت

الدَّوْلَةِ الَّتِي لَا تُبِيدُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کی جو کبھی فنا پذیر نہ ہوگی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَحْرِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ سَاحِلٌ وَالْبِرِّ الَّذِي عِلَاةُ الْبِرِّ الْكَامِلُ

آل پر جو محبوب ایسے سمندر ہیں جن کا کنارہ نہیں اور ایسے وسیع میدان ہیں جن پر احسان کامل غالب ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الْيَعْسُوبِ لَدَيْ كُلِّ مَحْبُوبٍ وَالْمَطْلُوبِ عِنْدَ كُلِّ مَهْرُوبٍ

جو رئیس و سردار ہیں نزدیک ہر محبوب کے اور مطلوب ہیں نزدیک ہر پریشان حال کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الذخيرة الوافرة والخزانة الكاملة اللهم صل وسلم على

جو وافر ذخیرہ اور کامل خزانہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَشَاهِدِ فِي كُلِّ حِينٍ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو اللہ کا مشاہدہ کرنے والے ہر وقت

وَالْمَشَاهِدِ فِي أَعْلَىٰ مَقَامَاتِ الْيَقِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور مشاہدہ کرنے والے ہیں یقین کے اعلیٰ مقامات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الظَّاهِرِ بِالْجَلَالِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو ظاہر ہیں بزرگیوں کی وجہ سے

وَالْبَاطِنِ بِالْجَمَالَاتِ وَالْحَائِزِ بِالْكَمَالَاتِ وَالْمَادِحِ لَهُ فِي

اور مخفی ہیں محاسن اور خوبیوں کی وجہ سے اور جامع ہیں کمالات کے اور ان کی مدح میں واروہے

كِتَابِكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

تیری کتاب میں "کیا ہم نے وسیع نہیں کیا آپ کے لیے آپ کا سینہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَانَ لَا يَغْضِبُ إِلَّا لَكَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو نہیں ناراض ہوتے تھے مگر تیرے لیے

وَلَا يَرَىٰ لِنَفْسِهِ حَقًّا إِلَّا إِذَا كَانَ مِنْوُطًا بِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور نہیں سمجھتے تھے اپنے لیے کوئی حق مگر جب متعلق ہوتا ساتھ تیرے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْجَامِعِينَ الشَّرِيعَةَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو جامع ہیں شریعت

وَالْحَقِيقَةَ وَالْمَدْحُوحَ عِنْدَ اللَّهِ وَالْخَلِيفَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور حقیقت کے اور مدوح ہیں نزدیک اللہ تعالیٰ اور مخلوقات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَصَارَ لَا يَرَىٰ إِلَّا بِكَ وَلَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو نہیں دیکھتے تھے مگر ساتھ تیری توفیق کے اور نہیں

يَفِكِّرُ إِلَّا فِي حَضْرَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

فکر کرتے تھے مگر تیری ذات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَخْصُوصِ بِالْكَمَالَاتِ وَالْمُؤَيَّدِ بِالْعَنَايَاتِ

آپ کی آل پر جو مخصوص ٹھہرائے گئے ہیں ساتھ کمالات کے اور تائید یافتہ ہیں ساتھ عنایات کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الْمُنْتَصِرِ فِي جَمِيعِ الْحَضْرَاتِ وَالنَّاصِرِ لَكَ بِقُرْآنِكَ وَالْمُبَشِّرِ لَكَ

جو منصور ہیں تمام بارگاہوں میں اور ان کا ناصر ہے قرآن تیرا اور بشیر ہے ان کے لیے

بِقَوْلِكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

یہ قول تیرا اور ہم نے بند کیا ہے آپ کے لیے ذکر آپ کا اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَلَا تُذْكَرُ إِلَّا وَدُنَا كَرُمَعَكَ بَلْ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ نہیں ذکر کیا جاتا تیرا مگر ان کا ذکر کیا جاتا ہے ساتھ تیرے بلکہ

قَرَنْتَ إِسْمَهُ بِإِسْمِكَ فَصَارَ لَا يَسْمَعُ وَلَا يَبْطِشُ إِلَّا بِكَ اللَّهُمَّ

ملا دیا ہے تو نے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ پس وہ نہیں سنتے اور نہ پھرتے ہیں مگر ساتھ تیرے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَلِيلِكَ مِنْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو تیرے خلیل ہیں ہر

قَبْلِ الْخَلِيلِ وَلَهُ الْمَكَالِمَةُ مِنْ قَبْلِ مُوسَى الْجَدِيلِ اللَّهُمَّ صَلِّ

خلیل سے پہلے اور وہ تیرے کلیم ہیں موسیٰ جلیل سے پہلے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِ لِجَمِيعِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو واسطہ و وسیلہ ہیں واسطے تمام

السَّيِّدِ ذِي الشَّانِ الرَّفِيعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مخلوق کے اور بلند تر شان والے آقا ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّرَقِّينَا إِلَىٰ ذُرْوَةِ الْكَمَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو ہمیں چڑھانے والے ہیں کمال کی بلند چوٹی پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَدِينَةِ الْعِلْمِ وَمِنْ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو مدینۃ العلم ہیں اور جنہیں کلمات

أَعْطَىٰ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَمَنْ لَهُ نِهَآيَةُ الْحِكْمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

جامعہ عطا کئے گئے اور جو مالک ہیں انتہائی حکمتوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ الْعَرْشِ وَسِرِّ الْعَرْشِ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو نور عرش بھی ہیں اور سر عرش بھی اور

سُلْطَانِ سَلَاطِينِ الْإِنْسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

انسانوں کے شہنشاہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّتَاجِعِكَ فِي مُنَاجِيَةِ الْقُدُسِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور آپ کی آل پر جو تیرے ساتھ سرگوشی کرنے والے ہیں مقدس مقامات ہمکلامی میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْخُصُوصِ بِشَاهِدِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو مخصوص ہیں ساتھ مشاہد قرآن کے

الْقُرْآنِ وَقَلْبِ يُسَيْنِ وَالرَّحْمَنِ وَفُرْقَانَ كُلِّ فُرْقَانٍ اللَّهُمَّ

اور دل ہیں سورۃ یسین اور سورۃ رحمن کا اور مجسم فرقان ہیں ہر امتیاز و فرقان کا اور میان حق و باطل کے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رُوحِ دَوَائِرِ الْعَرْشِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو روح رواں ہیں عز و جاہ کے دائروں

وَمَحَلِّ حَلَاكٍ وَمَحَلِّ الرَّمْزِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے لیے محل ہیں تیری زبانتوں کا اور محل رمز ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَظْهَرِ الرَّحْمَةِ وَالْبَسِطِ وَبَاطِنِ الْبَطْنِ

اور آپ کی آل پر جو رحمت اور کشادگی کا منظر ہیں اور سخت گرفت اور قبض کا

وَالْعِظْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

باطن ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الظَّاهِرِ فِي الْجَبَرُوتِ بِالْقُوَّةِ وَفِي الْمَلَكُوتِ بِنَهَايَةِ الْجَلْوَةِ اللَّهُمَّ

جو محبوب ظاہر ہیں جبروت میں ساتھ قوت کے اور ملکوت میں ساتھ اعلیٰ جلوہ کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الظَّاهِرِ فِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو ظاہر ہیں

الْمَلِكِ بِنَهَايَةِ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

ملک میں ساتھ اعلیٰ درجہ رحمت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَاهِيكَ بِظَهْرِكَ الرَّحْمَةَ وَكَفَانَا بِهِ

آپ کی آل پر جو محبوب کافی ہیں تیرے لیے رحمت کا مظہر ہونے کے اور کافی ہیں ہمارے لیے ایسی

رَحْمَةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

رحمت ہونے کے اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر مجسم رحمت واسطے تمام جانوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تَدْفَعُ بِهَا عَن

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر ایسی صلوٰۃ جس کے ذریعے دور کرے

قَلْبِي مَرَضَ التَّوَجُّهِ إِلَى غَيْرِكَ وَعَنْ جَسَدِي الْعَمَلِ مَا يُخَالِفُ

میرے دل سے مرض غیر کی طرف توجہ کا اور میرے جسم سے ہر وہ عمل جو مخالف ہو تیرے

شَرِيعَةِ حَبِيبِكَ وَسَلَامًا بِهِ تَجْعَلُنِي غَنِيًّا عَمَّنْ سِوَاكَ ثَابِتًا

حبیب کی شریعت کا اور ایسا سلام کرے تو بسبب اس کے غنی ماسوا سے ثابت قدم

عَلَى طَرِيقَةِ الصُّوْفِيَّةِ الْمُحَقِّقِينَ الْكَامِلِينَ الَّذِينَ هُمْ وَرَثَةُ

ان صوفیاء کے طریقہ پر جو محققین کاملین ہیں وارث ہیں تیرے حبیب

حَبِيبِكَ الْمُرْتَضَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

مرتضیٰ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَعْلَمُنِي بِهَا طَرِيقَ السُّلُوكِ اِلَى

آپ کی آل پر ایسی صلوات کہ سکھائے اس کی بدولت راہ سلوک کا طرف

حَضْرَتِكَ وَ اِلَى مَا اَوْصَلْتَ اِلَيْهِ اَوْلِيَاءَكَ اِمِيْن يَا مُجِيبَ

اپنی بارگاہ کے اور طرف اس مقام کے جس تک واصل کیا اپنے اولیاء کرام کو آمین۔ اے قبول کرنے والے

السَّائِلِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

مطلبے سوالیوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَقْضِيْ بِهَا حَاجَتِيْ مِنْ حَيْثُ اُنِيْ مِنْ كَلَابِ يَابِهٍ وَسَلَامًا

پر ایسی صلوات کہ پوری کرے بسبب اس کے حاجت میری کیونکہ میں ان کے سگان در سے ہوں اور ایسا سلام

تُسَلِّمُنِيْ بِهٖ مِنْ اَفَةٍ تَاخِيْرُ اِجَابَةِ دُعَائِيْ لِاِنِّيْ مِنْ الْفُقَرَاءِ السَّائِلِيْنَ

کہ سلامت رکھے مجھے بطفیل اس کے دعا کی قبولیت میں تاخیر والی آفت سے کیونکہ میں ان کی بارگاہ کے

فِيْ جَنَابِهٖ وَمُبَارَكَةٌ تَجْعَلُ بِهَا بَرَكَةً فِيْ قَوْلِيْ وَفِيْ فِعْلِيْ وَعُمْرِيْ

فقروں اور سوالیوں سے ہوں۔ اور ایسی برکت کہ کرے بطفیل اس کے برکت میرے قول و فعل اور عمر میں تاکہ

لَا كُوْنُ مِنْ اَذَلَّةِ عِيْدِلَهٗ وَاِلٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

ہو جاؤں ان کے اور ان کے آل و اصحاب کے کینہ غلاموں سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ فِيْهَا شِفَاءٌ اِلَافٍ كِمِثْلِيْ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر ایسی صلوات کہ اس میں سراسر شفا ہو جیسے ہزاروں بیماروں کی

وَسَلَامًا مِنْهُ سَلَامَةٌ اِلَافٍ كِمِثْلِيْ مِنْ جَمِيْعِ الْبُكْرُوْهَاتِ وَبِرَكَّةٍ

اور ایسا سلام کہ اس کی بدولت سلامتی ہو مجھے جیسے ہزاروں کی تمام ناپسندیدہ عوارض سے اور ایسی برکت

بِهَا بَرَكَةٌ اَلْعَمَالِ اِلَافٍ كِمِثْلِيْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

جس کی بدولت با برکت ہو جائیں مجھ جیسے ہزاروں کے اعمال۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَشْفِيْ بِهَا اَجْسَامَنَا وَاَرْوَاحَنَا

محمد پر اور آپ کی آل پر ایسی صلوات کہ شفا یاب ہوں اس سے ہمارے اجسام و ارواح

وَسَلَامًا تَسْلِمُ بِهَا دِينَنَا وَإِيمَانَنَا عَنِ الزُّوَالِ وَبَرَكَهَةً تَزِيدُ بِهَا

اور ایسا سلام کہ محفوظ رکھے اس کی بدولت ہمارے دین و ایمان کو زوال سے اور ایسی برکت کہ بڑھ جائے تو

أَثَارَ أَعْمَالِنَا الصَّالِحَةِ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْوَاهْدِي وَشَفَاءٌ

بسبب اس کے ہمارے اعمال صالحہ کے آثار و نتائج " فرمادیجئے وہ ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور شفا ہے"

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَاةً تَغْفِرُ بِهَا جَمِيعَ أُمَّتِهِ وَتُوصِلُ بِهَا كُلَّ مَنْ تَوَسَّلَ بِهَا

ایسی صلوٰۃ کہ بخشے بظیفیل اس کے تمام امت کو اور واصل فرمائے بظیفیل اس کے آپکے ہر متوسل کو

إِلَى حُسْنِ عَاقِبَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حسن عاقبت تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَنْهَانِي بِهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ

اور آپ کی آل پر ایسی صلوٰۃ کہ روکے بظیفیل اس کے مجھے

وَالْمُنْكَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

بے حیائی اور برائی سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

إِلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُجِينِي بِهَا مِنْ كُلِّ شِدَّةٍ وَ

کی آل اطہار پر ایسی صلوٰۃ کہ بسبب اس کے نجات دے مجھے ہر شدت و بلیت

بَلِيَّةٍ وَهَوْلٍ وَخَطَرٍ صَلَاةً تَدْفَعُ بِهَا عَنِّي شَرَّ مَنْ تَكْبَرُ وَ

اور دہشت و خطرات سے ایسی صلوٰۃ کہ دور کرے بظیفیل اس کے شر پر منکبر اور

تَحْبِرُ صَلَاةً تَشْرَحُ بِهَا صَدْرِي وَتَيْسِّرُ بِهَا أَمْرِي وَتَرْفَعُ بِهَا

جابر کا۔ ایسی صلوٰۃ کہ کشادہ فرمائے بظیفیل اس کے میرا سینہ اور آسان فرمائے میرا ہر معاملہ اور بلند کرے بسبب

ذِكْرِي وَسَيِّئَاتِي بِهَا تَغْفِرُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُكَ بِمَا شَهِدْتَهُ

اس کے میرا ذکر اور بخشے بظیفیل اس کے میرے گناہ۔ اے اللہ میں گواہ بنانا ہوں تجھے ساتھ اس امر کے جس کی شہادت

بِهِ عَلَى نَفْسِكَ وَشَهِدْتَ بِهِ مَلَائِكَتَكَ وَأَنْبِيَاءَكَ وَأُولِي الْعِلْمِ

دی تو نے اپنی ذات پر اور تیرے ملائکہ - انبیاء اور ارباب علم نے شہادت دی اور

وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ بِهَا شَهِدْتُ بِهِ فَكُتِبَ شَهَادَتِي مَكَانَ شَهَادَتِهِ

جس نے گواہی نہ دی اس امر کی جس کی میں نے گواہی دی ہے تو لکھ دے میری شہادت کو اس کی شہادت کی جگہ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

حَبِيبِكَ الْاَحَدِ وَمَحْبُوبِكَ الْفَرْدِ الَّذِي رَقِيتَهُ اِلَى قَابِ

جو تیرے محبوب یگانہ اور محبوب منفرد ہیں جن کو تو نے بلند فرمایا قاب تو سین

قَوْسَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

محمد - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي خَصَّصْتَهُ بِشَهْوَدِكَ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِمَّنْ مِّنْ

پر جس محبوب کو مختص ٹھہرایا ساتھ اپنے مشاہدہ کے اور دوسرا کوئی شخص ان کی مانند تیرے مشاہدہ

الشَّهْوَدِ مِثْلَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

پر قادر نہیں ہے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ يُعَانُ عَلَى قَلْبِهِ بِالنُّورِ فَيَسْتَغْفِرُ الْعَزِيزُ

آل اطہار پر جس کے دل نور پر نور کے پردے چڑھائے جاتے ہیں پس استغفار کرتے ہیں عزیز غفور

الْغَفُورُ مِّنْ خَوْفِ الظُّهُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

سے بسبب خوف کشف و ظہور کے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ عِبَادِ الْحَقِّ حَتَّى تَقْتَرَتْ قَدَمَاهُ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے حق تعالیٰ کی عبادت کی یہاں تک کہ ان کے قدم پھٹ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کئے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

السِّرِّ الْبَطْلِسِمِ وَالْكَذْرِ الْبِیْهِمِ وَالرَّمْزِ الَّذِي لَا يُفْهَمُ اللَّهُمَّ

جو راز سربستہ ہیں اور مخفی خزانہ اور ناقابل فہم و ادراک رمز - لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السِّرِّ مِنْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو راز مخفی ہیں

قَبْلِ اِبْرَاهِيْمَ وَاٰدَمَ وَالْمُنْتَقِي مِنْ قَبْلِ مَا تَاَخَّرُوْا تَقَدَّمَ اللَّهُمَّ

حضرت ابراہیم اور حضرت آدم سے پہلے کے اور چنے ہوئے ہیں ہر پہچلے اور پہلے سے قبل - لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَيْضِ الرَّبَّانِيِّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو سراپا فیض ربانی ہیں

وَالْمِهْدِ الصَّمْدَانِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اور خداوند تعالیٰ کی طرف سے مددگار - لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْاِحْسَانِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ اٰخِرٌ وَاِلْمِثْلَانِ

آل اطہار پر جو ایسا بحکم احسان ہیں کہ جس کی انتہاء نہیں اور ایسی منت کہ جس

الَّذِي لَيْسَ لَهُ نِهَآيَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کی حد و نہایت نہیں ہے - لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ ظَاهِرٌ لَّا حَتُّ لَهُ الْبَوَارِقُ مِنْ حَضْرَتِ

اور آپ کی آل پر جو ایسے ظاہر ہیں کہ ظاہر ہوئیں ان کے لیے تجلیات بارگاہ جمع

الْجَامِعِ الْفَارِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

و فرق سے - لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّحِبِّكَ وَ مَحْبُوْبِكَ وَ خَلِيْلِكَ وَ مَقْصُوْدِكَ اللَّهُمَّ

کی آل پر جو تیرے محب و محبوب اور خلیل و مقصود ہیں - لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشْرِ لَهُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کو بشارت دی

بِالْحِفْظِ مِنَ الْاَدْنَابِ بِقَوْلِكَ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اَللّٰهُمَّ

گئی ہے میں وپہیں سے حفاظت کی ساتھ تیرے اس قول کے اور اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا لوگوں سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَحْبُوْبِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو تیرے محبوب ہیں

مِنْ قَبْلِ خَلْقِ الْعٰلَمِيْنَ ۗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تمام جہانوں کی تخلیق سے بھی پہلے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْغُوْثِ الَّذِىْ يُفِيْضُ الْمَدَدَ وَالْفُرْدِ

اور آپ کی آل پر جو محبوب فرماؤرس ہیں فیضان دیتے ہیں نصرت و امداد کا۔ اور لگانہ و

الَّذِىْ لَا يُسَاوِيْهِ اَحَدٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

یکتا ہیں کہ کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْهَيْكَلِ النَّوْرِ اِنِّىْ وَالْوٰحِدِ الْفٰنِىْ فِىْ مَحَبَّةِ

اور آپ کی آل پر جو نورانی مجسمہ ہیں اور واحد و یکتا ہیں جو اللہ معنی کی محبت

الْغِنٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

میں فانی ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ مَنْ بِهٖ غَايَةُ الْجَمَالِ وَنِهَايَةُ الْكَمَالِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

پر کہ جن کی ذات سے ہی جمال کی تکمیل ہے اور کمال کی انتہا ہے۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِمْ اِسْمِهِ اَمْتَدَّتْ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے نام نامی کی میم پھیلی ہے

سَائِرَ الْعٰوَالِمِ الْخَلْقِيَّةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

تمام مخلوقات عوالم پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَاوِ اِسْمِهِ رَحْمَتُهُ الَّتِىْ رَحِمَ بِهَا الْمَلٰٓئِكُ

آپ کی آل پر کہ جن کے اسم گرامی کی عا ایسی رحمت ہے کہ قابل رحمت ہوئے بسبب اس کے دونوں جہان

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ مِنْ أُمَّةٍ مِيَاةٍ الْعَوَالِمِ الْحَسِيَّةِ

پر کہ جن کے نام مقدس کی دوسری میم جاری چشمہ بنی محسوس اور معنوی جہانوں کے

وَالْمَعْنَوِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

بانیوں کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ دَالِ ذَلِكَ الْإِسْمِ دَامَتْ نِظَامَاتِ الْمَمَالِكِ الْمَلِكِيَّةِ

پر جن کے مقدس نام کی دال سے دوام پذیر ہوئے انتظامات ملک و ممالک کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

قَبْلَةَ تَجَلِّيكَ الرَّبَّانِيَّةِ وَمَحَلِّ نَظْرِكَ مِنَ الْوُجُودِ عَالِي الشَّانِ

جو تیری ربانی تجلی کا قبلہ ہیں اور موجودات پر تیری نظر کا عالی شان محل ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

كِتَابِ أَسْرَارِكَ الْمَنْطُورِيَّةِ الْحَقِيَّةِ الْعِلْمِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو مجسم کتاب ہیں تیرے پوشیدہ اسرار حقانیہ علیہ کی اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُظَهَّرِ الرَّحْمَةِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو تیری بارگاہِ رحمانیت کے

مِنْ حَضْرَتِهِ وَمَجْلَى اسْمِكَ الرَّحْمَنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مظہر رحمت ہیں اور اسمِ رحمن کی جلوہ گاہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ الْمُفْجَهَةَ الْعِظَمَاءِ الْتَوْرَانِيَّةِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب ایسے لعل نورانیہ ہیں جو انتہائی عزت و عظمت والا ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الشَّفِيعِ الرَّحِيمِ الْبَخِيرِ عَنْ رَبِّهِ الْكَرِيمِ إِنَّ رَبَّهُ فِي كُلِّ نَفْسٍ

جو شفیع و رحیم ہیں خبر دینے والے ہیں اپنے رب کریم کی طرف سے کہ "بیشک اللہ تعالیٰ کے لیے

مِائَةٌ أَلْفٌ قَرِيبٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْمَلُ

ہر لحظہ لاکھ کشتی ہے جو قریب الحصول ہے۔ اے اللہ بیشک میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں اپنے عمل کے شر

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلُ وَأَعُوذُ بِكَ بِكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ كُلِّهَا

سے اور پناہ حاصل کرتا ہوں جو عمل نہیں کیا اس کے شر سے۔ اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں بظیفیل تیرے تمام کلمات

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بِسْمِ اللَّهِ خَيْرُ الْأَسْمَاءِ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ

تمام کے تمام مخلوق کے شر سے۔ بظیفیل نام اللہ کے جو سب اسماء سے بہتر ہے۔ ساتھ نام اللہ کے جو رب الارض ہے اور رب سماء

السَّمَاءِ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي

ساتھ نام اللہ کے کہ نہیں ضروریتی اس نام کے ساتھ کوئی شئی زمین کی اور نہ آسمان

السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي تَضَعُ لَهُ الرِّقَابُ

کی اور وہی سمیع و علیم ہے۔ بظیفیل نام اللہ کے کہ تواضع کی اس کے لیے تمام گردنوں نے

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي خَافَتْ مِنْهُ الْقُلُوبُ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي وَجَلَتْ مِنْهُ

بظیفیل نام اللہ کے کہ خوفزدہ ہو گئے اس سے تمام دل۔ ساتھ نام اللہ کے کہ دہشت زدہ ہو گئے اس

النُّفُوسُ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي نَفَسَ عَنْ دَاوُدَ كَرَبَّتَهُ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي

سے نفوس۔ ساتھ نام اللہ کے جس نے دور کیا داؤد علیہ السلام سے عم و اندوہ کو ساتھ نام اللہ کے

قَالَ لِلنَّارِ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي مَلَأَ

جس نے فرمایا آگ کو "ہو جا ٹھنڈی اور سراسر سلامتی ابراہیم علیہ السلام پر۔ ساتھ نام اللہ کے جس نے بھریا

الْأَرْكَانَ كُلَّهَا وَيَعِزُّهُ اللَّهُ الَّتِي لَا تُحْصَى وَبِقُدْرَةِ اللَّهِ السُّطُورِ

تمام ارکان و اجزاء عالم کو اور بظیفیل اللہ کی عزت کے جو قابل احاطہ نہیں اور بظیفیل اس کی قدرت کے جو محیط ہے

عَلَىٰ جَمِيعِ خَلْقِهِ مِنْ شَرِّ جَمِيعِ مَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَ مِنْ شَرِّ سُلْطَانِهِمْ

تمام مخلوق پر رہنما طلب کرتا ہوا اس دنیا کی تمام اشیاء کے شر سے اور ان کے تسلط کے شر سے

وَسَطْوَاتِهِمْ وَ حَوْلِهِمْ وَ قُوَّتِهِمْ وَ غَدْرِهِمْ وَ مَكْرِهِمْ اللَّهُمَّ

اور غلبہ و قہر اور طاقت و قوت اور غدور و مکر کے شر سے۔ اے اللہ

ارْحَمِيْ وَا جْعَلِيْ مَشْفِيًّا مُرْضِيًّا مُعَافَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

مجھ پر رحم فرما اور مجھے شفا یاب، پسندیدہ اور صاحب عافیت بنا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي انْعَقَدَتْ لَهُ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے لیے عقد و عہد باندھا گیا سر بلندی اور

الْعِزَّةُ فِي الْأَنْزَالِ وَأَنْسَحَبَ فَضْلُهَا إِلَى مَا لَمْ يَزَلْ اللَّهُمَّ

عزت کا ازل میں اور پھیل گیا فضل ان کا طرف موجودات کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَرِيْنِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو زینت ہیں

الْمَلَايِحِ وَ بَحْرِ السَّمَاوَاتِ وَالَّذِي لِسَائِرِ الْمُحِبِّينَ عَنْ ظِلِّهِ بَرَايِحٌ

کشش حسن کی اور بحر سخاوت ہیں اور جن کے سایہ عاطفت سب محبتوں کے لیے کشادگی ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي تَطِيرُ إِلَيْهِ الْعُشَّاقُ مِنْ غَيْرِ جَنَاحٍ وَالْبَسْبَبِيُّ دِرْعُهُ ذَاتُ

جن کی طرف اڑ کر جاتے ہیں عشاق بغیر پروں کے اور جن کی ذرہ موسوم ہے ساتھ ذات الوشاح

الْوَشَّاحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ تَاجِ السُّلْطَنَةِ الْعُظْمَىٰ وَ الْكَلِيْلِ الْهَامِّ الْأَسْبَىٰ اللَّهُمَّ

پر جو سلطنت عظمیٰ کے تاج ہیں اور بلند مرتبہ مرصع پٹی ہیں تاج سر کی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَزَّ وَجَلَّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو تیری بارگاہ عالیہ

حَضْرَتِكَ الْعَلِيَّاءُ وَيَعْسُوبُ نَظْرَتِكَ الْقُصْبِيَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کے دولہا ہیں اور تیری بلند ترین نظر میں رئیس و سردار ہیں۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَامِعِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ جامع ہیں

الْجَمَالِ وَالْجَمِيلِ وَمَجْمَعِ الْكَمَالِ وَالْجَلِيلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جمال کے اور جمیل ہیں اور مجمع کمال ہیں اور جلیل ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الظَّاهِرِ بِكَ فِي كُلِّ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو ظاہر ہیں بطنیں تیرے تمام

الظَّوَاهِرِ وَالْبَوَاطِنِ فِي غِيَابَاتِ عِزِّكَ الْفَاخِرِ اللَّهُمَّ صَلِّ

ظواہر و بواطن میں تیری قابل فخر عز و جاہ کی گہرائیوں میں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُبْتَدِ الْأَجْدِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو بہت بزرگ بزرگی بخشنے والے

وَالْكُنْزِ الْمَطْلُوسِ وَالرَّمْزِ الْمَكْلُومِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ہیں۔ اور طلسمی خزانہ ہیں اور سمیٹی ہوئی رمز ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْغَيْثِ الْمَغْفُومِ وَالْقَوِيَّةِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو موسلا دھار باران رحمت ہیں اور عظیم ترین فریادرس

الْأَعْظَمِ وَالْقَلْبِ الْأَفْحَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہیں اور عظیم المرتبت دل۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُقْطَةِ دَوَائِرِ الْكَمَالِ وَهَالَةِ مَرَائِزِ الْجَلَالِ

آپ کی آل پر جو کمالات کے دائروں کے مرکزی نقطہ اور جلال و جمال کے مراکز کا ہالہ و دائرہ

وَالْجَبَّالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ مُفْرَدًا كَالْأَوْحَادِ وَمَقْصِدًا كَالْأَحْمَدِ وَمَلْحَظًا كَالْأَمَجِدِ

پر۔ جو تیرے مفرد و یگانہ اور انتہائی قابل ستائش مقصود اور بہت بزرگ منظور نظر ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

لَا يَسِ الْخَلَعَاتِ الْإِخْتِصَاصِيَّةِ مِنْ حَضْرَتِكَ الصُّبْدِيَّةِ

جو زیب تن کرنے والے ہیں اختصاصات کی خلعتوں کو بارگاہِ صمدیت سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُهَيِّدًا الْجُودِ إِلَى سَائِرِ الْوُجُودِ وَخَالِعًا الْخَلْعَ الْمِصْطَفَوِيَّةَ اللَّهُمَّ

جو جو دو سخا کا فیض پہنچانے والے ہیں تمام موجودات تک۔ اور مصطفوی خلعتیں پہنچانے والے ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَيَّضُ الْكُونِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ موجودات کے حوض

بِهِ فَائِضَةٌ وَبِرِيَاضِ الْجُودِ بِجَمَالِهِ رَأَيْتُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

انہیں کی بدولت جاری ہیں اور جو دو سخا کے سبزہ زاران کے جمال کی بدولت سرسبز و شاداب ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَرْدِ الْجَامِعِ وَالْغَيْثِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو یگانہ جامع الکمالات اور زوردار برسنے

الْهَامِيعِ وَالنُّورِ السَّاطِعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

والی بارانِ رحمت اور نور غالب ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

شَمْسِ الْحَقِّ وَالْحَقِيقَةِ وَمِصْبَاحِ الشَّرِيعَةِ وَالطَّرِيقَةِ اللَّهُمَّ

جو حق و حقیقت کے آفتاب ہیں اور شریعت و طریقت کے روشن چراغ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَجْلَى الدُّعَاءِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو تجلی گاہ ذات و صفات

وَالصِّفَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

خداوند تعالیٰ ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ مَجْمَعِ الْأَسْمَاءِ وَالْمُسَمَّيَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آل پر جو اسماء اور مسمایات کے محل اجتماع ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْحَقِّ الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ حَقٌّ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو کہ سراسر حق ہیں ان سے بلند و بالا کوئی حق

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

النُّورِ النَّوْرِ فِي الْبُطُونِ وَالظُّهُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جو نور ہی نور ہیں بطون و ظہور میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الرَّكِيَّ الْخَلْقِ وَالنَّفْسِ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو تیرے پاکیزہ خلق اور پاکیزہ ذات والے حبیب ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَفِيكَ الطَّيِّبِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو تیرے پاکیزہ خیر اور

الْمُنْتَبِئِ وَالغُرِّسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

پاکیزہ اصل والے منتجب ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لَمَّا دَخَلَ جَنَّةَ خَطِيرَةِ الْقُدْسِ وَرَحِبَتُ وَسَهَلَتْ

کی آل اطہار پر کہ جب داخل ہوئے مقدس محفوظ مقام والی جنت میں تو اس نے مرحبا اور اہلا و سہلا

وَقَالَتْ هَذَا أَوْ اللَّهُ رُوحَ الْقُدْسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کہا اور کہا بخدا یہ مقدس روح ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرِّكَ الْمَكْنُونِ وَعَيْبِكَ الْمَخْزُونِ

محمد پر اور آپ کی آل الطہار پر جو تیرا راز سنان اور مخزون و مخفی عیب

وَتُورِكَ الْمَصُونِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اور محفوظ نور ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَسْطَةِ عَقْدِ الْمَوْجُودَاتِ وَمُظْهِرِ دَقَائِقِ الْأَسْمَاءِ

کی آل پر جو درمیانی نمایاں جوہر ہیں موجودات کے ہار کا اور مظہر ہیں اسماء و صفات باری تعالیٰ

وَالصِّفَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

کی باریکیوں کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ مَنْ أَتَيْتَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ قَبْلَ جَمِيعِ الْكَائِنَاتِ يَا مَنَّانُ

پر جن پر تو نے صلوٰۃ بھیجی تمام کائنات سے پہلے۔ اے احسان فرمانے والے

أَنْتَ الَّذِي لَا يَبْرَأُ أَحَدٌ مِّنَ الْبِرِّ يَا مَنْ مِّنْهُ وَإِحْسَانُهُ يَا مَنَّانُ

تو ہی ہے کہ نہیں باہر نکل سکتا مخلوقات کا کوئی فرد اس کے فضل و احسان سے اے محسن

يَا حَلِيمٌ أَنْتَ الَّذِي تَعْفُو مَنِ الْعِبَادِ ذُنُوبَهُمْ بِحَلِيمَةٍ يَا حَلِيمٌ

اے حلیم تو ہی مٹاتا ہے بندوں سے ان کے گناہ اپنے علم سے اے حلیم

يَا شَكُورٌ أَنْتَ الَّذِي تَكْثُرُ النِّعْمَةُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ شَكَرُوا بِهَا

اے شکور تو ہی ہے جو زیادہ کرتا ہے نعمتیں اپنے بندوں پر جو ان کا شکر یہ ادا

لِحَضْرَتِهِ يَا شَكُورٌ يَا تَوَّابٌ أَنْتَ الَّذِي تَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ

کریں تیری بارگاہ میں اے شکور۔ اے تواب تو ہی قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی توبہ

وَتَعْفُو عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ يَا حَقُّ أَنْتَ الَّذِي تُثَبِّتُ الْحَقَّ

اور مٹاتا ہے ان سے ان کے گناہ اے تواب۔ اے حق تعالیٰ تو ہی حق کو ثابت فرماتا ہے

وَتُبْطِلُ الْبَاطِلَ بَيْنَ الْخَلَائِقِ بِحَقِّهِ يَا حَقُّ يَا مُعِيدُ أَنْتَ الَّذِي

اور مٹاتا ہے باطل کو مخلوقات کے درمیان سے اپنے حق کے ساتھ اے حق تعالیٰ۔ اے معید تو ہی

تُحْشِرُ الْخَلَائِقَ يَوْمَ الْحَشْرِ وَالْفَصْلِ لِلْعَدْلِ بِقَضَائِهِ يَا مُعِيدُ

جمع فرمائے گا مخلوقات کو حشر اور فیصلہ کے دن واسطے عادلانہ قضاء کے معید (دوبارہ اٹھانے والے)

يَا سُبْحَانَ أَنْتَ الَّذِي ظَاهِرٌ وَبَرَاءٌ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُ مِنْ

اے سبحان تو ہی ہے ظاہر اور مبرا ہے اس سے جو ظالم کہتے ہیں اپنی

جَهَالَتِهِ وَجِمَاقَتِهِ يَا سُبْحَانَ اللَّهِ إِنْ أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ

جہالت اور حماقت سے اے سبحان۔ اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں بطفیل

هَذِهِ الْأَسْمَاءِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَرْزُقَنِي

حرمت ان اسماء کے کہ تو صلوٰۃ بھیجے محمد کریم پر اور آپ کی آل پر اور مجھے نصیب فرمائے

إِيمَانًا وَأَمَانًا مِنْ عُقُوبَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَنْ تُحْبِسَ عَلَيَّ أَبْصَارَ

ایمان اور امان دنیا و آخرت کی عقوبت سے اور پردے ڈالے ظلم پیشہ ظالموں کی

ظَلْمَةِ الظَّالِمِينَ الْمُرِيدِينَ بِالسُّوءِ وَأَنْ تُصْرِفَ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَرِّهَا

نگاہوں پر جو میرے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتے ہیں اور پھیر دے ان کے دلوں کو اس شر سے

يُضْمِرُونَ إِلَى خَيْرٍ مَا لَا يَبْلُغُكَ غَيْرُكَ اللَّهُمَّ هَذِهِ الدُّعَاءُ مِنِّي

جو دلوں میں چھپاتے ہیں طرف اس خیر کے جس کا مالک نہیں ہو سکتا سوائے تیرے کوئی بھی۔ اے اللہ یہ دعا ہے

وَمِنْكَ الْإِجَابَةُ وَهَذَا الْجُهْدُ مِنِّي وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ وَالْأَحْوَالُ

میری طرف سے اور صرف تیری طرف سے ہی ہے قبولیت اس کی اور یہ کوشش ہے میری اور تجھی پر بھروسہ ہے اور

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَشَفِيعِ

نہیں طاقت اور نہ قوت مگر ساتھ اللہ علیٰ عظیم کے اور صلوٰۃ نازل فرمائے اللہ تعالیٰ نبی رحمت اور شفیع

الْأُمَّةِ وَكَاشِفِ الْغَمِّ وَخَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

امت اور غم و اندوہ دور کرنے والے پر اور اپنی تمام مخلوق کے سرور پر اور ان کے تمام آل و اصحاب

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ أَيْدِي نِي بِتَوْفِيقِكَ وَتَسْدِيدِكَ

پر ساتھ اپنی رحمت کے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ تقویت عطا کر مجھے اپنی توفیق اور تائید سے

وَأَعِنِّي عَلَىٰ صَالِحِ النَّيِّةِ وَمَرْضِي الْقَوْلِ وَمُسْتَحْسِنِ الْعَمَلِ وَلَا

اور میری امداد فرما نیک نیتی پر اور پسندیدہ قول اور مستحسن عمل پر اور نہ

تَكْلِبْنِي إِلَىٰ حَوْلِي وَقُوَّتِي دُونَ حَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ

سوچ مجھے طرف میری قوت و طاقت کے بغیر اپنی قوت و طاقت کے اور مجھے رسوا نہ فرمانا جس دن

تُبْعَثُنِي لِلِقَائِكَ وَلَا تَفْضَحْنِي بَيْنَ يَدَيِ أَوْلِيَاءِكَ وَلَا تَنْسِنِي

مجھے اٹھائے اپنی ملاقات کے لیے اور نہ رسوا فرمانا مجھے اپنے اولیاء کے درمیان اور نہ بھولے مجھے تیرا

ذِكْرَكَ وَلَا تُذْهِبْ عَنِّي شُكْرَكَ بَلْ أَلْزِمْنِيهِ فِي أَحْوَالِ السُّهُورِ عِنْدَ

ذکر اور نہ دور کرے مجھ سے اپنا شکر، بلکہ مجھ پر لازم فرما اسے سو کے حالات میں وقت

عَفَلَاتِ الْجَاهِلِينَ إِلَّا بِكَ وَأَوْزِعْنِي أَنْ أَتُنِي بِمَا أَوْلَيْتَنِيهِ

غافل ہونے اہل جہالت کے تیری نعمتوں سے اور مجھے توفیق دے کہ بیان کروں تیرے انعامات کو

اللَّهُمَّ اجْعَلْ تِجَارَتِي رَاحَةً وَكَرَّتِي غَيْرَ خَاسِرَةٍ وَأَخْفِنِي

اے اللہ بنا میری تجارت کو نفع مند اور میرے رجوع کو خسارے سے محفوظ۔ اور خوف عطا کر اپنے حضور میں

مَقَامَكَ وَشَوْقِي لِقَائِكَ وَتُبْ عَلَيَّ تَوْبَةً نَّصُوحًا لَا تَبْقَ مَعَهَا

قیام کا اور شوق عطا فرما اپنی ملاقات کا اور مجھے خالص توبہ کی توفیق بخشی کہ نہ باقی چھوڑے اس کے ساتھ

ذُنُوبًا صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا تَدْرِمَهَا عَلَانِيَةً وَلَا سِرِيرَةً وَأَنْزِعْ

گناہ چھوٹے نہ بڑے اور باقی نہ رہنے دے علانیہ گناہ اور نہ نقیہ اور کھینچ لے کینہ و بغض مومنین کا میرے

الْعِلْسَ مِنْ صَدْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ وَأَعْطِفْ بِقَلْبِي عَلَى الْخَاشِعِينَ وَ

دل سے اور میرے دل کو مہربان بنا غشوع و خضوع والوں پر اور

كُنْ لِي كَمَا تَكُونُ لِلصَّالِحِينَ وَحَلِّبْنِي حَلِيَّةَ الْمُتَّقِينَ وَاجْعَلْ لِي

ہو تو میرے لیے بھی اس طرح جیسے کہ ہوتا ہے واسطے صالحین کے اور مجھے مزین فرما متقیوں والی زیبائش

لِسَانَ صَدِّقٍ فِي الْغَائِبِينَ وَذَكَرًا فِي الذَّاكِرِينَ وَوَافٍ فِي عُرْصَةِ

کے ساتھ اور بنا میرے لیے سچی زبان باقی رہنے والوں میں اور ذکر اہل ذکر میں اور مجھے پہنچا اولین کے عرصہ

کے ساتھ اور بنا میرے لیے سچی زبان باقی رہنے والوں میں اور ذکر اہل ذکر میں اور مجھے پہنچا اولین کے عرصہ

الْأَوْلَىٰ وَتَبِعْتُمْ سُبُوغَ نِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَظَاهِرُ كَرَامَاتِنَا لَدَيْكَ

مختر میں اور کامل فرما اپنی نعمتوں کی وسعت کو مجھ پر اور ظاہر فرما ان کی بزرگیاں میرے ہاں بھروسے

إِمْلَأْ مِنْ فَوَائِدِكَ يَدَيَّ وَسُقْ كَرَامَتَهُ مَوَاهِبِكَ إِلَيَّ وَجَارِرُ

اپنے فوائد سے میرے ہاتھ اور چلا اپنے بزرگ عطیات میری طرف اور مجھے پڑوسی بنا اپنے پاکیزہ

بَنِي الْأَطْيَبِينَ مِنْ أَوْلِيَاءِكَ فِي الْجَنَّةِ الَّتِي زَيَّنْتَهَا لِأَصْفِيَاءِكَ

اولیاء کا ان جنتوں میں جن کو مزین فرمایا ہے تو نے اپنے منتخب لوگوں کے لیے

وَجَلَّلَنِي شَرَائِفَ نَحْلِكَ فِي الْمَقَامَاتِ الْمُعَدَّةِ لِأَحِبَّائِكَ وَ

اور مجھے بزرگی عطا کر اپنے بزرگ عطیات سے ان مقامات میں جو تیار کئے گئے ہیں تیرے دوستوں کے لیے اور

اجْعَلْهُ لِي عِنْدَكَ مَقْبُولًا أَوْ لِي إِلَيْهِ مُطِيبًا وَمَثَابَةً أَتَّبِعُهَا

بنا اس مقام کو میرے لیے اپنے ہاں مقبول پناہ حاصل کروں اس میں اطمینان سے اور محل ثواب جس میں ٹھکانا بناؤں

وَأَقْرُبُ عَيْنًا بِهَا وَلَا تُقَاتِسْنِي بِعَظِيمَاتِ الْجَرَائِرِ وَلَا تُهْلِكْنِي يَوْمَ

اور شاد چشم بنوں اور نہ مشقت میں ڈالنا مجھے بڑے جرائم کے ساتھ اور نہ ہلاک کرنا جس دن

تُبْلَى السَّرَائِرُ بِحُرْمَةِ حَبِيبِكَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ

آزماتے جائیں پوشیدہ احوال بطفیل اپنے حبیب کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم - اے اللہ

إِمْلَأْ جَمِيعَ أَعْضَائِي وَحَوَائِصِي وَقُوَّائِي بِكَمَالِ حُبِّهِ وَحُبِّ

بھروسے میرے تمام اعضاء اور حواس و قوای کو ان کی محبت کاملہ اور آل و

إِلَيْهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ۝ وَأَشْهَدُكَ فِي حَوَائِصِي وَأَعْضَائِي

اصحاب کی محبت سے - اور میں گواہ بناتا ہوں تجھے اپنے حواس اور اعضاء میں

مِنْ مَشْكُورَةٍ شَرَعَهُ وَطَاعَتِهِ وَأَدْخُلْ وَمَرَّاتَهُ إِلَى حِصْنِ

ان کی شریعت و طاعت کے محراب نور سے اور داخل ہوں اس مشکوٰۃ نور کے پیچھے لا الہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ يَا مَنْ أَمَاتَ وَأَحْيَى وَأَقْضَى وَأَدْنَى

اے اللہ کے قلعہ میں - اے اللہ - اے کہ جو مارتا ہے - زندہ کرتا ہے - دور کرتا ہے اور قریب کرتا ہے

وَأَسْعَدًا وَأَشْفَى وَأَضَلَّ وَأَهْدَى وَأَفْقَرًا وَأَغْنَى وَأَبْلَى وَعَافَى

نیک بخت اور بد بخت - گمراہ اور ہدایت یافتہ - فقیر اور غنی بناتا ہے۔ آزمائش میں ڈالتا اور عافیت دیتا ہے

وَقَدَّرَ وَقَضَى كُلُّ بَعْظِيمٍ لُطْفٍ تَدْبِيرِهِ وَسَابِقِ أَقْدَارِهِ يَا مَنْ

اور تقدیر و قضا کا مالک ہے۔ ہر شئی اس کی عظیم و لطیف تدبیر سے ہے اور سابقہ تقدیر سے۔ اے کہ

عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ السُّوَكُّونُ يَا مَنْ إِلَيْهِ يُلْجَأُ الْخَائِفُونَ يَا مَنْ بَدَّرَهُ

اسی پر توکل کرتے ہیں اہل توکل۔ اے کہ اسی کی طرف سہارا لیتے ہیں اہل خوف۔ اے کہ جس کے کرم اور

وَجَبِيلٍ عَوَائِدِهِ يَتَعَلَّقُ الرَّاجُونَ يَا مَنْ بِسُلْطَانِ قَهْرِهِ وَعَظِيمِ

حسین انعامات سے پیوست ہوتے ہیں امیدوار۔ اے کہ جس کے غلبہ قہر اور عظیم رحمت

رَحْمَتِهِ وَبِرِّهِ يَسْتَعِينُ الْبُضْطَرُّونُ يَا مَنْ لَوْ سِعَ عَطَائِهِ وَجَبِيلٍ

واحسان کے ساتھ استفادہ کرتے ہیں لاچار و بے بس۔ اے کہ جس کی وسیع عطا اور فضل جمیل

فَضْلِهِ وَنِعْمَائِهِ تَبْسُطُ الْأَيْدِي وَيَسْأَلُهُ السَّائِلُونَ رَبِّ اجْعَلْنِي

اور انعامات کے لیے پھیلتے ہیں ہاتھ اور سوال کرتے ہیں اس سے سائل۔ اے رب بنا مجھے

مِنْ تَوَكَّلٍ عَلَيْكَ وَمَنْ تَخَوَّفُ مِنْكَ إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْكَ وَ

اپنے متوکلین سے اور اپنی ذات کا خون رکھنے والوں سے جب واصل ہوں تجھ تک اور نامراد نہ

لَا تُخَيِّبُ رَاجِيًا إِذَا صَرْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبُ يَا وَاسِعُ

بھڑانا میری رجاؤں کو جب میں تیرے حضور حاضر ہوں۔ اے قریب۔ اے مجیب۔ اے واسع و کرم

اللَّهُمَّ يَا مَنْ لَا تَرَاهُ الْعَيُونَ وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُونُ وَلَا تُصِفُهُ

اے اللہ۔ اے کہ نہیں دیکھ سکتی اس کو تمام آنکھیں اور نہ پہنچ سکتے ہیں اس تک تمام گمان اور نہ تعریف کر سکتے اس کی

الْوَاصِفُونَ وَلَا تَحَافُهُ الدَّوَابُّ وَلَا تُفْنِيهِ الْعَوَاقِبُ يَعْلَمُ مَا قِيلَ

واصف لوگ اور نہ اس کا احاطہ کر سکتے ہیں دابروں اور نہ اسے فنا کر سکتے ہیں انجام و عواقب جانتا ہے مقداریں

الْجِبَالِ وَمَكَائِيلِ الْبِحَارِ وَعَدَدِ قَطْرِ الْأَمْطَارِ وَعَدَدِ دُورِقِ الْأَشْجَارِ

پہاڑوں کی اور تاپ سمندروں کے اور تعداد بارشوں کے قطرات کی اور درختوں کے پتوں کی

وَعَدَدَمَا ظَلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ وَالْأَنْوَارُ مِنْهَا

اور تعداد ہر اس شئی کی جس پر رات سایہ نکلن ہوئی یا دن صُور نکلن ہوا اور تمام انوار اسی سے بلند ہوئے

وَلَيْسَ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ إِلَّا يَعْلَمُ مَا فِي وَعُرْهَا وَلَا

اور نہیں کوئی آسمان اور زمین اور نہ پہاڑ مگر جانتا ہے جو کچھ ان کے دشوار گزار مقامات میں ہے اور نہیں

فِي بِحَارٍ إِلَّا يَعْلَمُ مَا فِي قَعْرِهَا وَفِي قُدْرَتِهِ الْإِكْمَالُ عَظُمُوتِ

کوئی سمندر مگر جانتا ہے جو ان کی گہرائیوں میں ہے اور اس کی قدرت کاملہ کے احاطہ میں ہے عظمت

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي خَيْرًا فِي عَمَلِي وَفِي خَوَاتِمِي

آسمانوں کی اور زمینوں کی - اے اللہ بنا میرے لیے خیر میرے عمل میں اور اس کے خاتمہ میں

وَخَيْرًا لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ

اور خیر اس دن میں جس میں تیری ملاقات کروں گا۔ بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ

إِنْ دَخَلَ الشَّقُّ فِي إِيْمَانِي بِكَ وَفِي تَوْحِيدِي إِيَّاكَ وَ

اگر داخل ہو شک میرے ایمان میں اور میری توحید میں اور کفر

الْكُفْرِ فِي إِسْلَامِي بِكَ وَالْعُجْبُ وَالْكِبْرُ وَالرِّيَاءُ وَالسُّبْحَةُ

میرے اسلام میں۔ اور فخر و تکبر اور ریاکاری اور شہرت کی خواہش

وَالنُّقْصَانُ فِي عَمَلِي لَكَ وَجَرِي الْكُذْبِ وَالْغَيْبَةِ وَالنَّمِيمَةِ

اور نقصان میرے عمل میں جو تیرے لیے ہو اور جاری ہو جھوٹ اور غیبت۔ چغل خوری

وَالْبُهْتَانُ عَلَى لِسَانِي وَالْخَطْرَةُ وَالْوَسْوَسَةُ فِي صَدْرِي وَ

اور بہتان تراشی میری زبان پر اور خواطر و وساوس میرے دل میں اور

التَّشْبِيهُ وَالْتَفْصِيرُ فِي مَعْرِفَتِي إِيَّاكَ وَالتَّفَاقُ فِي قَلْبِي وَ

مخلوق سے مشابہ سمجھنا تجھے اور کوتاہی کرے تیری معرفت میں اور تامل

مِنَ الذُّنُوبِ الْكِبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ كُلِّهَا وَالرِّيَاءُ فِي أَعْمَالِي وَأَقْوَالِي

گناہ بڑے اور چھوٹے اور ریاکاری اعمال و اقوال اور اعمال میں

وَأَفْعَالِي وَلَمْ أَعْلَمْ بِهِ أَوْ عَلِمْتُ نُبْتُ عَنْهُ وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ

خواہ یہ امور مجھے معلوم نہ ہو سکیں یا معلوم ہوں میں نے ان سب سے توبہ کی اور اسلام لایا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ مَا عَلِمْتُ مِنْ

اور میں قائل ہوں "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" کا۔ اے اللہ جو معلوم کی میں نے برائی

سُوِّءٍ وَمَا أَرَادْتُ لِي مِنْ خَيْرٍ فَلَمْ أَشْكُرْهُ وَمَا قَدَّرْتَ عَلَيَّ

اور جو ارادہ کیا تو نے میرے لیے بھلائی کا پس میں اس کا شکر ادا نہ کر سکا اور جو امر تو نے مجھ پر

مِنْ أَمْرٍ فَلَمْ أَرْضِهِ وَمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ فَعَصَيْتُكَ

مقرر فرمایا مگر میں اس پر راضی نہ ہوا اور جو تو نے مجھ پر انعام فرمایا پس میں نے نافرمانی کی

فِيهِ وَمَا أَوْلَيْتَنِي مِنْ نِعْمَائِكَ فَغَفَلْتُ عَنْ شُكْرِكَ وَمَا أَوْلَيْتَنِي

اس میں اور جن کا مالک بنایا تو نے نعمتوں پس میں غافل ہوا تیرے شکر سے اور جن انعامات کا والی بنایا

مِنْ آلَائِكَ فَلَمْ أُؤَدِّ حَقَّهُ وَمَا مَنَنْتَ عَلَيَّ مِنَ الْحُسْنَى فَلَمْ

پس میں نے ان کا حق ادا نہ کیا اور جس نیکی کا تو نے احسان فرمایا پس میں نے حمد

أَحْمَدُكَ وَمَا أَجَبَلْتَ بِهِ عَلَيَّ مِنَ النَّظْرِ فَيُكَ فَعَمِضْتُ عَنْهُ

نہ کی۔ اور جو صلاحیت پیدا فرمائی تو نے تیری ذات پر نظر کی پس میں نے آنکھ بند کر لی اس

وَمَا صَنَعْتُ فِي عُمُرِي بِمَا لَمْ تَرْضَ وَمَا قَصُرْتُ مِنْ عَمَلِي

سے اور جو کیا میں نے عمر بھر میں ایسی کام جس سے تو راضی نہیں تھا اور جو قصور کیا میں نے عمل میں

فِي رَجَائِكَ وَإِنْ اعْتَمَدْتُ عَلَى سِوَاكَ فِي الشَّدَائِدِ وَإِنْ

تیری امید غفو پر اور اگر میں نے بھروسہ کیا غیروں پر شدائد میں اور اگر

اسْتَعَنْتُ مِنْ غَيْرِكَ فِي النَّوَائِبِ وَمَا أَصْلَحْتُ فِي شَأْنِي

استعانت کی غیروں سے حوادث میں اور جو میرا حال تو نے درست کیا

بِفَضْلِكَ وَرَأَيْتَهُ مِنْ غَيْرِكَ وَإِنْ زَالَتْ قَدَمِي عَنِ الصِّرَاطِ

اپنے فضل سے اور میں نے اس کو سمجھا غیر کی طرف سے اور اگر لغزش کھائی میرے قدم نے راہ راست

بِالسُّوَالِ مِنْ غَيْرِكَ فَثَبِّتْنِي اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ

غیر سے سوال کی وجہ سے پس ثابت قدمی عطا فرما مجھے (ان تمام امور میں)۔ اے اللہ۔ اے حی و قیوم۔ اے حنان و منان

يَا دَيَّانُ يَا سُلْطَانَ يَا سُبْحَانَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي

اے جزاء کامل دینے والے۔ اے شہنشاہ۔ اے پاک و مقدس۔ نہیں معبود برحق مگر تو۔ تو پاک ہے۔ بیشک میں

كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ

ظلم پیشہ لوگوں سے ہوں۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور نجات دی انہیں غم سے اور

كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَذَكَرَ يَا أذُنَا دِي رَبِّهِ رَبِّكَ لَا

ایسے ہی نجات دیتے ہیں اہل ایمان کو۔ اور یاد کرو ذکر یاد کو جبکہ انہوں نے پکارا اپنے رب کو۔ اے میرے رب نہ

تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

چھوڑ مجھے اکیلا بے اولاد اور تو بہترین وارث ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مظهر

نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب تیری

الْأَحَدِيَّةِ وَمَجْلَى حَضْرَتِ التَّجَلِّيَّاتِ الْقُدْسِيَّةِ

احدیت کے منظر ہیں اور جلوہ گاہ ہیں تیری تجلیات قدسیہ واحدیہ کی

الْوَاحِدِيَّةِ وَحُضُورِ حَضْرَاتِ

بارگاہ کے اور حاضر ہونے کے حق دار ہیں

الْمُقَدَّسَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ

مقدس وحدانی بارگاہوں میں

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ

فرما دیجئے وہ اللہ یگانہ ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ

يُولَدُ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

جنا گیا۔ اور نہیں اس کا کوئی ہمسر اور ہم پلہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
الحمد لله الذي جعلنا من آل سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
الذين هم خير خلق الله على وجه الأرض كلها

کہ دین مان دست اقران بل

ایز و نشان تحفه عجا رب و هدیه غراب الی اللہ اللہ
مقبول بارگاہ کونین حضرت محمد ﷺ
مسکتی بہ

مجموعۃ الرسول

الجزء السادس عشر

فِ عَظَمَتِهِ وَعِزَّتِهِ ﷺ

از تصنیف و تالیف حضرت مولانا محمد رفیع صاحب

حضرت خواجہ خواجہ محمد عبدالرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور
صوبہ سرحد پاکستان

فہرست مجموعہ صلوات الرسول

- 1- الجزء الثالث عشر (تیرواں پارہ) حضور ﷺ کی دعا و التجاء کے بارے میں۔
- 2- الجزء الرابع عشر (چوہدواں پارہ) حضور ﷺ کے کلام کے بارے میں۔
- 3- الجزء الخامس عشر (پندرہواں پارہ) حضور ﷺ کی نبوت اور رسالت کے بارے میں۔
- 4- الجزء السادس عشر (سولہواں پارہ) حضور ﷺ کی عزت و عظمت کے بارے میں۔
- 5- الجزء السابع عشر (سترہواں پارہ) حضور ﷺ کی شفاعت اور وسیلہ کے بارے میں۔
- 6- الجزء الثامن عشر (اٹھواں پارہ) حضور ﷺ کی قدر و اقتدار کے بارے میں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت رحم کرنے والا مہربان ہے

اللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ بِعِزَّةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِعِظْمَةِ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بظیفیل عزت " بسم اللہ الرحمن الرحیم " کے اور بظیفیل عظمت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِدُرُقَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم " کے اور بظیفیل رہبرئی " بسم اللہ الرحمن

الرَّحِیْمِ وَبِعِظْمَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ

الرَّحِیْمِ کے اور بظیفیل عظمت " بسم اللہ الرحمن الرحیم " کے تمام ستائیں اللہ رب العالمین

الْعٰلَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ اِیَّاكَ

کے لیے ہیں جو غایت رحمت والا مہربان - روز جزا کا مالک ہے - تیری ہی

تَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ

عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے توفیق طلب کرتے ہیں - چلا ہیں راہ راست پر - راہ

الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّٰلِّیْنَ

ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہے نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا ہے اور جو گم گشتہ راہ ہیں -

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ سَرَى اِلٰی مَقَرِّ الرَّحْمٰةِ

اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے معراج فرمایا قرار گاہ رحمت

وَحِجَابِ الْعِظْمَةِ وَالْمُنَادِیْ یُنَادِیْ هٰذَا رَفِیْقُ الْاَقْدَمِ وَالشَّفِیْقُ

اور حجاب عظمت تک اور منادی حق کہتا تھا یہ ہیں اُمت کے رفیق اور خلق خداوند تعالیٰ

لِخَلْقِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ قَفَلَ مِنْ

پد شفیق - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو معراج سے لوٹے

مَسْرَاةٍ وَاَعْلَامِ عِزَّةٍ ظَاهِرَةٍ وَعِظْمَتِهِ فَاخِرَةً وَاَنْوَارِ

جگہ ان کی عزت و جاہ کے پرچم غالب تھے اور عظمت کے جھنڈے فخر کماں تھے اور ان کی طلعت مبارکہ

طَلَعَتْهُ السَّعِيدَةُ بِأَهْرَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے انوار غالب تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ عِرَّةِ الْمَيْتِينَ عَلَى مَعَالِي قُصُورِ أَهْلِ

کہ جلوہ گر ہوا ان کی پائیدار عزت کا عروس اہل علیین کے بلند و بالا محلات

عَلِيِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ

پر۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جلوہ گر ہوا اللہ کی

عُظْمَةِ اللَّهِ وَعِزَّتِهِ مِنْ مَّظَاهِرِ الْإِنْسَانِيَّةِ عَلَى غَرَبِ

عظمت و عزت کا عروس ان کے مظاہر انسانیہ سے عنایت ربانیہ

أَفَاقِ الْعِنَايَةِ الرَّبَّانِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے آفاق کی پیشانیوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي أَيَّقَظُهُ جِبْرَائِيلُ مِنْ مَنَامِهِ إِلَى مَحَبَلِ تَعْظِيمِهِ وَ

جنہیں جگایا جبریل نے نیند سے ان کے مقام تعظیم اور

مُكَلَّلِ عِزَّتِهِ وَمُنْحَلِ عُظْمَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مرصع تاج عزت اور عطا عظمت کے مقام کی طرف۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي لَمَّا جَمَعَ الْبِرَاقُ عِنْدَ رُكُوبِهِ عَلَيْهِ نَادَاهُ جِبْرَائِيلُ

کہ جب سرکشی کی براق نے آپ کے سوار ہوتے وقت تو کہا اسے جبریل نے

اسْكُنْ فَمَا رَكِبَكَ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ وَلَا أَعَزُّ مِنْهُ لَدَيْهِ

سکون سے کام سے کیونکہ نہیں سوار ہوا تجھ پر ان جیسے عزت و عظمت والا اللہ تعالیٰ کے ہاں اور نہ معزز اس کے پاس

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَتَحَتْ لَهُ السَّمَوَاتُ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کے لیے آسمانوں کے دروازے

بَابًا بَابًا وَاخْتَرَقَتْ لَهُ حُجُبَ الْعِزَّةِ حَبَابًا وَكَانَتْ رُؤُوسًا

کے بعد و بگڑے کھولے گئے اور بھاڑے گئے ان کے لیے حجابات عزت ایک ایک کر کے اور رُووسا

الرُّوحَانِيَيْنِ تَهْنِئَةً وَعُظْمَاءِ الْمُقَرَّبِينَ تَحِيَّةً اللَّهُمَّ

کے سرداران کو تهنیت کتنے تھے اور مقربین کے رؤساء انہیں ہدیے پیش کرتے تھے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ بَالِغَتِ الْمَلَائِكَةُ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو معراج پر چلے اور انتہاء کر دی ملائکہ نے

فِي تَعْظِيمِهِ وَإِكْرَامِهِ وَإِعْزَازِهِ وَإِسْتِلَامِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي

ان کی تعظیم و تکریم اور اعزاز میں اور ہدیہ سلام میں۔ اے اللہ صلوات نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ سَبَقَ أَهْلَ الْفَضْلِ وَالْتَّقْدِيمِ

سیدنا محمد پر جو معراج پر چلے جبکہ سبقت لے جا چکے تھے ارباب فضیلت اور سرخیوں سے

إِلَى مَحَلِّ الْفَخْرِ وَالْتَّعْظِيمِ وَهُوَ فِي عِزَّةِ اللَّهِ وَعَظْمَةِ اللَّهِ

طرف مقام فخر و تعظیم کے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت میں مستغرق تھے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَي آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جن

زَهَتْ بِهِ بَيْتُ الْعِزَّةِ وَالرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا

کی بدولت فخر حاصل کیا بیت العزت و الرحمت نے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي عَدَّتْ بِهِ النُّفُوسُ مُعْتَزَّةً وَالْقُلُوبُ فِي عِزَّةِ

محمد پر کہ جن کی بدولت نفوس عزت والے ہوئے اور دلوں نے عزت

وَعَظْمَةِ اللَّهِ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَي آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

و عظمت پائی۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي قَرَّنَ اللَّهُ الْيَمْنَ وَالْتَّوْفِيقَ بَيْنَ عَظْمَتِهِ وَطَلَعَتْ

کہ اللہ تعالیٰ نے ملا دیا ہے یمن اور توفیق کو ان کی عظمت کے یمن و برکت سے اور طلوع ہوا

عِزَّتُهُ عَلَي أَفُقِ خَلْقِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَي

ان کا آفتاب عزت مخلوق کے افق پر۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

نَهَايَةَ لِعِلْمِكَ وَعَدَدِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

لا محدود ہے علم تیرا اور غیر محدود ہیں معلومات تیرے۔ اے اللہ لا محدود صلوات

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِعِلْمِهِ وَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جیسے کہ غیر محدود ہے ان کا علم اور

عَدَدِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

ان کے معلومات۔ اے اللہ بے حد صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِحُجُودِكَ وَعَدَدِ جُودِكَ اللَّهُمَّ

اور آپ کی آل پر جیسے کہ نہیں حد تیرے جود اور اس کے شمار کی۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَايَةَ

صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جیسے کہ نہیں حد

لِحُجُودِهِ وَعَدَدِ جُودِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

ان کے جود و نوال اور اس کے اعداد و شمار کی۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِحِلْمِكَ وَعَدَدِ حِلْمِكَ اللَّهُمَّ

کی آل پر جیسے کہ نہیں انتہاء تیرے حلم کی اور اس کے عدد و شمار کی۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَايَةَ

صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جیسے کہ نہیں انتہاء

لِحِلْمِهِ وَعَدَدِ حِلْمِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

ان کے حلم اور اس کے عدد و شمار کی۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِكِرَمِكَ وَعَدَدِ كِرَمِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

کی آل پر جیسے کہ نہیں انتہاء تیرے کرم اور اس کے عدد و شمار کی۔ اے اللہ صلوات

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَايَةَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جیسے کہ نہیں حد ہے

بِكْرَمِهِ وَعَدَدِ كَرَمِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نُورِكَ

کرم ان کا اور لامحدود ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ اور سلامتی و برکات نازل فرما اپنے نور

الْعَزِيزِ وَشُعَاعِكَ الْغَالِبِ وَرُوحِكَ السَّارِيِ اللَّهُمَّ بِحُرْمَتِهِ

عزیز اور شعاع غالب اور روح پر جو سرایت کئے ہوئے ہے ہرزورہ کائنات میں۔ اے اللہ

وَبِعِزَّتِهِ وَبِشَرَفِهِ وَبِقَبُولِهِ اللَّهُمَّ اجْبُ بِعِزَّتِهِ وَعِزَّتِكَ

بطفیل ان کی حرمت و عزت اور شرف و قبولیت کے۔ اے اللہ قبول فرما بطفیل ان کی عزت اور اپنی عزت کے

يَا مُعْزِيًا عَزِيزُ الْمُنِيِّ الْغَالِبِ عَلَى جَمِيعِ أُمْرِهِ فَلَا شَيْءَ يُعَادِلُهُ

اے عزت دینے والے اے عزیز بلند و بالا۔ غالب تمام امور پر جس کے برابر کوئی شے نہیں

أَعِزَّنِي بِالْأَحْوَالِ الْمُرْتَدَّةِ إِلَى الْأَحْوَالِ الْقَوِيَّةِ بِالْمَلَكَةِ

مجھے عزت بخش ایسے احوال کے ذریعے جو قوی احوال کی طرف رہنمائی کریں بسبب عرش و کرسی

الْعَرْشِيَّةِ وَالْكُرْسِيِّ الْقَوِيَّةِ الْمُفْرَقَةِ الْقِتَالَةَ لِأَعْدَاءِ

والے ملائکہ کے جو قوی اور پراگندہ کرنے والے اور قتل کرنے والے ہیں فقراء

الْفُقَرَاءِ وَالْمُسْتَعِدِّينَ الطَّالِبِينَ لِلْكَمَالَاتِ الْآخِرِيَّةِ اللَّهُمَّ

کے اور ارباب استعداد کمالات اخرویہ کے طلب کاروں کے اعداء کو۔ اے اللہ

أَنْتَ الْغَالِبُ ذُو الْعِظَمَةِ وَالْقُدْرَةُ الْبَاهِرَةُ وَالْحِكْمَةُ الْعَالِيَةُ

تو ہی غالب ہے نمایاں عظمت و قدرت اور عالی حکمت والا ہے۔

أَعْطِنِي عِزَّةً عَظِيمَةً غَالِبًا لِأَجْرِي دِينَ اللَّهِ وَذَكَرَ اللَّهُ بِحُبِّ

مجھے عطا فرما عزت اور عظمت اور غلبہ تاکہ جاری کرسکوں اللہ کے دین اور ذکر کو بسبب حب

اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ سَدَّتْ أَفْهَامَ الْعُقُولِ وَحَيَّرَتِ النَّفُوسَ عِنْدَ

اللہ کے۔ بند ہو گئے افہام عقول کے اور حیرت زدہ ہو گئے نفوس وقت

الْمُطَالَعَةِ وَذَابَتْ الْأَبْدَانُ عِنْدَ الْمَشَاهِدَةِ وَعِنْدَ شَرْقِ

مطالعہ کے اور پگھل گئے بدن وقت مشاہدہ کے اور تیرے جمال کے کمال

جَمَالِكَ اجْعَلْنِي غَالِبًا قَادِرًا عَلَى نَفْسِي الْأَمَارَةَ وَالْعَبُورَ فِي

ظہور کے بنا دے مجھے غالب و قادر اپنے نفس امارہ پر اور راہ راست کے

الطَّرِيقِ الْجَادَةِ وَإِنْ غَالِبٌ أَحَدٌ بِالْقَوْلِ وَالْجَارِحِ فَأَقْلَعُهُ

عبور پر۔ اور اگر کوئی غالب آنے کی کوشش کرے زبان اور اعضاء سے تو اسے اکھیڑ پھینک

وَأَجْمَعُهُ إِلَى تَفْرِيقَةٍ إِنْ كَانَ قَاصِدًا إِلَى السُّوءِ وَالْإِهَانَةِ

اور مجھ سے جدا کر اگر میرے ساتھ برائی اور اہانت کا قصد رکھتا ہو

دَاعِيًا مَرُوعًا إِلَى الْإِيذَاءِ إِلَّا أَنْتَ إِنْ كُنْتَ رَاضِيًا بِهِ فَإِنِّي

اور ایذا و تخریفات کا داعیہ رکھتا ہو لیکن اگر تو اس سے راضی ہو تو میں بھی

أَرْضَى بِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَنِيعُ الْغَالِبُ عَلَى كُلِّ أَمْرٍ فَلَا يُقَاوِمُكَ

اس ایذا و تکلیف پر راضی ہوں گا۔ اے اللہ تو بلند و بالا اور غالب ہے ہر امر پر تیرے سامنے نہ کوئی ٹھہر سکتا ہے

وَلَا يُصَادِمُكَ أَحَدٌ اجْعَلْنِي مَنِيعًا غَالِبًا عَلَى كُلِّ جَنِّيٍّ وَرُوحِيٍّ

اور نہ ٹکر لے سکتا ہے مجھے بھی ناقابلِ تسخیر و غالب بنا دے ہر جن اور ذمی روح

وَرُوحَانِيٍّ حَتَّى تَغَيِّرَ دَعْوَتِي أَفْعَالَهُمْ إِلَى إِهْمَالِهَا مُنْقَادَةً

اور روحانی مخلوق پر حتیٰ کہ کر دے میری دعوت ان کے افعال کو بے اثر و انہماک لیکہ وہ تابعدار

مُطِيعَةً زَمِنَهُ إِلَى أَفْعَالِهَا إِنْ أَرَادَ عَبْدُكَ الدَّاعِيَ وَإِنْ قَصَدَ

اطاعت گزار اور بے دست و پا ہوں اپنے افعال میں اگر تیرا دعا گو بندہ ایسے چاہے اور اگر قصد کرے

الغَلْبَةَ وَالْقَهْرَ فَاسْلُبِ الْبَاعِثَةَ وَالْفِعْلَ مِنْهُ وَعَطِّلِ الْقُوَى

غلبہ اور قہر کا تو سلب فرما اس سے جذبہ اور فعل اور معطل فرما ان کے

الْفَاعِلَةَ الْمُتَحَرِّكَ مِنْهُ إِلَى هَذَا الدَّاعِيَ سَوَى الْقَصْدِ بِالْإِحْسَانِ

قوائے متحرکہ فاعلہ کو اس دعا گو کے لیے سوائے احسان

وَالْأَخْلَاقِ وَالْمُدَارَاةِ الدِّينِيَّةِ خَالِصَةً لَكَ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى

و حسن خلق اور دینی رواداری کے قصد کے جو خالص تیرے لیے ہو بغیر دعوائے

صَدَارَةٌ وَإِدْعَاءٌ جَاهٍ فَيَا إِلَهَ كُلِّ شَجَرٍ ذِي أُصُولٍ قَوِيَّةٍ وَ

صدارت کے اور طلب جاہ کے تو اسے اللہ ہر شجر کے جو مضبوط تنوں والے ہیں اور

جِبَالٍ رَاسِيَّاتٍ حَتَّى جَعَلْتَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ غَالِبًا عَلَى جُنْدِ

پائیدار پہاڑوں کے تو نے موسیٰ علیہ السلام کو غالب فرمایا فرعون کے

فِرْعَوْنَ حَتَّى أَمِنَ السَّحَرَةُ وَالتَّقَمَّ الْعَصَا الْحَيَاتِ الْبَاطِلَةَ وَ

شکر پر یہاں تک کہ جادو گر ایمان لائے اور آپ کا عصا نکل گیا جھوٹے سانپوں اور

الْأَفَاعِي السُّومِيَّةَ وَجَعَلْتَ سُلَيْمَانَ حَاكِمًا عَلَى الْجِنِّ وَالْإِنْسِ

زہریلے اژدہوں کو اور تو نے سلیمان علیہ السلام کو حکم بنایا جن و انس اور

وَمَرَدَّةِ الشَّيَاطِينِ فَاجْعَلْنِي بِحُرْمَةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

سرخش شیاطین پر تو مجھے بھی بنا بطفیل عزت اپنے نبی محمد صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ قَادِرًا وَقَاهِرًا

علیہ وسلم کے اور بطفیل حرمت تمام انبیاء و اولیاء کے غالب اور قاهر

عَلَى أَعْدَائِي وَكُنْ لِي مُعِينًا وَنَاصِرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

اپنے اعداء پر اور میرا مددگار اور ناصر ہو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَاقِبِ صَلَاةٍ تُعَاقِبُ بِهَا لَنَا بَرَكَةً دَائِمَةً الْإِتِّصَالَ وَالتَّوَالِي

آخر الزمان نبی پر جس صلوات کی بدولت ہمیں مسلسل اور لگاتار برکتیں عطا کرے جو

مُتَعَاقِبَةٌ بِتَعَاقِبِ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ط

پے درپے ہوں دنوں اور راتوں کے تسلسل کے مطابق اور اچھی عاقبت متقیوں کے لیے ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ طَهْ صَلَاةٌ تَمْلَحُنَا بِهَا وَبَطَانُهَا طَلَبُ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما طہ نبی پر کہ عطا کرے اس صلوات کے طفیل اور طہ کی طہ کے طفیل طلب

الْأَبْلَحِ وَهَدَايَةَ الْإِبْهِيمِ وَالْأَنْهَبِ طَهْ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ

روشن و نورانی محبوب کی اور ہدایت بارونق اور واضح و کشادہ راہ کی طہ۔ نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر

اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلَ اللهُ حَقَّهُ اَعْظَمَ الْحُقُوقِ بِعَظَمَتِهِ

آل اطہار پر کہ اللہ نے بنا دیا ہے ان کا حق سب حقوق سے عظیم تر بسبب ان کی عظمت کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نِعْمَ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو محبوب

الرَّجُلُ لِعِزَّازَتِهِ عَلٰى رَأْيِهِ وَكَرَامَتِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

بہت اچھی شخصیت ہیں بسبب معزز و مکرم ہونے کے رب تعالیٰ کے ہاں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّفِ الْبِلَّةِ وَالِدِيْنَ وَالْاِخْلَاصِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو ملت و دین کے لیے اور اخلاص

وَالْيَقِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

و یقین کی شمشیر ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ اِلَّا عِزًّا لَتَمَّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

پر جو انتہائی معزز اور کامل ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَعِزِّ النَّاسِ نَفِرًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کی آل امجاد پر جو سب انسانوں سے معزز جماعت والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَعِزِّ مَنْ اَنْتَصَرَ بِاللهِ وَاَسْتَنْصَرَ بِحُرْمَتِهِ

اور آپ کی آل پر جو عزیز تر ہیں اللہ سے مدد پانے والوں میں اور عزیز تر ہیں ان تمام سے جن کی حرمت

وَعِزَّتِهِ وَشَرَفِهِ وَجَاهِهِ وَقَبُولِهِ عِنْدَكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

و عزت اور جاہ و شرف اور قبولیت کے طفیل نصرت طلب کی گئی۔ اے اللہ بے انتہاء صلوٰۃ نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نِهَآيَةَ لِعِزَّتِكَ وَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل امجاد پر جیسے کہ تیری عزت کی اور اس کے

عَدَدِ عِزَّتِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

اعداد کی انتہاء نہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل امجاد پر

مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِعِزَّتِهِ وَعَدَدِ عِزَّتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

بے انتہاء جیسے کہ نہیں انتہاء ان کی عزت اور عزت کے اعداد کی۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِإِحْسَانِكَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل امجاد پر جیسے کہ نہیں انتہاء تیرے احسان کی

وَعَدَدِ إِحْسَانِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اور اس کے اعداد و شمار کی۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِإِحْسَانِهِ وَعَدَدِ إِحْسَانِهِ اللَّهُمَّ

آل امجاد پر جیسے کہ نہیں حد ان کے احسان کی اور نہ اس کے اعداد و شمار کی۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَايَةَ

بے انتہاء صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جیسے کہ نہیں انتہاء

لِعَظَمَتِكَ وَعَدَدِ عَظَمَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

تیری عظمت اور اس کے اعداد و شمار کی۔ اے اللہ بے انتہاء صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِعَظَمَتِهِ وَعَدَدِ عَظَمَتِهِ اللَّهُمَّ

آپ کی آل پر جیسے کہ نہیں انتہاء ان کی عظمت اور اس کے اعداد و شمار کی۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَايَةَ

بے حد صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جیسے کہ نہیں حد

لِرُحْمَتِكَ وَعَدَدِ رَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

تیری رحمت اور اس کے اعداد و شمار کی۔ اے اللہ بے حد صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نَهَايَةَ لِرُحْمَتِهِ وَعَدَدِ رَحْمَتِهِ

آپ کی آل امجاد پر جیسے کہ حد نہیں ان کی رحمت اور اس کے اعداد و شمار کی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا

اے اللہ صلوٰۃ نامحدود نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس طرح کہ

الْقُرْآنَ لِتَشْفِيَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّ صَلَاةٍ تَخُصُّ بِهَا

قرآن تاکر مشقت میں پڑو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما یسین پر کہ جس صلوٰۃ کے ساتھ ہمیں مخصوص ٹھہرائے

وَبِنْدَاءِ يٰ اَيُّهَا بِحَبَّةِ الرَّحْمٰنِ يٰ نَبِيَّ وَ بِسِرِّ سَيِّدِنَا فِيْ اَسْرَارِ

اور اس کی یاد کی نداء کے ساتھ بطفیل مجتت رحمانیہ کے اور ساتھ سین کے

الرَّحْمٰنِ يٰ نَبِيَّ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيْمِ اِنَّكَ لِمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ط عَلَى

سر کے اسرار ربانیہ میں یسین قسم ہے حکمتوں بھرے قرآن کی۔ بیشک تو البتہ مرسلین میں سے ہے راہ

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى طَاهِرِ صَلَاةٍ تُطَهِّرُنَا

راہ راست پر ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما نبی طاہر پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں پاک

بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْخَوَاطِرِ النَّفْسَانِيَّةِ وَالْاَهْوَالِ الرَّدِّيَّةِ اِنَّ اللّٰهَ

فرمائے تمام نفسانی خیالات اور رومی احوال سے۔ بیشک اللہ تمہارے

يُحِبُّ التَّوَابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اور اچھی طرح طہارت رکھنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

مُطَهِّرِ صَلَاةٍ تُطَهِّرُنَا بِهَا عَنْ قَاذِرَاتِ الْبَشَرِيَّةِ وَالشَّهَوَاتِ

فرما مطہر نبی پر جس صلوٰۃ کے ذریعے ہمیں پاک فرمائے بشری آلودگیوں اور شیطانی

الشَّيْطَانِيَّةِ بِطَهَارَةِ الْمُطَهَّرَةِ فَاظْهَرُوا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

شہوات سے ساتھ کامل طہارت "اچھی طرح طہارت حاصل کرو"۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى طَيِّبِ صَلَاةٍ تُطَيِّبُنَا بِهَا بِطَلَبِ الطَّيِّبِ الْمُطَيِّبِ بِطَيِّبِ

طیب نبی پر کہ پاکیزہ فرمائے ساتھ اس صلوٰۃ کے طیب مطیب کی طلب کے لیے ساتھ اس پاکیزہ

كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ط

کلمہ طیبہ مانند پاکیزہ درخت کے ہے جس کی بنیاد زمین میں راسخ اور شاخیں آسمان میں ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا صَلَاةٍ تُعْظِمُنَا بِهَا بِعَظَمَةِ بِلَاغَةِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سید نبی پر کہ ہمیں معظّم بناوے بسبب اس صلوٰۃ کے ساتھ اس عظمت کمال

سِيَادَةٌ كَرَامَةٌ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَى اللَّهَ صَلَّ وَ

اور سیادت و کرامت کے بیشک تم سب عزت والا اللہ تعالیٰ کے ہاں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَى رَسُولٍ صَلَّوَةٌ تُرْسِلُنَا بِهَا إِلَى عُرْفَاتِ الْفِرْدَوْسِ

سلام نازل فرما رسول گرامی پر کہ پہنچاتے ہیں اس صلوات کے ذریعے فردوس اعلیٰ کے

مِنَ الدَّرَجَةِ الْعُلَى الَّتِي لَا دَرَجَةَ فَوْقَهَا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ

بالا خانوں والے درجات عالیہ تک کہ ان سے بلند کوئی درجہ نہیں وہی ہے جس نے بھیجا

رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى

اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کرے اسے تمام ادیان پر اور کافی ہے

بِاللَّهِ شَهِيدًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّ صَلَّوَةٌ تُنَبِّئُنَا بِهَا

اللہ تعالیٰ بطور گواہ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما نبی کریم پر کہ خبردار کرے ہمیں اس صلوات کے ذریعے

بِالْأَدَابِ وَالْحِكْمِ وَتُوفِّقُنَا بِهَا لِلْأَدَابِ وَالْحِلْمِ يَا أَيُّهَا

آداب اور حکمتوں پر اور توفیق دے اس کے ذریعے آداب و حکمتوں کی۔ اے ایمان

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ اللَّهُمَّ

والو نہ بلند کرو اپنی آوازیں نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی آواز پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رَسُولِ الرَّحْمَةِ صَلَّوَةٌ تَرْحَمُ بِهَا صُدُورَنَا

صلوات و سلام نازل فرما رسول رحمت پر جس صلوات کے طفیل رحمت فرمائے ہمارے سینوں پر

بِأَثَارِ اسْرَارِ أَنْوَارِ رَحْمَتِكَ الرَّحِيمِ الْعَظِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ

ساتھ آسرار اور انوار رحمت کے۔ اے رحیم و عظیم اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو

إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى قِيَمِ صَلَّوَةٌ تَقِيْمُنَا

مگر سراسر رحمت واسطے تمام جہانوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما مدبر و منتظم جس صلوات کی بدولت قائم

بِهَا عَلَى الدِّينِ الْقِيَمِ الْمَقِيْمِ ذَلِكَ الدِّينِ الْقِيَمِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

رکھے ہیں اپنے دین قدیم اور پائیدار پر وہی ہے دین قدیم اور پائیدار لیکن اکثر لوگ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى جَامِعِ صَلَاةِ نَجْدِ

لوگ نہیں جانتے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما جامع الکلمات نبی پر کہ جمع کرے

بِهَافِينَا حُبِّكَ وَحُبِّ الْعَمَلِ الَّذِي يَقْرِبُنَا إِلَى حُبِّكَ رَبَّنَا إِنَّكَ

اس صلوٰۃ کے ذریعے ہم میں اپنی محبت اور اس عمل کی محبت جو ہمیں قریب کرے تیری محبت کے۔ اے رب ہمارے بیشک

جَامِعِ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُقْتَفِ

تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایسے دن میں جس میں شک نہیں ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما آخری نبی پر

صَلَاةٍ تُوْرَثُ بِهَا وَرَاثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَقَفِينَا عَلَى

کہ وارث بنائے اس کی بدولت ہمیں انبیاء اور صالحین کا " اور پیچھے لائے ہم

أَثَارِهِمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُقْتَفِ صَلَاةٍ تَسْتَقِيمُنَا بِهَا

ان کے آثار و نشانات کے" اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما آخر الزمان نبی پر کہ سیدھا کرے ہمیں اس کے طفیل

بِاسْتِقَامَةِ الْبِحَبِيِّنَ وَوَرَاثَةِ الْمَحْبُوبِينَ وَقَفِينَا مِنْ أَعْدَائِهِ

محبین والی درستگی کی مانند اور محبوبین والی وراثت (عطا کرے)" اور بعد ان کے لائے ہم

بِالرُّسُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رَسُولِ الْمَلَاحِمِ صَلَاةٍ تُبَدِّدُنَا

رسولوں کو۔" اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد رسول جہاد و قتال پر کہ مدد فرما ہم کو کہ ہمیں

بِهَا بِفَتْوحَاتِ الْمَكِّيَّةِ وَظُهُورَاتِ الْمَدِينِيَّةِ وَالْكَمَالَاتِ

اس صلوٰۃ کی بدولت فتوحات مکیہ اور مدنی غلبات اور کمالات الہیہ

الْإِلَهِيَّةِ هَذَا يَمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخُمْسَةِ آفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ

والی " یہ امداد فرمائے گا تمہاری تمہارا رب پانچ ہزار ملائکہ کے ساتھ

مُسَوِّمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رَسُولِ الرَّاحَةِ صَلَاةٍ

جو مخصوص نشانات والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما رسول راحت پر ایسی صلوٰۃ کہ

تُرِيحُنَا بِهَا بِرَاحَةِ الذِّكْرِ وَالْفِكْرِ فِي التَّوْحِيدِ وَالْعُرْفَانِ فَرُوحِ

راحت پہنچائے بطفیل اس کے راحت ذکر والی اور توحید و عرفان کے اندر فکر والی۔ پس راحت

وَرِيحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى كَامِلٍ صَلَوَةٌ

اور با آرام معیشت ہے اور جنت ہے نعمتوں والی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما کامل نبی پر کہ کامل

تکملنا بہا بکمالات الاخلاق الرضیة والایات والاصاف

کے ہیں بظہیر اس صلوٰۃ کے ساتھ پسندیدہ اخلاق اور کمالات کے اور پسندیدہ آیات و اوصاف کے

المرضیة بکمال الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم

بسبب اس کمال کے " آج کے دن کامل کیا میں تمہارے لیے تمہارا دین اور مکمل کیا تم پر اپنی

نعمتی ورضیت لکم الاسلام دیننا اللہم صلِّ وسلِّم علی

نعمت کو اور پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

اکلیل صلوٰۃ تجلُّ بہار عروسنا بکلیل لطائف السریة

سرتاج انبیاء پر کہ تاج پہنائے ہمارے سروں کو بظہیر اس صلوٰۃ کے تاج لطائف سریہ

والطاف الخفیة اللہ لطیف یعبادہ یرزق من یشاء و هو

اور الطاف خفیہ کا " اللہ لطف فرمانے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ رزق دیتا ہے جس کو چاہے اور وہی

القوی العزیز اللہم صلِّ وسلِّم علی مدثر صلوٰۃ تدثرنا بہا

توانا و غالب ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما مدثر نبی پر کہ اوڑھائے ہمیں بظہیر اس صلوٰۃ

کساء السعیس والیشال یا ایہا المدثر فارقم فانذار و ربک

کے چادر وجود و تحقق اور تعین و تشخص کی " اے چادر اوڑھنے والے ایٹھے پس ڈرایئے (عذاب نار سے) اور رب کی

فکبر و ثیابک فطہر اللہم صلِّ وسلِّم علی مزمیل صلوٰۃ

کبریائی بیان کیجئے اور اپنے کپڑے پاک رکھئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما مزمیل نبی پر کہ

تزملنا بہا رداء سائر ابلطفک الخفی الخفی الخفی

پہنائے ہمیں بظہیر اس کے ڈھانپنے والی چادر ساتھ اپنے لطف کے جو سراسر مخفی و پوشیدہ ہے خصوصی توجہ والا ہے

بالموحدين بتزمیل الکلمة یا ایہا المزمیل اللہم صلِّ

ساتھ موحدین کے بسبب پہنادرے اس کلمہ کے یا ایہا المزمیل۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْبُدُنَا بِهَا بِمَرَاتِبِ الْعُلْيَا فِي قَابِ

وسلام نازل فرما اپنے مخصوص عبد پر کہ خدمت گزار بنائے ہمیں بسبب اس صلوٰۃ کے مراتب عالیہ کے ساتھ متصف فرما کرتا ہے

قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ حَبِيبِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قوسین او ادنیٰ کے مقام میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما حبیب اللہ پر جس صلوٰۃ کے ذریعے

تُحِبُّ بِهَا إِلَيْنَا مَحْبُوبِيَّتِكَ بِحُبِّ قُلِّ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ

محبوب ہو جائیں ہمارے ہاں اپنی شان محبوبیت کے لائق ساتھ اس محبت کے۔ فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو

فَاتَّبِعُونِي يَحْبِبْكُمُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ صَفِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تو میری اتباع کرو اللہ تمہیں محبوب بنائے گا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما صفی اللہ پر کہ

تَصْطَفِينَا بِهَا بِأَصْطِفَاءِ زَكِيَّةِ السَّرْمَدِيَّةِ الْمَرْضِيَّةِ إِنَّ اللَّهَ

چن لے ہمیں بطفیل اس کے ساتھ پاکیزہ پسندیدہ سردی چناؤ کے بے شک اللہ نے

أَصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ اللَّهُمَّ

چن لیا انہیں تم پر اور زیادہ کیا انہیں از روئے وسعت علمی اور جسمانی کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَتَّجِحُنَا بِهَا بِنَجْوَةِ رُمُوزِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما نبی اللہ پر جس صلوٰۃ کے طفیل تو ہم کلامی فرمائے ساتھ ہمارے ساتھ سرگوشی

الْعُرْفَانِ بِبَحْرِ عُرْفَانَ أَصْلِكَ وَبِفَجْوَةِ رُمُوزِ تَوْحِيدِ

رموز عرفان کے اپنی حقیقت کے بحر عرفان میں اور اپنی توحید

وَصْلِكَ كَمَا قُلْتَ وَقَرَّبْنَا نَحْيًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

وصل کے رموز کے کشادہ میدان میں جیسے کہ تو نے فرمایا اور ہم نے قریب کیا انہیں بطور ہم کلام کے اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

كَلِيمِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلِّمُنَا بِهَا بِكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَالصِّدْقِ

فرما کلیم اللہ پر کہ کلام فرمائے ہم سے بطفیل اس کے اور کلمہ صدق و خلاص کے

بِكَلَامِ وَكَلِمَةِ اللَّهِ مُوسَىٰ تَكَلِّمُنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

مانند اس کلام کے اور کلام کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یقینی کلام۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَةٌ تَخْتُمُنَا بِهَا بِخَاتَمِ النَّاجِينَ وَالرَّاجِينَ مَا

خاتم الانبياء پر کہ مرگائے ہم پر بسبب اس صلوات کے مہراہل نجات اور اہل رجاہ کی " نہیں

كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

تھے محمد کریم تم میں سے کسی مرد کے باپ لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى خَاتَمِ الرُّسُلِ صَلَوَةٌ تَبْعُنَا بِهَا مَعَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما خاتم الرسل پر ایسی صلوات کہ اٹھائے ہمیں بطفیل اس کے ساتھ

النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ بِتَفْضُلِكَ الرَّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى

انبیاء و مرسلین کے ساتھ اس فضیلت کے "وہ عظیم الشان رسل کہ ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو

بَعْضٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَجِي صَلَوَةٌ تُحْيِينَا بِهَا حَيَوَةً

بعض پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما زندہ فرمانے والے نبی پر کہ عطا فرمائے ہمیں بطفیل اس کے

طَيِّبَةً أَبَدِيَّةً فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ قَبْلَ كُلِّ حَيٍّ وَحَيٌّ بَعْدَ كُلِّ حَيٍّ وَحَيٌّ

پاکیزہ ابدی زندگی پس تحقیق اللہ زندہ ہے پہلے ہر زندہ سے اور زندہ ہے بعد ہر زندہ کے اور زندہ ہے

فَوْقَ كُلِّ حَيٍّ وَحَيٌّ دُونَ كُلِّ حَيٍّ وَحَيٌّ لَمْ يَرِثِ الْحَيَوَةَ مِنْ كُلِّ حَيٍّ

زائد حیات کے ساتھ ہر صاحب حیات سے اور صاحب حیات ہے کہ باطن و مخفی ہے ہر زندہ سے اور ایسا زندہ ہے کہ نہیں

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُذَكِّرِ

وارث ہوا حیات کا کسی زندہ سے "اللہ نہیں مبدو برحق مگر وہی حی قیوم" اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما نصیحت گرنی پر

صَلَوَةٌ تَذَكِّرُنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ذَلِكَ مِنْ

کہ یاد دہانی کرائے ہمیں بطفیل اس کے کتاب اللہ اور سنت رسول کی۔ وہ اللہ کی

آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَاصِرِ صَلَوَةٌ

آیات سے ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما مددگار نبی پر کہ

تَنْصِرُنَا بِهَا نَصْرَةً كَامِلَةً بِأَشَائِرِ بِشَائِرِ يَوْمِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ

مدد فرمائے تو ہماری بطفیل اس کے مدد کامل ساتھ ان اشارات و بشارات کے "اس دن خوش ہوں گے مومن

بِنَصْرِ اللَّهِ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مَنْصُورٍ بِرِصْلُوَّةٍ تُؤَيِّدُنَا بِهَا

ساتھ اللہ کی مدد کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما منصور نبی پر کہ تقویت بختے ہیں بطفیل اس کے اپنی غالب

بِنَصْرِكَ الْعَزِيزِ نَصْرًا مُّوَزَّرًا بِالْقُرْآنِ الْبَجِيْدِ وَيُنْصِرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيْزًا

نصرت کے ساتھ اور قوی امداد کے ساتھ جو قوت پائے قرآن مجید کے ساتھ اور مدد فرمائے گا تیری اللہ تعالیٰ غالب امداد کی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی نَبِيِّ الرَّحْمَةِ صَلُوَّةٌ تَرْحَمُنَا بِهَا بِرَحْمَتِكَ كَرِيْمٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما نبی رحمت پر کہ رحم فرمائے ہم پر بطفیل اس صلوٰۃ کے جو رحم و کرم

تَصْرِِيْحٍ تَشْرِِيْحٍ شَابِيْبِ الشُّهُودِ مِلَادًا سَجَالًا زُلَّالٍ فُضَالٍ فَيُوضُّ وَ

صريح و وسیع کرنے والا ہو شہود کی بارشوں کو جو افضال و فیوض کے صاف پانی کے بھرے ڈولوں کی مانند ہو اور تیرا

رَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی نَبِيِّ التَّوْبَةِ صَلُوَّةٌ تَقْبَلُ

بے نیاز رب رحمت والا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما نبی توبہ پر کہ قبول فرمائے بسبب اس کے

بِهَاتُوْبَتِنَا وَتَغْسِلُ بِهَا حَوْبَتَنَا وَتَقْضِيْ بِهَا دِيُوْنَنَا وَتُصَلِّحُ بِهَا اَحْوَالَنَا

ہماری توبہ اور دھوئے ہمارے گناہ اور ادا فرمائے ہمارے قرض اور درست فرمائے ہمارے احوال

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تَوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اے ایمان والو توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ خالص۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلٰی عَلَيْهِ صَلُوَّةٌ تَعَلِّمُنَا بِهَا الْعُلُوْمَ الدُّنْيَا الْعُلُوْمَ اِلَى مِيْقَاتِ

علیم نبی پر کہ سکھائے ہیں بطفیل اس صلوٰۃ کے علوم لدنیہ اور مدنی علوم روز

يَوْمِ مَعْلُوْمٍ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی حَرِيْصٍ عَلَيْكُمْ صَلُوَّةٌ تُحَرِّصُنَا

قیامت تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما اُمت پر حرص نبی پر کہ ہمیں حرص بنا دے

بِحَرِصٍ مَا عَنِتُّمُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَعُوْفٌ رَّحِيْمٌ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

اس حرص کے ساتھ "گراں ہے اس رحیم پر جو تمہیں مشقت میں ڈالے، مؤمنین کے ساتھ بہت مہربان رحم فرمائے ہے اے اللہ

شَهِيدٍ صَلُوَّةٌ تُشْهِرُنَا بِهَا بِشَهِيدِ الشَّرَافِ وَتِيْسِيْرُ اِلَى رِجَافِ الْعُوْرَفِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما شہیر نبی پر کہ شہرت دے ہیں بطفیل اس صلوٰۃ کے ساتھ عادات شریفہ کے اور سہل فرمائے معارف کے عطیات

المَعَارِفِ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى شَاهِدِ

کے محرک شدید کو۔ پس یقین رکھو کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما شاہد نبی پر

صَلَوَةٌ تَشْهَدُ نَابِهَا بِشَهَادَةِ أَسْرَارِ الْحَقِّ الْأَزَلِ وَمُشَاهَدَةِ أَنْوَارِ

کہ مشاہدہ کرائے ہیں بطیفیل اس کے حق ازل کے اسرار کا اور سابق و اولین انوار کا

السَّوَابِقِ الْأُولِ بِشَهَادَةِ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ

ساتھ اس شہادت کے بے شک ہم نے بھیجا ہے طرف تمہاری ایسا رسول جو تم پر گواہ ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى شَهِيدِ صَلَوَةٍ تَشْهَدُ بِهَا شُهُودُنَا فِي مُشَاهَدَةِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما شہید نبی پر کہ تو گواہی دے بطیفیل اس کے ہمارے حاضر ہونے کی

عِرْفَانٍ وَحُدَّةِ اللَّهِ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اپنی وحدت کے عرفان کے مشاہدہ میں " اور تو ہر شے پر مطلع ہے " اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى مَشْهُودِ صَلَوَةٍ تَشْهَدُ نَابِهَا إِلَى شُهُودِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْبَيِّنِ بِشُهُودِ

نازل فرما مشہود نبی پر کہ شاہد بنائے ہیں ملک حق مبین کے شہود کا ساتھ اس

شَهَادَةٍ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى بَشِيرٍ صَلَوَةٍ

شہادت کے " اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور قسم ہے مشاہدہ کئے ہوئے کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما بشیر نبی پر

تُبَشِّرُنَا بِهَا بِإِشَارَةِ بَشَارَةٍ كَبِيرَةٍ فَبَشِيرَةٍ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ

کہ بشارت دے ہیں بطیفیل اس کے ساتھ اس اشارت و بشارت اور بڑائی کے " پس بشارت دے اسے مغفرت اور بزرگ اجر کی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُبَشِّرِ صَلَوَةٍ تُبَشِّرُنَا بِهَا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِلَّهِ بِإِشَارَةِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما مبشر نبی پر کہ بشارت دے ہیں بطیفیل اس کے بشارت دیتے اور ڈراتے ہوئے ساتھ اس

نَذَارَةٍ فِي اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِلتَّوْمِنِ وَاللَّهُ

بشارت و انداز کے جو محض اللہ کے لیے ہے " بیشک ہم نے بھیجا آپ کو شاہد اور مبشر و نذیر بنا کر تاکہ تم ایمان لاؤ ساتھ اللہ

وَرَسُولِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُنذِرِ صَلَوَةٍ تُنذِرُنَا بِهَا مِنْ

اور اس کے رسول کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما منذر نبی پر کہ ڈرائے ہیں بطیفیل اس کے

خَشِيَّتِكَ بِإِنذَارٍ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنْ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ

اپنی خشیت سے ساتھ اس انذار کے "تم صرف اسے ڈرتے ہو جو ذکر و قرآن کی اتباع کرے اور رحمن سے خوف کھانے حالت غیب میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نُورِ صَلَاةٍ تُنَوِّرُنَا بِهَا نُورَ مُنتَهَى الْعَارِفِينَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما نور مجسم پر کہ نورانی بنائے ہیں بطفیل اس کے ساتھ نور کے جو منتہا ہے اہل عرفان کا

إِلَى مَرْكَزِ جَلَالِ نُورِ الْمُبِينِ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُمَّ صَلِّ

طرف نور مبین کے مرکز جلال کے " اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سِرَاجِ صَلَاةٍ تَبْهَجُنَا بِهَا بِهَجَّةٍ قَبْرٍ حَقَائِقِ صِدْقِ انِّيَّتِكَ

و سلام نازل فرما سراج منیر پر کہ رونق و نورانیت بخشے بطفیل اس کے اپنے صمدانی حقائق کے ماہتاب والی رونق و نورانیت

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا

بارکت ہے وہ ذات جس نے بنائے آسمان میں برج اور بنائے ان میں چراغ (آفتاب) اور نورانی

مُنِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مِصْبَاحِ صَلَاةٍ تُصْبِحُنَا بِهَا

چاند۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما مصباح پر کہ روشن فرمائے ہیں بطفیل اس صلوٰۃ کے ساتھ

بِقِصَاحَةٍ صَرَاحَةٍ صَبَاحَةٍ مِثْلُ نُورِ كِبْشَكُوَّةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ

اس واضح اور صریح نورانیت و صباحت کے " کیفیت اس کے نور کی مانند کیفیت اس چراغ کے ہے جو طاق میں ہو

الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى هُدَى صَلَاةٍ تَهْدِينَا

اور وہ چراغ شیشہ میں ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما مجسم ہدایت پر کہ ہدایت دے ہیں مخلوق میں سے

بِهَا مِنَ الْخَلْقِ إِلَى الْحَقِّ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا

بطفیل اس کے حق تعالیٰ کی طرف " اور کہا انہوں نے سب ثناء اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس امر کی ہدایت دی اور ہم ذاتی طور پر

كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَهْدِيِّ صَلَاةٍ

ہدایت پانے کے لائق نہیں تھے اگر اللہ کی ہدایت نہ ہوتی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما مہدی نبی پر کہ ہدایت دے

تَهْدِينَا بِهَا طَرِيقَ مَحَبَّتِكَ وَقُرْبَ وَصِلِ أَصْلِكَ بِصِرَاطِ إِهْدَانَا

ہمیں بطفیل اس کے اپنی محبت اور قرب و وصل اصل کے راستہ کی ساتھ اس راہ کے

الصَّارِطِ الْمُسْتَقِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُنِيرِ صَلَاةٍ تُتَوَرَّنَا بِهَا

چلا ہمیں راہ راست پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما منیر نبی پر کہ منور فرمائے ہمیں بطیفیل

بَلَوَامِعِ بَوَارِقِ شَوَارِقِ نُورٍ ذَاتِكَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي

اس کے اپنے نور ذات کے اسرافات اور تجلیات اور انوار کے ساتھ " اور بعض لوگ ہیں جو جھگڑاتے ہیں

اللَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُتِينٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اللہ تعالیٰ میں بغیر علم اور رشد و ہدایت کے اور روشن کتاب کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما داعی نبی پر

دَاعِ صَلَاةٍ تَدْعُونَا بِهَا إِلَى تَوْحِيدِ بَقَاءِ شَهْوَدِ وَصَلِكَ وَذُرْوَةِ لِقَاءِ

کہ بلائے ہمیں بطیفیل اس کے طرف اپنی توحید و بقا اور شہود و وصل کے اور اپنے وجود اصلی کی لقاء و اسے

وَجُودِ أَصْلِكَ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا

بلند تر مقام کے " اور جو عبادت کرے اللہ کے ساتھ دوسرے الہ کی نہیں دلیل اس کے لیے اس پر تو حساب اس کا

حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَدْعُوِّ صَلَاةٍ تَدْعُونَا بِهَا

صرف اس کے رب تعالیٰ کے ہاں ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما بلائے ہوئے نبی پر کہ بلائے ہمیں بطیفیل اس صلوٰۃ

بِدَعْوَةِ الْخَلْقِ إِلَى الْحَقِّ وَهُوَ الْحَقُّ حَقٌّ وَقِيلَ ادْعُوا لِلَّهِ أَوْادُ الرَّحْمَنِ

کے واسطے دعوت خلق الی الحق کے اور وہی حق حقیقی ہے " اور فرما دیکھئے پکارو اللہ کو یا رحمن کو۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُجِيبِ صَلَاةٍ تُجِيبُنَا بِهَا دَعَاءَ نَاجِحِينَ نَتَّجِحُكَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما مجیب نبی پر کہ بطیفیل اس صلوٰۃ کے قبول فرمائے ہماری دعائیں جبکہ ہم تجھ سے

رَاغِبًا وَافِيًا بِوَفَاءِ عَهْدِكَ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ

مناجات کریں از روئے رغبت کے اور رفا عہد کرتے ہوئے " میں قبول کرتا ہوں دُعا کرنے والوں کی دعا کو جبکہ وہ مجھ سے سوال کرے۔

وَسَلِّمْ عَلَى مُجِيبِ صَلَاةٍ تُجِيبُنَا بِهَا سُؤَالَ النَّاجِحِينَ نَسْأَلُكَ رَاجِيًا خَائِفًا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما مقبول الدعاء نبی پر کہ بطیفیل اس کے قبول کرے ہمارے سوال کو جبکہ ہم سوال کریں امید رکھتے ہوئے

كَافِيًا يَا جَابِلَةَ دَعْوَةٍ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

خوف کھاتے اکتفاء کرتے ساتھ قبولیت دعا کے " مجھ سے دُعا کرو میں قبول کروں گا " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

حَفِيَّ صَلَاةٍ تَحْفِي بِهَا وَالطُّفْنَا بِخَفِيَّ خَفِيَّ لَطْفِكَ الْخَفِيَّ الْخَفِيَّ الْخَفِيَّ

شفیق نبی پر کہ شفقت فرمائے بظہیر اس کے اور لطف و کرم فرما ہم پر ساتھ اپنے خفی ترین لطف خفی کے

الْخَفِيَّ وَيَا كَرَامٍ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّكَ كَانَ بِي حَفِيًّا اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

اور ساتھ اس اکرام و اعزاز کے "ضرور استغفار کروں گا تیرے لیے اپنے رب کے بیشک وہ ہے مجھ پر شفیق اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَيَّ عَفْوِ صَلَاةٍ تَعْفُو بِهَا عَنَّا خَطَايَا نَا الْجَلِيَّةِ وَالْخَفِيَّةِ يَا نَاكَ

سلام نازل فرما درگزر فرمانے والے نبی پر کہ مٹائے بسبب اس کے ہم سے جلی و خفی خطائیں کیونکہ تو

عَفْوُ تَحِبُّ الْعَفْوُ قَاعُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

درگزر فرمانے والا ہے اور عفو کو پسند فرماتا ہے پس ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما اے اللہ صلوات و سلام

عَلَى وَرَبِّي صَلَاةٌ تُوَلِّينَا بِهَا بَوْلَايَةَ الْحَقِّ وَبِرُودِ آدَةِ الْحَقِيقَةِ الْحَقِّ

نازل فرما ولی نبی پر کہ ہم سے دوستی فرمائے بظہیر اس کے حقیقی دوستی اور حقیقی حقیقت کی محبت

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَرَبِّي وَلَا شَفِيعَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

نہیں اس کے لیے اللہ کے علاوہ ولی اور شفیع " اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما برحق نبی پر

حَقِّ صَلَاةٌ تَحَقِّقُنَا بِهَا بِحَقِّ الْحَقِّ وَحَقِيقَةِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ

کہ متحقق فرمائے ہمیں بظہیر اس کے حقیقی حق اور حقیقت محمدیہ کے ساتھ اور وہی حق ہے اور

وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلُّ إِي وَرَبِّي إِنَّكَ لِحَقِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آپ سے معلوم کرتے ہیں آیا وہ حق ہے؟ فرمادو۔ ہاں اور قسم ہے رب تعالیٰ کی بیشک وہ حق ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلَى قَوِيَّ صَلَاةٌ تُقْوِي بِهَا قُوَّتَنَا الرُّوحِيَّةَ بِتَقْوِيَّةِ الْإِيمَانِ وَالْإِيْقَانِ

نازل فرما صاحب قوت نبی پر کہ عطا کرے ہمیں بظہیر اس کے روحی قوت ساتھ ایمانی و ایقانی تقویت کے

إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ أَمِينٍ صَلَاةٌ تَأْمِنُ بِهَا

بے شک اللہ تعالیٰ البتہ قوی و عزیز ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما امین نبی پر کہ امین بنے بظہیر اس صلوات کے

بِأَمِينِ الشَّرِيعَةِ وَالطَّرِيقَةِ وَالْحَقِيقَةِ وَالْمَعْرِفَةِ بِمَا قَالَ

اپنے امین شریعت و طریقت اور حقیقت و معرفت کو بسبب اس کے جو فرمایا اس

الْأَمِينُ الْكَامِلُ فِي كَلَامِهِ تَعَالَى إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ اللَّهُمَّ

امین کامل نے جیسے کہ کلام مجید میں ہے " بیشک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں۔ " اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَا مَوْنٍ صَلَوَةٌ تَفْرِجُ بِهَا عَنَّا ضِيقَ الْكُونَيْنِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما مامون نبی پر کہ دور فرمائے ہم سے بطفیل اس کے کونین کی تنگی

وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا نَطِيقُ فِي الدَّارَيْنِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ غَيْرُ مَا مَوْنٍ

اور نہ ڈال ہم پر دونوں جہان میں جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ بیشک تیرے رب کے عذاب اطمینان نہیں ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى كَرِيمٍ صَلَوَةٌ تُكْرِمُنَا بِهَا بِنُزُلِكَ مَنْزِلًا

اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما کریم نبی پر کہ مکرم بنائے ہمیں بطفیل اس کے ساتھ اپنی مہمانی کے عزت اور

لِلْكَرَامَةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِتَنْزِيلِ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَسَّرِقٌ كَرِيمٌ اللَّهُمَّ صَلِّ

مغفرت والی منزل میں ساتھ نازل فرمائے " واسطے ان کے مغفرت ہے اور عزت والا رزق۔ " اے اللہ صلواۃ

وَسَلِّمْ عَلَى مُكْرِمٍ صَلَوَةٌ تُكْرِمُنَا بِهَا بِتِلَاكِهِ كَرَامَةً بِالشُّكْرِ وَالْمَغْفِرَةِ

اور سلام نازل فرما صاحب اکرام نبی پر کہ اکرام بخشنے ہمیں بطفیل اس کے تکریم و تعظیم والی کرامت اور

وَالْتَّجِيلِ وَالتَّجَلُّلِ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ

تعظیم و جلالت والی نعمت کے ذریعے " لیکن انسان جب آزمائے اسے اس کا رب پس عزت اور نعمت دے

فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَكِينٍ صَلَوَةٌ تُمَكِّنُنَا

تو وہ کہتا ہے میرے رب مجھے عزت دی۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما صاحب مکانت نبی پر کہ ٹھکانا بخشنے ہمیں

بِهَا مَدَارِجَ فَتَاءِ الْأَطْلَقِ إِلَى مَعَارِجِ بَقَاءِ الْمَطْلُوقِ بِأَنَّهُ لَقَوْلِ رَسُولٍ

فتاء مطلق کے مدارج سے ترقی دے کر بقاء مطلق کے بلند مقامات تک بسبب اس کے " بیشک وہ قول ہے بزرگ رسول کا

كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَتِينٍ

جو صاحب قوت ہے مالک عرش کے پاس جاگزین ہے۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما صاحب مکاتب نبی پر

صَلَوَةٌ تَثْبِتُنَا بِهَا بِحَبْلِ الْبَيْتَيْنِ بِحُرْمَتِ وَأُمْلِي لَهُمُ إِنَّ كَيْدِي

کہ ثابت رکھے ہمیں بطفیل اس کے ساتھ مضبوطی (قرآن) کے بحرمت اور میں مہلت دیتا ہوں انہیں بیشک میری خفیہ

مَتِينٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُبِينٍ صَلَوةٌ تَبَيَّنَ لَنَا بِهَا حَقَائِقُ

تدبیر پائیدار ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما نبی مبین پر کہ واضح کرے بظہیر اس کے ہم پر حق کو اپنی

وَحَبَابِ عِيُوبٍ وَحَدِيثِكَ وَالْعُرْفَاءُ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ

وحدت کے حجاباتِ عیوب سے اور عرفاء جانتے ہیں کہ "بے شک اللہ ہی واضح حق ہے"

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُؤَمِّلٍ صَلَوةٌ تُؤَمِّلُ بِهَا أَمْالَنَا فِي دَرْكِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما امید دلانے والے نبی پر کہ امید والے بنائے بظہیر اس کے ہماری آرزوں کو حقائقِ اشیاء

حَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ كَمَا هِيَ وَهُوَ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا اللَّهُمَّ

کے پانے میں جیسے کہ وہ ہیں "اور وہ بہتر ہے تیرے رب کے ہاں از روئے ثواب کے اور بہتر ہے از روئے آرزو مندی کے۔ اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى وَصُولٍ صَلَوةٌ تُوَصِّلُنَا بِهَا بِحُصُولِ قَبُولِ أُمُورٍ

اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما واصل فرمانے والے نبی پر کہ واصل فرمائے ہمیں بظہیر اس صلوٰۃ کے اصول و وصول تک بسبب حصول قبول

وَصُولٍ بِوَصْلِ أَصْلِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کے بسبب وصل اصل کے "جس کے وصل کا اللہ نے امر فرمایا ہے" اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى ذِي قُوَّةٍ صَلَوةٌ تُقْوِي بِهَا هِمَمَنَا عَلَى الْإِسْتِقَامَةِ فِي اللَّهِ إِنَّ

صاحبِ قوتِ نبی پر کہ قوی بنائے بظہیر اس کے ہماری ہمتوں کو اللہ کی راہ میں استقامت پر "بیشک اللہ ہی

اللَّهُ هُوَ الرِّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى ذِي حُرْمَةٍ

بہت روزی رساں۔ صاحبِ قوت۔ صاحبِ استحکام ہے" اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محترم نبی پر کہ محترم

صَلَوةٌ تُحَرِّمُنَا بِهَا بِحُرْمَاتِ قُرْبِكَ عَنْ قُرْبَاتِ بَعْدِكَ فِي جِهَادِ

بنائے ہمیں بظہیر اس کے قرب کی عزتوں کے ساتھ دور کرتے ہوئے مقاماتِ بعد سے جہادِ نفس میں

النَّفْسِ وَالْحُرْمَاتِ قِصَاصٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى ذِي مَكَانَةٍ

اور حرمتِ والی اشیاء قابلِ قصاص ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما صاحبِ مکانتِ نبی پر

صَلَوةٌ تَرْفَعُ بِهَا دَرَجَتَنَا وَتُبَلِّغُ بِهَا كَرْبَتَنَا وَتُقَرِّبُ

کہ بلند فرمائے بظہیر اس کے ہمارے درجہ کو اور روشن کرے ہماری دلیل کو اور دور کرے رنج و کرب کو اور کشائشِ بخشش سے ہمیں عزت

بِهَا غُرِبْنَا إِلَى يَوْمٍ يُنَادِي مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

سے اس دن تک جب نداء سے گا منادی قریبی مکان سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

ذِي عِزِّ صَلَوةٍ تُعْزِنَا بِهَا بِعِزِّ جَلَالِكَ وَبِجَلَالِ عِزَّتِكَ وَجِبَالِ

معزز نبی پر کہ عزت بخشے ہمیں بطیفیل اس کے اپنے عز جلال و جلال عزت و جمال عظمت

عُظْمَتِكَ وَعُظْمَةِ جِبَالِكَ وَكِبَالِ قُدْرَتِكَ وَقُدْرَتِ كِبَالِكَ إِنَّ

اور عظمت جمال و کمال قدرت اور قدرت کمال کے ساتھ "بے شک تمام عزت

الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى ذِي فَضْلِ صَلَوةٍ

اللہ ہی کے لیے ہے " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما صاحب فضل نبی پر کہ فضیلت بخشے

تَفْضُلُنَا بِهَا بِفَضِيلَةِ إِمَامِ فَضْلِ عُظْمَتِكَ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ

ہمیں بطیفیل اس کے اپنی عظمت کا ملکہ کے امام کی فضیلت کے ساتھ " اور اللہ تعالیٰ عظیم فضل والا

الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُطَاعِ خَلْقِكَ وَطَاعَةِ كِبَالِهَا شَرِيعَةَ

ہے۔ " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما مطاع خلائق پر کہ اطاعت گزار بنائے ہمیں بطیفیل اس کے شریعت

الْمُحَمَّدِيَّةِ وَطَرِيقَةَ الْأَحْمَدِيَّةِ وَحَقِيقَةَ السَّرْمَدِيَّةِ وَمَعْرِفَةَ

محمدیہ طریقت احمدیہ۔ حقیقت سمردیہ اور معرفت الہیہ کا بسبب اس

الْإِلَهِيَّةِ بِاطَاعَةِ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اطاعت کے " اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کی " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُطِيعِ صَلَوةٍ تُطِيعُنَا بِهَا الْقَالَ وَالْحَالَ إِلَى ذَلِكَ الْقَالَ وَالْحَالَ

اپنے مطیع فرمان پر کہ اطاعت گزار بنائے ہمیں قال و حال میں مطابق اس قال و حال کے " جو اطاعت کرے

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى قَدَمِ

رسول اللہ کی تو تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سچے پیشوا

صَدِيقِ صَلَوةٍ تُقَدِّمُنَا بِهَا إِلَى صَدِيقِ الْبَصْدِ وَقَيْنِ الْمُقَرَّبِينَ

پر کہ آگے بڑھائے ہمیں بطیفیل اس کے تصدیق کئے ہوئے مقربین محبوبین کے صدق تک جو

الْمَحْبُوبِينَ الْبَشِيرِينَ وَبَشِيرِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ لَهُمْ قَدْ صَدَّقَ

یہ بشارت دئے گئے ہیں اور بشارت دو اہل ایمان کو کہ ان کے لیے ہے سچی پیش قدمی

عِنْدَكَ رَبِّهِمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رَحْمَةِ صَلَاةٍ تَرْحُمُنَا بِهَا

رب تعالیٰ کے ہاں " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سراپا رحمت نبی پر کہ رحمت فرمائے ہم پر بطفیل اس

مِنْ أَمْوَاجٍ بِحُرُجُودِ إِحْسَانِكَ الْوَاسِعِ الَّذِي لَا سَاحِلَ لَهُ وَلَا

کے اپنے وسیع ترین احسان وجود کے سمندر کی امواج سے جس کا نہ کنارہ ہے اور نہ انتہاء ہے

غَايَةَ لَهُ إِلَّا أَنْ رَحْمَةً اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

غور سے سو بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى بَشْرِي صَلَاةً تُبَشِّرُنَا بِهَا بِغَايَةِ بِدَايَةِ نَهَايَةِ آيَةٍ لَّهُمْ

و سلام نازل فرما سراپا بشارت نبی پر کہ بشارت دے ہمیں بطفیل اس صلوٰۃ کے ساتھ غایت بدایت اور نہایت آیت کے انہیں کے

الْبَشْرِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

یہ ہے بشارت حیات دنیا اور آخرت میں " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

غُوثِ صَلَاةً تُغِيثُنَا بِهَا يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ اَعْتِنَا اَنْ

فریاد رس نبی پر کہ فریاد رسی فرمائے ہماری بطفیل اس صلوٰۃ کے اے فریاد رس فریاد یوں کے ہماری فریاد کو پہنچ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

نہیں معبود برحق مگر تو۔ تو پاک ہے۔ بیشک میں ظلم و تعدی والوں سے تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى غَيْثِ صَلَاةٍ تُسْقِينَا بِهَا مِنْ شَرَابِ مُشَاهِدَاتِ فَحْبَتِكَ

و سلام نازل فرما مجسم باران رحمت پر کہ پلائے ہمیں بطفیل اس کے اپنے مشاہدات محبت کی شراب کے ساتھ اس

بِسْقَايَةِ نَهَايَةِ وَسَقْتَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

سقایت کے اور پلایا انہیں ان کے رب نے پاکیزہ مشروب " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

غِيَاثِ صَلَاةً تُغِيثُنَا بِهَا غِيَاثًا مُغِيثًا يَا مُغِيثُ اَعْتِنَا رَحْمَتِكَ الَّتِي

فرما فریاد رس پر کہ فریاد رسی فرمائے ہماری بطفیل اس کے ساتھ شراب کرنوالی بارش کے اے مغیث ہماری امداد فرما ساتھ

وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ نِعْمَتِ اللَّهِ صَلَوةً

رحمت کے جس نے ہر شئی کا احاطہ کر رکھا ہے، اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما اپنی مجسم نعمت پر کہ انعام فرمانے ہو پر

تَنْعِمْنَا بِهَا مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا

بطغیل اس کے ساتھ ان حضرات کے جن پر تو نے انعام فرمایا نہ ان کے ساتھ جن پر غضب کیا گیا اور نہ مگر ہوں کے

الضَّالِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ هِدَايَةِ اللَّهِ صَلَوةً تَهْدِي

ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما اپنے مجسم ہدیہ پر کہ بطغیل اس کے ہمیں ہدیہ

لَنَا بِهَا هِدَايَةَ الْعُرْفَانَ بِهَدْيِهِ الْهُدَايَةَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ

وے ہدایت عرفان کا بسبب اس ہدیہ ہدایت کے۔ بے شک میں بھیجنے والی ہوں طرف ان کے

بِهَدْيِهِ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ عُرْوَةَ الْوُثْقَى صَلَوةً تُثَبِّتُنَا

عظیم ہدیہ " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما عروہ وثقی پر کہ ثابت قدم رکھے ہمیں بطغیل اس کے

بِهَا أَبَدًا أَبَدًا بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْقِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساتھ مضبوط سہارے کے جس میں انقطاع نہیں ہے اور اللہ سننے جاننے والا ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ صِرَاطِ اللَّهِ صَلَوةً تُسَلِّكُنَا بِهَا مَسْلَكَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما اپنے صراط اور سبیل ذات پر کہ چلائے بطغیل اس کے ہمیں اپنے عباد

صِرَاطِ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

صالحین کے راہ سلوک پر " جن پر نہ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمزدہ

يَحْزَنُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ صَلَوةً

ہوں گے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سراپا صراط مستقیم پر کہ بطغیل اس کے ہمیں

تُسْتَقِيمُنَا بِهَا هِدَايَةَ كَامِلَةً يَدْعَاؤُا هِدَانَا الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ

استقامت بخشنے ہدایت کاملہ پر بطغیل اس دعا کے " چلا ہمیں راہ راست پر "

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ ذِكْرُ اللَّهِ صَلَوةً تُطَهِّرُنَا بِهَا قُلُوبَنَا كَمَا قَالَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما ذکر اللہ پر کہ مطہن ہوں ساتھ اس صلوٰۃ کے ہمارے قلوب جیسے کہ فرمایا

اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ

جو ایمان لائے اور اطمینان پاتے ہیں دل ان کے اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ آگاہ رہو اللہ کے ذکر کے ساتھ

الْقُلُوبُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّفِ اللَّهِ صَلَاةً تَقْطَعُ بِهَا

ہی تسلی پاتے ہیں قلوب۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیف اللہ پر کہ قطع فرماوے بطفیل اس صلوٰۃ کے بارے

هُوَ اجْسَ قُلُوبِنَا بِالسُّيُوفِ الصَّارِمَاتِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ

دلوں کے برے خیالات ساتھ کاٹنے والی تلواروں کے حکم دینے والے ہیں نیکی کا اور

وَالنَّاهِي عَنِ الْمُنْكَرَاتِ الشَّامِلِ نَصْرٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٍ قَرِيبٍ

منع کرنے والے ہیں برائیوں سے۔ اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے جو سب کو شامل و محیط ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى حِزْبِ اللَّهِ صَلَاةً تَغْلِبُنَا بِهَا بِذِكْرِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما اللہ کی جماعت پر ایسی صلوٰۃ کہ غالب آئے ہم پر ساتھ اس کے جذبہ ذکر

وَعَلْبَةِ الْفِكْرِ الْأَرَانِ حِزْبِ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور غالبیہ فکر آگاہ رہو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى النُّجْمِ الثَّاقِبِ صَلَاةً تَشُقُّ بِهَا طُرُقَنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِجُودِ

روشن ستارے پر ایسی صلوٰۃ کہ روشن کرے بسبب اس کے ہمارے راستے راہ خدا میں ستاروں کے

الْكَوَاكِبِ وَيَشُقُّ النَّجْمِ الثَّاقِبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُصْطَفَى

ظہور اور روشن ستارے کی روشنی کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما مصطفیٰ کریم پر

صَلَاةً تَصْطَفِينَا بِهَا فِي الْمَقَامَاتِ الْأَصْطَفَاءِ وَالْكَرَامَاتِ

ایسی صلوٰۃ کہ چن لے ہمیں بطفیل اس کے پسندیدہ مقامات اور مقبول بزرگیوں اور

الْإِرْتِضَائِيَّةِ وَالْإِرْتِقَائِيَّةِ وَلَقَدْ اصْطَفَيْتَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي

ترقیوں میں۔ البتہ تحقیق چن لیا ہے ہم نے انہیں دنیا میں اور بے شک وہ

الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُجْتَبَى صَلَاةً

آخرت میں البتہ صالح لوگوں سے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج مجتبیٰ پر ایسی صلوٰۃ کہ

تَجْتَبِينَا بِهَا يَا جُتْبَاءِ الْعُطُوفَةِ الرَّءُوفَةِ فَاجْتَبِهِ رَبُّهُ فُجَعَلَهُ مِنْ

چن لے ہیں اس کے طفیل ساتھ اس لطف و رافت والے چناؤ کے "پس چن لیا انہیں ان کے رب نے پس کر دیا انہیں

الصُّلِحِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُتَّقِي صَلَاةٍ تَنْتَقِينَا بِهَا

صالحین میں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما پاکیزہ ذات پر ایسی صلوٰۃ کہ پاکیزہ فرمادے ہیں طفیل اس کے

بِكِرَامِ ذِي الْكِرَامِ لَكَ وَيَجَلَالِ ذِي الْجَلَالِ لَكَ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ

اپنے اہل کرامت کی بزرگی اور جلالت والوں کی جلالت کے ساتھ "با برکت ہے تیرے رب کا نام

ذِي الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ اُمَّيَّ صَلَاةٍ تُعَلِّمُنَا

جو جلال و اکرام کا مالک ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما امی نبی پر ایسی صلوٰۃ کہ سکھانے میں

بِهَا حَقَائِقَ الْاِمَانِي بِفَصَاحَةٍ بَرَاعَةٍ وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ

بطفیل اس کے تمناؤں کے حقائق ساتھ فصاحت اور برتری کے " اور ان میں سے بعض امی ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو

الْكِتَابَ اِلَّا اَمَانِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مُخْتَارِ صَلَاةٍ تَخْتَارُ

ماسوائے کھوٹھی آرزوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما اپنے مختار پر ایسی صلوٰۃ کہ اختیار فرمائے

لَنَا بِهَا بِجَبِيلٍ حَمِيدٍ اِخْتِيَارِكَ فِي جَمِيْعِ تَوَجُّهَاتِنَا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا

ہمارے لیے بسبب اس کے اپنے خوبصورت قابل ستائش اختیار کو ہمارے جملہ توجہات میں " اور رب تیرا پیدا کرتا ہے

يَشَاءُ وَيَخْتَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ اَجْرِ صَلَاةٍ تُجِيرُنَا بِهَا اَجْرٌ

جو چاہتا ہے اور اختیار فرماتا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما مستحق اجر پر ایسی صلوٰۃ کہ پہنچائے بطفیل اس

عَظِيْمًا وَاللَّهُ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيْمٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ جِبَارِ صَلَاةٍ

کے ہیں اجر عظیم " اور اللہ ہی کے پاس ہے اجر عظیم۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما جبار پر ایسی صلوٰۃ

تُجِيرُنَا بِهَا عَلَى الْحَسَنَةِ وَتُجِيرُنَا بِهَا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَتُخْرِجُنَا بِهَا مِنَ

کہ مجبور کرے تو بسبب اس کے ہیں نیکی پر اور دور کرے بسبب اس کے ہم سے برائیاں۔ اور نکالے ہیں سرکشی سے

الشَّرِّ دَالِبَاعِثِ لِقَوْلِ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَارٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

جوابت ہے ان کی بسبب اس قول کے " اور نہیں ہیں آپ ان پر جبر کرنے والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

أَبِي الْقَاسِمِ صَلَوَاتُكَ تُقَسِّمُ بِهَا عَلَيْنَا وَعَلَى ذُرِّيَّتِنَا كَأَسَاكِينِ الْفَرْدِوسِ

ابو القاسم پر کہ جس صلوات کے ذریعے تقسیم فرمائے ہم پر اور ہماری اولاد پر جنت الفردوس کے جام

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأَسَاكِينٍ مِزَاجُهُا زَنْجَبِيلٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

اور پلائے جاتے ہیں اس میں جام جن میں زنجبیل کی آمیزش ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

أَبِي الطَّاهِرِ صَلَوَاتُكَ تُطَهِّرُنَا بِهَا وَذُرِّيَّتِنَا بِطُهورِ طُهورِ سُرُورِ انبِيَاءِ رِيْدِ

ابو الطاہر پر کہ جس صلوات کے طفیل پاک فرمائے ہمیں اور ہماری اولاد کو ساتھ طور اور ظہور اس سرور کے جزیں نسبت

اللَّهُ لِيَذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسُ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللَّهُمَّ

کہ ارادہ رکھتا ہے اللہ کہ لے جائے تم سے پلیدی اے اہل بیت اور پاک کرے جیسے کہ حق ہے طہارت کا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ أَبِي الطَّيِّبِ صَلَوَاتُكَ تُطَيِّبُنَا بِهَا بِتَطْيِيبِ الطَّيِّبِ

صلوات و سلام نازل فرما ابو الطیب پر کہ جس صلوات کے طفیل ہمیں پاک کرے اس پاکیزہ ترین طہارت کے

الطَّيِّبِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ

ساتھ " اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَيَّ أَبِي إِبرَاهِيمَ صَلَوَاتُكَ تُثَبِّتُنَا بِهَا مَعَ أَوْلَادِنَا عَلَيَّ بِلَدِّ خَيْلِ

و سلام نازل فرما ابو ابراہیم پر کہ جس صلوات کے طفیل ہمیں مع اولاد کے ثابت قدم رکھے ملت خلیل اللہ پر

اللَّهُ وَيَسُوْدَةٌ حَبِيْبِ اللَّهِ رَبِّ لَا تَدْرِنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ اللَّهُمَّ

اور حبیب اللہ کی محبت پر اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو ہی بہترین وارث ہے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مُشَفِّعِ صَلَوَاتُكَ تُقْبَلُ بِهَا فِينَا شَفَاعَتُهُ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ

صلوات و سلام نازل فرما مقبول الشفاعت پر جس صلوات کے طفیل قبول کی جائے ان کی شفاعت ہمارے حق میں جس دن نہ نفع

الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَدِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

وے کا شفاعت کسی کی مگر جس کو رحمن اذن دے اور اس کا قول پسند کرے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَيَّ شَفِيعِ صَلَوَاتُكَ تُشَفِّعُنَا بِهَا بِشَفَاعَةِ حَسَنَةِ لَيْكُنْ لَكَ نَصِيْبٌ

و سلام نازل فرما ہمارے شفیع پر کہ جس صلوات کے طفیل ہمیں حسین شفاعت عطا کرے کہ انہیں اس کا عظیم اجر ملے

مِنْهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ صَالِحِ صَلَوةٍ تُصَلِّحُنَا بِهَا صَلَاحَ

میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما اس سراپا صلاح و تقویٰ پر کہ جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں محبت شریفی کے

الْمَحَبَّةِ الشَّرِيفَةِ وَقَلَابِ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ بِرِيَاحِ رَوَاحِ فَصَاحِ

اہل بنائے اور بلند تر درجہ والی فلاح بطفیل ان روح پرور کشادگی بخش ہواؤں کے۔

وَالصُّلْحِ خَيْرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُصَلِّحِ صَلَوةٍ تُصَلِّحُ بِهَا

اور صلح سراسر خیر ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما مصلح پر جس صلوٰۃ کے طفیل اصلاح فرمانے

أَحْوَالِنَا بِهَذَا آيَةِ الْوِلَايَةِ وَبِرَشَادَةِ الْبِغَايَةِ مِنَ الْمَصْلِحِ اللَّهُمَّ

ہمارے احوال کی ساتھ ہدایت ولایت کے اور ساتھ طلب و آرزو کی درستگی کے اس مصلح سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مَهْمِينِ صَلَوةٍ تَحْفَظُنَا بِهَا بِوَجُودِ شَهُودِكَ الْوُؤْمِنِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما نگہبان پر کہ محفوظ فرمائے ہمیں بطفیل اس کے اپنے وجود و شہود کے ساتھ "امن دینے والے

الْمَهْمِينِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ الْمُتَكَبِّرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ صَادِقِ

نگہبان۔ عزیز۔ جبار۔ صاحب کبریا، " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما صادق پر

صَلَوةٍ تُصَدِّقُنَا بِهَا بِتُصَدِّيقِ الْقَالَ وَتَحْقِيقِ الْحَالِ وَفَنُ أَصْدَقِ

کہ سچا کرے ہمیں بطفیل اس کے ساتھ تصدیق اقوال کے اور تحقیق حال کے اور کون ہے زیادہ سچا

مِنَ اللَّهِ قِيلًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُصَدِّقِ صَلَوةٍ تُصَدِّقُ

اللہ تعالیٰ سے از روئے قول کے " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما تصدیق کرنے والے پر کہ اس صلوٰۃ سے

بِهَارِجَاءَ بَقَائِنَا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللَّهُمَّ صَلِّ

سچا کر دے ہماری بقاء کی امید کو " اور کون ہے زیادہ سچا اللہ تعالیٰ سے از روئے بات کے " اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ صَدِّقِ صَلَوةٍ تُصَدِّقُنَا بِهَا أَصْدَقَ الْقَوْلِ فِي الذِّكْرِ

و سلام نازل فرما مجسمہ صدق پر کہ جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں سب سے زیادہ صدق عطا کرے قول میں

وَأَنْجَحَ الْحَوْلَ فِي الْفِكْرِ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا

اور کامیاب ترین قوت فکر کی " اور کامل ہوئے کلمات تیرے رب کے از روئے صدق و عدل کے "

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَوةً تَهْدِيُنَا بِهَا إِلَى

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سید المرسلین پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں ہدایت عطا کرے

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ مَحَبَّتِكَ وَعِرْفَانِكَ كَمَا قُلْتَ لِسَيِّدِنَا

صراطِ مستقیم کی طرف جو کہ تیری محبت اور عرفان کی راہِ راست ہے جیسے کہ تو نے فرمایا ہمارے سردار

رَسُولِكَ إِنَّكَ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُمَّ

اور اپنے رسول کو بے شک آپ البتہ برحق مرسلین میں سے ہو راہِ راست پر ہو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى إِمَامِ الْمُتَّقِينَ صَلَوةً تُعْطِينَا بِهَا إِمَامًا كَامِلًا

صلوٰۃ و سلام نازل فرما امام المتقین پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں کامل و اکل امام عطا

مُكْمَلًا وَآتِقْنَا بِهَا عَن شُرُورِهَا أَنْفُسَنَا وَفِتْنِ أَمْوَالِنَا وَأَوْلَادِنَا رَبَّنَا

کرے اور بچائے ہمیں ہمارے نفوس کے شرور سے اور اموال و اولاد کے فتنوں سے۔ اے رب ہمارے

هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

بخش ہمیں ہماری بیویوں سے اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں متقین کا امام بنا دے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى قَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ صَلَوةً تَشُدُّ بِهَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما نورانی اعضاء والوں کے قائد ہر جس صلوٰۃ کے طفیل مضبوطی سے باندھ

زَمَانَنَا عَلَى صِرَاطِ الْإِسْتِقَامَةِ بِمَقَائِدِ الْغُرِّ الرَّضِيِّينَ صِرَاطِ الَّذِينَ

دے ہماری لگاموں کو راہِ استقامت پر نورانی چہروں والے پرندگان کے مقامات سے جو راہ ہے ان کی

أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى خَلِيلِ الرَّحْمَنِ صَلَوةً

جن پر تو نے انعام فرمایا اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما خلیلِ رحمن پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں

تُوَدِّدُنَا بِهَا بُوْدًا إِدْرِيًّا إِذْ دَخَلُوصِ خُصُوصِ خَصَائِصِ

عطا فرمادے مودت اور راست روی۔ خلوص وافر اور خصائصِ رحمن والی خصوصیت

الرَّحْمَنِ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

(کا عکس) اور بنا لیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما نوحو کار پر

صَلَاةٌ تُبْرِرُ بِهَا أَقْوَالَنَا وَأَعْمَالَنَا وَأَحْوَالَنَا كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْإِبْرَارِ

کہ نیک بنانے بظہیر اس صلوات کے ہمارے اقوال اور اعمال و احوال یقیناً بیشک ابرار کا نامہ اعمال

لَفِي عِلِّيِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مُبْرِرِ صَلَاةٍ تُبْرِرُ الْإِبْرَارَ إِنَّ

البتہ علیین میں ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما برواحسان والے پر جو ابرار کو برواحسان والا

الْإِبْرَارِ لَفِي نَعِيمِ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ وَجِيهِ صَلَاةٍ تُوَجِّهُ

کردے بیشک ابرار البتہ نعیم میں ہیں " اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما وجاہت والے پر جس صلوات کے طفیل

لَنَا بِهَا بِجَمَالٍ وَجْهَكَ وَجَلَالَ عَظَمَتِكَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَ

ابرومند کرے ہمیں جمال ذات اور جلال عظمت کے ساتھ " وجاہت والے میں دنیا و آخرت میں

الْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ نَصِيحِ صَلَاةٍ

اور مقربین سے ہیں " اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما خالص نصیحت گر پر

تُنْصِحُنَا بِهَا بِنَاصِحِ تَوْحِيدِكَ وَأَمْحَاضِ تَمْجِيدِكَ وَلَا

جس صلوات کے طفیل ہمیں خالص کر دے اپنی خالص توحید اور کامل بزرگی کے لیے اور نہیں

شَرِيكَ لَكَ فِي الْهَيْتَةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَنْصَحُ لَكُمْ اللَّهُمَّ

شریک تیرے لیے الوہیت میں جیسے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے " اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ نَاصِحِ صَلَاةٍ تُنْصِحُنَا بِهَا بِإِخْلَاصِ التَّفْرِيدِ

صلوات و سلام نازل فرما ناصح پر جس صلوات کے طفیل خالص کر دے ہمیں ساتھ اخلاص تفرید کے

بِطَوْلِ تَعْبُدِكَ لَمْ نَعْلَمْ مَا هَيْتَتِكَ اللَّهُ قَالَ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ط

اپنی عبادت کی قوت سے۔ بے علم ہیں ہم تیری حقیقت سے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں تمہارے لیے قابل اعتماد ناصح ہوں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ وَكَيْلِ صَلَاةٍ تُوَكِّلُنَا بِهَا الْخَيْرَاتِ بِوَكَالَةِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما کارساز پر کہ جس صلوات کے طفیل توخیرات میں ہماری کارسازی فرمائے ساتھ وکالت

الْحَقِّ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مُتَوَكِّلِ

حق کے " اور کہا انہوں نے کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اور اچھا کارساز ہے وہ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل ہو متوکل پر

صَلَاةً تَتَوَكَّلْنَا بِهَا عَلَى ذَاتِكَ فِي جَمِيعِ أُمُورِنَا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں متوکل بنا دے اپنی ذات پر ہمارے تمام امور میں " اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے تو وہ

فَهُوَ حَسْبُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى كَفِيلِ صَلَاةٍ تُكْفِلُ بِهَا الْقَضَاءَ حَوَائِجِنَا

اسے کافی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما کفیل پر کہ جس کے طفیل کفالت فرمائے ہماری تمام

كَفِيلًا مُكْفِلًا مُتَكْفِلًا مُكْبَلًا وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اللَّهُمَّ

حاجات کے پورا کرنے میں کامل کفیل۔ مکمل متکفل۔ جیتھیت میں " اور تحقیق بنا لیا ہے تم نے اللہ کو اپنے اوپر کفیل اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى شَفِيعِ صَلَاةٍ تَشْفِقُنَا بِهَا بِشَفَقَةِ حَمْدِ الْحَامِدِينَ

اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما شفیق پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہم پر شفقت فرمائے ستائش کرنے والوں کی حمد والی

وَبِوَحْدَةِ تَوْحِيدِ الْمُوَحِّدِينَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ اللَّهُمَّ

شفقت اور موحدین کی توحید والی وحدت کے ساتھ " بے شک تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے " اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُقِيمِ السُّنَّةِ صَلَاةٍ تُقِيمُنَا بِهَا عَلَى السُّنَّةِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سنت قائم کرنے والے پر ایسی صلوٰۃ کہ اس کے طفیل قائم فرمائے ہمیں سنت

وَالْجَمَاعَةِ بِأَقَامَةِ حُدُودِ أَقِيمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ

اور جماعت پر ساتھ قائم کرنے ان حدود کے " قائم کرو نماز کو سورج ڈھلنے کے وقت سے رات کی تاریکی

اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا اللَّهُمَّ صَلِّ

پھانے تک اور نماز فجر کو۔ بے شک نماز فجر میں حاضری دی جاتی ہے " ملائکہ لیل و نہار کی طرف سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى مُقَدِّسِ صَلَاةٍ تُقَدِّسُنَا بِهَا قَلْبَ الْجُرُوعِ بِالتَّقْيِ وَ

و سلام نازل فرما پاکیزہ نبی پر جس صلوٰۃ کے طفیل پاک فرمائے بیصیر دلوں کو ساتھ تقویٰ کے اور حرصیں نفوس

نَفْسَ الْهَلُوعِ عَنِ الْهَوَىِّ بِتَقْدِيسِ الْمُقَدِّسِ طُوبَىٰ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ

کو خواہشات نفس سے مانند مقدس و ادوی طوبیٰ کی تقدیس کے " وہ اللہ ہے کہ نہیں معبود برحق مگر

إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رُوحِ

وہی۔ جو شہنشاہ۔ بہت پاکیزہ اور سلامتی والا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما (نبوی) روح

الْقُدُسِ صَلَاةً تَقْدِسُ بِهَا وَجُوهَنَا كُرُوحِ الْقُدُسِ الْمَقْدَسِ

مقدس پر کہ پاک فرمائے اس صلوات کے طفیل ہمارے چہروں کو مانند روح قدس مقدس کے ساتھ

بِالتَّفَرُّدِ وَالتَّجَرُّدِ بِرُؤَايِهِمْ لَوَائِحِ سَوَائِحِ وَأَيْدِنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ

یکتائی اور یکسوئی کے ساتھ ان پاکیزہ ہواؤں۔ تجلیوں اور کیفیات ظاہرہ کے اور تقویت دی ہم نے انہیں ساتھ روح القدس

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رُوحِ الْحَقِّ صَلَاةً تُحَقِّقُ بِهَا وَثُوقَنَا

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما روح حق پر جس صلوات کے طفیل کہ ثابت فرمائے ہمارا اعتماد حقیقت

بِحَقِيْقَةِ حَقِّ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

حق کے ساتھ۔ اور فرما دو آگیا حق اور دور ہو گیا باطل۔ بے شک باطل دور ہونے والا ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رُوحِ الْقِسْطِ صَلَاةً تُقْسِطُ لَنَا بِهَا مَحَبَّةً

اے اللہ صلوات و سلام ہو روح عدل پر جس صلوات کے طفیل ہمیں حصہ عطا فرمائے اہل عدل کی

الْمُقْسِطِينَ وَبِحُكْمٍ فَاحِكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

محبت سے اور اس حکم سے "پس حکم کرو درمیان ان کے عدل کے ساتھ بے شک اللہ تعالیٰ عدل والوں کو پسند کرتا ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى كَافِ صَلَاةً تُكْفِينَا بِهَا كِفَايَةَ وَوَدَادَةً

اے اللہ درود و سلام ہو کفایت فرمانے والے پر کہ بطفیل اس کے کفایت فرمائے اس کفایت اور محبت و موت اور

نَصَادَةً كَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور نصرت کی "کافی ہے اللہ تعالیٰ از روئے محبت کے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ از روئے مددگار ہونے کے۔ اے اللہ صلوات و سلام ہو مکتفی

مُكْتَفٍ صَلَاةً تُكْفِينَا بِهَا بِتَوَجُّهِ الْمَحَبَّةِ الذَّائِبَةِ الْجَاذِبَةِ إِلَى شَهْوَى

پر جس کے طفیل کفایت فرمائے ہمیں محبت ذاتیہ کی توجہ کے ساتھ جو کشش کرنے والی ہو تیری جلا لیت کے شہود

مُطْلَقِ جَلَدِ لَيْتِكَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

مطلق کی طرف " اور کافی ہے تیرا رب بطور ہادی اور مددگار کے۔ اے اللہ درود و سلام ہو

عَلَى بِالْبَالِغِ صَلَاةً تُبَلِّغُنَا بِهَا إِلَى نَيْلِ بَقَاءٍ لَا يَزَالُ إِنَّ اللَّهَ بِالْبَالِغِ أَمْرِهِ

کفایت مراتب خلق تک پہنچنے والے پر کہ پہنچائے بطفیل اس کے لازوال بقا کے حصول تک۔ بیشک اللہ تعالیٰ پہنچنے والا

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مُبَلِّغِي

اپنے مرتبہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے حد مقرر کر دی ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو تبلیغ رسالت فرمانے والے

صَلَاةٍ تَبْلُغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مَا لَا نَهَايَةَ لَهَا وَهُوَ هَذَا ابْلَغِي

پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں پہنچائے آخری حدوں تک جن کی انتہاء نہیں ہے اور یہی ہے تبلیغ واسطے

لِلنَّاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ شَافِي صَلَاةٍ تَشْفِينَا بِهَا عَنِ

انسانوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما شافی پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں شفا بخشتے

أَسْقَامِ الْخَطِيئَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ وَنُزِّلْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ

ظاہرہ اور باطنہ خطاؤں والی بیماریوں سے " اور نازل کرتے ہیں ہم قرآن سے وہ جو

شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اللَّهُمَّ

سراسر شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے اور نہیں زیادہ کرتا ظالموں کے لیے مگر خسراں و نقصان۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ وَاصِلِ صَلَاةٍ تُوَصِّلُنَا بِهَا إِلَى الْبِحْبَةِ وَالْهُدُودِ مِنْ

درود و سلام ہو واصل ذات پر کہ جس کے طفیل ہمیں واصل فرمائے محبت و مروت تک یعنی

تَعْطِيفِ تَالِيْفِ تَأْصِيفِ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ

اس عنایت و الفت اور ازالہ شدت تک محبت رکھتے ہیں ان سے مانند محبت باری تعالیٰ کے اور ایمان والے زائد ہیں

حُبًّا لِلَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مَوْصُولِ صَلَاةٍ تُوَصِّلُنَا بِهَا

محبت الہیہ میں۔ اے اللہ درود و سلام ہو شرف و وصل سے شرف پر کہ جس صلوٰۃ کے صدقے میں وصل عطا کرے

بِحْصُولِ وَصُولِ قَبُولِ تَدْبِيرِ تَيْسِيرِ تَسْخِيرِ تَسْبِيرِ أَسْرَارِ أَنْوَارِ

ہمیں ساتھ حصول و وصول اور قبول کے۔ تدبیر اور سہولت مہیا کر کے ساتھ تسخیر ان انوار کے اسرار کی سیر کے

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَابِقِ صَلَاةٍ تَسْبِقُنَا

اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے اور وہ محبت رکھتے ہیں اس سے۔ اے اللہ درود و سلام ہو سبقت لیجانے والے پر جس صلوٰۃ کے

بِهَا فِي زُمْرَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ

طفیل سبقت دے ہیں مقربین کی جماعت میں " اور سبقت والے ہی سبقت والے ہیں وہی مقرب ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَائِقِ تَسِيْقُنَا بِهَا إِلَى لِقَائِكَ فِي يَوْمٍ وَسَاعَةٍ

اے اللہ درود و سلام ہو چلانے والے پر کہ جس کی بدولت تو ہمیں چلانے اپنی ملاقات کی طرف بابرکت

وَوَقْتِ مُبَارَكَةٍ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ اللَّهُمَّ

دن اور ساعت اور وقت میں اور آئے گا ہر نفس جبکہ ساتھ اس کے ہو گا ہائے والا اور گواہ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى هَادٍ صَلَوَةٌ تَهْدِينَا بِهَا إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

صلوٰۃ و سلام نازل فرما ہادی خلأق پر کہ جس صلواۃ کی بدولت ہدایت فرمائے ہمیں عارفوں کے

الْعَارِفِينَ وَمَرْكَزِ جَلَالِ نُورِ الْمُبِينِ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

سدرۃ المنتہی تک اور نور مبین کے مرکز جلال تک پس جس نے میری ہدایت کی اتباع کی تو ان پر خوف نہیں

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُهْتَدٍ صَلَوَةٌ تَهْدِينَا بِهَا

ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اے اللہ درود و سلام ہو ہدایت یافتہ ذات اقدس پر کہ جس کی بدولت ہمیں ہدایت

أَسْرَارِ وَجُودِكَ الْأَعْلَى مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ

وے اپنے وجود اعلیٰ کے اسرار کی جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے پس وہی ہدایت پانے والا ہے۔ اے اللہ صلواۃ

وَسَلِّمْ عَلَى مُقَدِّمِ صَلَوَةٍ تُقَدِّمُنَا بِهَا إِلَى دَرَجَةِ الْبُؤْقِفِ فِي مَوَاقِفِ

و سلام ہو سب کے پیشوا پر جس صلواۃ کی بدولت آگے بھیجے ہمیں مقربین کے موافق سے کسی موقف کے

الْمُقَرَّبِينَ وَقَدْ مَنَّا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا

درجہ تک۔ اور آئے ہم طرف ان کے اعمال کے پس کر دیا ہم نے انہیں سورج کی روشنی میں نظر آنے والے بھرے ذرات

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَزِيزِ صَلَوَةٍ تَعِزُّنَا بِهَا بِعَزِيزِ أَعْرَازِنَا تَعِزُّنَا

کی مانند۔ اے اللہ درود و سلام ہو عزیز نبی پر جس درود کے طفیل عزت بخشتے ہمیں اپنے پیارے اعزاز اور عزت کے

عِزَّتِكَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ وَأَنْتَقَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى فَاضِلِ

غلبہ کے ساتھ اور اللہ عزیز ہے انتقام لینے والا ہے۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما صاحب فضیلت نبی پر

صَلَوَةٍ تَفْضِلُنَا بِهَا بِفَضْلِكَ الْكَامِلِ وَلَطْفِكَ الْكَامِلِ وَوَصْلِكَ

جس صلواۃ کی بدولت ہمیں فضیلت بخشتے اپنے فضل کامل اور لطف کامل اور وصل دائم کے ساتھ

الْحَاصِلِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ

وہ اللہ کا فضل ہے عطا کرتا ہے جس کو چاہے اور اللہ فضل عظیم کا مالک

الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَفْضِلٍ صَلَاةً تَفْضِلُنَا بِهَا

ہے " اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما مفصل نبی پر جس صلوات کے طفیل فضیلت بخشنے

بِتَوَاتُرٍ مُتَّصِلٍ مُفْضِلٍ فَضْلِ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ

ہیں ساتھ متواتر و مسلسل اور مزید فضل کے " جو طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل

وَرِضْوَانًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى فَاتِحِ صَلَاةٍ تَفْتَحُ لَنَا بِهَا

اور رضامندی کو۔ اے اللہ صلوات و سلام ہو نقطہ آغاز نبوت پر جس صلوات کے طفیل منکشف کرے ہم پر

مَفَاتِيحَ الْغَيْبِ لِحَزَائِنِ السِّرِّ الْمَكُونِ فِي مَكُونِ السِّرِّ مِنْ سِرِّ

غیب کی چابیاں مخفی رازوں والے خزانوں کی جو سر مکنون ہیں تیرے

سِرِّكَ فِي جَنَّاتِ الْمَعَارِفِ وَبِفَتْحِ إِيَّاكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُغْفَرَ

سر الاسرار میں سے معارف کے سینوں میں اور بطفیل اس فتح کے " بیشک ہم نے فتح دی ہے آپ کیلئے فتح مبین

لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ

تاکہ بخشنے آپ کے طفیل اللہ تعالیٰ جو پہلے گزرے آپ کی امت کے ذنوب اور جو بعد میں ہوں گے اور کامل کرے اپنی نعمت تم

وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مِفْتَاحِ

پر اور تمہیں گامزن کرے صراط مستقیم پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما ہر خیر کی مفتاح پر

صَلَاةٍ تَفْتَحُ لَنَا بِهَا بِهَجَةٍ مَسْرَّةٍ مَيْسِرَةٍ مُفْرَحَةٍ وَهُوَ الْفَتْحُ

جس صلوات کے طفیل کھولے ہمارے لیے ہجرت اس مسرت ميسره کی جو موجب فرحت اور کشائش ہے وہی ہے کھولنے والا سر اسر کا

الْعَلِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مِفْتَاحِ الرَّحْمَةِ صَلَاةً تَفْتَحُ لَنَا بِهَا أَبْوَابَ

جاننے والا خالق کا۔ اے اللہ صلوات و سلام ہو مفتاح رحمت پر جس درود کے طفیل کھولے ہمارے لیے دروازے

أَسْرَارِ الْغَيْبِ بِلَطَائِفِ عَوَاطِفِ وَعِنْدَكَ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا

اسرار غیب کے ان عنایت کے لطائف کے ساتھ " اور اسی کے پاس ہیں خزانے غیب کے نہیں جانتا انہیں تقاضائے ذات

إِلَهُهُ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى مِفْتَاحِ الْجَنَّةِ صَلَوةً تَفْتَحُ لَنَا بِهَا

مگر وہی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما مفتاحِ جنت پر جس صلوات کے طفیل کھولے ہمارے لیے خزینے

مَفَاتِيحِ كُنُوزِ حَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ كَمَا هِيَ بِفَتْوَحِ فَتَحْنَا عَلَيْكُمْ أَبْوَابَ

حقائق اشیاء کے خزانوں کے جیسے کہ وہ فی الواقع ہیں ساتھ اس کشائش کے "کھول دئے، تمہنے ان پر دروازے

كُلِّ شَيْءٍ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى عِلْمِ الْإِيمَانِ صَلَوةً تُعَلِّمُنَا بِهَا

ہر شئی کے "اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما ایمان کے پرچم پر جس صلوات کے طفیل متناظر کرے ہمیں (ان

بِعَلَامَاتِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ لِيَزِدَّادُوا إِيْمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ ط

علامات ایمان و اسلام کے ساتھ " تاکہ زائد ہو جائیں از روئے ایمان کے ساتھ ایمان کے "

اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى عِلْمِ الْيَقِينِ صَلَوةً تُيَقِّنُنَا بِهَا بِعَلَامَاتِ

اے اللہ صلوات و سلام ہو یقین کے پرچم پر جس صلوات کے طفیل ہمیں عطا کرے یقین علماء کے

عِلْمِ الْيَقِينِ الْعُلَمَاءِ وَعَيْنِ الْيَقِينِ الْخُلَفَاءِ وَحَقِّ الْيَقِينِ الْأَنْبِيَاءِ

علم یقین اور خلفاء کے عین یقین اور انبیاء کرام کے حق یقین کی علامات کے ساتھ

وَبِعِلْمِ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ط اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى

اور ساتھ اس علم کے "ہرگز نہیں اگر جانو تم علم یقین کے طور پر" اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما خیرات

دَلِيلِ الْخَيْرَاتِ صَلَوةً تُدَلِّلُنَا بِهَا بِدَلَالِ الْخَيْرَاتِ وَشَوَارِقِ

کے رہبر و رہنما پر جس صلوات کے طفیل ہماری رہنمائی فرمائے ساتھ دلائل خیرات اور روشن انوار کے اور

الْأَنْوَارِ وَتُخَيِّرُنَا بِهَا بِخَيْرِ خِيَارِ الْأَخْيَارِ الْإِبْرَارِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ط

فضیلت دے ہیں اپنے انخیر و ابرار والی خیر و بھلائی کے ساتھ "پس سبقت لے جاؤ خیرات کی طرف

اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى مُصَحِّحِ الْحَسَنَاتِ صَلَوةً تُصَحِّحُ لَنَا بِهَا

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما امور حسنة کی درستگی فرمانے والے پر جس صلوات کے طفیل درست فرمائے ہمارے لیے

بِصَحَاحِ فَصَاحِ قُرَاحِ صُرَاحِ قُرَاحِ مَعَادِنِ ذَخَائِرِ سَرَاحِ

درستگی، کشادگی، فرحت خالصہ صریح کے ساتھ (ان) اسرار کے ذخائر کی کانوں کو

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

بیشک نیکیاں لے جاتی ہیں برائیوں کو۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

مُقِيلِ الْعَثْرَاتِ صَلَوَةٌ تُقِيلُ بِهَا عَثْرَاتِنَا كُلَّهَا إِنَّ اللَّهَ

لغزشتات سے درگزر فرمانے والے پر جس صلوات کی بدولت ہماری تمام لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ بیشک اللہ

يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ صَفْوَةٍ

بخشتا ہے تمام تر ذنوب کو۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما لغزشات سے اعراض فرمانے

عَنِ الزَّلَّاتِ صَلَوَةٌ تَصْفِيهِ بِهَا عَنْ زَلَلِنَا الْغَيْرِيَّةِ بِفَضْلِ

والے پر جس صلوات کے طفیل اعراض فرمائے ہماری غیریت والی لغزش سے ساتھ اس فضل کے

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَا اللَّهُ عَلَيْنَا صَلِّ

اپھر بدل دی ہم نے برائی کی جگہ نیکی یہاں تک انہوں نے درگزر کیا۔ لے اللہ صلوات و

وَسَلِّمْ عَلَيَّ صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ صَلَوَةٌ تَشْفَعُ بِهَا فِينَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ

سلام ہو صاحب شفاعت پر جس صلوات کے طفیل شفاعت کرے ہمارے حق میں اللہ کے ہاں

ذَٰلِ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ صَاحِبِ

کون ہے جو شفاعت کرے اس کے ہاں مگر ساتھ اس کی اجازت کے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما صاحب مقام

الْمَقَامِ صَلَوَةٌ تُعْطَىٰ لَنَا بِهَا دَرَجَةٌ الْخَائِفِينَ فِي مَقَامِ الْعُلَىٰ وَأَمَّا

محمود پر جس صلوات کے طفیل عطا کرے ہمیں ارباب خوف کا درجہ مقام اعلیٰ میں " اور لیکن

مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَذَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ

جو خوفزدہ ہو گیا اپنے رب کے حضور قیام سے اور روکا اپنے نفس کو خواہشات سے تو یقیناً جنت ہی اس کا

الْمَأْوَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ صَاحِبِ الْقَدَمِ صَلَوَةٌ تُثَبِّتُ

ٹھکانا ہے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما صاحب قدم ثابت پر جس صلوات کے طفیل ثابت رکھے

بِهَا أَقْدَامَنَا عَلَى طَاعَتِكَ وَإِمْتِثَالِ أَوْامِرِكَ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ

ہمارے قدموں کو اپنی اطاعت پر اور احکام کی تعمیل پر۔ ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو

أَمْثُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَخْصُوصٍ بِالْعِزِّ

ساتھ پائیدار قول کے " اے اللہ صلوٰۃ و سلام فرما عزت و اعزاز کے ساتھ مخصوص نبی

صَلَاةٌ تُعِزُّنَا بِهَا يَا عِزَّ ابْنِ الْقُرْبِ وَالرَّفِيعَةَ وَالرَّفِيعَةَ وَيَا عِزَّ ابْنِ

پر جس صلوٰۃ کے طفیل اعزاز بخشتے ہیں قرب اور رفعت رفیعہ کے ساتھ اور ساتھ اعزاز قرب

الْقُرْبِ وَالذَّلَّةِ وَالذَّلِيلَةَ يَا نَكَ تَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذَلُّ مَنْ تَشَاءُ

اور تواضع و انکساری کے بسبب اس کے " کہ تو عزت دیتا ہے جسے چاہے اور ذلّت نسا کرتا ہے جسے چاہے

بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

تیرے ہی ہاتھ میں ہے خیر بیشک تو ہر چیز پر کامل دسترس والا ہے۔ اے اللہ درود و سلام ہو مجد کے ساتھ

مَخْصُوصٍ بِالْبُحْدِ صَلَاةٌ تُمَجِّدُنَا بِهَا وَتُجَبِّدُ تَعْظِيمَ كِبْرِيَاةِ

مخصوص ذات اقدس پر جس صلوٰۃ کی بدولت ہمیں بزرگی بخشتے اور طفیل تجمید و تعظیم اور عظمت کبریائی کے

تَعَالَى إِنَّهُ حَمِيدٌ مُجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَخْصُوصٍ بِالشَّرَفِ

بیشک وہی لائق حمد و ثناء بزرگی والا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما شرف سے مخصوص ذات پر جس صلوٰۃ کے

صَلَاةٌ تُشَرِّفُنَا بِهَا بِشَرَفِ الْإِلَهَامَاتِ الْقُدْسِيَّاتِ وَالْمَلْهَمَاتِ الْمُقَدَّسَةِ

طفیل ہمیں مشرف فرمائے الہامات قدسیہ اور ملہمات مقدسہ کے شرف کے ساتھ

فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى صَاحِبِ

پس وحی کی طرف اپنے عبد خاص کے جو وحی کی " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما صاحب

الْوَسِيلَةِ صَلَاةٌ تُوصِلُنَا بِهَا إِلَى مَعَارِفِ الرَّبَّانِيِّ وَسِرِّ الْبَرِّيِّ

الوسیلہ پر کہ جس کی بدولت واصل فرمائے ہمیں معارف ربانیہ اور اسرار احسانیہ تک

بِوَسِيلَةٍ وَكَيْلَةٍ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اس وسیلہ و وکالت کے " اور طلب کرو طرف اس کے وسیلہ " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى صَاحِبِ السَّيْفِ صَلَاةٌ تُقَلِّدُنَا بِهَا بِسَيْفِ الْهَيْبَةِ وَالشَّدَاةِ

صاحب سیف پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں حائل کرے ہمارے گلے میں ہیبت و شدت اور قوت کی

وَالْقُوَّةَ وَالْمَنْعَةَ مِنْ بَأْسِ الْجَبْرُوتِ بِنُصْرَةِ وَمَا نَصُرُوا الْأَرْضَ

اور جبروت کی شدت سے بچاؤ کی تلوار ساتھ اس نصرت کے " اور نہیں مدد مگر صرف

عِنْدَ اللَّهِ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى صَاحِبِ الْفَضِيلَةِ صَلَوَةٌ

اللہ تعالیٰ کے پاس سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل ہو صاحب فضیلت پر جس صلوٰۃ کے طفیل

تُفَضِّلُنَا بِهَا بِأَيْقَرِّبِنَا إِلَيْكَ بِفَضْلِ فَضِيلَةٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ

فضیلت بخشے ہمیں اپنی بارگاہ کے قریب کرنے والے امور کے ساتھ بوسیدہ اس فضل و فضیلت کے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے

مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ہے عطا کرتا جس کو چاہے اور اللہ فضل عظیم والا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

صَاحِبِ الْإِزَارِ صَلَوَةٌ تُوَزَّرُ نَابِهَا إِزَارَ الْفَقْرِ الْفَقْرُ فَخْرِي وَالْفَقْرُ

تمہد والے نبی پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں اوڑھائے فقر کی (یہ) چادر فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ

مِنِّي وَبِئْسَ التَّقْوَىٰ ذَلِكْ خَيْرُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى صَاحِبِ

سے ہے اور لباس تقویٰ ہی بہتر ہے " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما حجت و برہان والے

الْحُجَّةِ صَلَوَةٌ تَبْدِي بِهَا حُجَّتَنَا وَتُقَدِّبُ بِهَا صُدُورَنَا وَتُقَرِّبُ بِهَا مَقُولَنَا

نبی پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہماری دلیل کو روشن بنائے اور ہمارے سینے کشاہد فرمائے اور ہماری آرزوں میں کشائش پیدا

لِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى صَاحِبِ

کرنے تاکہ نہ ہو واسطے لوگوں کے تمہارے اوپر حجت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما صاحب تسلط نبی پر

السُّلْطَانِ صَلَوَةٌ تَبَيِّنُ بِهَا بَرَهَانَنَا وَتَشَدِّدُ بِهَا بِنْيَانَنَا وَتَيَقِّنُنَا

جس صلوٰۃ کے طفیل ہماری برہان کو واضح کرے اور ہماری بنیاد کو مستحکم فرمائے اور کامل و راسخ فرمائے

بِهَا إِيقَانَنَا بِسُلْطَنِ مُبَيِّنٍ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى صَاحِبِ

ساتھ اس کے ہمارے یقین کو ساتھ واضح غلبہ و تصرف کے۔ اے اللہ درود و سلام ہو چادر اوڑھنے والے نبی پر

الرِّدَاءِ صَلَوَةٌ تُسِيلُ عَلَيْنَا بِهَا كُتْفَ سِتْرِ حِجَابِ نَظَافَةِ مَلَأَ

جس درود کے طفیل لٹکائے ہم پر جوان و اطراف (اس) نظافت و ملاحمت والے سترو حجاب کے

ثِيَابِكَ فَطَهَّرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى صَاحِبِ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ

اور اپنے کپڑے پس پاک رکھو" اے اللہ درود و سلام ہو بلند تر درجہ والے نبی پر

صَلْوَةٌ تَرْفَعُنَا بِهَا مِنْ حَضِيضِ التُّدَانِ إِلَى الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ

جس درود کے طفیل بلند فرمائے ہمیں آلودگی کی پستیوں سے طرف (اس) بلند و بالا درجہ کے

وَالَّذِينَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

"وہ لوگ کہ جن کے لیے ہیں بلند تر درجات" اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

صَاحِبِ التَّاجِ صَلْوَةٌ تُتَوَجَّنُ بِهَا بِتَاجِ مَهَابَةِ كَبِيرِيَاءِ جَلَالِ

صاحب تاج پر جس صلوٰۃ کے طفیل پہنائے ہیں تاج (اس) مہابت و کبریائی جلال و شہنشاہی

مَلَكُوتِ عِزِّ عَظِيمَةِ اللَّهِ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور عزت و عظمت الہیہ کا "بیشک عزت و غلبہ تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے" اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى صَاحِبِ الْبَعْرِ صَلْوَةٌ تُلْبَسُنَا بِهَا خُلْعَةً أَكْرَدِلِ إِقْبَالِ إِجْمَالِ

خود والے نبی پر کہ پہنائے ہمیں اس صلوٰۃ کے طفیل خلعت تاج پوشی۔ اقبال مندی جمال و جلال سے

إِجْلَالِ وَصَلِّ جَنَّتِكَ وَلِبَاسَهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اتصاف اور جنت نمک رسائی کی "اور لباس ان کا جنت میں ریشم ہے" اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى صَاحِبِ الْلِوَاءِ صَلْوَةٌ تَحْشُرُنَا بِهَا أَفْضَلَ الْفَضْلِ مَعَ الْعَطَاءِ

لواء (حمد) والے نبی پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمارا حشر فرمائے افضل ترین احوال میں بمع قابل ستائش عطا کے

وَالْأَحْمَدِ تَحْتَ لِوَاءِ الْحَمْدِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ صَلِّ

نیچے لواء الحمد کے "اسی کے لیے ہے ملک اور اسی کے لیے ہے حمد" اے اللہ صلوٰۃ و

وَسَلِّمْ عَلَى صَاحِبِ الْمِعْرَاجِ صَلْوَةٌ تُسِيرُنَا بِهَا بِسِيرِ سِرِّ اسْرَارِ

سلام نازل فرما صاحب معراج پر جس صلوٰۃ کے طفیل سیر کرائے ہمیں (ان) سر اور اسرار کے

سِرِّ اسْرَارِ سِرِّ اسْرَارِ سِرِّ اسْرَارِ سِرِّ اسْرَارِ سِرِّ اسْرَارِ

کے سر اور اسرار کی "پاک ہے وہ ذات اقدس جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کورات کے وقت مسجد حرام سے

إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى صَاحِبِ الْقَضِيْبِ

مسجد اقصیٰ تک " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما صاحب عصا نبی پر ایسی

صَلَاةً تَقَطُّعُ بِهَا عَنَّا حُجُبَ الْبَارِ الْأَنْبِيَّيَّةِ وَعُجْبَ الْكَوَاكِبِ الْغَيْرِيَّةِ

صلوٰۃ کہ قطع کرے بطفیل اس کے ہم سے حجابات تکبر و انانیت اور فخر و تاز غیریت کے میل پھیل کا

بِقَضْبِ الْعَيْنِيَّةِ الْآرَائِكِ حُزْبِ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ

ساتھ عینیت کے عصا کے " آگاہ رہو بیشک اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب ہے " اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى صَاحِبِ الْبِرَاقِ صَلَاةً تَرْفَعُنَا بِهَا إِلَى طُرُقِ

و سلام نازل فرما صاحب براق پر جس صلوٰۃ کے طفیل بلند فرمائے ہمیں اپنی بارگاہ

وَبِحُبُوحَةِ حَضْرَةِ أَحَدِيَّتِكَ كِبْرُوكَ الْبُرُوقِ الْبُرَاقِ فَفَرُّوا إِلَى

احدیت کے وسطی راہوں کی طرف مانند براق کی روشن بجلی کے ۔ پس بھاگو طرف

اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى صَاحِبِ الْخَاتَمِ صَلَاةً تَخْتَمُ

اللہ کے ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما صاحب خاتم پر جس صلوٰۃ کے طفیل پرتگائے

بِهَافِي صُدُورِنَا بِخَتَمِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَخِتَامَهُ مَسْكٌ وَ

ہمارے دلوں میں ساتھ نقش ۔ محمد رسول اللہ کے اور اس کا آخری گھونٹ مانند کستوری کے خوشبودار

فِي ذَلِكَ فَلَيْتَنَّا فِيسِ الْمُنْتَفِسُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ہے اور اس میں ہی چاہیئے کہ رغبت کری رغبت کرنے والے ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

صَاحِبِ الْعَلَامَةِ صَلَاةً تُعَلِّمُنَا بِهَا بَعْدَ مَا تَسْبَحَاتِ

امتیازی علامت والے نبی پر کہ ممتاز کرے ہمیں بطفیل اس صلوٰۃ کے ساتھ

أَشَارِ اسْرَارِ انْوَارِ النُّبُوَّةِ الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ

انوار و اسرار نبوت کے اشارے کے علامات و نشانات کے جنہیں ہم نے دی ہے کتاب اور حکومت و نبوت

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى صَاحِبِ الْبُرْهَانِ صَلَاةً تُحَرِّرُنَا بِهَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما صاحب برہان پر جس صلوٰۃ کے طفیل محفوظ فرمائے ہمیں ساتھ اس

بِحِمَايَةِ كَفَايَةِ وَقَايَةِ حَقِيقَةِ بُرْهَانِ حُرْبِ أَمَانٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ

حمایت و کفایت اور وقایت اور حقیقت برہان اور حصارِ امان کے لئے لوگو

قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ ۖ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ صَاحِبِ

تحقیق آیا تمہارے پاس عظیم برہان تمہارے رب کی طرف سے "اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما صاحب بیان

الْبَيَانِ صَلَاةً تُبَيِّنُنَا بِهَا عَلَيْنَا مَعْضَلَاتِ حُرْفَاتِ عَوِيصَاتِ

پر جس صلوٰۃ کے طفیل واضح کر دے ہم پر مشکل حروف اور لایجمل عقد سے

الْقُرْآنِ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا

قرآن کے "اگر ہم اتارتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو البتہ دیکھتے تم اس کو خشوع کرنیوالا پھٹنے والا

مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ فَصِيحِ اللِّسَانِ صَلَاةً

خشیت اللہ سے "اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما فصیح اللسان نبی پر جس صلوٰۃ کے طفیل منکشف

تَقْصِحُ لَنَا بِهَا بِالفَصَاحَةِ وَالْبِرَاعَةِ وَالْبِلَاغَةِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي

کر دے ہم پر فصاحت اور عمدگی اور بلاغت کو "اے رب میرے کشادہ فرما میرے لیے

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي ۗ اللَّهُمَّ

میرا سینہ اور آسان فرما میرا معاملہ اور کھول دے میری زبان کا عقد۔ تاکہ میری بات سمجھ سکیں "اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُطَهِّرِ الْجَنَانِ صَلَاةً تُطَهِّرُنَا بِهَا جَنَانَنَا بِطَهَارَةِ

درود و سلام ہو دلوں کو پاک کرنے والے نبی پر جس درود کے طفیل پاک فرمائے ہمارے دلوں کو ایسی طہارت

الرِّكِيَّةِ الرِّضِيَّةِ الْمَرْضِيَّةِ يَا نَّهُمْ أَنَا سَيِّتَطَهَّرُونَ ۗ اللَّهُمَّ

و تزکیہ کے ساتھ جو پسندیدہ و مقبول ہو "بسیب اس کے کہ وہ لوگ طہارت میں کوشش کرنے والے ہیں" اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ رُءُوفٍ صَلَاةً تَعُطِفُ لَنَا بِهَا بِرَأْفَةٍ رَحْمَةً رِّقَّةً ثُمَّ

صلوٰۃ و سلام نازل ہو رُؤُوفِ نبی پر جس صلوٰۃ کے طفیل عنایت فرمائے ہمیں رَأْفَتِ رَحْمَتِ اور رِقَّةً پھر

تَلِينُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ

تم ہوتے ہو اعضا اور قلوب ان کے ذکرِ الہی کی طرف اور بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ البتہ رُؤُوفٌ

رَحِيمٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رَحِيمِ صَلَاةٍ تَرْحَمُنَا بِهَا بِغَفْرِكَ

ورحیم ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما رحیم نبی پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہم پر رحم فرمائے ساتھ اپنی

وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

مغفرت و رحمت اور فضل کے پس بے شک تو غفور رحیم ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى أُذُنِ خَيْرِ صَلَاةٍ تَسْمَعُنَا بِهَا كَلِمَاتِ الْحَقِّ وَالْيَقِينِ وَيَقُولُونَ

خیر کے (سننے والے) جسم قوت سامعہ پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں سنوائے کلمات حق اور یقین کے۔ اور کہتے ہیں

هُوَ أَذُنٌ قُلُّ أذُنِ خَيْرٍ لَكُمْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى خَيْرِ الْإِسْلَامِ

کہ وہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) سراسر کان ہیں۔ فرمادیں سراسر کان ہیں خیر کے تمہارے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما صحیح اسلام والی ہستی

صَلَاةٍ تَسْلِمُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْفِتَنِ وَالْأَسْقَامِ وَالْأَفَاتِ وَ

پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں سلامت رکھے تمام فتنوں۔ بیماریوں آفات اور

الْعَاهَاتِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

عیوب و نقائص سے" اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے طرف سلامتی والے گھر یعنی جنت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ صَلَاةٍ تُغَسِّنُنَا فِي بَحَارِ أَنْوَارِكَ وَأَسْقِنَا

سید کونین پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں غوط دے اپنے انوار کے سمندروں میں اور پلائے ہیں

مِنْ شَرَابِ مَحَبَّتِكَ بِسَيَادَةِ سَيِّدٍ وَأَوْثَانِ الصَّالِحِينَ

اپنی محبت کا شراب بطفیل سیادت سید کے اور عورتوں سے دور رہنے والے اور نبی صالح (حضرت یحییٰ) کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَيْنِ التَّعِيمِ صَلَاةٍ تُنْعِمُنَا بِهَا بِنِعْمَائِهِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما نعمتوں کے سرچشمہ پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں مشرف فرمائے ان کی عام نعمتوں

الشَّامِلَةِ وَالْآيَةِ الْكَامِلَةِ بِتَّعِيمِ تَكْرِيمِ تَعِيمٍ ثُمَّ لَسَلْنَا يَوْمَئِذٍ

اور کامل نعمات سے ساتھ اس نعمت رسائی۔ کرم بخش عمومی کے "پھر تم ضرور باضرور سوال کئے جاؤ گے اس دن

عَنِ التَّعِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَيْنِ الْغُرِّ صَلَاةٍ تُقَوِّدُنَا بِهَا

نعمتوں کے متعلق" اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما مجسمہ نورانیت پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں تیری طرف قیادت کریں

إِيَّاكَ قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ بِغُرِّ نُورٍ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً

ہماری روشن جبینوں اور نورانی اعضاء والوں کے قائد ساتھ اس واضح نور کے " اور ڈال دی ہے میں نے تجھ پر

مِثِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَيَّ عَيْنِي ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَعْدِ اللَّهِ

مجت اپنی طرف سے اور تاکہ تجھے بنایا جائے میری نگاہوں کے سامنے " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما اللہ تعالیٰ کی مجسم سعادت

صَلَاةً تُسَعِدُنَا بِهَا بِالسَّعَادَةِ وَالْكَرَامَةِ وَالْمَغْفِرَةِ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ

پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں سعادت مند کرے ساتھ سعادت کرامت اور مغفرت کے " لیکن جو سعادت مند

سَعِدُوا فِي الْجَنَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ خَطِيبِ الْأُمَمِ صَلَاةً

ہیں پس وہ جنت میں ہیں " اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما تمام اُمتوں کے خطیب پر

تُجِينَنَا بِهَا مِنَ الشَّدَائِدِ وَالْأَهْوَالِ وَالْهَبَاطِ وَالْبِيَاطِ ۝

جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں نجات عطا فرمائے شدائد اور ہولناکیوں سے اور پستیوں اور نیستیوں سے اور

شَدِّدْنَا مَلِكَةً وَأَتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ ۝ اللَّهُمَّ

مضبوط کر دیا ہم نے ان کا ملک اور دی ہم نے ان کو حکمت اور واضح خطاب - اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ عَلِمِ الْهُدَى صَلَاةً تَعَلِّمُنَا بِهَا بِهَدَايَةِ الْهَجَابِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما ہدایت کے علم مجسم پر جس صلوٰۃ کے طفیل سکھائے ہمیں تیز چال رہبری

وَوَلَايَةِ الْوَهَّابِ وَرِعَايَةِ الرَّهَابِ وَعِنَايَةِ الْعَجَابِ ۝

اور بہت روشن اور تیزی سے بھڑکنے والی محبت فتنہ و فساد سے نگہداشت اور ادنیٰ لوگوں پر عنایت

إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

بیشک آپ ہدایت دیتے ہو صراط مستقیم کی طرف - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

كَاشِفِ الْكُرْبِ صَلَاةً تَكْشِفُ بِهَا عَنَّا كُرْبَاتِ زَلْزَلَةِ

غم و اندوہ دور کرنے والے نبی پر جس صلوٰۃ کے طفیل دور کرے ہم سے اندوہ زلزلہ شوق

الشُّوقِ وَوَلَوْلَا ذُو الْقُرْبَىٰ وَالرُّحَمَاءُ وَالْبُرَّاءُ لَكُنَّا بِأَضْعَفِ نِسَابٍ وَأَعْيُنُ النَّاسِ عَلَيْنَا لَأُنزِلْنَا بِهِ زُلْفًا نَارًا

کے اور ولولہ ذوق کے " اور اگر پہنچائے تجھے اللہ تعالیٰ کوئی نقصان تو نہیں دور کرنے والا اس کو

لَهُ الْإِهْوَاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رَافِعِ الرَّتَبِ صَلَوةً تَرْفَعُ

مگر وہی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما مراتب کے بلند کرنے والے نبی پر جس صلوٰۃ کے طفیل

بِهَا مَرَّتَبَتَنَا مِنْ مَّرَاتِبِ عِبُودِيَّةِ الْكَثْرَةِ مِنَ الْخَلْقِ إِلَى

بلند فرمائے ہمارے مرتبہ کو کثرت مخلوق کے مراتب عبودیت سے

مَعْبُودِيَّةِ الْوَحْدَةِ فِي الْحَقِّ بِإِشَارَةِ بَشَارَةِ تَرْفَعُ دَرَجَاتِ

طرف معبودیت وحدت کے حق تعالیٰ میں ساتھ اس اشارہ و بشارت کے ہم بلند کرتے ہیں درجات

مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جس کے بلند کرنا چاہیں اور ہر صاحب علم سے اوپر علم والا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عِزِّ الْعَرَبِ صَلَوةً تُعِزُّنَا بِهَا بِرُوحِ الْعَرَبِ الْأَكْرَمِ وَبِرُوحِ

عرب کے سرمایہ عزت پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں عزت بخشے ساتھ عرب کی مکرم روح کے اور عجم کی

الْعَجْمِ الْأَعْظَمِ وَبِسَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجْمِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو

عظیم تر روح کے بظہیر سید عرب و عجم کے " اور اللہ عزیز انتقام لینے

اِنْتِقَامِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى صَاحِبِ الْفَرَجِ صَلَوةً تُفَرِّجُ

والا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما کشائش و فراخی عطا کرنے والے پر جس صلوٰۃ کے

بِهَا هِيَ وَمِنَّا كُلُّهَا مِنْ بَدَايَةِ الْفُرُوجِ الْفُلُوجِ إِلَى

طفیل دور کرے ہم سے تمام تر ہجوم کشائش و کشادگی کی ابتداء سے لے کر عروج

نَهَايَةِ الْعُرُوجِ الْوَلُوجِ مَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور وصول کی انتہاء تک نہیں ہیں ان کے لیے سورج اور درزیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

وَسَلِّمْ عَلَى رَافِعِ الدَّرَجَاتِ صَلَوةً تَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى

سلام نازل فرما رفیع الدرجات پر جس صلوٰۃ کے طفیل بلند فرمائے ہمیں اپنے ہاں

الدَّرَجَاتِ وَتُقَرِّبُ بِهَا دَرَجَاتِنَا لَدَى الْعَرْشِ بِالرَّفْعَةِ

اعلیٰ درجات پر۔ اور قریب کرے ہمارے درجات عرش اعظم کے نزدیک ساتھ

وَالْعِزَّةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى كَرِيمِ الْمَخْرَجِ صَلَوَةٌ تُكْرِمُنَا

رفت اور عزت کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما برتر مقام ظہور والے پر جس صلوات کے طفیل

بِهَا مِنْ خُرُوجِ فَنَاءِ السَّفَلِيِّ الْأَزَلِيِّ إِلَى بَقَاءِ الْعُلُوِّ الْأَبَدِيِّ

ہیں عطا کرے فناء سفلی ازلی سے نکل کر بقاء علوی ابدی تک رسائی کا شرف

يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا عَزَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اے انسان کس نے مغرور کیا تھے ساتھ اپنے رب کریم کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى ذِي الْقِبْلَتَيْنِ صَلَوَةٌ تُقْبِلُنَا بِهَا مِنْ قِبْلَةِ الْقِبْلَتَيْنِ وَكَعْبَتَيْهَا

فرما دو قبلہ والے نبی پر جس صلوات کے طفیل قبول کرے ہمیں دونوں قبلوں کے قبلہ سے اور دونوں کے

الْقِبْلَتَيْنِ وَاجْعَلْهَا نَانُورًا وَسُرُورًا مِنْ أَقْصَى إِلَى قِبْلَةٍ تَرْضَاهَا

کعبہ سے اور بناوے اس کو ہمارے لیے نور و سرور اقصیٰ سے اس قبلہ تک جو تجھے پسند ہے

قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رَسُولِ

پس پھیر لو اپنے منہ کو مسجد حرام کی جانب۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما رسولِ الثقین

الثَّقَلَيْنِ صَلَوَةٌ تُخَفِّفُنَا بِهَا ثِقَالَ الدَّارَيْنِ وَشَقَاوَةَ الْكُونَيْنِ

پر جس صلوات کے طفیل خفیف کرے ہم سے بوجھِ ثقلین کا اور شقاوت کوئین کی۔

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ

اے گروہ جنوں اور انسانوں کے اگر استطاعت رکھتے ہو کہ نکل سکو آسمانوں اور زمین

وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا وَلَا تَنْفُذُوا إِلَّا بِسُلْطَانِ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ

کے اطراف سے تو نکل جاؤ۔ نہیں نکل سکو گے مگر ساتھ غلبہ و تسلط کے (جو تم میں نہیں ہے) اے اللہ درود و سلام

عَلَى صَاحِبِ الْفُرْقَانِ صَلَوَةٌ تُفَرِّقُنَا بِهَا فِيمَا بَيْنَ فَنَاءِ أَنَانِيَّةِ

ہو صاحب فرقان پر جس صلوات کے طفیل جدا کرے ہمیں طبیعتِ انسانیہ کی فناء

الطَّبِيعِيَّةِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَبِقَاءِ شُهُودِ الْوَحْدَانِيَّةِ الْاَلُوْهِيَّةِ الْاَحَدِيَّةِ

انانیت اور شہودِ وحدانیتِ حدیہ کی بقاء کے درمیان (پھنس کر رہنے) سے

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

بارکت ہے جس نے نازل کیا فرقان اپنے عبد خاص پر۔ اے اللہ درود و سلام ہو

عَلَى صَاحِبِ الْكُوْثِرِ صَلَوةً تُسْقِيْنَا بِهَا مِنْ شَرَابِ حَوْضِ

صاحب کوثر پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں پلائے حوض کوثر کے شراب سے

الْكُوْثِرِ شَرْبَةً هَنِیْئًا مَرِيْعًا لَا نَظْمَاءُ بَعْدَهَا اَبَدًا اَبَدًا كَمَا

ایسا شربت خوشگوار کہ نہ پیاسے ہوں اس کے بعد کبھی بھی۔ جیسے کہ

ظَهَرَ مِنْ وَحْدَةِ الْحَالِ اِلَى كَثْرَةِ الْمَقَالِ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ

ظاہر ہوا حال کی وحدت سے قال کی کثرت تک۔ بے شک ہم نے عطا کیا آپ کو کوثر

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاَنْحَرِ اِنَّ شَانِكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ

پس نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی دو۔ بیشک تمہارا دشمن بے نام و نشان ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُحَلِّقُ

و سلام ہو سیدنا محمد اور آپ کی آل پر جس درود کے طفیل کھول دے تمام

بِهَا الْعُقَدَ وَرَوْحَاتُكَ بِهَا الْكُرْبُ وَتَرْحُمَاتُكَ بِهَا الْعُطْبُ

عقدے اور راحت ہو کہ کھولے بطفیل اس کے کرہیں اور رحمت ہو کہ زائل کی جائیں بطفیل اس کے ہلاکتیں

وَتَكْرِیْمًا تُقْضٰی بِهَا الْاِرْبُ یَا اَرَبُّ یَا اللّٰهَ یَا حٰیُّ یَا قَیُّوْمُ

اور تکریم ہو کہ پوری کی جائیں بطفیل اس کے حاجتیں۔ یارب۔ یا اللہ۔ یا حی۔ یا قیوم۔ یا ذا الجلال

ذَ الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ ۗ نَسْئَلُكَ مِنْ فَضَائِلِ لُطْفِكَ وَمِنْ

والا کرام۔ سوال کرتے ہیں تجھ سے تیرے لطف و کرم کے فضائل کا اور

غَرَائِبِ فَضْلِكَ یَا کَرِیْمُ یَا رَحِیْمُ ۗ اللَّهُمَّ اَنَا عَبْدٌ اَضْعَفُ اَمْنِهِ

انکے فضل کا یا کریم یا رحیم۔ اے اللہ میں وہ عبد ہوں جو ان کی تمام امرت

اَنْتَ وَلِیْنَا وَمَوْلَانَا خُذْ بَیْدِنَا مِنَ الضَّلَالَةِ تَهْدِنَا وَتُوصِلْنَا

ضعیف تر ہوں تو ہی ہمارا ناصر و مددگار ہے۔ دستگیری فرما ہماری گمراہی سے۔ ہدایت دے اور واصل فرما

إِلَى ذَاتِكَ فَاجْعَلْ كُلَّ صَلَاتِنَا وَسَلَامِنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اپنی ذات تک۔ پس بناوے ہماری تمام صلوٰۃ اور سلاموں کو دنیا میں ہوں یا آخرت میں

مُكَفَّرَةً لِّجَمِيعِ الْخَطِيئَاتِ رَافِعَةً لِّجَمِيعِ الدَّرَجَاتِ مُكْفَلَةً لِّجَمِيعِ

کفارہ واسطے ہماری تمام خطاؤں کے اور بلندی کرنے والے ہمارے تمام درجات کے، کفالت کرنے والے

الْحُسَنَاتِ وَالْخَيْرَاتِ مُحَصَّلَةً بِكَمَالِ حُجَّتِكَ وَذِكْرِكَ بِخُلُوصِ

واسطے تمام حسنت اور خیرات کے، متیا کرنے والے ہمارے تیری کامل محبت اور ذکر کے بسبب خلوص مر کے

السِّرِّ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ بِكَمَالِ الْإِيمَانِ وَنَتَائِجِهِ بِجَمِيعِ

ظاہر و باطن میں بمع کمال ایمان اور اس کے نتائج کے بمع تمام برکات

الْبَرَكَاتِ وَالْكَمَالَاتِ حَفِيزَةً بِجَمِيعِ الْعَفْوِ وَالْعَافِيَةِ وَكَمَالِ

اور کمالات کے۔ محافظ ہو ساتھ کامل عفو و عافیت کے اور کمال علم کے

الْعِلْمِ وَبِتَوْفِيقِ كَمَالِ الْعَمَلِ بِهِ بِحُسْنِ الطَّاعَاتِ وَالْعِبَادَاتِ

اور ساتھ عمل کامل کی توفیق کے ساتھ حسن طاعات اور عبادات کے

حَصِيْنَةً عَنْ كُلِّ كَرْبٍ وَهَمٍّ وَغَمٍّ وَعَنْ جَمِيعِ الْآفَاتِ وَ

محفوظ رکھنے والے ہوں ہر کرب اور غم و اندوہ سے اور تمام آفات و نقائص سے

الْعَاهَاتِ وَالْوَسْوَاتِ وَالْبَلِيَّاتِ وَعَنْ جَمِيعِ لَعِبٍ وَ

اور وساوس و بلیات سے۔ اور تمام لہو و لعب سے اور تیرے

لَهُوٍ وَعَنْ جَمِيعِ غَيْرِ مَرْضِيَّاتِكَ وَغَيْرِ مَرْضِيَّاتِ رَسُولِكَ

تمام ناپسندیدہ امور سے اور تیرے رسول کے ناپسندیدہ امور سے

اللَّهُمَّ اجْعَلْ كُلَّ صَلَاتِنَا وَسَلَامِنَا وَسِيلَةً وَشَفِيعَةً وَ

اے اللہ بناوے ہماری تمام صلوات اور تسلیات کو وسیلہ اور شفیع اور

هَادِيَةً بِجَمِيعِ الْحَالَاتِ فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانِ بِالْقُوَّةِ الْكَامِلَةِ

رہنا تمام حالات اور تمام زمانوں میں ساتھ کامل قوت کے

وَبِالْعِزَّةِ الشَّامِلَةِ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ

اور محیط عزت و غلبہ کے واسطے صراط مستقیم کے راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا

عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَ

یعنی انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کی اور

حَسَنَ أَوْلِيَاكَ رَافِقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ

اچھے ہیں وہ از روئے رفیق ہونے کے۔ وہ عظیم فضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کا کافی ہے

عَلَيْهَا رَبَّنَا تَقْبَلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ جَمِيعَ دَعَوَاتِنَا

از روئے علیم ہونے کے۔ اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما۔ بیشک تو ہی سننے والا ہے ہماری تمام دعاؤں

وَنِيَّاتِنَا وَحَاجَاتِنَا بِالْخَيْرِ بِعِزَّةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَبِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ

اور نیات و حاجات جو خیر سے متلبس ہیں بظیفیل لا الہ الا اللہ کی عزت اور بظیفیل محمد

رَسُولِ اللَّهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

رسول اللہ کی رحمت کے اور ساتھ اپنی رحمت کے اے ارحم الراحمین۔ اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین

الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَحْدَكَ

کے لیے ہیں۔ اے اللہ تو ہی اللہ ہے۔ نہیں معبود برحق مگر تو۔ تو پاک ہے بیگانہ ہے

لَا شَرِيكَ لَكَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مُحَوَّلٌ

نہیں کوئی شریک تیرے لیے۔ ہر چیز کا خالق ہے اور بیشک تو ہر چیز پر کامل دسترس والا ہے۔ ہر حال

كُلِّ حَالٍ يَا مُحَوَّلَ الْحَالِ حَوَّلْ حَالَنَا إِلَىٰ أَحْسَنِ الْحَالِ بِحَقِّ

کو بدلنے والا ہے۔ اے ہر حالت کو بدل دینے والے بدل دے ہماری حالت کو اچھی حالت میں بظیفیل

أَفْضَلِ تَرْتِيبِ كَلَامِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ مَلِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

افضل ترین کلام کے اپنے تمام مراتب میں، تو مالک ملک ہے، جلال و اکرام کا مالک ہے

يَا اللَّهُ كَيْفَ أَقُولُ فِي وَصْفِكَ وَمَا أَقُولُ وَمَا أَنَا فِي وَصْفِكَ

اے اللہ کیسے کہوں میں تیری توصیف میں اور کیا کہوں اور میری کیا حیثیت ہے تیرا وصف کرنی

وَقَالَ أَفْصَحُ الْفُصْحَاءِ وَأَبْلَغُ الْبُلْغَاءِ مَوْلَانَا وَهَادِيَنَا

حالانکہ فرمایا سب فصحاء سے فصیح تر اور سب بلغاء سے بلیغ تر جو ہمارے مولیٰ اور ہادی برحق ہیں

بِفَضْلِكَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ

تیرے عظیم فضل سے کہ تو پاک ہے میں نہیں احاطہ کر سکتا تیری ثناء کا۔ تو لائق ہے اسی ثناء کا جسے

عَلَى نَفْسِكَ وَقَالَ مَلَأْتُكَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ

جو تو نے خود کی ہے اپنی ذات کی۔ اور کہا تیرے ملائکہ نے تو پاک ہے ہمیں علم مگر وہی جو تو نے

أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ

بتلایا ہے شک تو ہی علیم و حکیم ہے۔ پاک ہے تو۔ پاک ہے وہ کہ آسمان میں ہے عرش اس کا

سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْأَرْضِ مُلْكُهُ وَقُدْرَتُهُ سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْبَرِّ

پاک ہے وہ کہ زمین میں ہے۔ اس کا ملک اور ظہور قدرت۔ پاک ہے وہ کہ خشکی میں ہے

سَبِيلُهُ سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْهَوَى رُوحُهُ سُبْحَانَ الَّذِي فِي النَّارِ

راہ اس کی۔ پاک ہے وہ کہ ہوا میں ہے روح اس کی۔ پاک ہے وہ کہ آگ میں ہے

سُلْطَانُهُ سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْأَرْحَامِ عَلَيْهِ سُبْحَانَ الَّذِي فِي

تسلط اس کا۔ پاک ہے وہ کہ ارحام میں ہے علم اس کا۔ پاک ہے وہ کہ قبور میں

الْقُبُورِ قَضَاءُهُ سُبْحَانَ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاءَ بِأَعْيُنِ سُبْحَانَ

ہے قضاء اس کی۔ پاک ہے وہ جس نے بلند کیا آسمان کو بغیر ستونوں کے۔ پاک ہے وہ جس

الَّذِي وَضَعَ الْأَرْضَ سُبْحَانَ الَّذِي لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا إِلَّا إِلَيْهِ إِنَّ

نے پستی میں رکھا زمین کو۔ پاک ہے وہ کہ نہیں جانے پناہ اور نہ جانے نجات مگر طرف اسی کے

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاحِدٌ فِي مُلْكِهِ خَالِقُ الْعَالَمِ بِأَسْرَارِهِ الْعُلُويِّ

بیشک اللہ تعالیٰ یکتا ہے اپنے ملک میں خالق ہے ساتھ اپنے اسرار کے تمام تر عالم کا علوی ہو یا

وَالسَّفَلِيِّ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ وَالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ

سفل اور عرش و کرسی اور آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے بیان ہے اور

مَا فِيهَا جَمِيعُ الْخَلَائِقِ مَقْهُورُونَ بِقُدْرَتِهِ وَلَا تَتَحَرَّكَ ذَرَّةٌ إِلَّا

اور جو کچھ ان میں ہے۔ تمام مخلوقات مغلوب ہیں اس کی قدرت سے اور نہیں حرکت کرتا کوئی ذرہ مگر

بِإِذْنِهِ لَيْسَ مَعَهُ مَدَدٌ بَدْرِي الْخَلْقِ وَلَا شَرِيكَ فِي الْمَلِكِ حَتَّى قِيَوْمِ

اس کے اذن سے۔ نہیں اس کے ساتھ شریک کوئی مدد بخلیق میں اور نہ کوئی شریک ہے اس کا ملک میں زندہ

لَا تَأْخُذُ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ

و پانڈہ ہے نہ اس کو اونگھ اپنی لپیٹ میں لیتی اور نہ نیند۔ تمام غیوب و شہادت کا عالم ہے۔ نہیں مخفی اس پر

شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ

کوئی شئی زمین میں اور نہ آسمان میں جانتا ہے جو خشکی اور تری میں ہے اور نہیں گرتا کوئی

مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا سَرَابٍ

پتہ مگر اس کو جانتا ہے اور نہ کوئی دانہ زمین کی تاریک گہرائیوں میں اور نہیں کوئی ترچیز

وَلَا يَأْبِسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَأَحْصَى كُلَّ

اور نہ خشک مگر لوح محفوظ میں (مذکور) ہے۔ اس نے احاطہ کیا ہوا ہے ہر شئی کا از روئے علم کے اور احاطہ کر

شَيْءٍ عَدَدًا فَعَالٌ لِّمَا يَرِيدُ قَادِرٌ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ لَهُ الْمَلِكُ وَالْغَنِيُّ

رکھا ہے ہر شئی کا از روئے عدد و شمار کے۔ کرنے والا ہے جو چاہے۔ صاحب قدرت ہے ہر اس شئی پر جس کو چاہے۔ اسی کے

وَلَهُ الْعِزَّةُ وَالْعِظَّةُ وَالْبُقَاءُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَالْتِنَاءُ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ

یے ملک ہے اور بے تیزی اور اسی کے لیے عزت و عظمت ہے اور بقاء و دوام۔ اور وہ ہے مستحق حمد و ثناء کا۔ اور اسی کیلئے ہیں

الْحُسْنَىٰ لِأَدْفَعِ لِمَا قَضَىٰ وَلَا مَانِعٌ لِّمَا أُعْطِيَ يَفْعَلُ فِي مُلْكِهِ مَا

حسین اسما نہیں کوئی دور کرنے والا اس کی قضاء کو اور نہیں روکنے والا اس کی عطا کو۔ کرتا ہے اپنے ملک میں جس کا ارادہ

يُرِيدُ وَيُحْكَمُ فِي خَلْقِهِ مَا يَشَاءُ لَا يَرْجُو ثَوَابًا وَلَا يَخَافُ عِقَابًا لَيْسَ

کرے۔ اور حکم دیتا ہے اپنی مخلوق میں جو چاہے۔ نہ ثواب کی امید رکھتا ہے اور نہ عقاب کا اندیشہ نہ

عَلَيْهِ حَقٌّ وَلَا عَلَيْهِ حُكْمٌ فَكُلُّ نِعْمَةٍ مِنْهُ فَضْلٌ وَكُلُّ نِقْمَةٍ مِنْهُ

اس پر کسی کا حق ہے (بحسب الذات) اور نہ اس پر کسی کا حکم و نافرمانی ہے۔ اس کی طرف سے ہر نعمت اس کا فضل ہے اور ہر

عَدَلٌ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ مَوْجُودٌ قَبْلَ الْخَلْقِ لَيْسَ

انتقامی کارروائی سراسر عدل ہے۔ وہ نہیں پوچھا جاسکتا جو بھی کرے اور مخلوق پوچھی جاتی ہے۔ وہ موجود ہے مخلوق سے قبل۔ اس کے

لَهُ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ وَلَا فَوْقُ وَلَا تَحْتَ وَلَا يَمِينٌ وَلَا شِمَالٌ وَلَا أَمَامٌ

یہ قبل نہیں اور نہ اس کے لیے بعد ہے۔ نہ اوپر۔ نہ نیچے۔ نہ دائیں اور نہ بائیں اور نہ آگے اور نہ

وَلَا خَلْفٌ وَلَا كَلٌّ وَلَا بَعْضٌ وَلَا يُقَالُ مَتَى كَانَ وَلَا آيُنَ كَانَ وَلَا

پیچھے اور نہ وہ کل ہے اور نہ بعض۔ اور نہیں کہا جاسکتا کب تھا؟ اور نہ کہاں تھا؟ اور نہ

كَيْفَ كَانَ كَوْنُ الْأَكْوَانِ وَدَبْرُ الزَّمَانِ لَا يَتَّقِدُ بِالزَّمَانِ وَلَا

کیسے تھا؟ اس نے ہی سب موجودات کو موجود کیا اور زمانوں کی تدبیر کی وہ نہ زمانہ سے متقید ہے اور نہ

يَخْتَصُّ بِالْمَكَانِ وَلَا يَلْحَقُهُ وَهُمْ وَلَا يَكِيفُهُ عَقْلٌ وَلَا يَنْحَصِرُ

زمانہ سے مختص ہے۔ نہ اس کو وہم لاحق ہو سکتا ہے اور نہ عقل اس کی کیفیت بیان کر سکتی ہے اور نہ ذہن

فِي الذِّهْنِ وَلَا يَتَشَبَّهُ فِي النَّفْسِ وَلَا يَتَّصِرُ فِي الْوَهْمِ وَلَا يَتَكَيَّفُ

میں محصور ہو سکتا ہے اور نہ نفس میں متشکل اور نہ وہم میں اس کا تصور آ سکتا ہے اور نہ عقل میں اس

فِي الْعَقْلِ وَلَا تَلْحَقُهُ الْأَوْهَامُ وَالْأَفْكَارُ جَلَّ عَنِ الشَّبِيهِ وَالنَّظِيرِ

کی کیفیت اور نہ ہی اوہام و افکار کی اس تک رسائی ہو سکتی ہے۔ وہ بالاتر ہے شبیہ و نظیر سے

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ يَا اللَّهُ أَنْتَ اللَّهُ وَإِسْمُكَ

نہیں اس کی مانند کوئی شئی وہی سنتے جاننے والا ہے۔ اے اللہ تو ہی اللہ ہے اور ذات تیری

أَعْظَمُ مِنْ دَرْكِ جَمِيعِ الْأَبْصَارِ وَكَفَى مَنَّا مِنْ حَيْثُ عَلِمْنَا بِوَسْعِ

عظیم تر ہے تمام ابصار کے ادراک سے۔ اور کافی ہے ہم سے از روئے ہمارے محدود علم کے

إِمْكَانِنَا فِي وَصْفِكَ بِنُورِ السِّرِّيِّ حَالًا وَفَعْلًا بِجُلِّ قَوْلٍ وَسُكُوتٍ

اپنی وسعت و امکان کے مطابق تیری توصیف کرنا نور سری کے ساتھ از روئے حال و فعل کے اور ساتھ ہر قول کے اور سکوت

الْفِعْلِيِّ وَالْحَالِيِّ كَمَا عَلَّمْتَنَا أَسْمَاءَكَ الْحُسْنَى وَأَيَاتِكَ الْعُظْمَى

فعل اور حالی کے جیسے کہ تو نے سکھائے ہیں اپنے اسماء حسنی اور آیات عظمیٰ

بَلْ آيَةٌ كَرِيمَةٌ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بلکہ ایک ہی آیت کریمہ الحمد للہ یعنی تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار عالمین ہے رحمن رحیم ہے

مَا لِكَ يَوْمَ الدِّينِ اَبَلُ كَفٰى مِّنَّا فِى وُصْفِكَ الْعَظِيْمُ مَحْضُ كَلِمَةٍ

قیامت کے دن کا مالک ہے۔ بلکہ کافی ہے ہماری طرف سے تیرے وصف عظیم میں محض یہ کلمہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَبَلُ مَحْضُ اِسْمِ اللّٰهِ يٰ اَللّٰهُ يٰ اَللّٰهُ اَنْتَ تَعْلَمُ

الحمد للہ " بلکہ محض نام اللہ کا یا اللہ۔ یا اللہ۔ تو ہی جانتا ہے اپنے اسماء کمال

كَمٰلِ حَقِيْقَةِ اَسْمَائِكَ بِالْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَقْبَلُ مِنَّا كَمٰلِ نِعْمَتِكَ

حقیقت غیب اور شہادت میں۔ پس قبول فرما ہم سے ساتھ اپنی نعمت کمال اور

وَتَوْحِيْدِكَ يٰ اَتَمّٰمِ ثَنَائِكَ بِوُصْفِكَ وَتَعْرِيفِكَ يٰ اَسْمَائِكَ

توحید کے ساتھ کمال کرنے ثناء و توصیف کے اور تعریف کرنے کے ساتھ تیرے اسماء عظیمہ

اَلْاَعْظَمِ كَلِمَةً وَّ اِحْدَاةً اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ

کے ایک ہی کلمہ کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ وحدہ لا شریک

لَهُ وَتَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

اور شہادت دیتے ہیں کہ محمد تیرے عبد خاص اور رسول برحق ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاَرْحَمِ الَّذِى لَوْلَا لَمَّا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر وہ نبی ارحم کی اگر وہ موجود نہ ہوتے تو نہ

خُلِقَ الْجِنُّ وَالْاِنْسُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَالسَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَاللّٰهُمَّ

پیدا کئے جاتے جن و انسان اور نہ ملائکہ اور نہ ہی آسمان اور زمینیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِى

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل امجاد پر جو محبوب

كَانَ نَبِيًّا وَّ اَدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْحَبِ الْمَسْنُوْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

اس وقت نبی تھے جبکہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور سیاہ مٹی کے درمیان تھے۔ اے اللہ صلوات و

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ يَكُوْنُ

سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل پر وہ محبوب کہ ہوں گے

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَحْتَ لِوَاٰئِهِ الْاَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُوْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

تمام انبیاء و مرسلین قیامت کے دن ان کے لواحد کے نیچے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ نَالَ

وسلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے

مَنْزِلَةً يَّغِيْطُهَا بِهَا الْاَوْلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پائی وہ منزلت عظیم کہ رشک کریں گے اس کی وجہ سے ان سے سب اولین و آخرین۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ صَارَتْ

وسلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی بدولت ہو

بِهٖ اُمَّتُهُ خَيْرَ الْاُمَمِ وَقَازِفُوْنَ اَعْظِيْبًا مِنْهَا الْمُتَّقُوْنَ

گئی ان کی امت خیر امم اور عظیم کامیابی حاصل کی اس امت میں سے متقین نے

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةٍ اَعْيُنٍ جَزَاءً

پس نہیں جانتا کوئی نفس جو ان کے لیے پوشیدہ رکھا گیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک سے بطور ان

بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ فَصَلِّوْا لِلّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ

کی جزائے اعمال کے۔ پس اللہ تعالیٰ کی صلوات و تسلیمات ہوں ان پر

كَلِمًا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهَا الْغَافِلُوْنَ وَعَلٰی اٰلِهِ

جب بھی ذکر کریں اس کا ذکر کرنے والے اور جب کبھی غافل ہوں اس کے ذکر سے غافل لوگ اور آپ کی آل

وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ

اور اصحاب پر جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ اور اس نے ان کے لیے وہ جنتیں تیار فرمائی

تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا

ہیں جن کے (اشجار کے) نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور وہ ان جنات میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اے اللہ قبول فرما

هَذِهِ الصَّلَوَاتُ الْمُبَارَكَاتُ عَلَى حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ أَلُوَسْمِ عَلَيْهِ صَلَوَاتُكَ

ہم سے اپنے حبیب محمد سرایا حسن پر بھیجی ہوئی یہ مبارک صلوات۔ ان پر تیری صلوات و

وَسَلَامُكَ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مَا دَامَ وَجْهَكَ الْكَرِيمُ وَارْتُقْنَا

تسلیمات ہوں مطابق تعداد تیری مخلوقات کے (اور دائم ہوں) جس طرح تیری ذات کریم دائم ہے۔ اور عطا فرما ہیں

رُؤْيَتَهُ فِي النَّوْمِ وَالْيَقْظَةِ فِي الْيَوْمِ وَالصَّرِيحِ وَشَفَاعَتَهُ يَوْمَ

ان کا دیدار نیند اور بیداری میں۔ دن میں اور رات میں اور ان کی شفاعت جس دن

لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأَقْبِرْنَا

نہ نفع دے گا مال اور نہ ہی اولاد مگر جو حاضر ہوا بارگاہ الہی میں قلب سلیم کے ساتھ۔ اور ہمیں قبر نصیب فرما

فِي الْمَدِينَةِ الطَّيِّبَةِ عِنْدَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الْمُبَشِّرِينَ بِالْقَوْلِ

مدینہ طیبہ میں مہاجرین و انصار کے پہلو میں جنہیں بشارت دی گئی ہے عظیم کامیابی

الْعَظِيمِ وَوَقْنَا لِلْمُجَاهِدَةِ فِيكَ وَالتَّزْكِيَةِ وَالْأَعْمَالِ

کی۔ اور ہمیں توفیق عطا فرما اپنی ذات کے لیے مجاہدہ و ریاضت اور تزکیہ کی نیر اعمال

الصَّالِحَةِ وَالتَّوْبَةِ وَالْإِسْتِغْفَارِ وَاكْشِفْ عَنْ قُلُوبِنَا غَطَاءَ

صالحہ اور توبہ و استغفار کی۔ اور دور فرما ہمارے قلوب پر سے غفلت کے

الْغَفْلَةِ وَاجْعَلْهَا مَطَالِعَ الْأَنْوَارِ وَمَعَادِنَ الْأَسْرَارِ وَأَسْرِنَا

پر دے اور انہیں بناوے مطالع انوار اور معادن اسرار اور دکھلا ہمیں

وَجْهَكَ فِي الدَّارَيْنِ كَالْأَوْلِيَاءِ الْكِبَارِ إِثْمًا أَمْرًا إِذَا أَسْرَادَ

اپنی ذات اقدس دارین میں مانند اولیاء کبار کے۔ بے شک امر اس کا یہ ہے جب ارادہ

شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِنَا

فرمانے کسی چیز کا کہ فرمائے اسے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اے اللہ بناوے ہماری صلوات کو

بِأَفْضَلِ صَلَوَةٍ وَسَلَامَتَنَا بِأَحْسَنِ سَلَامٍ وَدُعَائِنَا بِأَكْمَلِ

افضل ترین صلوات۔ اور سلاموں کو حسین ترین سلام اور ہماری دعا کو کامل

دُعَاءِ وَاقِعَةٍ لِّجَمِيعِ اَوْقَاتِنَا كَمَا اَمَرْتَنَا بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

ترجمہ دعا جو محیط ہوں ہمارے تمام اوقات کو جیسے کہ تو نے ہمیں حکم دیا ان پر صلوٰۃ و سلام

عَلَيْهِ وَاجْعَلْ كُلَّ صَلَاتِنَا وَسَلَامِنَا وَاِقِعًا بَعْدَ دِكْرِ

کا۔ اور بناوے ہمارے تمام صلوات و تسلیمات کو اپنی مخلوقات کے اعداؤ سے اس

خَلْقِكَ اَلْفَ اَلْفِ مَرَّةٍ فِي كُلِّ اِنْ بِقَدْرِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَّكَ

لاکھ گنا ہر لحظہ و ہر آن میں مطابق تعداؤ اپنے جملہ معلومات کے ہمیشہ

اِلَى اَبْدِ الْاَبْدِ اِنَّ كَمَا يَنْبَغِي عَلَيْهِ مِنْكَ وَمِنْ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ

ہمیشہ تک جیسے کہ لائق ہے تیری طرف سے ان پر اور تمام اہل ایمان کی طرف سے

بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا اَللّٰهُ تَقَبَّلْ مِنَّا جَمِيعَ صَلَاتِنَا

برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ قبول فرما ہم سے ہماری تمام صلوات اور

وَسَلَامِنَا وَجَمِيعَ دَعْوَاتِنَا وَنِيَّاتِنَا فَاقْضِ لَنَا وَاعْطِنَا

تسلیمات اور تمام دعوات اور اچھی نیت پس پوری فرما ہمارے لیے اور عطا فرما ہمیں

جَمِيعَ حَاجَاتِنَا بِالْخَيْرِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ وَنُصْرَتِكَ وَحِفْظِكَ

ہماری تمام حاجات خیر ساتھ اپنی رحمت و کرم نوازی اور نصرت و حفاظت کے اور

وَاَمْنِكَ وَعِزَّتِكَ وَعَظْمَتِكَ وَفَضْلِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط

امن و عزت اور عظمت و فضل کے ساتھ اے ارحم الراحمین۔

وَيَا خَيْرَ النَّاصِرِينَ وَيَا خَيْرَ الْحَافِظِينَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ

اے بہترین مددگار۔ اے بہترین محافظ۔ اے فریادیوں کے فریادرس

يَا اَللّٰهُ لَا تَذَرْنَا وَلَا تَكِلْنَا اِلَى اَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ وَّاكْلَعْنَا

اے اللہ ہمیں نہ چھوڑ اور نہ سوچ ہمارے نفوس کی طرف ہلک بھینکنے کی دیر گھی اور ہماری حفاظت

كَلَاةَ الْوَلِيدِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ رَبِّنَا وَرَبِّ الْمَلٰٓئِكَةِ

فرما جیسے (باب) بیٹوں کی حفاظت کرتے ہیں پاک ہے شہنشاہ۔ بہت پاکیزہ۔ ہمارا رب ہے اور تمام ملائکہ کا

وَالرُّوحِ يَا بُدُّوحَ يَا سُبُوحَ يَا قُدُّوسَ أَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا بَاسِطَ

بالمعوم اور روح امین کا یا بخصوص۔ یا بدوح۔ یا سدوح۔ یا قدوس میں تجھے قسم دیتا ہوں

بِالسَّبْعِ الْهَوِيَّةِ وَبِالسَّبْعِ الْأَرْضِيَّةِ شَمُوخَ أَشْخَتْ طَائِشٍ

اے پھیلانے والے سات آسمانوں کے اور سات طبقات ارضیہ کے جو اتنے بلند ہیں کہ بلندی کی انتہاء کو پہنچے

طَاشَتْ يَا ذَا التَّوَالِ وَالنِّعَمِ يَا وَدُودَ ابْسِطِ النِّعْمَةَ وَتَرِيْلَ

ہوئے ہیں اور اتنے پست ہیں کہ نیستی کی حد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اے جو دود عطا اور نعمتوں والے۔ اے دود واپنی

النِّقْمَةَ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ اسْتَجِبْ

نعمت عام فرما اور عذاب و عقاب دور فرما۔ یا حنان۔ یا منان۔ یا اللہ۔ یا اللہ۔ یا اللہ میری

دَعْوَتِي اللَّهُمَّ اجْرِنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُقْنِي خَيْرًا

دعا قبول فرما۔ اے اللہ مجھے اجر عطا کر میری مصیبت میں اور مجھے بہتر بدل عطا

مِنْهَا اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي وَاجْرِنِي فِيهَا

فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنی مصیبت پر ثواب کا طلبگار ہوں مجھے اس کا اجر عطا فرما

وَإَبْدِلْنِي مِنْهَا خَيْرًا سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ

اور اس کا بہتر بدل عطا کر۔ پاکیزگی ہے اللہ کے لیے اور کے لیے حمد ہے۔ پاک ہے

اللَّهُ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ رَبِّي مِنْ كُلِّ

اللہ بلند شان عظمت والا اور اس کے لیے حمد ہے۔ میں مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے رب کے

ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ كُلَّ صَلَاتِنَا وَ

ہر گناہ کے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ بنا دے ہماری تمام صلوات و

سَلَامِنَا وَدُعَائِنَا بِأَفْضَلِ صَلَوَةٍ وَأَحْسَنِ سَلَامٍ وَأَكْمَلِ

تسلیات اور دعاؤں کو افضل صلوات اور حسین ترین تسلیات اور کامل ترین

دُعَاءٍ وَاقِعَةٍ لِجَمِيعِ أَوْقَاتِنَا وَحَالَاتِنَا كَمَا أَمَرْتَنَا فِي

دعوات جو محیط ہوں ہمارے تمام اوقات و حالات کو جیسے کہ تو نے ہمیں امر فرمایا

كُلِّ وَقْتٍ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ

ہر وقت ان پر صلوٰۃ و سلام کا برکتک یا الرحم الراحمین

الرَّاحِمِينَ يَا اللَّهُ يَا مُجِيبُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى

اے اللہ اے قبول کرنے والے صلوٰۃ و سلام اور برکت عطا فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً أَحَدُ أَثَارِهَا الْمُرْتَبَةُ عَلَيْهَا أَنْ تُعْطَى

سیدنا محمد کو ایسی صلوٰۃ کہ اس کے آثار مرتبہ میں سے ایک یہ ہو کہ عطا کرے

سُؤَالَ مَنْ تَوَسَّلَ بِاسْمِهِ الْمُبَارَكِ إِلَى حَضْرَتِكَ وَسَلَامًا

مطلوب پر اس شخص کو جو وسیلہ پڑے ان کے اسم مبارک کا تیری بارگاہ میں۔ اور ایسی سلام

مِنْ فُرُوعِ الْمُنْشَعِبَةِ أَنْ تُسَلِّمَ مَنْ سَأَلَكَ مُتَوَسِّلًا بِهِ مِنْ

کہ جس پر متفرع امور میں سے یہ بھی ہو کہ تو سلامت رکھے ان کے توسل سے سوال کرنے والے کو

أَهْلِ الْإِبْتِلَاءِ وَمَيَّاخَافٍ وَمِنْ سَائِرِ الْأَفَاتِ وَالْعَاهَاتِ وَ

اہل ابتلاء کو خوفناک امر سے اور جملہ آفات و بیات سے اور

مُبَارَكَةً مِّنْ لِّوَانِ مِهَا الْبَيْتَةِ أَنْ تَجْعَلَ فِي رِزْقِ الْمُتَوَسِّلِ بِهِ

ایسی برکت کہ جس کے لوازم بیٹہ سے یہ ہو کہ ان کے ساتھ توسل کرتے ہوئے اپنی بارگاہ کی طرف

إِلَى حَضْرَتِكَ بَرَكَةً عَامَّةً تَامَّةً اللَّهُمَّ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ

راغب کے رزق میں عام و تام برکت عطا فرمائے۔ اللہم۔ یا اللہ۔ یا رحمن۔ یا رحیم

يَا شَافِي صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى خَلِيْلِكَ وَصَفِيِّكَ وَحَبِيْبِكَ

یا شافی صلوٰۃ و سلام اور برکت نازل فرما اپنے خلیل و صفی اور حبیب پر

وَنَجِيْبِكَ مُحَمَّدًا حَمْدًا لِلَّهِ وَحَمْدًا لِلَّهِ وَشَهَادَةً

اور ہمکلام محمد پر جنہوں نے اللہ کی حمد کی اور اللہ نے ان کی حمد کی۔ انہوں اللہ کو دیکھا اور اللہ نے کما حقہ

اللَّهُ لَا يَحْمَدُ اللَّهُ إِلَّا هُوَ وَلَا يَشْهَدُهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

انہیں دیکھا نہیں حمد کر سکتے اللہ تعالیٰ کی کما حقہ مگر وہی اور نہیں دیکھ سکتا انہیں کما حقہ اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ اسْتَفَاضَ مِنْهُ الْوُجُودَ وَالشُّهُورَ

اور برکت نازل فرما آپ پر اور ان پر جنہوں نے آپ سے وجود و شہود کا فیض پایا

عَلَى حَسْبِ اسْتِعْدَادِهِ اللَّهُمَّ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ

اپنی اپنی استعداد کے مطابق - اللہم یا اللہ - یا رحمن - یا رحیم

يَا شَافِي صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَزْوَاجِهِ

یا شافی صلوٰۃ کاملہ نازل فرما محمد کریم پر اور آپ کے آل و اصحاب اور ازواج و عوات

وَأَتْبَاعِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَاشْفِنِي

اور تمام متبعین پر اور سلامتی و برکت نازل فرما آپ پر اور ان سب پر اور مجھے شفا کے کامل

شِفَاءً كَامِلًا عَاجِلًا بِحُرْمَتِهِ أَمِينُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

فی الفور عطا فرما بظہیر ان کی حرمت و عزت کے آمین یا رب العالمین

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ صَلَوةً وَسَلَامًا وَبَرَكَةً

اے اللہ صلوٰۃ و سلام اور برکت نازل فرما آپ پر جو صلوٰۃ و سلام اور برکت

كُلُّهَا نَاشِيَةٌ مِنْ مَحْضِ فَضْلِكَ وَحَيْثُكَ وَعَلَى آلِهِ

تمام سرزد ہو تیرے فضل خاص اور حب خاص سے اور آپ کے

وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ يَا رَحْمَنُ

اہل و اصحاب اور تمام اتباع پر - اللہم یا اللہ یا رحمن

يَا رَحِيمُ يَا شَافِي صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى

یا رحیم - یا شافی صلوٰۃ کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر - صلوٰۃ بھیجے اللہ تعالیٰ

عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ وَعَلَى سَيِّدِنَا

آپ پر اور آپ کے اہل و اصحاب پر اور سلام بھیجے اور سلام بھیجے ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ

محمد پر صلی اللہ علیہ و علی آلہ و صحبہ وسلم اور برکت نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

شَامِلَةً لِّجَمِيعِ الصَّلَوَاتِ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَلَامًا

مُتَضَمِّنًا لِّجَمِيعِ التَّسْلِيمَاتِ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِرَكَّةٍ

حَارِوِيَّةٍ لِّجَمِيعِ الْبُرَكَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ صَلَوةً وَسَلَامًا وَبِرَكَّةٍ تَأْتِيهِ مِّنْ

عَلَيْكَ الْقَدِيمِ وَفَضْلِكَ الْعَظِيمِ مُتَضَمِّنَةً لِّدَقَائِقِ

رَحْمَتِكَ الْعَامَّةِ الْوَاسِعَةِ وَأَسْرَارِ لُطْفِكَ

الشَّامِلِ الْكَامِلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ هُوَاهِلٍ لِلصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيمَاتِ

وَالْبُرَكَاتِ قَبْلَ كُلِّ أَحَدٍ وَبَعْدَ كُلِّ أَحَدٍ وَمَعَ كُلِّ أَحَدٍ

بِرَكَاتِ كُلِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ

أَهْلِيَّةً كَامِلَةً تَامَةً بِجَسَدِهِ وَبِرُوحِهِ وَبِقَلْبِهِ وَبِجَمِيعِ

بطور کامل و مکمل اہلیت کے باعتبار اپنے جسم اقدس، روح نور اور قلب منیر کے اور تمام

لَطَائِفِهِ وَبِحَقَائِقِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْغَالِبُ عَلَى الْكُلِّ

لطائف و حقائق کے۔ اے اللہ تو ہی غالب ہے سب پر

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْقَادِرُ عَلَى الْكُلِّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اے اللہ تو ہی قادر ہے سب پر۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَصْحَابِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور سیدنا محمد کے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَوْلَادِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَشْرَةِ

اصحاب پر اور سیدنا محمد کے ازواج پر اور سیدنا محمد کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ كُلِّ مَنِ انْتَسَبَ إِلَيْهِ صُورَةً أَوْ مَعْنَىٰ

عزت و اولاد پر اور جو بھی آپ کی طرف منسوب ہیں از روئے صورت یا معنی کے

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ وَعَظَّمْ وَمَجِّدْ وَ

درود بھیجے اللہ تعالیٰ آپ اور سلام اور برکات اور انہیں عظمت و بزرگی اور

كَرَّمَ أَلْفَ أَلْفٍ مَرَّةٍ بَعْدَ كُلِّ ذِكْرَةٍ اللَّهُمَّ أَنْتَ تَعْلَمُ أِنِّي

اکرام عطا فرمائے ہر ہر ذرہ کی گنتی و شمار سے دس لاکھ گنا۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں

عَاجِزٌ عَنِ إِقَامَةِ سُبَابِ صِحَّتِي وَعَافِيَّتِي إِلَّا أَنْ تَوْسَلْتُ

عاجز ہوں اپنی صحت و عافیت کے اسباب متیا کرنے سے مگر میں نے وسیلہ بنایا ہے

بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمَاتِ عَلَىٰ مَنْ هُوَ لِهَا أَهْلٌ وَلَا يَرُدُّ سَوَالُ

اس ذات اقدس کی صلوات و تسلیمات کو جو ان کے کما حقہ اہل ہیں۔ اور رو نہیں کیا جاتا سوال

الْمُتَوَسِّلِ بِمُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

توسل کرنے والوں کا ساتھ محمد مختار کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

فَاجِبْ سُؤَالِي وَاشْفِنِي وَقَوِّنِي وَصَحِّحْنِي وَاجْعَلْنِي طَوِيلَ

لہذا میرا سوال پورا فرما اور مجھے شفا۔ قوت اور صحت عطا فرما اور مجھے بنا طویل عمر والا

الْعَبْرُ فِي مَحَبَّتِكَ وَالْإِسْتِقَامَةَ عَلَى شَرِيعَتِكَ اللَّهُمَّ

اپنی محبت میں اور شریعت پر ثابت قدمی میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ يَا مَنْ لَا خَالِقَ إِلَّا أَنْتَ

صلوٰۃ و سلام اور برکت نازل فرما آپ پر۔ اے اللہ نہیں خالق سوائے تیرے

صَلَوَاتِكَ وَتَسْلِيمَاتِكَ وَمُبَارَكَاتِكَ وَتَعْظِيمَاتِكَ وَتَكْرِيمَاتِكَ

تیری صلوات۔ تسلیمات۔ برکات اور تعظیمات و تکریمات اور

وَتَمْجِيدَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ

تمجیدات ہوں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ

إِنِّي أَتَوَسَّلُ بِحَبِيبِكَ الَّذِي هُوَ بِحَقِيقَتِهِ لَيْسَ بِسِوَاكَ

بیشک میں توسل کرتا ہوں تیرے حبیب کے ساتھ جو حقیقت میں تجھ سے جدا نہیں ہے

وَجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ وَإِنْ كَانَتْ شَرِيفَةً بِحَقَائِقِهَا فَهِيَ بِحَقَائِقِهَا

اور دیگر تمام اشیاء اگرچہ فی حد ذاتہ شرف والی ہی ہیں مگر وہ اپنے حقائق کے لحاظ سے بھی

أَيْضًا سِوَاكَ كَمَا أَنَّهَا بِصُورِهَا سِوَاكَ اللَّهُمَّ إِنَّ حَقِيقَةَ

تیرے سوا ہیں جیسے کہ صورتوں کے لحاظ سے جدا ہیں۔ اے اللہ بیشک تیرے حبیب

حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ الْوَحْدَانَةُ

محمد کی حقیقت۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہی وحدت کبریٰ

الْكُبْرَى الدَّائِيَّةُ الَّتِي لَا تَزِيدُ عَلَى ذَاتِكَ وَتَشْتَمِلُ

ذاتیہ ہے جو تیری ذات پر زائد نہیں ہے اور مشتمل ہے ان تمام کمالات پر بطور ظن و عکس

عَلَى مَا فِي ذَاتِكَ فَحَبِّدْ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کے اچھے تیری ذات میں ہیں۔ پس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تونے

خَلَقْتَهُ مِنْ ذَاتِكَ وَغَيْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پیدا فرمایا اپنے (فیض) ذات سے اور ان کے ماسوا کو پیدا فرمایا

خَلَقْتَهُ مِنْ صِفَاتِكَ الزَّائِدَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مِنْ

اپنی صفات زائدہ (کے فیض) سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما اس ذات

خَلَقْتَهُ مِنْ ذَاتِكَ وَأَشْفِنِي بِحُرْمَتِهِ شِفَاءً تَامًا

پر جسے تو اپنی ذات (کے فیض) سے پیدا فرمایا اور مجھے شفا عطا فرما بظہیر ان کی عزت و حرمت کے فوری

كَامِلًا عَاجِلًا بِعِزَّتِهِ وَعَظَمَتِهِ عِنْدَكَ وَعِنْدَ الْأَنْبِيَاءِ

اور کامل شفا بظہیر ان کی عزت و عظمت کے جو تیرے نزدیک اور تمام انبیاء و مرسلین کے

وَالْمُرْسَلِينَ وَعِنْدَ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَعِنْدَ مَلَائِكَتِكَ

نزدیک ہے اور اللہ تعالیٰ کے تمام صالح بندوں اور مقرب فرشتوں اور

الْمُقَرَّبِينَ وَعِنْدَ كُلِّ مَلِكٍ الْعَوَامِينَ وَمَلَائِكَةِ الْأَعْوَانِينَ

عام ملائکہ اور مساویین ملائکہ کے نزدیک ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَعَزَّ النَّاسِ نَفَرًا اللَّهُمَّ

اے اللہ صلوٰۃ کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جو سب انسانوں سے عزیز تر ہیں جماعت کے لحاظ سے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَقَلَّدَ مِنَ الْعِزِّ الْمَكِينِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں پر پائیدار عزت کا بار پہنا جو

بِأَحْسَنِ قِلَادَةِ التَّزْيِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

حسین ترین زیبائش والا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي خَفَقَ لَهُ الْعَرْشُ بِكَمَالِهِ وَعَظَمَتِهِ لِسَاءِ وَطَنِهِ

محمد پر جن کے لیے جھوم اٹھا عرش اعظم اپنے کمال و عظمت کے باوجود آئے اس پر رکھے

بِأَقْدَامِهِ وَأَعَزَّهُ بِأَوْلَى عِزِّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اپنے مبارک قدم اور اسے عزت بخشی اپنے اعلیٰ عزم کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَجَلَّى بِنُورِ حُلَّةِ السِّيَادَةِ فَتَالَهَا

سیدنا محمد پر جو جلوہ گر ہوئے سیادت والی خلعت کے ساتھ پس اس کو حاصل کر لیا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَوَجَّرَ بِتَاجِ الْعِزَّةِ

اے اللہ صلوٰۃ کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہیں عزت کا تاج پہنایا گیا

فَادْرِكْ كَمَا لَهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

پس آپ نے کمال عزت کا احاطہ فرمایا۔ اے اللہ صلوٰۃ کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کے

رَأَتْعَ فِي رِيَاضِ الْعِزِّ جَوَادُ عَزْمِهِ اللَّهُمَّ وَبِجَهْدِكَ عَلَى

اسپ عزمت عزت کے سبزہ زاروں میں چرا۔ اے اللہ تیرے لیے حمد ہے

مَا جَعَلْتَ حَبِيبَكَ بِحَيْثُ لَوْ لَا حَقِيقَتُهُ لَمَا تَحَقَّقَ الظُّهُورُ

اپنے حبیب کو اس مقام و مرتبہ میں بنانے پر کہ اگر ان کی حقیقت موجود نہ ہوتی تو ظہور کائنات نہ ہوتا

وَلَوْ لَا ظِلُّهُ الْأَوَّلُ لَمَا ظَهَرَتْ الرَّبُوبِيَّةُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اور اگر ان کا ظل اول نہ ہوتا تو تیری ربوبیت کا ظہور نہ ہوتا۔ اے اللہ صلوٰۃ کاملہ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَلَكَ طَرِيقَ الْعِزِّ وَالْبَسَالَةِ

سیدنا محمد پر جو عزت اور جوانمردی کی راہ پر چلے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَقَامِ الْأَنْوَارِيِّ

اے اللہ صلوٰۃ کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جو نورانی مقام اور

وَالْوَجْهِ الْأَقْبَرِ وَصَاحِبِ الْجَبِينِ الْأَزْهَرِ وَصَاحِبِ

چاند جیسے نورانی چہرے والے ہیں اور روشن جبین کے مالک اور حوض کوثر

الْحَوْضِ وَالْكُوْثَرِ وَصَاحِبِ الْمِحْرَابِ وَالْمِنْبَرِ عِدَدِ نَبَاتِ

اور نہر کوثر والے ہیں اور صاحب محراب و منبر ہیں ایسی صلوٰۃ جو زمین

الْأَرْضِ وَالْأَوْرَاقِ الشَّجَرِ وَعِدَدِ الرَّمْلِ وَالْحَصَا وَالْمَدِيرِ

کے پودوں اور درختوں کے پتوں کی گنتی کے مطابق اور ریت کے ذرات اور کنکریوں اور ڈھیوں کی مقدار

وَعَدَدَ مَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

ہو۔ اور ان تمام اشیاء کی گنتی کے مطابق جن پر سورج اور چاند طلوع ہوتے ہیں۔ اے اللہ بیشک میں سوال کرتا ہوں

التَّوْفِيقَ بِمَحَابَّتِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ وَصِدْقَ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَحُسْنَ

تجھ سے تیرے پسندیدہ اعمال کی توفیق کا۔ اور کامل توکل کا تیری ذات پر اور تیرے ساتھ

الظَّنِّ بِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ وَأَسْأَلُكَ تَمَامَ

حسن ظن کا۔ اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں اور سوال کرتا ہوں کامل

الْوُضُوءِ وَتَمَامَ الصَّلَاةِ وَتَمَامَ رِضْوَانِكَ وَعَفْوِكَ وَمَغْفِرَتِكَ

وضو۔ کامل نماز اور کامل رضا مندی اور عفو و مغفرت کا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ فَإِنَّ لِلْسَّائِلِ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے در کے سوا بیوں کے طفیل کیونکہ تیرے سائل کا

عَلَيْكَ حَقًّا أَيُّمَا عَيْدٍ أَوْ أُمَّةٍ مِّنْ أَهْلِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَقَبَّلَتْ

تجھ پر حق ہے (از روئے تیرے فضل کے) جس میں بندہ اور باندی کی خشکی یا تری میں رہنے والوں کی تو نے

دَعْوَتَهُمْ وَأَسْتَجَبْتَ دُعَائِهِمْ أَنْ تُشْرِكَنِي فِي صَالِحِ مَا يَدْعُونَكَ

دعوت قبول کی اور دعا مستجاب فرمائی ہیں بھی ان کی نیک دعاؤں میں شریک فرما اور

فِيهِ وَأَنْ تُشْرِكَهُمْ فِي صَالِحِ مَا نَدُّعُوكَ فِيهِ وَأَنْ تُعَافِيَنَا

انہیں ہماری نیک دعاؤں میں حصہ دار بنا اور عافیت عطا فرما ہمیں بھی اور انہیں بھی

وَأَيَّاهُمْ وَأَنْ تَقْبَلَ مِنَّا وَمِنْهُمْ وَأَنْ تَتَجَاوَزَ عَنَّا وَعَنْهُمْ

اور قبول فرما ہم سے بھی اور ان سے بھی اور درگزر فرما ہم سے بھی اور ان سے بھی

فَإِنَّا أُمَّتٌ مِّمَّا بَيَّأَنُزَلَّتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

کیونکہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تو نے اتاری اور تیرے رسول کی اتباع کی پس ہمیں اہل شہادت میں شمار فرما

اللَّهُمَّ اهْدِنِي بِالْهُدَى وَنَقِّنِي بِالتَّقْوَى وَاعْفُ عَنِّي

اے اللہ مجھے راہ دکھلا کامل ہدایت کے ساتھ اور پاک فرما کامل تقویٰ کے ساتھ اور میرے لیے مغفرت فرما

الْآخِرَةِ وَالْأُولَى اللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ

آخرت اور دنیا میں۔ اے اللہ ہم پر پھیلا اور عام فرما اپنی برکات اور رحمتیں

وَفَضْلِكَ وَبِرْزُقِكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضِدِي وَنَصِيرِي بِكَ

اور فضل و رزق کو۔ اے اللہ تو ہی میرا دست و بازو اور ناصر ہے۔ تیری توفیق

أَحْوَلُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَقَاتِلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ

سے طاقت پاتا ہوں اور تیری توفیق سے ہی حملہ آور ہوتا ہوں اور تیری تقویت کے ساتھ قتال کرتا ہوں اور نہیں قوت و طاقت

اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَتَرَيِّنُهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا

مگر ساتھ تیرے۔ اے اللہ محبوب بنا دے ہمارے لیے ایمان کو اور اسے مزین فرما ہمارے قلوب میں اور ناپسندیدہ بنا ہمارے

الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ وَتَوَفَّنَا

نزدیک کفر و فسق اور نافرمانی کو اور ہمیں سیدھی راہ والوں سے بنا اور ہمیں وفات دینا حالت اسلام

مُسْلِمِينَ وَالْحَقَّنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرِ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ

پر اور لائق فرما صالحین کے ساتھ در آنحالیکہ نہ رسوا ہونے والے ہوں اور نہ فتنہ میں مبتلا

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أُمَّتِكَ نَاصِيَتِي

اے اللہ بیشک میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا اور تیری باندی کا بیٹا۔ میری پیشانی

بِيَدِكَ مَا ضِىَّ فِي حُكْمِكَ عَدْلٌ فِي قَضَائِكَ اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ

تیرے ہفتہ قدرت میں ہے۔ مجھ پر تیرا حکم ناقذ ہے اور میرے حق میں تیرا ہر فیصلہ سراسر عدل ہے۔ اے اللہ نہیں سہل

إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ سَهْلًا إِذَا شِئْتَ

کوئی امر مگر جس کو تو سہل فرمائے اور تو ہی سخت کو نرم بناتا ہے جب چاہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

نہیں معبود برحق مگر اللہ حلیم کریم۔ پاک ہے اللہ مالک عرش عظیم کا

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي أَبَدًا

تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اے اللہ مجھ پر رحم فرما معاصی کے ترک کرنے میں

مَا أَبْقَيْتَنِي وَأَرْحَمَنِي أَنْ أَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْنِينِي وَأَرْزُقَنِي

ہمیشہ کے لیے جب تک مجھے باقی رکھے اور مجھ پر رحم فرما کہ میں تکلف کروں بے مقصد امور کا۔ اور مجھے نصیب

حُسْنِ النَّظَرِ فِيمَا يَرْضِيكَ عَنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ

فرما حسن نظر ان امور میں جو تجھے راضی کر دیں مجھ سے۔ اے اللہ بیشک میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف

مِنَ الْمَعَاصِي لَا أَرْجِعُ إِلَيْهَا أَبَدًا اللَّهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ

جلد معاصی سے میں کبھی ادھر رجوع نہیں کروں گا۔ اے اللہ تیری مغفرت زیادہ وسیع ہے

مِنْ ذُنُوبِي وَرَحْمَتُكَ أَرْجُو مِنْ عِنْدِي مِنْ عَمَلِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ

میرے گناہوں سے اور تیری رحمت زیادہ امید کے لائق ہے میرے اعمال سے۔ اے اللہ تو درگزر

عَفْوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا اسْتَغْفِرُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ

فرمانے والا ہے۔ عفو کو محبوب رکھتا ہے پس ہم سے درگزر فرما میں استغفار کرتا ہوں اللہ سے کہ نہیں کوئی معبود برحق

إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ

مگر وہی ہی قیوم اور توبہ کرتا ہوں طرف اس کے۔ اے اللہ مجھے بخش اور مجھ پر توبہ فرما

إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْسَاتِي وَأَمِنْ رَوْعَاتِي

بیشک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے اللہ میرے عیوب کو چھپا۔ اور تسکین دے میری پریشانوں کو

اللَّهُمَّ أَنْتَ أَحَقُّ مِنْ ذِكْرٍ وَأَحَقُّ مِنْ عِبَادٍ وَأَنْصَرُ مِنْ

اے اللہ تو ہی حقدار ہے ذکر کا اور حقدار ہے عبادت کا اور بہت مدد دینے والا ہے تمام مدد طلب

أَبْتُغِي وَارَأْفُ مِنْ مَلِكٍ وَأَجُودُ مِنْ سَيِّلٍ وَأَوْسَعُ مَنْ أَعْطَى

کئے ہوؤں سے اور زیادہ مہربان ہے سب مالکوں سے اور زیادہ جو دو عطا والا ہے تمام سوال کئے ہوؤں سے اور وسیع تر عطا والا ہے سب عطا

اللَّهُمَّ اسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ

کرنے والوں سے۔ اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں اپنے ذنوب سے اور سائل ہوں تیری رحمت کا۔ اے اللہ

اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا عَنِ الْفَقْرِ وَالْكَفْرِ وَالشَّرِّ وَالشَّرِيرِ

ادا فرما ہمارا قرض اور بے نیاز کر فقر و کفر سے اور شر و شریروں سے۔

اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

اے اللہ اسے دلوں میں متصرف ہمارے قلوب کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر

بِرَحْمَتِكَ وَعَظَمَتِكَ وَعِزَّتِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي هُوَ

ساتھ اپنی رحمت و عظمت اور عزت و غلبہ کے۔ اے اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما وہ

ذَنْبٌ عَظِيمٌ كَثِيرٌ مِنْ عَدَدِ الرَّمْلِ وَالنَّيْلِ وَالْحَجَرِ وَالْمَدَارِ

گناہ اگرچہ زیادہ عظیم و کثیر ہیں ریت کے ذرات۔ چھوٹیوں اور پتھروں۔ ڈھیلوں

وَالشَّجَرِ وَالذَّوَابِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ وَذُنُوبِي كَثِيرٌ

درختوں اور جانوروں وغیرہ کی تعداد سے جو اللہ ہی کے علم میں ہیں اور میرے گناہ زیادہ ہیں

مِنْ ذَرَّةٍ ذَرَّةٍ وَقَلِيلٌ مِّنْ كَرَمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ الْحَقِيقُ

ہر ہر ذرہ کائنات سے (لیکن) وہ قلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم و بخشش اور مغفرت سے۔ اے اللہ مجھے لائق فرما

بِزَمْرَةٍ تَكُونُ رِعْوِ سَاءِ الرُّوحَانِيِّينَ تَهْنِئَةً وَعُظْمَاءِ الْمُقَرَّبِينَ

اس جماعت کے ساتھ کہ روحانیوں کے روعاء انہیں مبارکباد دیں اور مقربین میں سے عظماء انہیں ہدیے

تُحْيِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پیش کریں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي تَدَلَّى لَهُ رَفْرَفٌ مِّنَ السُّنْدُسِ الْأَخْضَرِ وَمُكَلَّلًا

پر جس محبوب کے لیے اتری رفرت سبز ریشم سے جو مرصع تھی

بِالدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ وَالْجَوْهَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

موتیوں اور یاقوت و جواہر کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي انْتَصَبَ عَلَى الْعَرْشِ لِوَالِهِ وَ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جن کا پرچم نصب ہوا عرش اعظم پر اور

جَذِبَتْ عَلَيْهِ يَارْتَفَاعِهِ إِلَى عَرْشِ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

کھینچے گئے اس کے رے اس کو عرش مولیٰ تک بلند کرنے کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ارْتَفَعَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو نازل ہوئے

بِمَسْرَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا وَجَزَعُ الشَّرْفِ يَتَسَاقَطُ عَلَيْهِ رُطْبًا جَنِيًّا

اپنے اسرار کے ذریعے بلند ترین مکان پر اور شرف و بزرگی کے تناور وزخت ان پر تازہ کھجوریں ٹاڑ کر رہے تھے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي أَعْطَى الرَّمْلَ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِهِ لِأَكْلِ فَصَارَ الْيَنَ مِنْ

کہ جس محبوب نے ریت دی اپنے صحابہ کی جماعت کو کھانے کے لیے تو وہ کھن سے

الزَّيْدِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

زیادہ نرم و ملائم اور شہد سے شیریں تر ہو گئی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي إِصْطَفَاهُ اللَّهُ بِقُدْسِهِ وَأَفْرَغَ

اور سیدنا محمد کی آل پر جنہیں اللہ نے چن لیا ان کے تقدس کی وجہ سے اور انہیں

اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَايِسَ أَنْسِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

پہنانے اپنے انس و محبت کے ملبوسات۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَلَا آيَاتِ الْأَنْوَارِ رَبَّانِيَّةٍ

پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے ارد گرد چمکے انوار ربانیہ

حَوَالِيَهُ لَهَا اتَّحَفَهُ اللَّهُ بِالْقُرْبِ مِنْهُ وَإِلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

جب اللہ تعالیٰ نے مشرف فرمایا اپنے ذات اور بارگاہ والا کے قرب سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَرَّفَهُ اللَّهُ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہیں اللہ نے مشرف فرمایا تحف

بِالتَّحِيَّةِ وَحَيَّاهُ وَنَوَّسَ اللَّهُ الْأَنْوَارَ بِنُورِ مَحْيَاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

کے ساتھ اور ہیرو دیا۔ اور انوار کو منور فرمایا ان کے چہرہ انور کی ضیاء سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَانَر

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو فائز ہوئے

بِوَصْلِ مُسْتَتِرٍ عَنِ الْعِيُونِ وَأَظْلَعِ عَلٰی سِرِّكُمْ يَهْجَسُ بِخَوَاطِرِ

اپنے وصل سے جو خلائق کی نظروں سے مخفی تھا اور مطلع ہوئے ایسے رازوں پر جن کا گز نہیں ہوا تھا

الظُّنُونِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

ظنون کے قلوب میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَلَدَّ ذِكْرُ الْمَلِكِ الْجَلِيلِ وَرَأَىٰ بَعِيْنِ

کی آل پر جو محبوب لطف اندوز ہوئے ملک جلیل کی ہمکلامی سے اور دیدار کیا اس کا

رَأْسَهُ بِغَيْرِ تَشْبِيْهِ وَلَا تَمْثِيْلٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

چشم سے بغیر تشبیہ و تمثیل کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَادَاهُ الْحَقُّ بِمَنْتَهٰ اِلَيْهِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جنہیں بلایا حق تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنی طرف افرماتے

لَا تَخْلَعُ نَعْلَيْكَ لِمَا هُمْ بِخَلْعِ نَعْلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

ہوئے (کہ نہ اتارے اپنے جوتے جبکہ اپنے ان کے اتارنے کا ارادہ کیا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَادَاهُ مَوْلَاهُ الْبِسُّ نَعْلَيْكَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جنہیں پکار کر کہا ان کے مولیٰ نے اپنے جوتے پہن لینے

وَمَا بِسَاطِ عَرْشِيْ بِنَعْلَيْكَ وَقَدْ مِيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور میرے بساط عرش کو اپنے جوتوں اور قدموں سے مشرق کر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَادَاهُ الْحَقُّ مَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہیں پکار کر فرمایا حق تعالیٰ نے میں نے

خَلَقْتُ الْعَرْشَ إِلَّا مِنْ أَجْلِكَ وَأَنْتَ مُشْتَقٌّ إِلَىٰ مَسِّ نَعْلَيْكَ

عرش کو صرف آپ کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ مشتاق ہے تمہارے جوتوں سے مس ہونے کا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي نَادَاةً مَوْلَاهُ يَا أَكْرَمَ رُسُلِي خَلَقْتَ الْكُلَّ مِنْ

جنہیں پکار کر فرمایا ان کے مولیٰ نے اے میرے تمام رسل سے مکرم ترین میں نے سب کو پیدا کیا ہے تیرے

أَجْلِكَ وَخَلَقْتُكَ لِأَجْلِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

یہ اور تجھے پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَادَاةً حُورًا الْخِيَامِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جنہیں خیم خبان کی حوروں نے پکار کر عرض کیا

نَحْنُ نَنْتَظِرُ قَدْ وَرَمَكَ مِنْذُ سَبْعَةِ أَلْفِ عَامٍ اللَّهُمَّ رَبِّ

ہم منتظر ہیں جناب کی تشریف آوری کی سات ہزار سال سے۔ اے اللہ اے مالک

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ إِنِّي أَعْتَدُ إِلَيْكَ

آسمانوں اور زمینوں کے۔ عالم غیب و شہادت کے میں تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں

فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ

اپنی دنیوی زندگی میں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ نہیں معبود برحق مگر تو یگانہ

لَا شَرِيكَ لَكَ وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ فَإِنَّكَ إِنْ

نہیں کوئی شریک تیرے لیے اور محمد تیرے عبد خاص اور رسول برحق ہیں پس تو اگر

تَكَلَّمْتَنِي إِلَى نَفْسِي تُقَرِّبْنِي مِنَ الشَّرِّ وَتُبَاعِدْنِي مِنَ الْخَيْرِ وَ

سوچے مجھے میرے نفس کو تو وہ مجھے شر کے قریب کر دے اور خیر سے دور کر دے گا اور

إِنِّي لَا أَتَّقِي إِلَّا بِرَحْمَتِكَ وَمَغْفِرَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

میں صرف اور صرف تیری رحمت و مغفرت پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جنہیں بنا یا اللہ تعالیٰ نے فخر الانساء

الْأَنْبِيَاءِ وَأَشْرَفَ الْأَنْبِيَاءِ وَأَكْرَمَ الْأَنْبِيَاءِ وَأَفْضَلَ الْأَنْبِيَاءِ

اشرف الانبياء اور اکرم الانبياء - افضل الانبياء

وَشَسَّ الْأَنْبِيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور شس الانبياء - لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِأَصْحَابِي لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ

اور آپ کی آل پر جنہوں نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا - میرے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص وقت

لَا يَسْعُنِي فِيهِ مَلَكٌ مُّقْرَبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُّرْسَلٌ وَقَالَ أَيُّكُمْ مِثْلِي

ہوتا ہے - نہیں گنجائش رکھتا میری اس وقت میں کوئی مقرب فرشتہ اور نہ نبی مرسل اور آپ نے فرمایا تم میں سے کون میری مانند

أَنَا أبيتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي يَا رَبِّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى

میں راتیں اللہ کے ہاں گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے - لے میرے رب محمد مصطفیٰ کے صدقے

عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ يَعِدُ كُلَّ ذَرَّةٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

میں ان پر افضل ترین صلوات و تسلیمات ہوں ہر ہرزہ کائنات کی تعداد سے دس لاکھ گنا

أَعْطِنِي لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشُّوقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي كُلِّ

مجھے عطا فرما اپنے دیدار ذات کی لذت اور اپنی ملاقات کا شوق جو ہر لمحہ

لِحُجَّةٍ يَزِيدُ وَيُضَاعِفُ بِحَضْرَتِكَ وَأِحْسَانِكَ مَا عَلَى

بڑھے اور زائد ہوتا رہے اپنے خالص فضل و احسان کے طفیل جو مصطفیٰ

الْمُصْطَفَى يَا رَبِّ اغْفِرْ وَأَرْحِمِ الْفَقِيرَ الْوَجِلَ الضَّعِيفَ

کریم پر ہے - لے میرے رب بخش اور رحم فرما محتاج - ترسناک اور کمزور پر

الَّذِي لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

جس کا کوئی نہیں ہے سوائے تیرے بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ إِلَهِي لَا يَعْتَمِدُ قَلْبِي وَقُلُوبُ عِبَادِكَ إِذَا سُئِلَ

لے میرے اللہ میرا دل اور تمام بندوں کے دل اس پر اعتماد کیسے تیار نہیں ہیں

شَيْءٌ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا يَتَّبِعُ لِكَمَالِهِ

کہ جب تجھ سے کوئی شئی نام محمد کے وسیلہ سے طلب کی جائے اور تو وہ عطا نہ کرے

مِنْكَ وَجَمِيعِ عِبَادِكَ وَلَمْ تُعْطِهِ الْإِلهِي فَأَيُّ الْعَاصِي الْمُنْتَبِي

ان پر صلوٰۃ و سلام ہو تیری طرف سے اور تیرے تمام بندوں کی طرف سے جیسے کہ ان کے کمال کے لائق ہے اے میرے

إِذَا سَأَلَكَ عُفْرَانُكَ وَبِرَضَائِكَ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

اے کونسا گناہگار ہے کہ جس نے تجھ سے مغفرت اور رضامندی کا سوال کیا ہو بظیفیل نام محمد کے وسیلہ صلوٰۃ

وَالسَّلَامُ وَلَمْ تُغْفِرْهُ وَلَمْ تُرْحَمْ عَنْهُ الْإِلهِي فَأَيُّ الْوَلَايَةِ

و السلام اور تو نے اسے بخشا نہ ہو اور اس سے راضی نہ ہوا ہو۔ اے میرے اللہ وہ کونسی ولایت

وَالْعِلْمُ وَالْعُرْفَانُ إِذَا سَأَلَكَ سَائِلٌ طَالِبٌ بِاسْمِ

اور علم و عرفان ہے کہ جب کسی سائل و طالب نے تجھ سے طلب کیا ہو بوسیلہ اسم

مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمَا وَهَبْتَهُ فَأَسْأَلُكَ

محمد علیہ الصلوٰۃ و السلام کے اور تو نے اس کو عطا نہ کیا ہو تو میں بھی سوال کرتا ہوں

يَا اللهُ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِذَاتِهِ وَجَمِيعِ

اے اللہ بظیفیل اسم محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذات اقدس کے اور تمام صفات

صِفَاتِهِ وَبِكَمَالِ فَقْرِهِ فَأَعْطِنِي يَا اللهُ مَا أَسْأَلُكَ وَأَقْضِ

کمال کے اور ان کے کمال فقر کے پس مجھے بھی عطا فرما اے اللہ جو تجھ سے مانگتا ہوں اور پورا فرما

حَاجَتِي كُلَّهَا وَلَا تَكْلِفْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا أَقْلَ مِنْ ذَلِكَ

میری تمام حاجات کو اور مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما بلکہ چھپکنے کی دیر بلکہ اس سے بھی کم

وَأَكْلَانِي كَلَاءَةَ الْوَلِيدِ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِلهِي

اور میری حفاظت فرما مانند حفاظت کرنے (آباء کے) اولاد کی بظیفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے اللہ

إِذَا سَأَلَ حُبُّ بِاسْمِ مُحِبِّ مُحِبًّا وَلَهُ قُوَّةٌ أَعْطَاهُ فَلْيُعْطَاهُ

جب سوال کرے کوئی محب محب کے نام پر محبت اور اسے طاقت عطا کی بھی ہو تو وہ ضرور عطا کرتا ہے اور

مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا يَنْبَغِي لِكَمَالِهِ مِنْكَ وَجَمِيعِ

محمدؐ ان پر مسلوٰۃ و سلام ہو۔ جیسے کہ ان کے کمال کے لائق ہے تیری طرف سے اور تیرے تمام

عِبَادِكَ مُحِبُّكَ وَحَبِيبِكَ وَرَسُولِكَ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِهِ فَأَعْطِنِي

بندوں کی طرف سے " تیرے محب بھی ہیں اور حبیب و رسول بھی اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان کے نام کے

يَا اللَّهُ مَا أَسْأَلُكَ وَأَقْضِ حَاجَاتِي كُلَّهَا وَهَبْ لِي إِيْمَانًا دَائِمًا

وسیلہ سے پس عطا فرما مجھے اے اللہ جو میں مانگتا ہوں اور پوری فرما میری تمام حاجات اور مجھے عطا فرما دائمی ایمان

وَيَقِيْنًا صَادِقًا لَيْسَ بَعْدَهُ الْكُفْرُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور خالص یقین جس کے بعد کفر کا امکان نہ ہو بطیفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ الْهَيَّ أَنْتَ قُلْتَ بِمَحْضٍ فَضْلِكَ وَإِحْسَانِكَ إِذَا

کے۔ اے میرے الہ تو نے اپنے فضل اور احسان کامل سے فرمایا ہے

سَأَلْتُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا

جب سوال کریں تم سے میرے بندے میرے متعلق تو میں قریب ہوں۔ قبول کرتا ہوں دعا کرنے والوں کی دعائیں

دَعَانِ فَإِنِّي عَبْدُكَ الدَّاعِي الْآنَ إِلَيْكَ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ

جب بھی مجھ سے دعا کریں۔ تو میں بھی تیرا بندہ ہوں جو اب تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ ہمیں راہ راست پر چلا

السَّيْقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ

راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا نہ ان کی جن پر غضب کیا

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ آمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْهِنَالَيْسَ لَنَا

گیا اور نہ بھٹکے ہوؤں کی آمین۔ اے اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے نہیں ہمارے

أَحَدًا إِلَّا أَنْتَ وَحَبِيبِكَ وَأَنْتَ لَنَا وَأَنْتَ وَكَيْلُنَا

لے کوئی بھی سوائے تیرے اور تیرے حبیب کے اور میں تیرا ہوں اور تو ہمارا ہے اور تو ہمارا کفایت فرماتا ہے

كَافٍ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَيْلًا ۝ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ۝ وَكَفَى بِاللَّهِ

وکیل ہے اور کافی ہے اور بطور کار ساز کے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور مددگار کے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ

وَكَيْلًا ۝ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ۝ وَكَفَى بِاللَّهِ

وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

نصرت و امداد دینے والا۔ مدد کافی ہے اللہ داعی علم والا۔ اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا۔ اور کافی ہے اللہ بطور گواہ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل انجاء پر

صَلْوَةً تَحْفَظُ بِهَا أَشْخَاصَنَا وَتُسَهِّلُ بِهَا أَعْتِبَانَنَا وَتُدَاوِي بِهَا

جس صلوٰۃ کے طفیل ہمارے اشخاص کو محفوظ رکھے اور ہماری دشواریوں کو آسان فرمائے اور ہمارے امراض

أَمْرَاضَنَا وَتُنْجِحُ بِهَا أَغْرَاضَنَا وَتَعْدِلُ بِهَا تَقْرِيظَنَا وَإِفْرَاطَنَا

کو دور فرمائے اور اغراض کو پورا فرمائے۔ اور ہمارے کوتاہیوں اور سجاوڑات کو درست فرمائے

وَتُصَحِّحُ بِهَا أَغْلَاطَنَا وَتُزَيِّنُ بِهَا الْفَاقِظَنَا وَتُحْبِي بِهَا الْخَاطِنَا

ہماری غلطیوں کی اصلاح فرمائے۔ ہمارے الفاظ کو مزین فرماوے اور ہماری نگاہوں پر کنٹرول فرماوے

وَتُزَيِّحُ بِهَا رُوعَنَا وَتُزِيدُ بِهَا لُوعَنَا وَتَمْنَحُ بِهَا إِلَيْكَ رِيْعَانًا وَتَرْفَعُ

ہمارے خوف کو زائل کرے اور آتش شوق کو بڑھائے اور عطا کرے بطفیل اس کے اپنی طرف رغبت اور دور کرے بطفیل

بِهَامُنِكَ زَيْغَانًا وَتَرْحِمُ بِهَا عَلَىٰ أَسْلَافِنَا وَتُبَارِكُ بِهَا فِي أَخْلَافِنَا

اس کے ہماری کجی اور تم کرے بطفیل اس کے ہمارے اسلاف پر اور برکت دے ہمارے اخلاف میں اور

تَفْتَحُ بِهَا عَوَاقِبَنَا وَتَمِيطُ بِهَا بَوَائِقِنَا وَتَشْهَدُ بِهَا أَدْرَاكَنَا وَتَصُونُ

کھول دے ہماری رکاوٹیں اور دور فرماوے ہماری ہلاکتیں اور مضبوط کرے بطفیل اس کے ہمارے ادراک کو اور محفوظ فرماوے

بِهَاسِلَانَا وَتُرْوِي بِهَا غَلْلَنَا وَتَجْلُو بِهَا هُبُومَنَا وَتُقْرِجُ بِهَا غُومَنَا

بطفیل اس کے ہمارے راستوں کو اور سیراب فرماوے ہماری پیاسوں کو اور دور فرمائے ہمارے غموں کو اور ہٹا دے ہمارے

وَتُوَدِّي بِهَا دِيُونَنَا وَتَحِطُّ بِهَا شَجُونَنَا وَتُدْمِرُ بِهَا عَلَىٰ عَدُوِّنَا وَتُعْطِي

غموں کو۔ اور ادا فرمائے ہمارے قرضوں کو اور مٹا دے اس کے طفیل ہمارے حزن و ملال کو اور ہلاکت مسلط کرے ہمارے

بِهَاسِلُونَا وَتُطَيِّبُ بِهَا أَفْوَاهَنَا وَتُكْثِرُ بِهَا أَنْبَاهَنَا وَتَقْهَرُ بِهَا

دشمنوں پر اور عطا کرے بطفیل اس کے ہمیں سکون۔ اور پاکیزہ بنائے ساتھ اس کے ہمارے مونہہ اور بڑھائے اس کی بدولت ہماری

شَيْطَانًا يُغْوِينَا وَتَنْهَرُ بِهَا سُلْطَانًا يُؤْذِينَا اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَاتِمَتَنَا

بیداری اور مغلوب کرے اس کے طفیل شیطان کو جو ہمیں گمراہ کرتا ہے اور جھڑک دے اس سلطان کو جو ہمیں ایذا دیتا ہے۔ اے اللہ

خَيْرًا وَلَا تَدْخُقْ بِنَا فِي الدَّارَيْنِ ضَيْرًا بِحُرْمَةِ حَبِيبِكَ الْكَرِيمِ وَالِإِ

ہمارا خاتمہ خیر پر فرما اور ہمیں دونوں جہان میں کوئی ضرر لاحق نہ فرما بطفیل عزت و حرمت اپنے حبیب کریم کے اور ان

وَأَصْحَابِهِ أُولَى الْفَضْلِ الْجَسِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کی آل و اصحاب کے جو بہت بڑی فضیلت والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تُجِيبُ بِهَا دُعَائَنَا وَتُدَارِعُ بِهَا

محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل تو ہماری دعا قبول فرماوے اور دور

عَائِنَا وَتَكْشِفُ بِهَا كُرُوبَنَا وَتَشْرَحُ بِهَا قُلُوبَنَا وَتُرِيْلُ بِهَا عَاهَاتِنَا

کے ہم سے ہماری محنت و مشقت اور دور کرے ہمارے رنج و الم اور کھول دے ہمارے سینے اور زائل کرے ہمارے

وَتَقْضِي بِهَا حَاجَاتِنَا وَتَشْبِعُ بِهَا غِرَاتِنَا وَتَجْمَعُ بِهَا اِنْبَاءَتِنَا وَ

تقاضاں اور پوری فرمائے ہماری حاجات اور سیر فرمائے ہمارے خالی پیٹ اور مجتمع فرمائے ہماری پراگندگی کو اور

تُضَاعِفُ بِهَا اِبْتِهَاجَنَا وَتُسْتَقِيمُ بِهَا اِعْوَجَاجَنَا وَتَغْفِرُ بِهَا

بڑھا بطفیل اس کے ہماری خوشی کو اور سیدھا فرما ہماری کجی کو اور معاف فرما ہمارے گناہ

جُنَاحَنَا وَتُحَسِّنُ بِهَا عُدُوَّنَا وَرَوَّاحَنَا وَتُعِزُّ بِهَا شُبَّانَنَا وَ

کو اور حسین بنا بطفیل اس کے ہماری صبحوں اور شاموں کو اور عزت دے بطفیل اس کے ہمارے جوانوں اور

أَشْيَاخَنَا وَتُطَهِّرُ بِهَا أَوْسَاحَنَا وَتُنَوِّرُ بِهَا أَرْوَاحَنَا وَاجْسَادَنَا

بوڑھوں کو اور پاک فرما اس کے ذریعے ہماری میل و پچیل کو اور نورانی بنا ہمارے ارواح و اجسام کو

وَتُصْلِحُ بِهَا فِسَادَنَا فِي مَبْدِئِنَا وَمَعَادِنَا وَتَجْعَلُهَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ

اور اصلاح فرما بسبب اس کے ہمارے بعد و معاد کے فساد کی اور اسے بناوے ہر شر سے ہماری

مَعَادِنَا وَتُدِيمُهَا اِنْيُسَنَا وَمَلَاذِنَا وَتُضِيئُ بِهَا قُبُورَنَا وَتُعِينُ

جائے پناہ اور رحمت رکھے اسے ہمارا انیس اور پناہ گاہ اور روشن فرمائے اس سے ہماری قبور کو اور اعانت

بِهَافِي أُمُورِنَا وَتُنِيرُ بِهَا أَحْيَا زَنَا وَتَسْتُرُ بِهَا أَهْمَانَنَا وَ

فرمائے بسبب اس کے ہمارے امور میں اور منظور فرمائے مکانوں کو۔ اور چھپائے بسبب اس کے ہمارے عیوب کو

تُثَقِّلُ بِهَا قُسْطَ سَنَا وَتُدْفَعُ بِهَا أَفْلَاسَنَا وَتُبَدِّلُ بِهَا

اور بھاری فرمائے بظہیل اس کے ہمارے میزان کو اور دور فرمائے ہمارے افلاس کو اور تبدیل فرمائے اس کے ذریعے

بِالْأُنْسِ إِيْحَاشَنَا وَتَكْلَأُنَا بِهَا عَنْ إِيْجَاشِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ہماری وحشت کو انس کے ساتھ اور حفاظت فرمائے اس کے ذریعے ہماری خوفناک امور سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُنَجِّنُنَا بِهَا مِنْ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں نجات دے شرت والے

وَعَيْدٍ تَعْبِ الْمُرُورِ عَلَى الصِّرَاطِ الشَّدِيدِ بِالمَوْفُورِ السُّرُورِ بِمَغْفِرَةِ

پہل صراط پر سے گزرنے کی وعید و تھکان سے ساتھ وافر سرور کے بسبب مغفرت غفور شکور

الْغَفُورِ الشُّكُورِ لِلْمُنْتَظِرِ الْمَفْكَرِ الْمَقْرَبِ إِلَى الْفَضِيلَةِ الشَّفَاعَةِ

کے واسطے فکر مند منتظر کے جو امتیاز پانے والے ہیں شفاعت کبریٰ کی فضیلت سے

الْكُبْرَى وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور آپ کی آل اور اصحاب پر اور سلام بھیج۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُفَرِّجُ بِهَا عَنَّا هُمُومَ حَوَادِثِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل دور فرمائے ہم سے اندوہ حوادث جو ہمارے

الْإِخْتِيَارِ وَتَمَحَّرَ بِهَا عَنَّا ذُنُوبَ وَجُودِنَا بِمَاءِ سَمَاءِ الْقُرْبَى حَيْثُ

سوء اختیار کی وجہ سے ہے اور مطا دے ہم سے ہمارے وجود والے ذنوب قربت کے آسمان والے پانی سے جہاں پر

لَا حَيْثُ وَلَا بَيْنَ وَلَا أَيْنَ وَلَا كَيْفَ وَلَا جِهَةً وَلَا قَرَارًا وَتُغَيِّبُنَا

نہ مکان ہے نہ درمیان ہے نہ کہاں اور نہ کیسے ہے اور نہ ہی جہت ہے اور نہ قرار ہے اور غائب فرمائے

بِهَافِي غِيَابِ غُيُوبِ أَنْوَارِ أَحَدِيَّتِكَ فَلَا نُشْعِرُ بِتَعَاقِبِ اللَّيْلِ

ہمیں اپنی احدیت کے انوار کے غیوب والی گہرائیوں میں پس ہم نہ محسوس کر سکیں شب و روز

وَالنَّهَارِ وَتَحْوَلْنَا بِهَا سَمَاحَ رِيَّاحٍ فَتُوجُّ حَقَائِقُ بِيَدِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

کی گردش کو اور عطا فرمائے ہیں سخاوت و فیاضی اپنے انوکھے نبی محمد مختار کے

المُخْتَارِ وَأَنْتُحَفْنَا بِهَا أَسْرَارَ أَنْوَارٍ تَرِي تَوْنِي أَسْرَارَ أَنْوَارٍ كَمَا جَرَّ مَحْتَدِي

انکشافات حقائق کی اور تحفہ بخش بطفیل اس صلوات کے ان زیتونی اسرار و انوار کا جو مستدی

الرُّجَا جَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ فَتَضَاعِفُ أَنْوَارَنَا بِلَا أَمْتِرَ آءٍ وَلَا أَحَدٍ وَلَا

شیشہ کے طاق میں ہیں۔ پس دو بالا کرے ہمارے انوار کو بلا شک و شبہ اور بغیر حد و حصے کے

إِنْ حَصَادٍ يَا رَبُّ يَا اللَّهُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا

یارب۔ یا اللہ۔ یا حی۔ یا قیوم۔ یا ذوالجلال واکرام۔ یا ارحم

أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الراحمین۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُثَبِّتُ بِهَا فِي قَلْبِي الْإِيْمَانَ

اور آپ کی آل پر کہ بطفیل اس صلوات کے پائیدار بنائے میرے دل میں ایمان کو

وَتَحْفَظُنِي الْقُرْآنَ وَتُفَهِّمُنِي مِنْهُ الْآيَاتِ وَتَفْتَحُنِي لِي بِهَا

اور مجھے قرآن محفوظ کرے اور اس کی آیات کا فہم عطا کرے اور منکشف فرمائے میرے

نُورَ الْجَنَّاتِ وَنُورَ النَّعِيمِ وَنُورَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ

یے نور جنات۔ نور نعیم کو اور اپنی نوات کریمہ کے دیدار کا نور

وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي

اور آپ کی آل پر اور اصحاب پر اور سلام بھیج۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَهَبُ لَنَا بِهَا

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ بطفیل اس صلوات کے عطا فرماتے ہیں

الْكَمَلَ الْمَرَادِ وَفَوْقَ الْمَرَادِ فِي دَارِ الدُّنْيَا وَدَارِ الْمَعَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ

کامل ترین مراد بلکہ اس سے بھی زائد دار دنیا میں بھی دار آخرت میں بھی۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُنَجِّينَا

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل امجاد پر کہ بطفیل اس صلواة کے نجات دے ہیں

بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْبَلِيَّاتِ وَالْاَهْوَالِ وَالْبَلِيَّاتِ وَتُسَلِّمُنَا

تمام مھنتوں مشقتوں اور ہولناکیوں اور بلیات سے اور سلامت رکھے

بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْفِتَنِ وَالْاَسْقَامِ وَالْاَفَاتِ وَالْعَاهَاتِ وَتُطَهِّرُنَا

تمام فتنوں اور بیماریوں سے اور آفات و بلیات سے۔ اور پاک فرمائے ہمیں

بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْعِيُوْبِ وَالسَّيِّئَاتِ وَتَغْفِرْ لَنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ

تمام عیوب اور گناہوں سے اور بخشنے ہمارے لیے تمام

الذُّنُوْبِ وَتَمَحِّقْ بِهَا عَنَّا الْخَطِيَّاتِ وَتَقْضِ لَنَا بِهَا جَمِيعَ

گناہ اور مٹا دے بطفیل اس کے ہماری تمام خطا میں اور پوری فرمائے ہماری تمام

مَا نَطْلُبُهُ مِنَ الْحَاجَاتِ وَتَرْفَعْنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ

مطلوبہ حاجات کو اور بلند فرمائے اس کے ذریعے اپنے ہاں ہمیں اعلیٰ درجات پر

وَتُبَلِّغْنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيٰوةِ

اور پہنچائے سبب اس کے آخری حدود تک تمام نیرات سے دنیوی حیات میں

وَبَعْدَ الْمَمَاتِ يَا رَبُّ يَا اللهُ يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ اللهُمَّ

اور وفات کے بعد۔ یا رب۔ یا اللہ۔ قبول کرنے والے دعاؤں کے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ صَلَوةً تُنَوِّرُ بِهَا الْقُلُوْبَ

صلواة و سلام نازل فرما ان پر اور ان کی آل پر اور اصحاب پر کہ بطفیل اس کے منور فرمائے ہمارے قلوب

وَتَغْفِرْ بِهَا الذُّنُوْبَ وَتَسْتُرْ بِهَا الْعِيُوْبَ وَتَكْشِفُ الْكُرُوْبَ

اور بخشنے ہمارے ذنوب اور ڈھانپنے ہمارے عیوب اور دور فرمائے ہمارے اندوہ

وَتَفْرِجِ الْهُمُوْمَ وَتَزِيلِ الْغَمُوْمَ وَتَرْفَعِ الْبَلَاءَ وَتَزِيلِ

اور کشائش بخشنے غموم سے اور زائل فرمائے آلام اور دور فرمائے بلا کو اور زائل فرمائے

الشَّقَاءَ وَتُنَزِّلُ الشِّفَاءَ وَتُسَهِّلُ الْأُمُورَ وَتَشْرَحُ الصُّدُورَ

شقاوت اور نازل فرمائے شفاء اور آسان فرمائے تمام امور، اور کھول دے ہمارے سینے۔

وَتُوسِّعُ الْقُبُورَ وَتُيَسِّرُ الْحِسَابَ وَتُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَتُثَقِّلُ

اور وسیع فرمائے ہماری قبور اور آسان فرمائے حساب کو اور علم دے کتاب کا۔ اور بھاری فرمائے

الْمِيزَانَ وَتُهَيِّئُ الْجَنَانَ وَتُعِدُّ اللَّفَاءَ وَتُتِمُّ النَّعْمَاءَ

میزان حسات کو اور مہیا فرمائے جنتیں اور اہل بنائے اپنی لقاء کا اور مکمل فرمائے نعمتوں کو۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

صَلَاةً تَصْلِحُ بِهَا الْأَحْوَالَ وَتُقَرِّغُ الْبَالِ وَتُصَفِّي الْوَقْتَ

جس صلوٰۃ کے طفیل ہمارے احوال کی اصلاح فرمائے اور ہمیں فارغ البال بنائے اور ہمارے وقت

وَتُجِيبُ الْمَقْتَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کو صفائی بخٹھے اور ناراضگی سے دور رکھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَعْمُرُ بَرَكَاتُهَا وَتُحِيطُ

اور آپ کی آل امجاد پر جس صلوٰۃ کی برکات عام ہوں۔ اور کرامات

كِرَامَاتُهَا وَتُشِيْعُ أَنْوَارُهَا وَتُظْهِرُ أَسْرَارُهَا اللَّهُمَّ صَلِّ

و بزرگیاں محیط ہوں۔ اور انوار شایع ہوں اور اسرار ظاہر ہوں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً مُوجِبَةً

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو صلوٰۃ موجب ہو

لِلسَّدَادِ وَبَاعِثَةً عَلَى الرَّشَادِ مَانِعَةً عَنِ الضَّلَالِ دَافِعَةً

مضبوطی اور پختگی کی اور باعث ہو راست روی کی۔ مانع ہو گمراہی و کجروی سے۔ دور کرنے والی

لِلْإِخْتِلَالِ مُحْصِلَةً لِّلْكَمَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

خلل و انتشار کو اور موجود کرنے والی ہر کمال کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ لَا تَدَعُ خَيْرًا قَسِيًّا

محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ کہ نہ چھوڑے کسی خیر کو
خَيْرَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا حَصَلَتْهَا وَلَا تَتْرُكُ كَمَا لَا

دُنْيَا وَآخِرَتِ كِي خَيْرَاتِ مِيں سِي مِگَر ہمارے ليے موجود کر دے۔ اور نہ چھوڑے کوئی کمال
مِن كَمَا لَا تِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ إِلَّا أَتَمَّتْهَا وَ أَكْمَلَتْهَا

ظاہری اور باطنی کمالات ميں سے مگر ان کو ہمارے ليے کامل و تمم کر دے
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر
مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ دَائِمَةٌ مُتَّصِلَةٌ بِأَقْيَةِ غَيْرِ مُنْقَطِعَةٍ وَاقِعَةٌ

ایسی صلوٰۃ جو دائم و مسلسل ہو باقی ہو ختم نہ ہونے والی ہو
بِلِسَانِ الْحَالِ وَالْقَالَ مُؤَدِّيَةٌ جَمِيعِ الْحُقُوقِ فِي جَمِيعِ

زبان حال و مقال دونوں سے صادر ہونے والی ہو۔ ادا کرنے والی ہو محبوب کریم کے
الْأَحْوَالِ اللَّهُمَّ يَسِّرْ أُمُورَنَا كُلَّهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

تمام حقوق کو تمام احوال ميں۔ اے اللہ آسان فرما ہمارے تمام امور دنیوی اور آخروی
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قُلْ إِنَّمَا

وہ اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر وہی۔ فرما دو ميں صرف
أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۝ قُلْ هُوَ

اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور نہیں شریک ٹھہراتا اس کے ساتھ کسی کو۔ فرما دو وہ
اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ

اللہ یگانہ ہے۔ اللہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ
يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

وہ جنا گیا اور نہیں اس کے ليے شیل و مشابہ کوئی بھی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

الحمد لله الذي
كردین زمان دست افتراں ہل

ایز و نشان تحفہ عجایب و ہدیہ غرائب الی اللہ اللہ
مقبول بارگاہ کونین حضرت پناہ سیدنا محمد
مُسَمَّیٰ بِهِ

مجموعۃ الرسول

الجزء السابع عشر

فِي شَفَاعَتِهِ وَوَسِيلَتِهِ ﷺ

از تصنیف و تالیف مولانا محمد رفیع صاحب

حضرت خواجہ خواجہ محمد عبدالرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور
صوبہ سرحد پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِشَفَاعَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِوَسِیْلَةِ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا بظیفیل شفاعت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور بظیفیل و توسل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِفِضِیْلَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور بظیفیل فضیلت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے

وَبِجَلَالَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِکِفَالَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ

اور بظیفیل جلالت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور بظیفیل کفالت بسم اللہ الرحمن

الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَا لَکَ یَوْمَ

الرحیم کے تمام ثنائیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار عالمین ہے جس کا انعام دنیا میں مومن و کافر کو شامل اور آخرت میں مومنین سے مخصوص ہے قیامت کے

الدِّیْنِ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ

دن میں ہر شئی کا مالک ہے (ظاہر میں بھی اے ان اوصاف والے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے توفیق طلب کرتے ہیں ہمیں

صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا

راہ راست پر چلا۔ راہ ان کی جن پر تو نے انعام فرمایا ان کی جن پر غضب کیا گیا اور نہ

الصّٰلِحِیْنَ اٰمِیْنُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَ اِلٰهِ

مگر ہوں کی - آمین فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں جو شفاعت کرے اس کے ہاں مگر

یَاذُنَهُ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی مَنْ یُّشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً یَّکُنْ لَهُ

اس کے اذن سے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو شخص اچھی شفاعت کرے گا تو اس کے لیے ہوگا

نَصِیْبٌ مِّنْهَا وَمَنْ یُّشْفَعُ شَفَاعَةً سَیِّئَةً یَّکُنْ لَهُ کِفْلٌ مِّنْهَا وَ

حصہ اس میں سے اور جو میری شفاعت کرے گا تو ہوگا اس کے لیے بھی حصہ اس سے اور

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَاَنْذِرْ بِهِنَّ الَّذِیْنَ یَخَافُوْنَ اَنْ یُّحْشَرُوْا اِلٰی رَبِّهِمْ

فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور ڈراؤ ساتھ اس کے انہیں جو خوف رکھتے ہیں اس سے کہ اٹھائے جائیں طرف اپنے رب کے

لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَذَكَرْ بِهِ أَنْ

نہیں ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی ناصر اور نہ شفیع اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے "اور نصیحت کرو ساتھ اس کے کہ

تُبْسَلْ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَ

ہلاک کیا جائے کوئی نفس بسبب اپنی کمائی کے۔ نہیں ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی مددگار اور نہ مالک شفاعت اور

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى

فرمایا اللہ تعالیٰ نے "نہیں ہے کوئی شفیع مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے" اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى

"اور نہیں نفع دے گی شفاعت اس کے ہاں مگر جس کو اذن دے گا اس کا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا

اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور طلب کرو طرف اس کے وسیلہ اور جہاد کرو

فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے اللہ صلوٰۃ کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْإِنَامِ شَفِيعًا شَافِعًا مُشَفَّعًا اللَّهُمَّ صَلِّ

جنہیں تو نے بنایا ہے مخلوقات کے لیے شفیع شافع اور مقبول الشفاعت۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي يَرْجُو بِهِ مَنْ أَطَاعَهُ تَيْلَ الْخَلْدِ وَالشَّفَاعَةُ

کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جن سے امید رکھتے ہیں تمام اطاعت گزار جنت خلد پانے کی اور شفاعت کی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ شَافِعٍ وَشَفِيعٍ وَمُشَفَّعٍ اللَّهُمَّ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو بہترین شافع۔ شفیع اور مقبول الشفاعت ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا داخل ہوں گے جنت میں میری امت کے ایک مرد کی

مَنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

شفاعت سے بنو تمیم سے زیادہ تعداد والے افراد۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي قَالَ إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشْفَعُ لِفِتْنَامِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ

جنہوں نے فرمایا بے شک میری امت میں ہیں ایسے افراد جو شفاعت کریں گے بڑے قبیلوں کیلئے اور بعض شفاعت کریں گے

لِلْقَبِيلَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعَصْبَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ

چھوٹے قبیلوں کے لیے اور بعض شفاعت کریں گے جماعت کے لیے۔ اور بعض شفاعت کریں گے ایک ایک فرد کے لیے

حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

تاکہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ

يُصَفُّ أَهْلُ النَّارِ فَيُرَّبُّ بِهِمُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ

دوزخیوں کو قطار میں کھڑا کیا جائے گا تو ان کے پاس سے گزرے گا ایک شخص اہل جنت سے تو دوزخ کے مستحقین میں سے

الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَا فُلَانُ أَمَا تَعْرِفُنِي أَنَا الَّذِي سَقَيْتُكَ شَرِبَةً وَ

ایک اسے کہے گا۔ اے فلان کیا تو مجھے پہچانتا نہیں ہیں وہ ہوں جس نے تجھے پانی پلایا تھا اور

قَالَ بَعْضُهُمْ أَنَا الَّذِي وَهَبْتُ لَكَ وَضُوءًا فَيَشْفَعُ لَهُ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ

بعض کہیں گے میں وہ ہوں جس نے تجھے وضو کا پانی پیش کیا تھا تو وہ اس کی شفاعت کر کے اسے جنت میں داخل کرانے کا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَعَدَنِي أَنْ

اے اللہ صلوٰۃ کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے میرے ساتھ کہ

يَدْخُلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي أَرْبَعٌ مِائَةً أَلْفٍ بِإِحْسَابٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ

داخل فرمائے گا جنت میں میری امت سے چار لاکھ افراد بغیر حساب کے پس عرض کیا ابو بکر صدیق نے

زِدْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَهَكَذَا فَحَثَّ بِكَفَيْهِ فَجَمَعَهُمَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ

یا رسول اللہ ہمیں زیادہ کی بشارت دیجئے آپ نے فرمایا اور اتنے مزید اور دونوں کف دست کو جمع فرمایا تو حضرت ابو بکر

زِدْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَهَكَذَا فَقَالَ عُمَرُ دَعْنَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ

نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں مزید کی بشارت دیں آپ نے فرمایا اور اتنے مزید تو حضرت عمر نے کہا چھوڑیے ہمیں اے ابو بکر تو انہوں

أَبُو بَكْرٍ وَمَا عَلَيْكَ أَنْ يَدْخُلَنَا اللَّهُ كُلَّنَا الْجَنَّةَ فَقَالَ عُمَرَانِ

نے فرمایا۔ اور تم پر کیا گراہی ہے کہ ہم سب کو ہی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے فضل سے جنت میں داخل کر دے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا بے شک

نے فرمایا۔ اور تم پر کیا گراہی ہے کہ ہم سب کو ہی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے فضل سے جنت میں داخل کر دے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا بے شک

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَنْ يُدْخَلَ خَلْقَهُ الْجَنَّةَ بِكَفِّ وَاحِدٍ فَعَلَّ

اللہ تعالیٰ اگر چاہے کہ ساری مخلوق کو ایک ہی کف دست سے جنت میں داخل کر دے تو وہ کر سکتا ہے

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ عُمَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ

تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر فاروق نے یہ کہا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِنَّ رَجُلَيْنِ

کا نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے فرمایا کہ دو زنجیوں میں سے

مِمَّنْ دَخَلَ النَّارَ اشْتَدَّ صِيَّا حُهَا فَقَالَ الرَّبُّ تَعَالَى أَخْرِجُوهُمَا

دو شخصوں کا شور و غل زیادہ ہو جائے گا تو رب تعالیٰ فرمائے گا انہیں باہر نکالو پھر

فَقَالَ لَهُمَا لَا يَشَىٰ عِزُّ شَيْءٍ إِشْتَدَّ صِيَّا حُهَا قَالَ فَعَلْنَا ذَلِكَ لِتَرْحَمَنَا

دریافت فرمائے گا کس لیے تمہاری بیخ و بکار زیادہ ہو گئی ہے وہ کہیں گے ہم نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تو ہم پر رحم فرمائے

قَالَ فَإِنَّ رَحْمَتِي لَكُمْ أَنْ تَنْطَلِقَا فَتُلْقِيَا أَنْفُسَكُمَا حَيْثُ كُنْتُمَا مِنْ

اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رحمت تمہارے لیے یہ ہے کہ تم دونوں جا کر اپنے آپ کو وہیں گراؤ جہاں پر پہلے موجود تھے

النَّارِ فَيُلْقِي أَحَدُهُمَا نَفْسَهُ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا وَيُقِيمُ

تو ان میں سے ایک اپنے آپ کو گرا دے گا تو اللہ تعالیٰ جہنم کو اس پر ٹھنڈی اور سراسر سلامتی بنا دے گا۔ اور دوسرا کھڑا

الْآخَرَ فَلَا يُلْقِي نَفْسَهُ فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ تَعَالَى مَا مَنَعَكَ أَنْ تُلْقِي

رہے گا اپنے آپ کو نہیں پھینکے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے دریافت فرمائے گا تجھے اپنا آپ گرانے میں کیا امر مانع ہوا جیسے کہ

نَفْسَكَ كَمَا أَلْقَى صَاحِبُكَ فَيَقُولُ رَبِّ إِنِّي لَا أَرْجُو أَنْ لَا تُعِيدَنِي فِيهَا

تیرے ساتھی نے اپنے کو گرا دیا تو وہ عرض کرے گا۔ اے میرے رب بیشک میں البتہ امید رکھتا ہوں کہ تو مجھے اس میں نہیں لوٹا بیگا

بَعْدَمَا أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ لَكَ رَجَاؤُكَ فَيُدْخِلُهُ

اس نے نکلنے کے بعد تو رب تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے ہے تیری امید و رجاء تو وہ دونوں جنت میں

جَمِيعًا الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ رِضْوَانًا مِنْ اللَّهِ

داخل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اے اللہ لے شک ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے تیری رضامندی کا

اللَّهُمَّ ارْضَ مِنَّا وَارْضِنَا مِنْكَ بِرِضَائِكَ يَا اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اے اللہ تو ہم سے راضی ہو اور ہمیں اپنے سے راضی فرما اے اللہ۔ اے اللہ صلوٰۃ کاملہ نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْحَرْفِ الَّذِي مَدَّ أَدْعَاةً مِنْ نُورِ ذَاتِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

فرما سیدنا محمد پر کہ جن کے نام نامی ہر حرف کی روشنائی ذات الہیہ کے نور سے ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الشُّكْلِ الَّذِي مَدَّ أَدْعَاةً مِنْ كُنُوزِ مَكْنُونِ سِرِّ اللَّهِ

نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کی شکل مبارک کا مادہ تخلیق اسرار خداوندی کے مخفی خزانوں سے ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هَمْزَةً أَلِفٍ الْبِدَايَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو ہمزہ ہیں ایجابات و بدایات کی الف کا۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَاءً بُرْهَانَ الدَّلَالَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

نازل فرما سیدنا محمد پر جو باء ہیں دلالات (خلافندی) کے برہان کی۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ تَاءً تَكْوِينِ الْمَكُونَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ثَاءً

محمد پر جو تکوین کائنات کی تاء ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو اعمال

ثَوَابِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جِيمٌ

صالحہ کے ثواب کی ثناء ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو دونوں جنتوں

جَنَّا الْجَنَّتَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَاءً حِمَايَةِ الدُّنْيَا

کے چنے ہوئے جید و عمدہ بچوں کی جیم ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو دینی و دنیوی حمایت کی

وَالدِّينِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاءً خَتَامِ الْخَيْرَاتِ اللَّهُمَّ

حاء ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو خیرات کی خواتیم اور مہروں کی حاء ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذَالِ دَلِيلِ النَّجَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو دلیل نجات کی ذال ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ ذَالِ ذُرُوقِ الْمَعَالِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَاءً رُوحِ

محمد پر جو بلند یوں کے ذرور اور نہایت کی ذال ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو شرف اعلیٰ کے روح

الشَّرَفِ الْعَالِيِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذَا زَهْرَةَ الشَّنَا اللَّهُمَّ

کی راہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جو ضیاء کی زہرت اور رونق و بہار کی زادہ ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ سَيِّدِي سَحَابِ الْغُفْرَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جو معفرت کے سحاب اور بادلوں کا سین ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ثَنِينَ شَمَائِلِ التَّدَايِمَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

سیدنا محمدؐ پر جو خدا و ایمان کے شمائل کی ثنیں ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَادٍ صِلَاحِ الْأَخْيَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ضَادِ

محمدؐ پر جو پاک سیرت لوگوں کے صلاح و تقویٰ کی صادہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جو روزو

ضَخَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طَاءِ طِرَائِ

شب کی ضیاء و نورانیت کی ضادہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جو نور انور کے

النُّورِ الْأُسْتَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ظَاءِ ظُهُورِ آيَاتِ الْعُلَى

طراز و نقش کی ظادہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جو بلند مرتبت آیات کے ظہور کی ظادہ ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ عِرْقَانِ الْأَنْامِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جو مخلوق کے عرفان کی عین ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ غَنِيْمَةِ الْفَلَاحِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جو فلاح و کامیابی کی غنیمت کی عین ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ فَأَوْ فَصَاحَةِ الْفُصَّاحِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَافِ

محمدؐ پر جو فصحاء کی فصاحت کی قافہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جو انعام و احسان

قَلَائِدِ الْأُمَّتَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِيمِ مَوَادِ الْأَسْرَارِ

کے قلائد اور باروں کی قافہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جو مواد اسرار و رموز کی میم ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُونِ نَعِيمِ الْأَبْرَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جو نعیم ابرار کی نون ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآوِصَالِ الْأَحْبَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

فرما سیدنا محمد پر جو وصال احباب کی واؤ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

هَاءِ الْهُدَىٰ مِنْ اهْتَدَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لَا مِرَافٍ

جو ہدایت یافتہ لوگوں کی ہاء ہدایت ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو لام الف (۱۸)

الْأَسْبَابِ الْمَوْصِلَةَ إِلَى مَعْرِفَةِ رَبِّ الْأَرْبَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ہیں الاسباب کی جو پہچاننے والے ہیں رب الارباب کی معرفت تک۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ يَا عَيْدِ الْإِنْعَامِ السَّامِيَةِ مِنْ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ

محمد پر جو یاء ہیں ذوالجلال والاکرام کے بلند مرتبتید یعنی دست انعام کی۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُطْبِ دَائِرَةِ الْوُجُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو دائرہ وجود کے قطب و مرکز ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ كُلِّ وَالِدٍ وَمَوْلُودٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

سیدنا محمد پر جو ہر والد و مولود کے سرور ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ إِمَامِ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُدْوَةِ السَّابِقِينَ

محمد پر جو امام العالمین ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو سابقین و لاحقین

وَاللَّاحِقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الدَّالِّ عَلَى سَبِيلِ النِّجَاتِ

کے مقتداء ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو راہ نجات کے رہبر ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَوْصِلِ إِلَى رِضَا رِبِّ الْأَرْضِ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو پہچاننے والے ہیں رب السموات والارض کی

وَالسَّمَوَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتِهِ عِبْدٌ تَرْفَعُ بِهَا

رضامندی تک۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر صلوٰۃ عباد و غلام کی کہ اس کی بدولت

لَهُ الرَّتَبُ الْفَاخِرَةُ وَيَنْجُو بِهَا مِنْ مَّكَارِهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ

اس کے لیے قابل فخر مراتب عتیا کئے جائیں اور وہ نجات پائے دنیا و آخرت کے شدائد سے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَافَتْهُ الْمَهَابَةُ وَالْجَلَالُ اللَّهُمَّ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کو کامل ہیبت و جلال نصیب ہوا۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَمَّ لَهُ الْمَحَاسِنُ وَالْجَمَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کے لیے تمام و کامل ہوئے محاسن و جمال۔ اے اللہ میں

أَتَوَسَّلُ إِلَى ذَاتِكَ بِذَاتِكَ وَنِعْمَ الْمَسْئُولُ وَنِعْمَ الْوَسِيلَةُ

وسیلہ پکڑتا تیری ذات کی طرف تیری ذات کے ساتھ اور خوبترین مسئل ہے تو اور خوبترین وسیلہ ہے

بِوَسِيلَةِ خَيْرِ الْوَرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَنْ أَتَوَسَّلُ بِهِ

وسیلہ خیر الوری کا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما اس ذات والا پر کہ وسیلہ پکڑتا ہوں ان کا

فِي إِيْمَانِي وَإِسْلَامِي وَفِي أَحْسَانِي وَفِي دِينِي وَفِي دُنْيَايَ

اپنے ایمان و اسلام اور احسان میں اور دین و دنیا اور آخرت

وَفِي آخِرَتِي وَفِي عَمَلِي وَفِي حَالِي وَفِي خِيَالِي وَفِي مَقَالِي

میں۔ اور اپنے علم و عمل اور حال و خیال اور مقال میں

وَفِي ذَوْقِي وَفِي شَوْقِي وَفِي مَعْرِفَتِي وَفِي رَجَائِي وَفِي شِفَائِي

اور اپنے ذوق و شوق اور معرفت و رجاء میں اور شفاء میں

وَفِي قُوَّتِي وَفِي طَوْلِ عُمْرِي وَفِي جِسْمِي وَفِي بَدَنِي وَفِي رُوحَانِيَّتِي

اور اپنی قوت۔ درازی عمر اور جسم و بدن اور روحانیت میں

وَفِي وَجُودِي وَفِي حَيَاتِي وَفِي جَمِيعِ صِفَاتِي الَّتِي بِهَا قِيَامِي وَ

اور اپنے وجود و حیات اور تمام صفات میں کہ جن کی بدولت ہے میرا قیام اور

كَلَامِي وَكَمَالِي وَلَا أَتَوَسَّلُ إِلَّا بِهِ أَوْ بِمَنْ لَهُ كَالِظِلِّ أَوِ الْجُزْءِ

کلام و کمال۔ اور میں توسل نہیں کرتا مگر ساتھ ان کے باوجود ان کے عکس و پرتو ہیں

أَوِ الْجُزْءِي فَهَذَا أَيْضًا تَوَسَّلُ بِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

یا ان کے جز اور جزئی کی مانند ہیں کیونکہ یہ بھی ان کے ساتھ ہی توسل ہے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

الْوَسِيلَةَ فِي كُلِّ الْأُمُورِ لِلْكَلِّ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ

جو سب کے وسیلہ ہیں تمام امور میں اور برکت نازل فرما آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر

وَاتَّبَاعَهُ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ لِكُلِّ مِّنْكَ وَسِيلَةٌ وَأَجْزَلُهَا

اور تمام متبعین پر۔ اے اللہ تو ہی ہے واسطے ہر ایک کے لیے وسیلہ بنانے والا اپنی طرف انہیں

وَأَشْرَفُهَا عِنْدَكَ مَنْزِلَةٌ وَأَقْرَبُهَا مِنْكَ وَسِيلَةٌ وَأَسْرَعُهَا

اور وہ بزرگتر ہیں نزدیک تیرے از روئے منزلت کے اور قریب تر ہیں از روئے وسیلہ کے اور سریع تر ہیں

مِنْكَ ثَوَابًا وَإِجَابَةً اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

از روئے حصول ثواب اور مقبولیت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَحُلُّنَا بِهَا مَنَازِلَ السَّارِبِينَ إِلَيْكَ

کی آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں اتارے اپنی طرف چلنے والوں کی منازل میں

وَيُسْتَشْفَعُ إِلَيْهِ فَلِذَلِكَ جِئْتُ بِهَوَايَا الشُّفَعَاءِ وَالْأَعْرَاءِ

اور شفاعت حاصل ہو جائے طرف ان کے اسی لیے میں لایا ہوں ان شفعاء اور پیاروں کو

إِلَيْكَ اللَّهُمَّ اتَّوَسَّلُ بِهِ فِي حَضْرَتِكَ وَمَا تَوَسَّلَ كُلُّ

تیری بارگاہ میں۔ اے اللہ میں ان سے توسل کرتا ہوں تیری بارگاہ میں اور جس

ذِي حَاجَةٍ إِلَىٰ جَنَابِ قُدْسِكَ إِلَّا أَوْصَلْتَهُ إِلَىٰ مَطْلُوبِهِ

محتاج نے یہ وسیلہ اختیار کیا تیری بارگاہ قدس میں تو نے اسے واصل فرما دیا اس کے مطلوب تک

قَسَّئِكَ مُتَوَسِّلًا بِثَنَاءِ حَبِيبِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

تو میں بھی وسیلہ پکڑے ہوئے تیرے حبیب کی ثناء کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَاةً أَحَدُ أَثَارِهَا الْمُرْتَبَةُ عَلَيْهَا أَنْ تُعْطِيَ سُؤَالَ

محمد پر جس صلوٰۃ کے آتا مرتبہ میں سے ایک یہ ہے کہ تو عطا فرماتا ہے مطلوب ہر اس شخص کو جو ان کے

مَنْ تَوَسَّلَ بِاسْمِهِ الْمُبَارَكِ إِلَىٰ حَضْرَتِكَ وَسَلَامًا مِّنْ فُرُوعِهِ

مبارک نام کے ساتھ تیری بارگاہ میں وسیلہ پکڑے۔ اور سلامتی نازل فرما جس کے فروع متفرعہ میں سے ایک

الْمُنْشَعِبَةَ أَنْ تُسَلِّمَ مِنْ سَلِّكَ مُتَوَسِّلًا بِهِ مِنْ أَهْلِ الْإِبْرَاهِيمَ

فرع یہ ہے کہ تو سلامتی بخش تا ہے ہر مصیبت زدہ کو جو سوال کرے تجھ سے ان کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے

مِمَّا يَخَافُ وَمِنْ سَائِرِ الْأَفَاتِ وَالْعَاهَاتِ وَمُبَارَكَةٌ مِّنْ

ہر خوفناک سر سے اور جلد آفات و بلیات اور عیوب و نقائص سے اور برکت نازل فرما

لَوَائِمِهَا الْبَيِّنَةُ أَنْ تَجْعَلَ فِي رِزْقِ الْمُتَوَسِّلِ بِهِ إِلَى حَضْرَتِكَ

جس کے واضح اور روشن لوازم سے یہ ہے کہ تو پیدا فرماتا ہے ان کے ساتھ وسیلہ بکڑنے والے کے

بُرْكَهٖ عَامَّةً تَامَّةً اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرِزْقِ حَضْرَتِكَ وَمَا

رزق میں کامل و مکمل برکت۔ اے اللہ میں ان کا وسیلہ اختیار کرتا ہوں تیری بارگاہ میں اور جس محتاج

تَوَسَّلَ بِهِ كُلُّ ذِي حَاجَةٍ إِلَى جَنَابِ قُدْسِكَ إِلَّا أَوْصَلْتَهُ إِلَى

تے ان کو وسیلہ بنایا تیری بارگاہ اقدس میں تو نے واصل فرما دیا اس کو اپنے مطلوب

مَطْلُوبِهِ بِحَبِيبِكَ الَّذِي قُلْتَ لَهُ مِنْ لَدُنِ الْعَرْشِ إِلَى تَحْتِ

تک بطفیل اپنے حبیب کے جنہیں تو نے فرمایا۔ عرش سے لے کر تحت اثری تک

الْأَرْضِينَ كُلَّهُمْ يُطَلِبُونَ رِضَائِي وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاءَكَ يَا

سبھی مخلوق میری رضا چاہتی ہے اور میں تیری رضا مندی چاہتا ہوں۔ اے

مُحَمَّدُ اللَّهُمَّ قَضَاءُ حَاجَتِي بِالنَّظَرِ إِلَى هِمَّتِي وَمَرْتَبَتِي

محمد۔ اے اللہ میری حاجت کا پورا کیا جانا میری ہمت و قوت اور مقام و مرتبہ کی نسبت

عَظِيمًا لَا بِالنَّظَرِ إِلَى ذَاتِكَ وَإِلَى الْوَسِيلَةِ الْعَظِيمِ فَأَعْطِنِي

عظیم ہے نہ کہ تیری ذات کبریاء کی نسبت اور نہ اس عظیم وسیلہ کی نسبت سے پس مجھے عطا فرما

مَا رَجَوْتُ مِنْكَ بِحُرْمَةِ أَمْرِهِ وَشَرَفِ حَالِهِ وَعِزَّةِ وَمَنْصِبِهِ

جس کا میں تجھ سے امیدوار ہوں بطفیل اپنے محبوب کی حرمت شان۔ شرف حال اور عزت و منصب

وَعَلُو مَرْتَبَتِهِ وَسُوقِ قَدْرِهِ وَأَرِنِي حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ كَمَا هِيَ

ان مرتبت اور رفعت قدر و منزلت کے اور دکھا دے مجھے اشیاء کے حقائق واقعیہ

مَعَ طَوْلِ الْعُمْرِ فِي مَحَبَّتِكَ وَالْإِسْتِقَامَةِ عَلَى شَرِيعَةِ حَبِيبِكَ

مع درازی عمر کے اپنی محبت میں اور مع استقامت کے اپنے حبیب کی شریعت پر

الَّتِي تُوَصَّلُ إِلَى التَّوْحِيدِ الْأَحَدِيِّ بِحُرْمَتِهِ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ

جو واصل کر دے تو حید احدیت تک بظہیر ان کی حرمت و عزت کے جو تیری بارگاہ میں ہے۔ اے اللہ

أَجِبْ دُعَائِي فَإِنِّي مُتَوَسِّلٌ بِمَنْ تُجِيبُ مَنْ يَتَوَسَّلُ بِهِ أَنْ تَجْعَلَنِي

میری دعا کو قبول فرما کیونکہ میں تو سئل کئے ہوئے ہوں اس ذات سے کہ تو قبول فرماتا ان کے متوسل سے

طَوِيلَ الْعُمْرِ فِي تَحْصِيلِ الْكَمَالَاتِ الْإِنْسَانِيَّةِ الْعُرْفَانِيَّةِ وَأَسْأَلُكَ

کہ بتا دے مجھے طویل عمر والا کمالات انسانیہ عرفانیہ کے حاصل کرنے میں اور سوال کرتا ہوں تجھ سے

أَنْ تَجْعَلَنِي طَوِيلَ الْعُمْرِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَفَقْرٍ وَفَاقَةٍ فِي اتِّبَاعِ

کہ بنائے مجھے عمر دراز والا بغیر بیماری اور فقر و فاقہ کے اپنی شریعت

شَرِيعَتِكَ الْجَامِعَةِ الْمَحَبَّدِيَّةِ الْاَكْمَلِيَّةِ اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا

جامعہ محمدیہ اعلیٰ کی اتباع و پیروی میں۔ اے اللہ مجھے نفع کر دے

عِلْمَتِي وَعِلْمِي مَا يَنْفَعُنِي وَأَرْزُقْنِي عِلْمًا يَنْفَعُنِي رَبِّ اجْعَلْنِي

عطا فرمودہ علم کے ساتھ اور سکھلا مجھے نافع علم اور عطا فرما وہ علم جو نافع ہو۔ اے رب مجھے بنا

لَكَ ذَكَارًا لَكَ شَكَارًا لَكَ رَهَابًا لَكَ مَطْوَأًا لَكَ مَحَبَّتًا لَكَ وَأَوَاهَا

اپنا ذکر کرنے والا بہت شکر گزار۔ بہت خوف و خشیت والا۔ اطاعت گزار۔ فرود تھی و عجز والا۔ اپنی طرف انابت

مُنِيْبَارًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاغْسِلْ حَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَثَبِّتْ

والا اور رجوع والا۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما۔ میرے گناہ دھو ڈال۔ دعا قبول فرما اور حجت و دلیل

حُجَّتِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاهْدِ قَلْبِي وَأَسْلُلْ سَخِيْبَةَ صَدْرِي وَلَا

ثابت فرما۔ میری زبان کو تقویت بخش۔ میرے دل کو ہدایت دے اور میرے دل سے بغض و کینہ سلب کرے

تَجْعَلْ مُصِيبَتِي فِي دِينِي وَلَا تَجْعَلْ أَكْبْرَهِي وَلَا مَبْلَغَ عَلِيٍّ وَلَا

اور نہ بنا میری مصیبت میرے دین میں۔ اور نہ بنا میرا بڑا مقصد اور نہ مبلغ علم اور نہ

غَايَةَ رَغْبَتِي مَا لَا تَرْضِيهِ وَلَا تُسَلِّطُ عَلَيَّ مَنْ لَا يَرْضِيَنِي إِنَّكَ

مفتاء رغبت اپنے ناپسندیدہ امور کو۔ اور نہ مسلط فرما مجھ پر جو مجھ پر ترس نہ کھائے۔ بیشک تو

أَنْتَ رَبِّي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہی میرا رب ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَمْرِهِ فِي الْأُمُورِ وَفَقَاهَتِهِ فِي الْفُقَهَاءِ وَإِيمَانِهِ فِي

اور ان کے امر پر جملہ امور میں اور ان کی فقاہت پر جملہ فقہاء کی فقاہت میں اور ان کے ایمان اہل پر

الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جملہ مومنین کے ایمان میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ

پر اور برکت و سلامتی اور درود نازل فرما ان پر۔ اے اللہ جمع فرماتا ہمیں ان کے ساتھ

كَمَا آمَنَّا بِهِ وَلَمْ نَرَهُ وَلَا تَفَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ حَتَّى

جیسے کہ ہمیں ایمان نصیب کیا ان کے ساتھ حالانکہ ہم نے ان کی زیارت نہیں کی تھی اور جدائی نہ ڈالنا ہمارے اور ان

تَدْخُلْنَا مَدْخَلَهُ وَتُورِدَنَا حَوْضَهُ وَتَجْعَلَنَا مِنْ رُفَقَائِهِ

کے درمیان تا آنکہ وارد کرنا ہمیں ان کے محل نزول میں۔ اور ان کے حوض مورد پر۔ اور ہمیں ان کی رفاقت میں رکھنا

مَعَ السُّعْمِ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

مع دیگر انعام یافتہ انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کے

وَالصَّالِحِينَ وَحَسَنَ أَوْلِيَّكَ رَفِيقًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

اور وہ بہت اچھے رفیق ہیں۔ اور تمام حمدیں اللہ رب

الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ بَيْنَنَا لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْ حَوْضَهُ

العالمین کے لیے ہیں۔ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارا پیش رو تنظیم بنا اور ان کے حوض کوڑ کو

لَنَا مَوْعِدًا لِأَوْلِيَانَا وَآخِرْنَا اللَّهُمَّ احْشُرْنَا فِي نِزْمِ مَرْتَبَتِهِ

ہمارے اول و آخر کے لیے اجتماع کا مقام موعود بنا۔ اے اللہ ہمیں آپ کی جماعت میں اٹھانا اور

اسْتَعْمَلْنَا بِسُنَّتِهِ وَتَوَقَّفْنَا عَلَى مِلَّتِهِ وَعَرَفْنَا وَجْهَهُ وَاجْعَلْنَا

آپ کی سنت پر عامل بنا اور آپ کی ملت پر وفات دینا اور ہمیں ان کی پہچان نصیب فرما اور ہمیں

فِي زُمْرَتِهِ وَحِزْبِهِ اللَّهُمَّ وَكَمَا آمَنْتُ بِهِ وَلَمْ أَرَكَ فَلَا تَحْرِمْنِي

ان کی جماعت اور گروہ سے بنا۔ اے اللہ جیسے کہ میں ان پر ایمان لایا حالانکہ میں نے انہیں دیکھا نہیں پس

فِي الْجَنَّةِ رُؤْيَتَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

مجھے محروم نہ رکھنا ان کے دیدار سے جنات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِسْلَامِهِ فِي الْمُسْلِمِينَ وَعَقِيدَاتِهِ

سیدنا محمد کی آل پر اور ان کے اسلام پر تمام مسلمین کے اسلام میں اور عقیدہ پر

فِي الْعُقَايِدِ وَرِسَالَتِهِ فِي الرِّسَالَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جملہ عقائد میں اور رسالت پر جملہ رسالت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَرْتَبَتِهِ فِي

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر اور آپ کے مرتبہ پر جملہ مراتب میں

الْمَرَاتِبِ وَمُنْقَبِهِ فِي الْمَنَاقِبِ وَمَنْزِلَتِهِ فِي الْمَنَازِلِ اللَّهُمَّ

اور منقبت پر جملہ مناقب میں اور منزلت پر جملہ منازل میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ

نُبُوتِهِ فِي النُّبُوتِ وَوَسَائِطِهِ فِي الْوَسَائِطِ وَوَسِيلَتِهِ فِي

کی نبوت پر جملہ نبوتوں میں اور آپ کی وساطت پر جملہ وسائط میں اور وسیلہ پر

الْوَسَائِلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جملہ وسیلوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى قَنَاعَتِهِ فِي الْقَنَاعِينَ وَخَشْيَتِهِ فِي الْخَاشِعِينَ

اور آپ کی قناعت پر جملہ اہل قناعت میں اور خشیت پر جملہ اہل خشیت میں

وَحَوْفِهِ فِي الْخَائِفِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور خوف الہی پر جملہ اہل خوف میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى فِعْلِهِ فِي الْأَفْعَالِ وَعَمَلِهِ فِي

اور آپ کی آل اطہار پر اور آپ کے ہر فعل پر جملہ افعال مقبولین میں اور عمل پر

الْأَعْمَالِ وَيَبْتِئِهِ فِي الْإِيْمَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جملہ اعمال میں اور ان کی قسم پر جملہ قسموں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَقِيْقَتِهِ فِي الْمَوْلُودِينَ وَإِسْمِهِ

محمد پر اور آپ کی اطہار پر اور آپ کے عقیقہ پر جملہ مولودین میں اور اسم مبارک پر

فِي الْأَسْمَاءِ وَعُمْرِهِ فِي الْأَعْمَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جملہ اسماء میں اور عمر مبارک پر تمام عمروں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى حَيَاتِهِ فِي الْأَحْيَاءِ وَسَيِّئِهِ فِي

محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ کی حیات اقدس پر جملہ اہل حیات میں اور آپ کے ہر دانت

الْأَسْتَانِ وَنُمُوِّهِ فِي النَّامِيْنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

پر جملہ انسان میں اور نمو و افزائش پر جملہ اہل نمو میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى طُفُولِيَّتِهِ فِي الْأَطْفَالِ وَصَبِيهِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر اور آپ کی طفولیت پر جملہ اطفال میں۔ اور بچپن پر تمام

فِي الصَّبِيَّانِ وَتَرْعُرِعِهِ فِي التَّرْعُرِعِيْنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

تمام بچوں میں اور نوخیزی پر تمام نوخیزوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى رَهَاقِهِ فِي الْمَرَاهِقِيْنَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور قرب بلوغت پر قریب البلوغت افراد میں۔ اور جوانی پر جوانوں میں

وَفَتِيَّتِهِ فِي الْفَتِيَّانِ وَشَبَابِهِ فِي الشُّبَّانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور شباب پر اہل شباب میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مَحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى كَهُولَتِهِ فِي الْكُهُولِ وَشَيْخُوخَتِهِ

محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ کی کہولت پر اہل کہولت میں اور شیخوخت پر جملہ

فِي الْمَشَائِخِ وَذَاتِهِ فِي الدَّوَاتِ وَنُورِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَصُورَاتِهِ فِي

اہل شیخوت میں اور آپ کی ذات اقدس پر جملہ مقدس ذاتوں میں اور نور پر جملہ انوار میں اور صورت مقدسہ

الصُّوَرِ وَشَفَاعَتِهِ فِي الشُّفَعَاءِ وَوَسِيلَتِهِ فِي الْوَسَائِلِ وَرَابِطَتِهِ

پر جملہ صورتوں میں اور شفاعت پر جملہ شفاعتوں میں اور آپ کے وسیلہ پر جملہ وسیلوں میں اور رابطہ

فِي الرِّوَابِطِ وَنَعْتِهِ فِي النَّعُوتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

پر جملہ روابط میں اور نعت پر جملہ نعوتوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى خُلُقِهِ فِي الْأَخْلَاقِ وَسِيرَتِهِ فِي

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے خلق پر جملہ اخلاق عالیہ میں اور سیرت طیبہ پر

السِّيَرِ وَشَيْئَتِهِ فِي الشَّيْءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

تمام سیرتوں میں اور نصلت پر جملہ نصلتوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَجِيَّتِهِ فِي السَّجَايَا وَفَضِيلَتِهِ فِي

سیدنا محمد کی آل پر اور عادت مبارکہ پر عادات میں اور فضیلت پر جملہ فضائل

الْفَضَائِلِ وَخَصْلَتِهِ فِي الْخِصَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

میں اور نصلت مبارکہ پر جملہ خصائل میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى تَحِيَّتِهِ فِي التَّحِيَّاتِ وَصِدْقِهِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر اور آپ کے تجیہ پر جملہ تحیات و ہدایات میں اور صدق

فِي الصَّادِقِينَ وَحَالِهِ فِي الْأَحْوَالِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صِحَّةً

پر تمام اہل صدق میں اور حال پر تمام احوال میں۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں صحت کا

فِي إِيْمَانٍ وَإِيْمَانًا فِي حُسْنِ خُلُقٍ وَنَجَاحًا تَتَّبِعُهُ فَلَاحًا

جمع ایمان کے اور ایمان کا جمع حسن خلق کے اور کامرانی کا جس کے ساتھ فلاح ہو

وَرَحْمَةً وَعَافِيَةً وَمَغْفِرَةً مِّنْكَ وَرِضْوَانًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور رحمت و عافیت کا اور مغفرت و رضوان کا ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى طُورِبِهِ فِي الْأَطْوَارِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے طریقہ پر جملہ اطوار اور طریقوں میں

وَطَبِيعِهِ فِي الطَّبَائِعِ وَشُغْلِهِ فِي الْأَشْغَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور طبیعت پر جملہ طبائع میں اور مشغولیت پر جملہ مشاغل میں ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَهْدِهِ فِي الْعُهُودِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر اور آپ کے عہد پر جملہ عہد و پیمانوں میں

عَلَى بِلَاغَتِهِ فِي الْبُلْغَاءِ وَقِصَاحَتِهِ فِي الْفُصَحَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور بلاغت پر تمام اہل بلاغت میں اور فصاحت پر جملہ اہل فصاحت میں ۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَخَائِهِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر اور آپ کی سخاوت پر

فِي الْأَسْخِيَاءِ وَجُودِهِ فِي الْأَجُودِينَ وَكَرَمِهِ فِي الْكِرْمَاءِ اللَّهُمَّ

تمام اہل سخاوت میں اور جود و عطا پر جملہ اہل جود میں اور کرم پر جملہ اہل کرم میں ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى لُبِّهِ

صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل اطہار پر اور آپ کے عقل خالص پر

فِي الْأَلْيَابِ وَعَقْلِهِ فِي الْعُقُولِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

تمام عقل میں اور آپ کے عقل و فہم پر عقول میں ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى حِكْمَتِهِ فِي الْحِكَمِ وَحَدِيثِهِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر اور آپ کی حکمت پر حکمتوں میں اور حدیث پر

فِي الْأَحَادِيثِ وَخَيْرِهِ فِي الْأَخْبَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

احادیث میں اور خیر پر اخبار میں ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا



مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ كِتَابِهِ فِي الْكُتُبِ وَمُصْحَفِهِ فِي الْمَصَاحِفِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر اور آپ کی کتاب پر تمام کتب میں اور مصحف پر جملہ مصاحف

وَمَسْأَلَتِهِ فِي الْمَسَائِلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

میں اور ہر مسئلہ پر تمام مسائل میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَنْقُولِهِ فِي الْمَنْقُولَاتِ وَمَثَلِهِ فِي الْأَمْثَالِ

کی آل پر اور آپ کے نقل کردہ قول پر جملہ منقولات میں اور بیان کردہ مثال پر جملہ امثال میں

وَوَعْظِهِ فِي الْوُعَاظِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اور آپ کے وعظ پر تمام وعظوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَلَيْهِ فِي الْعُلُومِ وَعَلَىٰ حِفْظِهِ فِي الْحِفَاظِ

کی آل پر اور آپ کے علم پر جملہ علوم میں اور حافظہ پر تمام حافظہ والوں میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر اور

عَلَىٰ ذِكْرِهِ فِي الذِّكْرِ وَتَقَاعِدِهِ فِي الْقَوَاعِدِ وَأَدَبِهِ فِي الْأَدَابِ

آپ کے ذکر مبارک پر تمام اہل ذکر میں اور آپ کے قاعدہ پر جملہ قواعد میں اور ادب پر تمامی آداب میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر اور آپ

سَعَادَتِهِ فِي السَّعَادَاتِ وَسَيَادَتِهِ فِي السِّيَادَاتِ وَتَوَاضُعِهِ فِي

کی سعادت پر جملہ سعادات میں اور سیادت پر جملہ سیادات میں اور تواضع پر تمام

التَّوَاضُعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اہل تواضع میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَادَتِهِ فِي الْعَادَاتِ وَسَلَامِهِ فِي الْمَسْلَمِينَ وَمُصَافِحَتِهِ

آل پر اور آپ کی مبارک عادات پر تمام عادات میں اور آپ کے سلام پر جملہ سلام دینے والوں میں اور

فِي الْمَصَافِحِينَ الْمُرَافِقِينَ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِإِسْلَامٍ قَائِمًا وَ

مصافحہ پر تمام اہل مصافحہ اہل رفاقت میں۔ اے اللہ مجھے محفوظ فرما ساتھ اسلام کے حالت قیام میں۔ اور

احْفَظْنِي بِإِسْلَامٍ قَائِمًا وَأَحْفَظْنِي بِإِسْلَامٍ رَاقِدًا وَلَا تُشْبِثْ

محفوظ فرما اسلام کے ساتھ حالت قعود میں اور محفوظ فرما اسلام کے ساتھ حالت نیند میں اور نہ خوش کرنا

بِي عَدُوٍّ أَوْ لِحَاسِدٍ أَوْ لِشَيْطَانٍ أَمْرِيًّا مِّنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ اللَّهُمَّ

میری وجہ سے میرے دشمن کو اور حاسد کو اور نہ سرکش شیطان کو جنوں سے ہو یا انسانوں سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى صَبْرِهِ

صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل اطہار پر اور آپ کے صبر پر

فِي الصَّابِرِينَ وَعَاطِفَتِهِ فِي الْعَوَاطِفِ وَمَزَاجِهِ فِي الْمَزَاجِينَ اللَّهُمَّ

تمام اہل صبر میں اور مہربانی پر تمام مہربانیوں میں اور ہنسی و مزاج پر تمام مزاجوں میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى رَحْمَتِهِ

صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر اور آپ کے رحم و کرم پر

فِي الرَّحَمَاءِ وَغَضَبِهِ فِي الْغَضَبَانِ وَكَظْمِهِ فِي الْكَاطِمِينَ اللَّهُمَّ

حمد اہل رحمت میں اور غضب پر تمام اہل غضب میں اور قوت برداشت پر تمام برداشت کرنے والوں میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى فُهِمِهِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے فہم و دانش پر

فِي الْأَفْهَامِ وَصَفْحِهِ فِي الصَّافِحِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

افہام میں۔ اور درگزر پر اہل عفو میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى حَيَاتِهِ فِي الْحَيَاتِينَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر اور آپ کی حیات پر تمامی حیات داروں میں

وَعَفْوِهِ فِي الْعَافِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور عفو پر تمام درگزر والوں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ حَلْبِهِ فِي الْاِحْلَامِ وَمُشَاهَدَتِهِ فِي الْمَشَاهِدَاتِ

کی آل اطہار پر اور آپ کے علم پر تمامی حملوں میں اور مشاہدہ پر تمامی مشاہدات میں

وَعَدْلِهِ فِي الْعَادِلِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اور عدل پر تمام اہل عدل میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ شُكْرِهِ فِي الشَّاكِرِينَ وَأَمَلِهِ فِي الْأَمَالِ وَ

آپ کی آل اطہار پر اور آپ کے شکر پر تمام اہل شکر میں اور امید و آرزو پر

أَمْنِيَّتِهِ فِي الْأَمَانِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

تمامی آرزوں میں اور تمام پر تمام تمناؤں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ حَاجَتِهِ فِي الْحَاجَاتِ وَعَرْضِهِ فِي الْأَعْرَاضِ

سیدنا محمد کی آل اطہار پر اور آپ کی حاجت پر جملہ حاجات میں اور عرض و مقصد پر جملہ مقاصد میں

وَوَطْرِهِ فِي الْأَوْطَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اَلِ

اور ضرورت پر جملہ ضرورتوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ رُؤْيَاتِهِ فِي الْمُرِّيَّاتِ وَكَرَامَاتِهِ فِي الْكِرَامَاتِ وَ

آل پر اور آپ کے دیدار پر جملہ دیداروں میں۔ اور کرامت و بزرگی پر جملہ کرامات میں اور

بَرَكَتِهِ فِي الْبَرَكَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

برکت پر جملہ برکات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَظَمِيَّتِهِ فِي الْعَظَمَاتِ وَإِرَادَتِهِ فِي الْإِرَادَاتِ

کی آل اطہار پر اور آپ کی عظمتوں پر تمام عظمت میں۔ اور ارادہ پر تمام ارادوں میں

وَإِشَارَتِهِ فِي الْإِشَارَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اور اشارہ پر تمام اشارات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ تَوَكُّلِهِ فِي الْمُتَوَكِّلِينَ وَمَوْهَبَتِهِ فِي الْمَوْهَبَاتِ

آپ کی آل پر اور آپ کے توکل پر تمامی اہل توکل میں اور عطیہ پر جملہ مواہب میں

وَعَطِيَّتِهِ فِي الْعَطِيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور ہبہ پر جملہ عطیات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى رَأْيِهِ فِي الْأَسْرَاءِ وَذَهَبِهِ فِي

اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی روئے پر تمام آراء میں اور آپ کے ذہن اقدس پر جملہ

الْأَذْهَانِ وَخَيْرِهِ فِي الْخَيْرَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اذہان میں اور آپ کی خیر پر جملہ خیرات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى حَقِّهِ فِي الْحُقُوقِ وَفَضْلِهِ فِي

محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے حق پر جملہ حقوق میں اور فضل و شرف پر تمامی

الْأَفْضَالِ وَإِنْصَافِهِ فِي الْمُنْصِفِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

افضال میں۔ اور انصاف پر جملہ اہل انصاف میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِرْهَاصِهِ فِي الْإِرْهَاصَاتِ وَ

محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے قبل از نبوت فرق عادات پر جملہ خوارق میں اور

مُعْجَزَاتِهِ فِي الْمُعْجَزَاتِ وَأَيَاتِهِ فِي الْآيَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

معجزہ پر جملہ معجزات میں اور آیت صدق پر جملہ آیات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل ہو

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى دَلَالَتِهِ فِي الدَّلَالَاتِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی دلالت پر جملہ دلالات میں

وَعَلَامَتِهِ فِي الْعَلَامَاتِ وَبَيِّنَاتِهِ فِي الْبَيِّنَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور علامت پر جملہ علامات میں اور روشن دلیل پر جملہ دلائل بینہ میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى بُرْهَانِهِ فِي الْبُرْهَانِ

ہو سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل اطہار پر اور آپ کے برہان پر تمام براہین میں

وَهَيْبَتِهِ فِي الْهَيْبَةِ وَحُكْمِهِ فِي الْأَحْكَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى قَضَائِهِ

اور ہیبت عالیہ پر تمام ہیبتوں میں اور حکم پر جملہ احکام میں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما گناہگاروں کی قضاء

الْمُدْنِيِّينَ وَنَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَشَفِيعِ الْأُمَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور مجسم فیصلہ پر اور نبی رحمت اور شفیع امت پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب شفا عتہ عظمیٰ کے

الْعُظْمَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مالک ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تَقْبَلُ بِهَا دُعَاؤَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اطہار پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تَسْمَعُ بِهَا اسْتِغَاثَتَنَا وَنِدَائَنَا

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل تو قبول فرمائے ہمارا استغاثہ اور پکار

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوٰۃ

تَسْلِمُ بِهَا إِيْمَانَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کے طفیل تو سلامت رکھے ہمارے ایمانوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تُقْوِي بِهَا إِيقَانَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل تو قوی فرمائے ہمارے یقینوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تَغْفِرُ بِهَا ذُنُوبَنَا اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوٰۃ کے طفیل تو بخش دے ہمارے ذنوب کو۔ اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تَسْتُرُ

اللہ صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل تو پردہ ڈالے

بِهَآءِ عِيُوبِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہمارے عیوب پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَحْفَظُنَا بِهَا مِنْ اِكْتِسَابِ السَّيِّئَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جس صلوات کے طفیل تو ہمیں محفوظ رکھے برائیوں کے ارتکاب سے۔ اے اللہ صلوات و سلام ہو

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُوَفِّقُنَا بِهَا لِلاَعْمَالِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس صلوات کے طفیل ہمیں توفیق دے اعمال

الصَّالِحَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

صالحہ کی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُفْلِحُ بِهَا عَمَّا يَرِدُنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

پر جس صلوات کے طفیل تو ہمیں کامیابی عطا کرے مہلکات سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُكْسِبُ بِهَا مَا يَنْجِينَا

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس صلوات کے طفیل ہم اپنا میں اسباب نجات کو۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَوةً تَمُنِّحُنَا بِهَا الْخَيْرَ كُلَّهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

جس صلوات کے طفیل تو ہمیں عطا فرمائے ہر خیر اور بھلائی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُجَنِّبُ بِهَا عَنَّا الشَّرَّ كُلَّهُ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل اطہار پر جس کے طفیل تو ہم سے دور کر دے ہر قسم کے شر کو۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَوةً تُحَسِّنُ بِهَا اَخْلَاقَنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جس صلوات کے طفیل تو ہمارے اخلاق کو حسین بنا دے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد

وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُصَلِّحُ بِهَا اَحْوَالَنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ

اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل تو ہمارے احوال کی اصلاح فرمائے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَعْصِيْنَا

و سلام ہو سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس صلوات کے طفیل تو ہمیں پہنچے

بِهَا عَنِ الْمَعْصِيَةِ وَالْغَوَايَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

معصیت اور گمراہی سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَرْتُقُنَا بِهَا اِتِّبَاءَ السُّنَّةِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل ہمیں نصیب فرمائے سنت و

وَالْجَمَاعَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ

جماعت کی اتباع۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُبْعِدُنَا بِهَا عَنِ الْاَفَاتِ اَللّٰهُمَّ

آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل ہمیں دور رکھے آفات کے قرب۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَكَلِّمُنَا

صلوات و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل ہماری

بِهَا عَنِ الزَّلَّاتِ وَالْغَوَايَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حفاظت فرمائے لغزشات اور لغویات سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُحْصِلُنَا بِهَا اَمَالَنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل پورا فرمائے ہماری امیدوں کو۔ اے اللہ صلوات و سلام ہو

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُخْلِصُنَا بِهَا لَكَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس صلوات کے طفیل خالص کرے ہمارے اعمال کو

اَعْمَالَنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنی ذات کے لیے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَوةً تَجْعَلُنَا بِهَا التَّقْوَىٰ زَادًا بِشَفَاعَتِهِ الْعُظْمَىٰ وَوَسِيْلَتِهِ الْكُبْرَىٰ

جس صلوات کے طفیل تو تقویٰ کو ہمارا زاد راہ بنائے بسبب آپ کی شفاعت عظمیٰ اور وسیلہ کبریٰ کے

وَاجْعَلْ شَفَاعَتِي لِرُوحِهِ اللهُ تَعَالَى وَوَسِيلَتِي يَا صَاحِبَ الشَّفَاعَةِ

اور کیجئے میری شفاعت محض رضائے الہی کے لیے اور بیٹے میرا وسیلہ اے صاحب شفاعت اور

وَالْوَسِيلَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صاحب وسیلہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

صَلَاةً تَزِيدُ بِهَا فِي دِينِكَ اجْتِهَادَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جس صلوٰۃ کے طفیل تو بڑھائے ہماری جدوجہد کو اپنے دین میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَرْتُقِّي قَتَابَهَا إِلَّا سِتْقَامَةً فِي

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل تو ہمیں اپنی اطاعت پر استقامت

طَاعَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

عطا فرمائے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَمُنِّحُنَا بِهَا الْإِنْسُ بِعِبَادَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

پر جس صلوٰۃ کے طفیل تو ہمیں عطا کرے اپنی عبادت میں انس۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُسَهِّلُ بِهَا عَلَيْنَا جَمِيعَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہم پر آسان فرمائے

الْأُمُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

تمامی امور کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُدِيمُ بِهَا عَلَيْنَا بُرْدَ الْعَيْشِ وَالسُّرُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ

پر جس صلوٰۃ کے طفیل تو ہم پر برقرار رکھے خوشی اور مسرت کو۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُبَارِكُ بِهَا

و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل برکت عطا کرے ہمیں

فِيمَا أَعْطَيْتَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

عطا فرمودہ اشیاء میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَسْنَحُنَا بِهَا الرِّضَاءَ بِمَا آتَيْتَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ

آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل عطا فرمائے عطا کردہ اشیاء پر رضا مندی۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُزَكِّي بِهَا

و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل پاک کرے

عَنِ الْهَوَىٰ نُفُوسَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

خواہشات نفسانیہ سے ہمارے نفوس کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُطَهِّرُ بِهَا عَمَّا سِوَاكَ قُلُوبَنَا اللَّهُمَّ

کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل تری پاک فرما دے ہمارے قلوب کو اپنے ماسوا سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُصَغِّرُ

صلوات و سلام ہو سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس صلوات کے طفیل حقیر بنائے تو

بِهَا الدُّنْيَا فِي عِيُونِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

دنیا کو ہماری نظروں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُعْظِمُ بِهَا جَلَالَكَ فِي قُلُوبِنَا اللَّهُمَّ

آپ کی آل پر جس صلوات کے طفیل عظیم بنا دے اپنے جلال کو ہمارے قلوب میں۔ اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل

تُرْضِينَا بِهَا بِقَضَائِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

تو راضی کر دے ہمیں اپنی قضاء پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُوزِعُنَا بِهَا عَنَّا شُكْرَ نِعْمَاتِكَ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد کی آل پر جس صلوات کے طفیل تو فریق دے ہمیں اپنی نعمتوں کے شکر کی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

صلوات و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوات کے طفیل

تُصَحِّحُ بِهَا تَوَكُّلَنَا وَإِعْتِمَادَنَا عَلَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

درست فرمائے ہمارے توکل اور اعتماد کو اپنی ذات پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُحَقِّقُ بِهَا وَتُوقِنَا وَالتَّجَانُّنَا

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوٰۃ کے طفیل پائیدار فرمائے ہمارے وثوق و التجار کو

إِلَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

طرف اپنے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل اطہار پر

صَلَوةٌ تُرَضِّيكَ وَتُرَضِّيهُ وَتَرْضَىٰ بِهَا عَنَّا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

جو صلوٰۃ تجھے راضی کرے اور انہیں راضی کرے اور تو راضی ہو اس کے طفیل ہم سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُجَدِّرُ بِهَا مَا فَاتَنَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جس صلوٰۃ کے طفیل پورا فرمائے ہماری کوتاہی کو۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَوةٌ تُعِيدُنَا بِهَا مِنَ الْعَجَبِ وَالرِّيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

جس کے طفیل ہمیں پناہ دے تکبر اور ریا کاری سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَحْفَظُنَا بِهَا مِنَ الْحَسَدِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل محفوظ فرمائے ہمیں حسد

وَالكِبْرِيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اور تکبر سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُكْسِرُ بِهَا شُهُورَاتِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہماری خواہشات نفس کو ختم فرمائے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُخْرِجُ بِهَا أَعْدَانَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوٰۃ کے طفیل رسوا کرے ہمارے اعدا کو۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُحَسِّنُ بِهَا

وسلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوات کے طفیل حسین بناوے

اٰمِنِيْنَا اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہماری آرزوں کو۔ اے اللہ صلوات و سلام ہو سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

صَلَوةً تَمُنِّحُنَا بِهَا اٰمِنِيَا تِنَا اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جس کے طفیل عطا کرے ہمیں ہماری آرزوئیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُجَيِّرُنَا بِهَا مِنْ شَرِّ النَّفْسِ وَالْجَانِّ

اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل ہمیں بناوے نفس اور جنوں کے شر سے

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

اے اللہ صلوات و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کے

تُعِيْذُنَا بِهَا مِنْ شَرِّ النَّفْسِ وَالْجَانِّ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

طفیل بچائے ہمیں نفس اور جنوں کے شر سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيْذُنَا بِهَا مِنْ شَرِّ النَّفْسِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس کے طفیل پناہ دے ہمیں نفس اور شیطان

وَالشَّيْطَانِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

کے شر سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَحْفَظُنَا بِهَا مِنَ الدَّلٰةِ وَالْقَلَّةِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر جس کے طفیل ہمیں محفوظ رکھے قلت اور ذلت سے۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيْذُنَا بِهَا مِنْ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس کے طفیل ہمیں پناہ دے دل

الْقَسُوَّةِ وَالْعَفْلَةِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

کی سنگینی اور غفلت سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَحْفَظُنَا بِهَا عِبَادًا يُشْغَلُنَا عَنْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

آل پر جس کے طفیل ہمیں محفوظ فرمائے اپنی ذات سے مشغول رکھنے والی اشیاء سے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُوَفِّقُنَا بِهَا

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل توفیق دے ہیں

لِمَا تُقَرِّبُنَا مِنْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اپنے قریب کرنے والے اعمال کی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَجْعَلُ بِهَا سَعِينًا مُشْكُورًا وَعَمَلًا مَّقْبُولًا اللَّهُمَّ

آل پر جس کے طفیل بنائے ہماری سعی کو مشکور اور ہمارے عمل کو مقبول۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَنْبِئُنَا

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل ہمیں

بِهَا عِزًّا وَقَبُولًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

عزت و قبولیت عطا کرے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَقْطَعُ بِهَا عَيْنٌ سِوَاكَ إِحْتِيَاجَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر جس صلوات کے طفیل ختم فرما دے اپنے ماسوا سے ہماری محتاجی کو۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُدِيمُ بِهَا بِنِعْمَتِكَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل دائمی بنا دے اپنی نعمتوں کے ساتھ

إِبْتِهَاجَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

ہماری خوشی کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَكُونُ بِهَا فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ وَكَيْلًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر جس کے طفیل تو تمام امور میں ہمارا کار ساز ہو۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَكُونُ بِهَا الْقَضَاءُ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس کے طفیل تو ہماری حاجات پوری

حَوَائِجِنَا كَفِيلاً اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

فرمانے کا ضامن ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْبَلِيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں بچائے تمام تر بلیات سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْنَحُنَا بِهَا جَزِيلَ الْعَطَايَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس کے طفیل ہمیں عطا فرمائے عظیم ترین عطیات۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس کے طفیل

تَرْتَرُقُنَا بِهَا عَيْشُ الرَّغْدَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہمیں نصیب فرمائے خوشگوار گزران۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْنَحُنَا بِهَا عَيْشُ السُّعْدَاءِ اللَّهُمَّ

اور آپ کی آل پر جس کے طفیل ہمیں عطا فرمائے سعادت مندوں والی گزران۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُفَرِّقُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس کے طفیل فکارتے

بِهَافِي صِفَاتِكَ صِفَاتِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

ہماری صفات کو اپنی صفات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمَحُورُ بِهَا فِي ذَاتِكَ ذَوَاتِنَا اللَّهُمَّ

آپ کی آل پر جس کے طفیل محو فرمائے ہماری ذاتوں کو اپنی ذات میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُحَقِّقُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوٰۃ کے طفیل پائیدار

بِهَافِيكَ لِقَائِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

بنادے ہمارے لیے اپنی لقاء کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَدِيرُ بِهَا بَتَوَاتُرِ أَنْوَارِكَ صَفَائِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ

آل پر جس صلوة کے طفیل دائمی بنادے اپنے لگاتار انوار کے ذریعے ہماری صفائی کو۔ اے اللہ صلوة

وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُسَلِّكُنَا بِهَا

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس کے طفیل ہمیں چلاتے

مَسْلِكَ أَوْلِيَاءِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اپنے اولیاء کی راہ سلوک پر۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُرْوِينَا بِهَا مِنْ شَرَابِ أَصْفِيَاءِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

آل اطہار پر جس سے سیراب فرمائے ہمیں اپنے خواص کے شراب (محبت) کے ساتھ۔ اے اللہ صلوة

وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُوَصِّلُنَا

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوة کے طفیل ہمیں واصل فرمائے

بِهَا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اپنی ذات تک۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَدِيرُ بِهَا حُضُورَنَا لَدَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي

پر جس کے طفیل ہمیں دائم الحضور بنا دے۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُهَوِّنُ بِهَا عَلَيْنَا سَكَرَاتِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس کے طفیل سہل فرمائے ہم پر وقت موت کی

الْمَوْتِ وَغَيْرَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

مدہوشیاں اور سختیاں۔ اے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُجِيرُنَا بِهَا مِنْ وَحْشَةِ الْقَبْرِ وَكَرْبَتِهِ اللَّهُمَّ

کی آل پر جس کے طفیل بچائے ہمیں قبر کی وحشت اور کربت سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُسَلِّكُنَا

صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس کے طفیل بھردے

قُبُورِنَا بِأَنْوَارِ الرَّحْمَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

ہماری قبور کو انوار رحمت کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَجْعَلُ بِهَا قُبُورَنَا رَوْضَةً مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ

سیدنا محمد کی آل پر جس کے طفیل ہماری قبور کو جنتی باغات میں سے باغیچے بنا دے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس کے طفیل

تَحْشُرُنَا بِهَامِعِ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

ہمارا حشر فرمائے انبیاء و صدیقین کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَبْعَثُنَا بِهَامِعِ الشُّهَدَاءِ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل ہمارا حشر فرمائے شہداء اور

الصَّالِحِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

صالحین کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَمْنَحُنَا بِهَا قُرْبَةً وَشَفَاعَةً اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں عطا فرمائے محبوب کریم کی قربت اور شفاعت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُفِيضُ بِهَا عَلَيْنَا بَرَكَاتَكَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوٰۃ کے طفیل جاری فرمائے ہم پر آپ کی برکات

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوٰۃ

تَحْفَظُنَا بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

کے طفیل ہمیں محفوظ رکھے روز قیامت کی ہر شدت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَشْبِلُنَا بِهَا يَوْمَ الْجَزَاءِ بِالرَّحْمَةِ وَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل ہمارا احاطہ فرمائے روز قیامت میں رحمت و کرم نوازی

الْكَرَامَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَاةً تَصْرِفُ بِهَا عَنِ الدُّنْيَا وَلَدَاتِهَا قُلُوبَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جس صلوٰۃ کے طفیل پھیر دے ہمارے قلوب کو دنیا اور اس کی لذات سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَجْمَعُ بِهَا فِي الْإِشْتِيَاقِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل مجتمع فرما دے اپنے شوق ذات

عَلَيْكَ هُمُومَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

میں ہمارے تمام عزام۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُوَجِّسُنَا بِهَا عَمَّنْ سِوَاكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جس صلوٰۃ کے طفیل متنفر کر دے اپنے ماسوا سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُؤْنِسُنَا بِهَا بِقُرْبِكَ وَوِلَايَتِكَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں مانوس فرمائے اپنے قرب اور دوستی کے ساتھ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل

تُقَرِّبُنَا فِي مُنَاجَاتِكَ عِيُونَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ٹھنڈا فرمائے اپنی مناجات میں ہماری آنکھوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُحَسِّنُ بِهَا بِكَ ظُنُونَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ

اور آپ کی آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل حسین بنا دے اپنے ساتھ ہمارے ظنون کو۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُشْرَحُ بِهَا

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمارے سینے

بِعُرْفَتِكَ صُدُورَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اپنی معرفت کے ساتھ کشادہ فرمائے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُدِيْعُ بِهَا فِي ذِكْرِكَ وَفِكْرِكَ سُرُوْرَنَا

کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل ہمیشہ رکھے اپنے ذکر اور فکر میں ہمارے بواطن کو۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات

تَرْفَعُ بِهَا عَنْ قُلُوْبِنَا الْحُجُبَ وَالْاَسْتَارَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

کے طفیل اٹھادے ہمارے دلوں پر سے حجابات اور پردوں کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَسْنَحُنَا بِهَا شَهُوْدَكَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل ہمیں عطا فرمائے اپنا شہود

فِيْ جَمِيْعِ الْاَثَارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

تمام آثار میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَقْطَعُ بِهَا حَدِيْثَ نَفُوْسِنَا بِاَعْلَامِكَ اَللّٰهُمَّ

آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل قطع فرمادے ہمارے وساوس کو عطا علم کے ذریعے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَبْدِلُ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل ہمارے

بِهَا هُوَ اِجْسَ قُلُوْبِنَا بِالْهَامِكِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

قلوب کے وساوس کو بدل دے اپنے الہام کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُفِيْضُ بِهَا عَلَيْنَا جَدْبَاتِكَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل ہم پر فیضان فرمادے اپنے جذب ذات کا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل

تَشِيْلُنَا بِهَا بِنَفْحَاتِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

ہمارا احاطہ فرمائے اپنے عطیات کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

إِلٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُجَلِّنَا بِهَا مَنَازِلَ السَّارِّينَ إِلَيْكَ يَا اللَّهُمَّ

کی آل پر جس کے طفیل ہمیں منازل فرماوے اپنی طرف چلنے والوں کی منازل میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَرْفَعُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل تو

بِهَا مَنَزِلَتَنَا وَمَكَانَتَنَا لَدَيْكَ يَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بند فرمائے ہمارے مرتبہ و مقام کو اپنے ہاں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَسْتَحِقُّ بِهَا فِيْ اِرَادَتِكَ اِمَانَنَا يَا اللَّهُمَّ

اور آپ کی آل پر جس صلوات کے طفیل پائیدار فرمائے اپنے ارادہ میں ہماری آرزوں کو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَدْحِقُّ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل قنا کرے

بِهَا فِيْ اَفْعَالِكَ اَفْعَالَنَا يَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اپنے افعال میں ہمارے افعال کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُثَقِّلُ بِهَا مِيزَانَنَا يَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آپ کی آل پر جس صلوات کے طفیل ہمارے میزانِ حسنات کو بھاری فرمائے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُثَبِّتُ بِهَا عَلٰی

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل ثابت رکھے

الصِّرَاطِ اَقْدَامَنَا يَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ

پل صراط پر ہمارے قدموں کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُدْخِلُنَا بِهَا جَنَّتِ النَّعِيْمِ بِلا حِسَابٍ يَا اللَّهُمَّ

کی آل پر جس کے طفیل داخل فرمائے ہیں جناتِ نعیم میں بغیر حساب کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُبَيِّنُ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوات کے طفیل ہم پر مباح فرمائے

لِنَابِهَا النَّظَرَ إِلَىٰ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ مَعَ الْأَحْبَابِ آمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

اپنے دیدار ذات کو بمع ہمارے احباب کے آمین ۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَنْحَلُّنَا بِهَا

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس کے طفیل ہمیں عطا فرمائے

حُبَّ إِلَهٍ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَهِنَا فَاعْطِنَا فَوْقَ مَا نُؤَمِّلُ

محبت آل رسول کی اور تمام اصحاب رسول کی ۔ اے ہمارے اللہ ہمیں عطا فرما زائد اس سے جس کی امید رکھتے

وَمَا لَا يَخْطُرُ بِإِلْيَاسٍ هُوَ وَوَاهِبٌ كَرِيمٌ مُّجِيبُ السُّؤَالِ فَإِنَّهُ

اور جو نہیں کھٹکتا کسی کے دل میں اے کہ واہب و کریم ہے سوال پورا کرنے والا ہے تحقیق

لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَتْ وَلَا سِرًّا دَلَّهَا قَضَيْتَ

نہیں روکنے والا تیری عطا کو اور نہیں کوئی عطا کر نیوا تیرے روکے ہوئے کو اور نہیں کوئی ٹالنے والا تیری قضاء کو

وَلَا مُبَدِّلَ لِمَا حَكَمْتَ وَلَا هَادِيَ لِمَا أَضَلَّتْ وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ

اور نہ تبدیل کرنے والا تیرے حکم کو ۔ اور نہ ہدایت دینے والا تیرے گمراہ کردہ کو اور نہیں گمراہ کرنے والا تیرے

هُدَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يَقْضِي عَلَيْكَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ

ہدایت یافتہ کو ۔ تو حکم نافذ کرتا ہے تجھ پر حکم نافذ نہیں کیا جا سکتا اور نہیں نفع دیتا کسی صاحب بخت و اقبال کو

مِنْكَ الْجَدُّ وَلَا مُقْعَدَ لِمَنْ أَقَمْتَ وَلَا مُعَذِّبَ لِمَنْ رَحِمْتَ وَلَا

تجھ سے اس کا بخت و اقبال ۔ نہیں بھٹانے والا تیرے قائم کئے ہوئے کو اور نہیں کوئی عذاب دینے والا تیرے مرحوم کو اور نہیں

حِبَابَ لِمَنْ كَشَفْتَ لَهُ وَلَا كُرُوبَ ذُنُوبٍ لِمَنْ عَفَوْتَ وَعَصَمْتَ

کوئی محبوب رکھ سکتا تیرے بے پردہ کئے ہوئے کو ۔ اور نہیں اندوہ گناہوں کے اس کے لیے جسے عفو فرمائے اور بچائے تو نے

وَقَدْ أَمَرْتُ وَنَهَيْتُ وَلَا قُوَّةَ لَنَا عَلَى الطَّاعَةِ قَوْنًا وَبِحَوْلِكَ وَ

امر فرمایا اور نہی فرمائی اور قوت نہیں ہم میں اطاعت کی لہذا قوت بخش اور اپنی قدرت و طاقت

قُدْرَتِكَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ جَنَّبْنَا نَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِطَاعَتِكَ وَنَبْعُدُ

گناہوں سے دور رکھ تاکہ ہم قریب ہو سکیں تیرے بذریعہ اطاعت کے اور تیری

اور تیری

عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَنَدَا خُلُوفِي وَصَفِي هِدَايَةِ مَحَبَّتِكَ وَتَكُونُ

معصیت سے دور رہ سکیں اور داخل ہو جائیں تیری محبت میں تیری بیان کردہ راہ کے مطابق اور تیرے

بِأَدَابِ عِبُودِيَّتِكَ قَائِمِينَ وَبِجَلَالِ رُبُوبِيَّتِكَ طَائِعِينَ وَاجْعَلْ

آداب عبودیت پر قائم ہوں اور تیرے جلال ربوبیت کے لیے سرنم ہوں۔ ہماری زبانوں کو

الْسُّنْتَنَا نَاطِقَةً بِذِكْرِكَ وَجَوَارِحَنَا قَائِمَةً بِشُكْرِكَ وَنُفُوسَنَا

اپنے ذکر کے ساتھ گویا کہ اور ہمارے اعضاء کو اپنا شکر گزار۔ ہمارے نفوس کو

سَامِعَةً مُطِيعَةً لِأَمْرِكَ وَاجْرُنَا مِنْ مَكْرِكَ وَلَا تُؤْمِنَّا مِنْهُ حَتَّىٰ

اپنے امر کا سننے اور ماننے والا بنا۔ اور ہمیں محفوظ رکھنا اپنی خفیہ تدبیر سے اور نہ ہمیں اس سے بخون کر دینا حتیٰ کہ

لَا نَبْرَحَ لِعَظِيمِ عَزَّتِكَ مَذْعَنِينَ وَمِنْ سَطْوَةِ هَيْبَتِكَ خَائِفِينَ

ہم ہمیشہ تیرے عظیم غلبہ کا یقین رکھیں اور تیری عظیم سطوت سے خوفزدہ رہیں

فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ط اللَّهُمَّ صَلِّ

کیونکہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خون نہیں ہوتی مگر اہل خسران قوم۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً أُنَالُ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوٰۃ کی برکت کے بطفیل پاوں

بِبَرَكَاتِهَا التَّسْلِيمَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَأَدْرِكُ بِعَظَمَتِهَا الْإِخْلَاصَ فِي سَائِرِ

سلامتی تمام احوال میں اور پاوں اس کی عظمت کے طفیل اخلاص تمام

الْأَعْمَالِ وَتُصَلِّحْ لِي بِحُرْمَتِهَا الْأَقْوَالَ وَالْأَفْعَالَ وَاحْفَظْنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ

اعمال میں اور درست فرمائے تو اس کے طفیل میرے تمام اقوال و افعال اور محفوظ رکھے تمام

السَّيِّئَاتِ وَأَعِصْنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الشَّهَوَاتِ وَأَعِدْنَا بِهَا مِنْ كُلِّ الْغَفَلَاتِ

برائیوں سے اور عصمت عطا کرے تمام خواہشات نفس سے اور پناہ دے تمام تر غفلتوں سے

اللَّهُمَّ صَلِّ صَلَوةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًا عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ کاملہ اور سلام تمام نازل فرما سیدنا و مولانا محمد پر

وَهَادِينَا وَمَهْدِينَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ إِلَيْهِ صَلَوَةٌ تُنَجِّنَابَهَا مِنْ جَمِيعِ

جو ہمارے ہاری اور تیرے ہدایت یافتہ ہیں اور آپ کی آل پر جس صلوات کے طفیل ہمیں نجات دے تمام

الْأَهْوَالِ وَالْأَفَاتِ وَتَشْفِينَابَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَسْقَامِ وَالْبَلِيَّاتِ وَ

ہولناکیوں اور آفتوں سے۔ اور شفا بخشے ہمیں تمام بیماریوں اور بلیات۔ اور

تُبَاعِدُنَا بِهَا مِنْ إِقْتِرَانِ الْأَفَاتِ وَتُبَارِكُ لَنَا فِي الرِّزْقِ وَالْحَسَنَاتِ

دور فرمائے بطفیل اس کے آفات کے قرب سے اور برکت دے رزق اور حسنات میں

وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتُكْسِرُ

اور پورا فرمائے ہمارے تمام حاجات کو اور پاک کرے ہمیں تمام سیئات سے اور قطع فرمائے

لَنَا بِهَا مِنْ شُرُوبِ الشَّهَوَاتِ وَتُعِيدُنَا بِهَا مِنْ نَفْسِ الْأَمَّارَةِ وَ

بطفیل اس کے ہماری بری خواہشات اور پناہ دے ہمیں بطفیل اس کے نفس امارہ اور

الشَّيَاطِينِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَتُهَوِّنُ بِهَا عَلَيْنَا سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَ

شیاطین سے ہر ساعت میں اور سہل فرمائے ہم پر اس کے طفیل موت کی مدہوشیاں اور

الْعَمْرَاتِ وَتُنَوِّرُ لَنَا بِهَا أَنْوَارَ الْبَرَكَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَىٰ

سختیاں۔ اور منور فرمائے ہمارے لیے برکات کے انوار اور بلند فرمائے اپنے ماں اعلیٰ

الدرجاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَىٰ الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي

درجات پر اور پہنچائے آخری حدود تک تمام تر خیرات میں

الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ فِي كُلِّ لَمِحَةٍ بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ يَا رَبُّ

دنوی زندگی میں اور موت کے بعد ہر لمحہ مطابق تعداد اپنے جملہ معلومات کے۔ یا رب

يَا مُجِيبُ أَجِبْنِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيَّ مَنْ قَالَ فِي

یا مجیب قبول فرما مجھے۔ اے اللہ صلوات و سلام اور برکات نازل فرما اس ذات اقدس پر

حُضُورِهِ تَعَالَىٰ لِيَّبِكَ وَسَعْدِيكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ

جس نے کہا تیرے حضور میں۔ میں حاضر بارگاہ ہوں اور کمر بستہ خدمت ہوں اور خیر تمام تر تیرے دست قدرت میں ہے اور

إِلَيْكَ وَالْمَهْدَىٰ مِنْ هَدَايَتِكَ وَعَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَمِنْكَ وَإِلَيْكَ

شر تیری طرف منسوب نہیں ہے اور ہدایت یافتہ وہی جسے تیرہدایت دے اور تیرا عبد حاضر خدمت ہے اور تجھی سے ہے

لَا مُنْجَا وَلَا مَدْجًا إِلَّا إِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ سُبْحَانَكَ رَبِّ

تیری ہی طرف نہ جائے نہ نجات ہے اور نہ جائے پناہ مگر طرف تیرے۔ تو بابرکت ہے بلند شان والا ہے۔ پاک ہے۔ اے مالک

الْبَيْتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ الرِّضَىٰ وَ

کعبہ کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر صلوات رضانا اور

أَرْضَ عَنْ أَصْحَابِهِ رِضَاءَ الرِّضَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

راضی ہو ان کے اصحاب سے جیسے کہ حق ہے رضانا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعَ الشَّمْسِ إِذَا أَصْبَحَتْ وَإِذَا طَلَعَتْ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر ہر وقت میں کہ جب صبح ہو اور جب سورج طلوع ہو

وَإِذَا زَالَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور جب ڈھلے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ مَعَ الْأَرْضِ إِذَا زُلْزِلَتْ وَمَعَ السَّمَاءِ إِذَا انْفَطَرَتْ وَإِذَا كُشِطَتْ

پر اس وقت میں کہ زمین لرزے اور آسمان پھٹ جائے اور اس کی چھت زمین سے اٹھالی جائے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر ساتھ

الصُّوْرِ إِذَا نَفِخَتْ وَمَعَ الْجِبَالِ إِذَا سِيرَتْ وَمَعَ الْوُحُوشِ إِذَا

صور اسرائیل کے جبکہ پھونکا جائے اور ساتھ پہاڑوں کے جب چلائے جائیں اور ساتھ جنگلی جانوروں

حُشِرَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے جب جمع کردئے جائیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

مَعَ الشَّمْسِ إِذَا كُوِّرَتْ وَمَعَ الْقَمَرِ إِذَا دُبِرَتْ وَمَعَ الْبِحَارِ إِذَا فُجِّرَتْ

ساتھ سورج کے جبکہ لے نور کر دیا جائے اور ساتھ چاند کے جب اٹھا پھرے۔ اور ساتھ سمندروں کے جب باہم ملا دجائیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعَ السَّمَاءِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر ساتھ آسمان کے

إِذَا انْشَقَّتْ وَمَعَ الْقُبُورِ إِذَا بُعِثَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جبکہ پھٹ جائے اور ساتھ قبور کے جب کھولی جائیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعَ الْأَرْضِ إِذَا دُكَّتْ وَمَعَ الصُّدُورِ إِذَا

محمد پر اور آپ کی آل پر ساتھ زمین کے جبکہ ریزہ ریزہ ہو جائے اور ساتھ سینوں کے جبکہ

حُصِلَتْ وَمَعَ الدَّرَجَاتِ إِذَا رُفِعَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ان کے الذا آشکارائے جائیں اور ساتھ درجات کے جب بلند کئے جائیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعَ الْكُتُبِ إِذَا قُرِئَتْ وَمَعَ الْحَسَنَاتِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر ساتھ نامائے اعمال کے جب پڑھے جائیں اور حسنات کے

إِذَا ظَهَرَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جب ظاہر کی جائیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مَعَ السَّيِّئَاتِ إِذَا أُبْدِلَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ساتھ سیئات کے جبکہ نیکیوں سے بدلیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعَ النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَعَ اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى اللَّهُمَّ

آپ کی آل پر ساتھ دن کے جبکہ روشن ہو اور رات کے جبکہ چھا جائے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعَ مَنْ أَمِنَ وَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر ساتھ ہر ایمان والے اور

اتَّقَى وَمَعَ كُلِّ مَنْ سَبَّحَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

متقی کے اور ہر تسبیح کرنے والے کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعَ كُلِّ مَنْ صَدَّقَ وَاهْتَدَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آپ کی آل پر ساتھ ہر تصدیق کرنے والے اور ہدایت پانے کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعَ النُّجُومِ وَكَوَاكِبِهَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر ساتھ تمام نجوم و کواکب کے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر ساتھ

الْكَوَاكِبِ إِذَا انْتَثَرَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ستاروں کے جبکہ جھڑ پڑیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعَ الْحَاجَاتِ إِذَا قُضِيَتْ وَمَعَ الْجَنَّةِ إِذَا

کی آل اطہار پر ساتھ حاجات کے جبکہ پوری کی جائیں اور ساتھ جنت کے جبکہ

أُزِلَّتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قریب لائی جائے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

إِذَا الشَّمْسُ طَلَعَتْ وَغَرِبَتْ وَأَضَاءَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جب سورج طلوع ہو اور غروب ہو اور روشن ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِذَا الْوَاقِعَةُ وَقَعَتْ وَإِذَا

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جبکہ قیامت قائم ہو اور جب

الْأَرْضُ زَلَّتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

زمین متزلزل ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَأَنْشَقَّتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

پر جبکہ آسمان پھٹے اور ٹکڑے ہو جائے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جب سارے بے نور ہو جائیں اور جب

الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

پہاڑ روٹی کے گالوں کی مانند چلائے جائیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَفُجِّرَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

آل پر جب کہ سمندر ابالے جائیں اور شیریں دکھاری باہم ملائے جائیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِذَا الْعِشَاءُ عَطَلَتْ وَإِذَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جب کہ حمل تمام والی اونٹنیاں آوارہ کر دی جائیں

الصُّحُفُ نُشِرَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اور صحف اعمال پھیلانے جائیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقْتَتِ اللَّهُمَّ

آل اطہار پر جبکہ جنگلی جانور جمع کر دئے جائیں اور رسولوں کیلئے جو ابد ہی کیلئے وقت معین کیا جائے۔ اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِذَا الْجَنَّةُ

اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جبکہ جنت اہل ایمان

أُزْلِفَتْ وَالْجَحِيمُ سَعِرَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

کے قریب لائی جائے اور جہنم بھڑکائی جائے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِذَا الْقُبُورُ بُعِثَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

آپ کی آل پر جب قبر میں اٹھائی جائیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِذَا النَّهَارُ تَجَلَّىٰ وَإِذَا اللَّيْلُ يَغْشَى اللَّهُمَّ

محمد پر اور آپ کی آل پر جبکہ دن روشن ہو اور رات گہری ہو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا جَنَّ الظُّلَامُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جبکہ تاریکی چھائے

وَكَفَّ صَوْبُ الغَمَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اور رک جائے بادل کا برستا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا نَاحَتْ مُطَوَّقَةٌ وَسَارَتْ الْوُفُودُ مَغْرِبَةٌ وَمَشْرِقَةٌ

آل پر جب تک محو ترنم ہو جنگلی کبوتری اور چلیں و فور مشرق و مغرب میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا

لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جب تک

رَفَّتِ الْعُرُوسُ وَجَرَى الْمِدَادُ فِي الطُّرُوسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

دلہنوں کا زفاف ہو اور جاری ہو سیاہی سے تحریر صحافت میں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا حَدَّثَ الرَّفَاقُ وَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جب تک رفقہ باہم گفتگو کریں اور

حَنِّ مُشْتَاقٍ إِلَى التَّلَادِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

راغب ہوں ارباب شوق ملاقات احباب کی طرف۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا حَنَّتْ إِلَيْهِ الرِّكَابُ وَسَاقَتْ إِلَيْهِ النَّجَابُ

آپ کی آل پر جب تک شوق رکھیں ان کی طرف سواریاں اور چلیں طرف ان کی عمدہ اونٹنیاں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا

لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جب تک

أَضَاءَتِ الشَّمْسُ وَمَا صَلَّيْتَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

سورج روشن ہو اور پانچوں نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ لے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا ذَرَّ شَارِقٌ وَوَقَبَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جب تک نکلے افق شرق سے نکلنے والا اور غروب

غَاسِقٌ وَانْهَرَ وَادِقٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ہو تاریکی پھیلانے والا اور بر سے بر سے والا۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا سَجَعَتِ الْعِبَائِمُ وَحَمَتِ الْحَوَائِمُ وَسَرَحَتِ

آپ کی آل پر جب تک کبوتر مو سبج رہیں اور چکر کھائیں چکر کھانے والے اور چریں

الْبَهَائِمُ وَنَفَعَتِ الثَّمَائِمُ وَشُدَّتِ الْعِبَائِمُ وَنَدَّتِ النَّوَائِمُ اللَّهُمَّ

چار پائے اور نفع دیں تعویذات اور باندھی جائیں دستاریں اور نشوونما پائیں اہل تم۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا أْبْلَجَ الْإِصْبَاحُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جب تک روشن ہوں صبحیں

وَهَبَّتِ الرِّيحُ وَدَبَّتِ الْأَشْبَاحُ وَتَعَاقَبَ الْغُدُوُّ وَالرُّوْحُ وَتَقَلَّدَتِ

اور چلیں ہوائیں اور زمین پر ریگیں اجسام اور یکے بعد دیگرے آئے صبح اور شام اور حامل کی جائیں

الضَّفَا حُ وَأَعْتَقَلَتِ الرِّمَاحُ وَصَحَّتِ الْأَجْسَادُ وَالْأَرْوَاحُ اللَّهُمَّ

تواریں۔ اور باندھے جائیں نیزے اور درست رہیں اجساد و ارواح۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا دَارَتْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جب تک

الْأَفْلَاقُ وَدَجَّتِ الْأَحْلَاقُ وَسَبَّحَتِ الْأَمْلاَكُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

افلاک محو گردش رہیں اور تاریکیاں چھائی رہیں اور ملائکہ تسبیح کہتے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا تَلَقَّ بَرْقٌ وَتَدَفَّقَ وَدَقَّ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جب تک چمکتی رہے بجلی اور برسے بارش

وَمَا سَبَّحَ رَعْدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور تسبیح کہے رعد۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ مَا أَرْجَحَتْ الرِّيحُ سَحَابًا رُكَا مًا وَذَاقَ كُلُّ ذِي رُوحٍ حَمَامًا

پر جب تک اٹھائیں آندھیاں تہ بہ تہ بادلوں کو اور چکھے ہر ذی روح موت کو

وَأَوْصَلَ السَّلَامُ لِأَهْلِ السَّلَامِ فِي دَارِ السَّلَامِ تَحِيَّةً وَسَلَامًا اللَّهُمَّ

اور پہنچا سلام اس کے حقداروں کو دار السلام میں بطور تحیہ و سلام کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا أَوْفَضَ بَارِقٌ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جب تک چمکنے والا

وَنَطَقَ نَاطِقٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور کلام کرے کوئی صاحب نطق۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدًا مَا طَافَ بِالْبَيْتِ طَائِفٌ وَوَقَفَ بِعَرَفَاتِ الْخَيْرِ وَاقِفٌ

پر۔ جب تک طواف کرے کوئی طواف کرنے والا بیت اللہ کا اور وقوف کرے عرفات میں کوئی ٹھہرنے والا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا دَامَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جب تک آپ کا

ذِكْرُهُ مَنْشُورٌ وَفَضْلُهُ مَذْكُورٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ذکر عام رہے اور آپ کے فضل و شرف کے تذکرے رہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا طَارَ طَائِرٌ وَسَارَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ سَائِرٌ

اور آپ کی آل اطہار پر جب تک پر ماریں پر مارنے والے اور چلیں روئے زمین پر چلنے والے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جب تک

غَنَى الْهَضَارُ وَحَنَ غَرِيبٌ إِلَى الدِّيَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

نغمہ سرازہ سے مرغ ہزار داستان۔ اور راغب ہو کوئی بھی مسافر وطن کی طرف۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا جَرَى قَلَمٌ وَذَكَرَ اللَّهُ ذَاكَ رِيفٌ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جب تک چلے کوئی قلم اور ذکر کرے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی اہل ذکر اپنی زبان سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جب تک

تَعَاقَبَ الْمَلَوَانِ وَاخْتَلَفَا الْجَدِيدَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

یکے بعد دیگرے آتے رہیں میل و نہار اور دن رات۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا أَوْرَقَتِ الْأَشْجَارُ وَرَقَّتْ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جب تک برقرار رہے درختوں کا ایک بھی پتہ

وَاطْرَقَتْ بِالْجُفُونِ حَذَاقَةُ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور پلک جھکے کوئی بھی آنکھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا صَحِبَ الْمَرْءُ الْأَمَلَ وَحَلَّتِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جب تک مصاحب ہو کوئی شخص آرزو کا اور نیچے

الشَّمْسُ بِبُرْجِ الْحَمَلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

سورج برج حمل میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا دَارَ فِي الْأُفُقِ فَلَكَ وَسَجَدَ لِلَّهِ مَلِكُ اللَّهُمَّ صَلِّ

آپ کی آل پر جب تک گردش کرے افق میں فلک اور سجدہ کرے اللہ کے لیے کوئی نوزی ملک۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا اسْتَهَلَّتِ الشُّهُورُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جب تک ماہ نور طلوع ہوتے رہیں اور

غَنَّتِ الْحُورُ فِي الْقُصُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

حوریں جنتی محلات میں محترم رہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا أَزْهَوَتْ النُّجُومُ وَعَنَّتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ

کی آل اطہار پر جب تک ستارے روشن رہیں اور چہرے سجدہ ریز رہیں حی قیوم کے حضور۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا دَامَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جب تک

سُتْرُكَ وَإِنِّي وَمُلْكُكَ فِي الْوُجُودِ بَاقِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

پردہ کفایت فرما رہے (عاصیوں پر) اور تیرا ملک موجود و باقی رہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا دَامَ جُودُكَ وَإِنِّي وَلُطْفِكَ فِي الْأَنْامِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جب تک تیرا جود محیط (خلق محتاج) رہے اور تیرا لطف مخلوق کو

كَافِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کفایت کرتا رہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

مَا دَامَ خَيْرُكَ وَأَقْدَمُ حُكْمِكَ فِي الْعِبَادِ نَافِذًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

جب تک تیری خیرات برستی رہے اور تیرا حکم بندوں میں نافذ رہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا سَبَّحَ الْعَرْشُ بِالسَّنَةِ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جب تک عرش تیسع خواہ رہے ہر قسم کی زبانوں اور

لُغَاتٍ وَقَدَّسَ الذَّاتُ نَفْسَهُ بِذَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

لغات کے ساتھ اور ذات باری تعالیٰ اپنی ذات کا تقدس خود بیان کرتی رہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا قَامَ قَائِمُ الظُّهَيْرَةِ وَالْبَسِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جب تک قائم رہے دوپہر کا آفتاب اور اور

الْمَرْءِ رَدَّاءَ مَا أَسْرَهُ مِنْ سِرِّرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

مرد چادر اپنے معنی اسرار کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا أَلْفَتِ الطَّيْرُ أَوْ كَارَهَا وَأَبْرَنْتِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جب تک الفت رکھیں پرندے اپنے گھونسلوں سے اور ظاہر

الْقَوَائِمِ فِي أَفْكَارِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

کریں قافیوں کو ان کے افکار۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا وَسَقَ اللَّيْلُ سَوَادَهُ وَقَدَّحَ الْفَجْرُ بِنَادِهِ

کی آل اطہار پر جب تک رات اپنی تاریکی کو پھیلانے اور فجر اپنے نور کا چھماق روشن کرے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جب تک

اِقْتَصَّ بِأَرْزِي الْفَجْرُ عُرَابَ الظَّلَامِ وَابْتَسَمَتْ ثَقُورُ الْأَبَاطِحِ عَنْ

پہچھا کرے شہباز فجر ظلمت کے زاغ سیاہ کا۔ اور مسکراتی رہیں وادیوں کے کنارے پردوں سے پھوٹنے والے

أَزَاهِرِ الْأَكْهَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

روشن خوشوں کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُرْضِيهِ وَتُرْضَىٰ الْعَلِيِّ الْأَعْلَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ

آل پر ایسی صلوٰۃ جو انہیں راضی کر دے اور بلند تر شان والے اللہ بزرگ کو۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِنْدَ كُلِّ طُرْفَةٍ عَيْنٍ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر ہر آنکھ کے چھپتے وقت

أَوْ تَنْفَسُ نَفْسٍ وَعِنْدَ تَفَكُّرِ الْقَلْبِ أَوْ حَرَكَةِ النَّفْسِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور ہر نفس کے تنفس کے وقت اور دل کے ہر تفکر کے وقت اور نفس کی ہر حرکت کے وقت۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِنْدَ كُلِّ حَرَكَةٍ وَ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر وقت ہر حرکت اور

سَكُونٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سکون کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَاةً أَجْرُهَا لَدَيْكَ غَيْرُ مَمْنُونٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جس صلوٰۃ کا اجر تیرے ہاں ختم نہ ہونے والا ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً مُّؤَدِّيَةً لِحَقِّكَ وَحَقِّهِ وَصَلَاةً صَلَّيْتَهَا

اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ ادا کرنے والی ہو تیرا حق اور ان کا حق اور ایسی صلوٰۃ جو تو نے

عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

بھی کسی پر بھی مخلوق میں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُعَرِّفُنَا بِهَا أَيَّاهُ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ

کی آل اطہار پر جس کے طفیل تو پہچان کرائے ہماری ان کو جس دن دیکھے ہر شخص جو

يَدَاةُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اس نے آگے بھیجا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

أَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ وَصَلَوَاتِ الْقَائِمَةِ بِذَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو افضل ہو تیری تمام صلوات سے (جو بھیجی ہیں) اور جو صلوات قائم ہیں تیری ذات کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُسْتَعْمَلُنَا بِهَا فِي

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں عمل پیرا بنائے

مَرْضَاتِكَ وَتُسْتَوْجِبُ بِهَا نُزُولَ رَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

اپنے پسندیدہ امور پر اور مستحق ہوں ہم تیری رحمت و برکات کے نزول کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْمَلَ صَلَوةٍ صَلَّيْتَ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کامل ترین صلوٰۃ ان سے جو تو نے بھیجی ہیں

عَلَيْهِ وَأَفْضَلَ صَلَوةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

ان پر اور افضل ترین صلوٰۃ جس کے ساتھ تو نے ان پر انعام فرمایا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَشْمَلَ صَلَوةٍ خَصَّصْتَ بِهَا عِلَاقَةَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر عام ترین صلوٰۃ جس کے ساتھ منحس فرمایا ان کی برتری کو

وَأَوْفَرَ صَلَوةٍ كَرَّمْتَ بِهَا ذَاتَهُ وَمَرَّاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

اور وافر ترین صلوٰۃ کہ مکرم فرمایا ان کی ذات اقدس کو اور اہلئے منظم کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَجْمَلَ صَلَوةَاتِكَ الْأَقْدَسِيَّةِ وَأَعْظَمَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر اپنی صلوات مقدسہ میں سے جمیل ترین اور سردی

صَلَوةَاتِكَ السَّرْمَدِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

صلوات میں سے عظیم ترین صلوٰۃ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَسْنَىٰ صَلَوةَاتِكَ الشَّامِلَةِ وَأَعْلَىٰ صَلَوةَاتِكَ الْكَامِلَةِ

کی آل پر اپنی محیط صلوات میں سے روشن تر اور صلوات کاملہ میں سے بزرگتر صلوٰۃ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوْفَىٰ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اپنی کامل

صَلَوةَاتِكَ الْوَافِيَةِ وَأَسْنَىٰ صَلَوةَاتِكَ الْعَلِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

صلوات میں سے اعلیٰ اور بلند مرتبت صلوات میں سے بلندتر صلوٰۃ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَزْكَىٰ صَلَوةَاتِكَ الزَّكَاةِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر اپنی پاکیزہ صلوات میں سے پاکیزہ تر اور

وَأَنْتَى صَلَوَاتِكَ النَّامِيَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

بڑی صلوات میں فزوں تر صلوات - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُسْعِدُنَا بِهَا السَّعَادَةَ الْأَبَدِيَّةَ وَتُكْرِمُنَا

آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل تو ہمیں ابدی سعادت بخشے اور حسی و معنوی

بِهَا الْكَرَامَةَ الْمَعْنَوِيَّةَ وَالْمَعْنَوِيَّةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

بزرگی کے ساتھ مستحق اکرام ٹھہرائے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَعُودُ بِرَكَاتِهَا عَلَيْنَا وَتَرْحَمُ بِهَا

محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوات کی برکات ہماری طرف عائد ہوں اور جس کے طفیل ہم

أَبَاءَنَا وَأُمَّهَاتِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

فرمائے ہمارے آباء و امہات پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُقَرِّبُنَا بِهَا إِلَيْكَ وَتُرْغَبُ بِهَا خَيْرَ مَا لَدَيْكَ

آل اطہار پر جس کے طفیل ہمیں اپنا مقرب بنائے اور راغب بنائے اپنے ہاں کی خیر کی طرف

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس کے طفیل

نَسُوبُ بِهَا بَيْنَ الْعِبَادِ يَوْمَ الْمِيْعَادِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ

ہم سر بلند ہو جائیں تمام بندوں کے درمیان روز قیامت میں تمام شاہدین کے سامنے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَكُونُ لَنَا

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوات ہمارے لیے ناصر و مددگار ہو

مُعِينَةٌ نَاصِرَةٌ فِي مَوَاطِنِ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آخرت کے مقامات و احوال میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُحَقِّقُ لَنَا بِهَا طَاعَتَهُ وَتُوجِبُ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل ہماری طاعت کو پائیے بنا دے اور ان کی شفاعت ہمارے

لَنَا بِهَا شَفَاعَتَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

حق میں لازم فرمادے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَسُوُّوْا وَتَدَاوِمُ حَتَّى تَقُوْمَ بَيْنَ يَدَيِ الْحَيِّ

آل پر جو صلوٰۃ ترقی پذیر اور دائم رہے تا آنکہ قائم ہو ہی قیوم کے

الْقَيُّوْمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

حضور میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ أَكْرَمَ صَلَوةً وَأَحْسَنَهَا وَأَعْظَمَ صَلَوةً وَأَزْيَنَهَا اللَّهُمَّ صَلِّ

بزرگتر۔ حسین ترین اور عظیم ترین۔ اور مزین ترین صلوٰۃ۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَكُوْنُ نِعْمَةً

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ تیری طرف سے ان پر

مِنْكَ عَلَيْهِ وَوَصْلَةً مِّنْكَ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

نعمت ہو اور تیرے ان کے ساتھ وصل و ربط کی دلیل۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً مَّقْبُوْلَةً بِأَلْيَتِكَ مَوْصُوْلَةً

محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ مقبول ہو اور تیری نعمتوں کے ساتھ مربوط

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ

كَلِيْبَةً الشَّيْمِ مَحْفُوْفَةً بِالتَّعْيِيْمِ وَصَلَوةً صَافِيَةً الْبَشَارِعِ اللَّهُمَّ

پاکیزہ شیم والی ہو اور نعمتوں سے ڈھکی ہوئی اور پاک و صاف گھاٹوں والی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُقَرِّبُنَا

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ ہمیں ان کے قریب

إِلَيْهِ زُلْفًا وَتُجَاوِزِي بِهَا عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ ضِعْفًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کے عمل قریب کے ساتھ۔ اور تو جزاء دے ہمیں ہر ایک کے عوض کئی گنا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُشْهِدُنَا بِهَا آيَاهُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوات کے طفیل تو ہمیں ان کا مشاہدہ کرانے

بِعَيْنِ الْعَيَانِ لَا بِالدَّلِيلِ وَالْبُرْهَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

سر کی آنکھ کے ساتھ نہ محض دلیل و برہان کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَسْتُوِدِعُهَا آيَاهُ وَإِيَّاكَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کو ہم ودیعت رکھیں ان کے ہاں اور تیرے ہاں

وَلَا نَبْغِي بِهَا إِلَّا رِضَاَهُ وَرِضَاكَ يَا اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور نہ چاہیں اس سے مگر صرف ان کی اور تیری رضا یا اللہ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلًّا الدُّنْيَا وَمِلًّا الْآخِرَةِ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر پوری دنیا کی مقدار اور آخرت کی مقدار اور

بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مِلًّا الدُّنْيَا وَمِلًّا الْآخِرَةِ وَارْحَمْ

برکت دے محمد اور آل محمد کو دنیا کی مقدار اور آخرت کی مقدار رحمت نازل فرما محمد پر اور

مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ مِلًّا الدُّنْيَا وَمِلًّا الْآخِرَةِ وَاجْزِ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ

آل محمد پر دنیا کی مقدار اور آخرت کی مقدار اور جزاء دے محمد کو اور آل محمد کو

مِلًّا الدُّنْيَا وَمِلًّا الْآخِرَةِ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

دنیا کی مقدار اور آخرت کی مقدار اور سلامتی بخش سیدنا محمد کو اور آل محمد کو

مُحَمَّدٍ مِلًّا الدُّنْيَا وَمِلًّا الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مِلًّا أَرْضِكَ

دنیا کی مقدار اور آخرت کی مقدار۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد کریم پر بمقدار وسعت

مِمَّا حَمَلَتْ وَأَقَلَّتْ مِنْ قُدْرَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مِلًّا

ارضی کے جو کچھ اٹھائے ہوئے ہے وہ اور مطابق تیری قدرت کے جو اسے اٹھائے ہوئے ہے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما محمد کریم

سَبْعِ بِحَارِكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ زِنَةَ سَبْعِ بِحَارِكَ مِمَّا حَمَلَتْ وَ

بمقدار ساتوں سمندروں کے اور صلوات نازل فرما محمد کریم پر ساتوں سمندروں کی مقدار جو انہوں نے اٹھایا۔ اور

أَقَلَّتْ مِنْ قُدْرَتِكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مِلًا

تیری قدرت کے مطلق جس نے انہیں اٹھایا ہوا ہے اور صلوٰۃ نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر

سَمَوَاتِكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مِلًا أَرْضِكَ وَصَلِّ

تمام آسمانوں کی مقدار اور صلوٰۃ نازل فرما محمد اور آل محمد پر بمقدار اپنی زمین کے اور صلوٰۃ

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مِلًا مَا أَنْتَ خَالِقُهُ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ

نازل فرما محمد اور آل محمد پر بمقدار اپنی مخلوقات کے جنہیں تو نے روزِ اول سے

الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

قیامت تک پیدا کرنا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما محمد و آل محمد پر

مِلًا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلًا مَا بَيْنَهُمَا وَمِلًا مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ

تمام آسمانوں اور زمینوں کی مقدار اور ان کی درمیانی وسعت کی مقدار اور جو اس کے بعد

بَعْدُ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مِلًا اللَّوْحِ وَالْفَضَاءِ وَمِثْلَ نُجُومِ السَّمَاءِ

پیدا کرنا چاہے اس کی مقدار اور صلوٰۃ نازل فرما آپ پر اور آل پر لوح اور فضاء کی مقدار اور آسمان کے نجوم کی مانند

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ زِينَةَ عَرْشِكَ وَمَبْلَغَ رِضَاكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما ان پر اپنے عرش کی مقدار اور غایت رضا کے مطابق اور اپنے کلمات کی روشنائی کے مطابق

وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلَوةً لَا تَعُدُّ وَلَا تُحْصَى وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ

اور صلوٰۃ نازل فرما آپ پر اور آپ کی آل پر لا تعداد اور لا محدود اور صلوٰۃ نازل فرما ان پر اے اللہ

صَلَوةً دَائِمَةً مُتَّصِلَةً تَتَوَالَى وَتَدْوُمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

جو دائم۔ مسلسل۔ پے درپے اور غیر منقطع ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما محمد و آل

مُحَمَّدٍ صَلَوةً دَائِمَةً مَقْبُولَةً تُوَدِّي بِهَا عَنَّا حَقَّهُ الْعَظِيمَ اللَّهُمَّ

محمد پر جو دائم و مقبول ہو جس کے طفیل تو ادا فرمائے ہم سے ان کا عظیم حق۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْمُصْطَفَيْنِ مِنْ أَطْهَرِ جِلَّةِ صَلَوةٍ دَائِمَةٍ عَلَى

صلوٰۃ نازل فرما محمد اور آل محمد پر جو منتخب کئے ہوئے ہیں پاکیزہ ترین جلیت سے ایسی صلوٰۃ جو دائم ہو

الْأَبَدِ غَيْرِ مُضْمَلَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ صَلَوةٌ تَتَجَدَّدُ بِهَا حُبُورُهُ وَ

ابد تک نہ ضعف پذیر ہو بالکل۔ صلوات ہو اللہ کی ان پر اور ان کی آل پر جس سے تازہ ہوزینت و آرائش ان

يَشْرَفُ بِهَا فِي الْبُعَادِ بَعْتُهُ وَنَشُورَةَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الْأَنْجُمِ

کی اور شرف و فضل پائے اس سے ان کا بعث اور نشور یوم موعود میں۔ پس صلوات نازل فرمائے اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی

الطَّوَالِعِ صَلَوةٌ تَجُودُ عَلَيْهِمْ أَجُودَ الْغَيُوثِ الْهُوَامِعِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

روشن ستاروں جیسی آل پر جو صلوات ان پر فیضان فرمائے عمدہ ترین موسلا دھار بارش کا۔ صلوات نازل فرمائے اللہ

عَلَىٰ آلِهِ فِي كُلِّ مَحْفَلٍ وَمَقَامٍ وَأَفْضَلُ الصَّلَوةِ وَالسَّلَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

آپ پر اور آپ کی آل پر ہر محفل و مقام میں اور افضل ترین صلوات و سلام۔ رحمت کاملہ نازل فرمائے اللہ

وَعَلَىٰ آلِهِ عَوْدًا أَوْ بَدَأَ صَلَوةٌ تَكُونُ ذَخِيرَةً وَوَرْدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ

ان پر اور ان کی آل پر انجام میں اور آغاز میں جو صلوات ذخیرہ ہو اور ورد و وظیفہ۔ صلوات نازل فرمائے اللہ تعالیٰ ان

إِلَيْهِ صَلَوةٌ تَامَّةٌ زَاكِيَةٌ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ صَلَوةٌ تَتَّبِعُهَا رُوحٌ وَ

پر اور ان کی آل پر صلوات کاملہ پاکیزہ اور صلوات بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی آل پر جو مستلزم ہو راحت اور

رَيْحَانٌ وَيُعْقِبُهَا مَغْفِرَةٌ وَرِضْوَانٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

سرت کو اور جس کے پیچھے ہو مغفرت اور رضوان۔ صلوات بھیجے اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور اصحاب پر

الَّذِينَ هَاجَرُوا لِلنُّصْرَةِ وَنَصَرُوهُ فِي هِجْرَتِهِ فَنِعْمَ الْهَاجِرُونَ وَنِعْمَ الْأَنْصَارُ

جنہوں نے ہجرت فرمائی صرف ان کی نصرت کے لیے اور مدد دی آپ کی ہجرت میں پس وہ بہت اچھے ہاجر ہیں اور بہت

صَلَوةٌ نَامِيَةٌ دَائِمَةٌ مَا سَجَعَتْ فِي أَيْكُمَا الْأَطْيَارُ وَهَمَعَتْ بِوَيْلِهَا الدِّيَمَةُ

اچھے انصار ہیں ایسی صلوات جو روز افزوں و ملائم ہو جب تک چمکیں پرندے اپنے گھنے باغات میں اور زور سے برسیں موسلا دھا

الْبُدَارُ رِضَاعٌ اللَّهُ عَلَيْهِ دَائِمَ صَلَوةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

بارشیں اللہ کئی گنا بڑھائے ان پر اپنی دائمی صلوات کو۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر اور

إِلَى الطَّيِّبِينَ الْكِرَامِ صَلَوةٌ مَوْصُولَةٌ دَائِمَةٌ الْإِتِّصَالِ بِدَوَامِ ذِي الْجَلَالِ وَ

آپ کی پاکیزہ اور بزرگ آل پر مسلسل۔ دائمی اتصال و تواتر والی صلوات

اَلَا كُرَامِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةٌ دَائِمَةٌ اِلْتِصَالِ وَالتَّوَالِي مُتَعَاوِفِهِ

اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت اور سلامتی بھیجے، ایسی رحمت جو مسلسل، پے درپے دنوں

بِتَعَاقِبِ الْاَيَّامِ وَاللَّيَالِي وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةٌ دَائِمَةٌ اِلَى مُنْتَهَى

اور راتوں کے آگے پیچھے آنے کے ساتھ لگاتار ہو جو ابد الابد تک دائم ہو

اَلَا بَدِيْلًا اِنْقِطَاعٍ وَلَا نَفَادٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاَرْحَمِ وَاَوْ

بغیر انقطاع اور اختتام کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد نبی ارحم علی پر اور

عَلَىٰ اِلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةٌ لَا يَحْصِي عَدَدُ وَلَا يَعْدُدُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

آپ کی آل پر جس صلوٰۃ کے اعداد کا احاطہ نہیں ہو سکتا اور نہ اس کی وسعت کا شمار۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما محمد

صَلَوةٌ تُكْرِمُ بِهَا مَثْوَاهُ وَتُبَلِّغُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الشَّفَاعَةِ رِضَاةً صَلَّى

کریم پر جس کی بدولت باعزت بنائے ان کا ٹھکانا اور پہنچائے قیامت کے دن شفاعت سے ان کی رضامندی تک

اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةٌ مَّقْرُونَةٌ بِالْجَمَالِ وَالْحُسْنِ وَالْكَمَالِ وَالْخَيْرِ وَاَوْ

صلوٰۃ ہو ان پر اللہ تعالیٰ کی اور سلام جو مقرون ہو جمال و حسن اور کمال اور خیر و

اَلْاَفْضَالِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اِلَيْهِ الطَّيِّبِينَ وَذُرِّيَّتِهِ الْبَارِكِينَ

افضال کے ساتھ۔ اللہ کی صلوٰۃ و سلام ہو سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور ذریت مبارکہ

وَصَحَابَتِهِ الْاَكْرَمِينَ وَاَزْوَاجَهُ اَقْمِهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوةٌ مَّوْصُوْلَةٌ

اور صحابہ کرام اور ازواج مطہرات اہمات المؤمنین پر ایسی صلوٰۃ جو متصل و

تَتَرَدُّ اِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اِل

مسلسل ہو قیامت تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَمَلُّا الْاَرْضَ وَالسَّمَاءَ وَتَمَلُّا سِوَايْغِ الْاَلَاءِ وَالسَّمَاءِ اَللّٰهُمَّ

آل پر ایسی صلوٰۃ جو بھر دے زمین و آسمان کو اور جو تمام کمال و اکمل ظاہری و باطنی نعمتوں کی مقدار کے مطابق ہو۔ اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَمَلُّا

اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ بھر دے

الكَائِنَاتِ وَالْعُلُويَاتِ وَالسُّفْلِيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

تمام کائنات کو اور سب عالم بالا اور عالم اسفل کی اشیاء کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْلَأُ أَرْكَانَ الْجَنَانِ وَحَافَتِي

محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ بھروسے جنت کے جملہ ارکان و اطراف کو اور

الصِّرَاطِ وَالْمِيزَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پل صراط اور میزان کے دونوں پلڑوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْلَأُ الْفِرْدَوْسَ وَقِبَابَهُ وَجَنَّةَ النَّعِيمِ وَأَبْوَابَهُ اللَّهُمَّ

پر جو صلوٰۃ بھروسے فردوس اعلیٰ کو اور اس کے قبہ جات کو اور جنت نعیم اور اس کے ابواب کو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْلَأُ الْغُرَفَاتِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ بھروسے جنت کے بالا خانوں

وَالْقُصُورِ وَأَقْوَاةَ الْوُلْدَانِ وَالْحُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور تمام محلات کو اور ولدان اور حوروں کے مہنوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْلَأُ الْكُوْثَرَ وَكَاسَاتِهِ وَتَمْلَأُ الْبُحُورَ

آپ کی آل پر جو صلوٰۃ بھروسے حوض کوثر اور اس کے جاموں کو اور بھروسے لوح محفوظ

وَحَافَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور اس کے اطراف کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَوةً تَمْلَأُ الْقَلَمَ الْبَنِيْدَ وَتَمْلَأُ لِسَانَ مُنْكَرٍ وَنَكِيْرٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جو صلوٰۃ بھروسے روشن قلم قدرت کو اور بھروسے منکر و نکیر کی زبانوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْلَأُ الْحَوْضَ الْمُرُودَ وَأَنْهَارَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ معمور کر دے حوض مورود کو اور

الْجَنَّةِ الَّتِي تَجْرِي عَلَى غَيْرِ الْإِخْدُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جنتیں انہار کو جو چلتی ہیں بغیر رکاوٹ والے کناروں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَمَلُّا الْبَحْرَ الْمَسْجُورَ وَالْحِجَابَ الْأَعْظَمَ

اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوات مسمور کر دے اُبلتے سمندروں کو اور حجاب اعظم اور حجاب

وَالنُّورَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نور کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَوةٌ تَمَلُّا النَّيْلَ وَالْفُرَاتَ وَتَمَلُّا خَزَائِنَ الْبَرَكَاتِ وَالْمَرَاتِبِ السَّنِيَّاتِ

جو صلوات بھردے نیل و فرات کو اور بھرنے برکات والے خزانوں کو اور اعلیٰ مراتب و درجات کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَمَلُّا

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوات بھرنے

الْعَرْشِ وَقَوَائِمِهِ وَالْكُرْسِيِّ وَدَعَائِمَةِ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

عرش کو اور اس کے پایوں کو اور کرسی اور اس کے ستونوں کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَمَلُّا السُّرْرَ الْمَرْفُوعَةَ وَالْأَكْوَابَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوات بھردے بلند قدر جنتی تختوں کو اور رکھے ہوئے گلاسوں

الْمَوْضُوعَةَ وَصَلَوةٌ تَمَلُّا دَرَجَاتِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجَنَّةِ

کو اور جو صلوات بھردے تمام اہل جنت جن و انس کے تمام درجات کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوات

تَمَلُّا السُّرَادِقَاتِ وَتُحِيطُ بِالْكَائِنَاتِ وَصَلَوةٌ تَمَلُّا الْأَسْتَارَ وَالْحُجُبَ

بھردے جنتی سراپردوں کو اور احاطہ کر لیں کائنات کا اور جو صلوات بھردے

وَتَمَلُّا الدَّوَابِّ وَالْكَتُبَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

تمام پردوں اور حجابات کو اور بھردے تمام دفاتر اور صحائف کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَمَلُّا جَوَائِبَ الطُّورِ وَالرِّقَّ الْمَشْهُورَ

آپ کی آل اطہار پر جو صلوات مسمور کر دے طور کے اطراف کو اور وسیع و عریض سفید کاغذ کو اور

تَمَلَّا أَرْكَانَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بھروسے بیت المعمور کے ارکان و اجزاء کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَمَلَّا حُجْبَ التُّورِ وَالْبَهِي وَأُورَاقِ

اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ بھروسے نور اور بہار والے حجابات کو اور سدرة المنتہی کے

سُدْرَةِ الْمُنْتَهَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اوراق کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَمَلَّا الْمَلَأَ وَتَحَلَّى بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى اللَّهُمَّ

آل پر جو صلوٰۃ معمور کردے ملاء کو اور نزول فرما ہو ملاء اعلیٰ میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ

تَمَلَّا سِبَا سَبِ الْفُلُواتِ وَأَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَصَلَوةٌ تَمَلَّا خَزَائِنَ

بھروسے وسیع و ہموار بیابانوں کو۔ اور سموات کے اطراف کو اور جو صلوٰۃ بھروسے

الرَّحْمَوَاتِ وَذَخَائِرِ الْجَبَرُوتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

رحمت کاملہ کے خزانوں اور جبروت کے ذخائر کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَمَلَّا أَفْوَاحَ الْعِبَادِ وَأَسْبَابَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ بھروسے تمام بندوں کے مونہوں کو اور ساتواں

السَّبْعِ الشَّدَادِ وَصَلَوةٌ تَمَلَّا الْأَذَانَ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجَانِّ اللَّهُمَّ

آسمانوں کے راستوں کو اور جو صلوٰۃ بھروسے جن و انس کے کانوں کو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ

تَمَلَّا مَا فَوْقَ الْأَرْضِ إِلَى ظَهْرِ الْحَوْتِ وَالْبَهْمَوَاتِ وَصَلَوةٌ تَمَلَّا

بھروسے زمین کے اوپر والے حصے سے لے کر حوت کی اور عظیم جانور تک کو اور جو صلوٰۃ بھروسے

أَقْطَارِ الْأَرْضِ بِالطُّوْلِ وَالْعَرْضِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

زمین کے طولانی اور عرضی اطراف کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْلَأُ مَظَاهِرَ الْمَلَكُوتِ وَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ بھروسے ملکوت کے مظاہر قدرت کو اور

صَلَوةً تَمْلَأُ أَلْسِنَةَ الْوَرَى وَمَا أَظَلَّتِ الْخَضِرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

جو صلوٰۃ بھروسے مخلوقات کی زبانوں کو اور تمام مخلوق کو جو آسمان کے زیر سایہ ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْلَأُ ثَوَابَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ معمور کردے ثواب و

النَّقْلِ وَالْفَرَضِ إِلَى يَوْمِ الْعَرْضِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

فرائض کے ثواب کو قیامت تک کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْلَأُ أَفْوَاهَ الْأَنَامِ مِّنْ خَلْقِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ بھروسے انام کے مومنوں کو جو تخلیق

أَدْمٍ إِلَى يَوْمِ الْعَرْضِ عَلَى الْمَلِكِ الْعَلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آدم سے لے کر ملک علام کے حضور پیش ہونے تک موجود ہوگی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْلَأُ الْبِعْرَاجَ وَالْمَسْرَاجَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ معمور کردے معراج کو اور محل اسراء کو

وَمَا حَوْتَهُ مِنَ الْفَضْلِ أُمَّ الْقُرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور جس فضل و شرف کو حاوی ہے مکہ مکرمہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْلَأُ سِيحُونَ وَجِيحُونَ وَمَا

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ بھروسے سیحون و جیحون کو اور جو ہو چکا اور جو

كَانَ وَمَا يَكُونُ صَلَوةً تَمْلَأُ ثَوَابَ كُلِّ عَمَلٍ بِأَرْمَنِ الْفَجَارِ

قیامت تک ہونا ہے سب کو۔ جو صلوٰۃ معمور کردے ہر اچھے عمل کے ثواب کو اہل فجار کا ہونا

الْأَخْيَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اہل خیر کا۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَهْلَأُ ثَوَابَ كُلِّ حَسَنَةٍ مَّقْبُولَةٍ وَثَوَابَ كُلِّ رَحِمٍ

جو صلوٰۃ بھروسے ہر مقبول عمل نیک کے ثواب کو اور ہر صلہ رحمی کے

مَوْصُولَةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ثواب کو۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَهْلَأُ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ وَتُعْبِرُ نَوَاحِيَ الدَّارَيْنِ وَ

پر جو صلوٰۃ بھروسے شرق و غرب کے مابین کو اور معمور کردے دونوں جہان کے اطراف کو اور

صَلَوةً تَهْلَأُ الْقَلَمَ وَمِدَادَهُ وَاللَّيْلَ وَسَوَادَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو صلوٰۃ بھروسے قلم قدرت اور اس کی روشنائی کو اور رات اور اس کی سیاہی کو۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَسْتَعْرِقُ الْعُلُومَ وَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ محیط ہو جملہ علوم و

الْبَعَارِفَ وَالْمَنَحَ وَاللِّطَائِفَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

معارف کو اور عطیات و لطائف کو۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَهْلَأُ النَّهَارَ وَضِيَاءَهُ وَالنُّورَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ بھروسے دن کو اور اس کی ضیاء کو اور نور کو

وَبِهَاءَهُ وَصَلَوةً تَهْلَأُ الْبِرَّ وَجَوَانِبَهُ وَالْبَحْرَ وَغَوَارِبَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور اس کی رونق و بہار کو اور تمام خشکی اور اس کی جوانب اور تری اور اس کے اطراف کو۔ لے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَهْلَأُ صَحَائِفَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ بھروسے تمام صحائف

الْأَعْمَالِ الْمَاضِي مِنْهَا وَالْمُسْتَقْبِلِ وَالْحَالِ وَصَلَوةً تَهْلَأُ بِيُوتَ

اعمال کو ماضی کے ہوں یا مستقبل و حال کے۔ اور جو صلوٰۃ بھروسے جنتی موتیوں والے

الْقَصَبِ الَّتِي لَا صَخَبَ فِيهَا وَلَا نَصَبَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مکانوں کو جن میں نہ شور و غل ہوگا اور نہ تھکان و کوفت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَهْلُ أَجْوَانِهِ الْأَمْلاكِ وَطَوَالِعِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ بھروسے ملائکہ کے پروں کو اور افلاک کے

الْأَفْلاكِ وَصَلَوَةٌ تَهْلُ مَجَامِعِ الْكُونِينِ وَخِيَامِ أَهْلِ عِلِّيِّينَ

ستاروں کو اور جو صلوٰۃ بھروسے کونین کے مجموعوں کو اور علیین والوں کے خیموں کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ

تَهْلُ عَنَانَ السَّمَاءِ وَمَجَارِيَ الرِّياحِ وَالْمَاءِ وَصَلَوَةٌ تَهْلُ أَنْوَارَ

بھروسے آسمان کے کناروں تک کو اور ہواؤں اور پانیوں کی گزرگاہوں کو اور جو صلوٰۃ بھروسے سورج اور

النَّجْمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

چاند کے انوار کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَهْلُ أَفْوَاهَ الثَّقَلَيْنِ وَتُحِيطُ بِقَابِ قَوْسَيْنِ

پر جو صلوٰۃ بھروسے ثقلین کے مونہوں کو اور محیط ہو قباب قوسین کو۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ

تَهْلُ الْقَضَا وَتَعُودُ عَلَيْنَا بِالرِّضَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

معمور کردے قضاء کو اور ہم پر متوجہ ہو رضا مندی کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَهْلُ بِشَوَارِقِهَا إِذَا تَلَقَّيْنَاهَا

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ بھروسے اپنی صنیاعوں سے جب اس کو حاصل کرے

مِنَّا مَلِكُ الْحِجَابِ وَيَرْضَى بِهَا عِتَابُ رَبِّ الْأَرْبابِ اللَّهُمَّ

ہماری طرف سے ملک الحجاب اور راضی ہو بظہن اس کے ہم سے رب الارباب۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَمْلَأُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوات بھردے

جَزِيلَ الثَّوَابِ وَتَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَلِيمِ الْعَذَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ

عظیم ثواب کو اور حائل ہو ہمارے اور عذاب الیم کے درمیان۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَمْلَأُ دَارَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوات بھردے

الْبَقَامَةِ وَتَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْخَطُوبَاتِ الْبَخُوفَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

دارالقیام کو اور حائل ہو جائے درمیان ہمارے اور خوفناک امور عظام کے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَمْلَأُ دَارَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوات بھردے

الْبَقَامَةِ وَتَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

دارالقیام کو اور حائل ہو درمیان ہمارے اور قیامت کی ہولناکیوں کے درمیان۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَمْلَأُ أَسْرَجَاءَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوات بھردے عرش اعظم کے

الْعَرْشِ وَمَا حَوَاهُ وَتَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ السُّوءِ وَمَنْ تَوَاهَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

کناروں کو اور جنہیں وہ محیط ہے۔ اور حائل ہو درمیان ہمارے اور درمیان برائی کے اور اس کی نیت کرنیوالوں کے۔ اے اللہ صلوات

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً بَدَاؤِهَا بِإِنْعَامِكَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوات دائم ہو تیرے انعام کے دوام تک

وَبِاقِيَةِ بَقَاءِ مُلْكِكَ وَإِعْظَامِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور باقی ہو تیرے ملک کی بقاء اور تیری عظمت کے دوام کے مطابق۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً بَدَاؤِهَا بِقُدْرَتِكَ وَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو دائم ہو تیرے دوام قدرت کی مانند اور

بَاقِيَةَ بَقَاءِ مَشِيَّتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

باقی ہو تیری بقاء مشیت کی مانند۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ عَرْشِكَ وَبَاقِيَةَ بَقَاءِ

کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ دائم ہو تیرے عرش کے دوام کے ساتھ اور باقی رہے تیری گرفت

بَطْنِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْنِ سَيِّدِنَا

کی بقاء تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ فَضْلِكَ وَطَوْلِكَ وَبَاقِيَةَ بَقَاءِ

جو صلوٰۃ دائم ہو تیرے فضل و احسان کے دوام کی مانند اور باقی ہو تیرے حکم اور

حُكْمِكَ وَعَدْلِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

عدل کی بقاء کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ عَرْزِكَ وَقَهْرِكَ وَبَاقِيَةَ

کی آل اطہار پر جو دائم ہو تیرے غلبہ و قہر کے دوام تک اور باقی ہو تیرے

بِقَاءِ أَمْرِكَ وَنَهْيِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

امرونی کی بقاء کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى إِبْنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ سَطْوَتِكَ وَبَاقِيَةَ

آپ کی آل پر جو صلوٰۃ دائم ہو تیرے دوام سطوت کے ساتھ اور باقی ہو

بِقَاءِ عِزِّكَ وَرَأْفَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

تیری عزت و رأفت کی بقاء کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ كِبْرِيَاءِكَ وَبَاقِيَةَ بَقَاءِ

کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ دائم ہو تیرے دوام کبریائی کے ساتھ اور باقی ہو

أَسْمَائِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْنِ سَيِّدِنَا

تیرے اسماء کی بقاء کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَاوَامِ جَلَالِكَ وَبِاقِيَةِ بَقَاءِ كَمَالِكَ

پر جو صلواتِ دائم ہو تیرے دوامِ جلال کے ساتھ۔ اور باقی ہو تیری بقاءِ کمال کے ساتھ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلواتِ وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل اطہار پر

صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَاوَامِ ارْتِفَاعِكَ وَبِاقِيَةِ بَقَاءِ جَبِيلِ اِمْطِنَاعِكَ

جو صلواتِ دائم ہو تیرے دوامِ رفعت کے ساتھ اور باقی ہو تیری خوبصورت بھلائی کی بقاء کے ساتھ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ

اے اللہ صلواتِ وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلواتِ دائم ہو

بِدَاوَامِ عَظَمَتِكَ وَبِاقِيَةِ بَقَاءِ نِعْمَتِكَ وَرَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

تیرے دوامِ عظمت کے ساتھ اور باقی ہو تیری نعمت ورحمت کی بقاء کے ساتھ۔ اے اللہ صلواتِ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلواتِ دائم ہو

بِدَاوَامِ جَبْرُوتِكَ وَبِاقِيَةِ بَقَاءِ مَلَكُوتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

تیرے دوامِ جبروت کے ساتھ اور باقی ہو تیرے عظیم ملک کی بقاء کے ساتھ۔ اے اللہ صلواتِ وسلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَاوَامِ التَّكْوِينِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلواتِ دائم ہو تخلیق کے دوام تک

وَبِاقِيَةِ بَقَاءِ أَعْلَى عِلِّيِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور باقی رہے اعلیٰ علیین کی بقاء تک۔ اے اللہ صلواتِ وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَاوَامِ الرِّضْوَانِ وَبِاقِيَةِ بَقَاءِ

اور آپ کی آل اطہار پر جو دائم ہو دوامِ رضوان تک اور باقی ہو جنتوں کے

خَازِنِ الْجَنَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

خازن کی بقاء تک۔ اے اللہ صلواتِ وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَبِاقِيَةِ بَقَاءِ الْجَنَّةِ

پر جو صلوٰۃ دائم ہو ییل و نہار کے دوام تک اور باقی ہو جنت و دوزخ

النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

کی بقاء تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ

دَائِمَةٌ بِدَوَامِ الْأَبَدِ وَبِاقِيَةِ بَقَاءِ الْمَوْجِدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

دائم ہو دوام ابد تک اور باقی ہو ساتھ بقاء کے جو تائید ایزدی سے شرف ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ دائم ہو ابدی

النَّبِيِّ الْمُبْقِيِّ وَبِاقِيَةِ بَقَاءِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

نعمتوں کے دوام تک اور باقی ہو قرآن عظیم کی بقاء تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ الْأَرْوَاحِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ دائم ہو ارواح کے دوام کے مطابق

وَبِاقِيَةِ بَقَاءِ الْأَرْوَاحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور باقی ہو بقاء ارواح کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ السُّرُورِ وَالْإِنْسِ وَبِاقِيَةِ بَقَاءِ خَطَائِرِ

کی آل پر جو صلوٰۃ دائم سرور و انس کے دوام کے ساتھ۔ اور باقی ہو غلطی والے مقدس مقامات

الْقُدْسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کی بقاء کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ النُّورِ وَبِاقِيَةِ بَقَاءِ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ

جو صلوٰۃ دائم ہو دوام نور کے سبب اور باقی ہو بیت المعمور کی بقاء تک۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ الْحُكْمِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ دائم ہو حکم الہی کے دوام کے ساتھ

إِلٰهِی وَبَاقِیَةِ بَقَاءِ الْاَوْامِرِ الرَّبَّانِیَّةِ وَالتَّوَاهِیِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور باقی ہو ربانی اوامر و لواہی کی بقاء کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوٰةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ التَّكْرَارِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ دائم ہو دوام تکرار کی وجہ سے

وَبَاقِیَةِ بَقَاءِ الْاَبْرَارِ بِدَارِ الْقَرَارِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور باقی ہو ابرار کے دارالقرار میں باقی رہنے تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوٰةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ الدَّوَامِ وَبَاقِیَةِ بَقَاءِ

اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ دائم ہو دوام کے دوام کے ساتھ اور باقی ہو

حَمَلَةِ الْعَرْشِ الْكِرَامِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

عرش الہی کے حاملین کرام کی بقاء کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوٰةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ مَا لَا یَفْنٰی وَبَاقِیَةِ بَقَاءِ الْبُحْدِ

آپ کی آل پر جو صلوٰۃ دائم ہو ساتھ دوام ان اشیاء کے جو غیر فانی ہیں اور باقی ہو ساتھ

وَالثَّنَا اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بقاء و ثناء کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَوٰةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ وَبَاقِیَةِ بَقَاءِ الْحَسَنَاتِ الْمُتَقَبَّلَةِ

جو صلوٰۃ دائم ہو کتب سماویہ کے دوام کے ساتھ اور باقی ہو مقبولہ حسنات کی بقاء کے ساتھ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوٰةٌ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ

دَائِمَةٌ بِدَوَامِ الضِّیَاءِ وَالْبَهَاءِ وَبَاقِیَةِ بَقَاءِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی اللّٰهُمَّ

دائم ہو ضیاء اور بہار کے دوام کے ساتھ اور باقی ہو سدرۃ المنتہیٰ کی بقاء کے ساتھ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوٰةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ دائم ہو حجاب اعظم

الْحَبَابِ الْأَعْظَمِ وَبَاقِيَةِ بَقَاءِ اللُّوْحِ وَالْقَلَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کے دوام کے ساتھ۔ اور باقی ہو لوح و قلم کی بقا کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ السُّرُورِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوٰۃ و سلام پر سرور

وَالرِّضَا وَبَاقِيَةِ بَقَاءِ الدُّرَّةِ الْبَيْضَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

و رضا کے دوام کے ساتھ اور باقی ہو درہ بیضاء (مادہ تخلیق نبوی) کی بقا کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ وَبَاقِيَةِ

اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ و سلام ہو اجر و ثواب کے دوام کے ساتھ اور باقی ہو

بِقَاءِ طُوبَى وَحَسَنِ مَا بِيَدِ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

طوبی (جنتی عظیم و رحمت) اور بہترین انجام کار کی بقا کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ عَرْشِكَ إِلَى يَوْمِ الْعَرْشِ وَ

آپ کی آل پر جو صلوٰۃ و سلام ہو تیرے عرش کے دوام کے ساتھ روز

بَاقِيَةِ بَقَاءِ كُرْسِيِّكَ الَّذِي وَسِعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُمَّ صَلِّ

قیامت تک اور باقی ہو ساتھ تیری کرسی کی بقا کے جو آسمانوں اور زمین کو محیط ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ رَتَبِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ و سلام ہے مراتب

الْكِبَالِ وَالْمَعَالِي وَبَاقِيَةِ بَقَاءِ حُجُبِ الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ اللَّهُمَّ

کمال اور بلندیوں کے دوام کے ساتھ اور باقی ہو حجابہائے جلال و جمال کی بقا کے ساتھ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ و سلام ہو

بِدَوَامِ الْخُلُودِ وَبَاقِيَةِ بَقَاءِ الْمَلِكِ الْمَعْبُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

دوام خلود کے ساتھ اور باقی ہو شہنشاہ معبود کی بقا کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ دَائِمَةٌ يَدَوَامِ كَلِمَاتِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ دائم ہو ساتھ دوام کلمات

اللّٰهِ وَيَاقِيَةَ بَقَاءِ ذَاتِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللہ کے اور باقی ہو ساتھ بقاء ذات اللہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَدْفَعُ بِهَا عَنَّا كُلَّ هَمٍّ وَفَاقَةٍ وَلَا

اور آپ کی آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل دور فرمائے ہم سے ہر پریشانی اور فاقہ کو اور نہ

تَحْمِلُنَا مَا لَيْسَ لَنَا بِهِ طَاقَةٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

ڈال ہم پر وہ بوجھ جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُدْخِلُنَا بِهَا مَدْخَلَ كَرِيمًا

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوٰۃ کے طفیل داخل فرمائے ہمیں بزرگ مقام میں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَوةٌ تَجْتَنِبُنِيْ بِهَا حُسْنَ الْعُقُبٰى وَلَا تُحْدِثْ لَنَا فِيْ دُنْيَانَا حَرْصًا

کہ جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں منتخب فرمائے حسن انجام کے ساتھ اور نہ پیدا فرمائے ہم میں دنیاوی حرص

وَلَا تَعْبًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

و آزار اس کی تک و تاز۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُعْظِمُ لَنَا بِهَا لَدَيْكَ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا

پر جس صلوٰۃ کے طفیل عطا کرے ہمیں عظمت اپنے ہاں اور نہ ڈالے ہم پر کوئی بار گراں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَوةٌ تَنْزِعُ عَنَّا الْهُوسَ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا حُبَّ الدُّنْيَا وَهَوَاهَا

جس صلوٰۃ کے طفیل تو سلب کرے ہم سے ہوس اور نہ مسلط فرمائے ہم پر حب دنیا اور ہوائے

النَّفْسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

نفس۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُحْضِرُنَا بِهَا قُدْسَكَ وَتَرْجُو بِهَا نَيْلَ ثَوَابِكَ اللَّهُمَّ

جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں شرف حضور بخشنے اپنی بارگاہ قدس میں اور امید کر سکیں تیرے ثواب کے حصول کی سائے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ نَسْتَوْجِبُ

اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس کے طفیل مستحق ہو جائیں ہم

بِهَارِضَاكَ وَلَا تَحْجُبْنَا إِلَى أَحَدٍ سِوَاكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

تیری رضا کے اور نہ محتاج کرے تو ہمیں ماسوا کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُوَافِقُ مُرَادَكَ وَلَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوٰۃ موافق ہو تیری مراد کے اور نہ

تَجْعَلَنَا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فِي عِبَادِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

بنائے ہمیں بد بخت لوگوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَقْبَلُهَا مِنَّا يَا رَبِّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوٰۃ کو قبول فرمائے ہم سے اے رب

الْعَالَمِينَ وَلَا تَرُدُّنَا عَنْ ثَوَابِكَ خَائِبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

العالمین اور نہ لوٹائے ہمیں اپنی عطاؤں سے بے نیل مرام۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُعَافِيْنَا بِهَا

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں عطا فرمائے

الْبِعَافَاةَ الدَّائِمَةَ وَتُمَيِّتْنَا عَلَى حُسْنِ الْخَاتِمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

دائم عافیت اور ہماری وفات ہو حسن خاتمہ کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ لَا غَايَةَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوٰۃ کی کوئی انتہاء نہ ہو

لَهَا وَلَا انْقِضَاءَ وَصَلْوَةً لَا نِهَائِيَةَ لَهَا دُونَ الْعَفْوِ وَالرِّضَى

اور نہ اختتام اور جس صلوات کا منتہی فسوف تیری عفو اور رضاء مندی ہو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلْوَةً تَخْرِقُ أَنْوَارَهَا الْحُجُبَ وَالْأَسْتَارَ وَيَسْتَوْجِبُ بِهَا

جس صلوات کے انوار حجابات اور حائل پردوں کو ٹھہرا دیں اور اس کے طفیل اس کا پڑھنے والے

قَائِلُهَا مَغْفِرَةٌ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

عزیز غفار کی مغفرت کا حقدار ہو جائے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلْوَةً تُعِيدُ بِهَا قَائِلُهَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل اس کے پڑھنے والے کو پناہ مہیا

مِنَ الْإِهْوَالِ وَتُدْفِعُ بِهَا عَنْ قَائِلِهَا كُلَّ مِحْنَةٍ وَيَلُو اللَّهُمَّ

کرے تمام ہولناکیوں سے اور دور کرے اس سے ہر محنت اور آزمائش۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلْوَةً تُشْرِفُ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوات کے طفیل شرف بخشے

بِهَا قَائِلُهَا فِي الْقِيَمَةِ وَتُوجِبُ لِقَائِهَا الْخَطْوَةَ وَالْكَرَامَةَ

اس کے پڑھنے والے کو قیامت میں اور واجب کرے اس کے قائل کے لیے عظیم حصہ اور بزرگی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلْوَةً تَرْفَعُ بِهَا قَائِلُهَا إِلَى أَعْلَى عِلِّيِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جس صلوات کے طفیل اس کے قائل اعلیٰ علیین تک رفعت بخشے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلْوَةً يَعْلُو بِهَا قَائِلُهَا إِلَى

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل بلند ہو اس کا قائل

جَوَابِ أَهْلِ الْعُنَايَةِ مِنَ الْأَبْرَارِ وَالْمُقَرَّبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

اہل عنایت ابرار و مقربین کے قرب و رفاقت تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُؤْتِي بِهَا

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی اطہار پر جس کے طفیل واصل فرمائے

قَائِلَهَا إِلَىٰ دَرَجَاتِ الْعُلَىٰ وَصَلَوةً يُحَدِّثُ بِهَا قَائِلَهَا فِي الْمَلَا

اس کے قائل کو اعلیٰ درجات تک اور جس کے طفیل تناء کی جانے اس کے قائل کی

الْأَعْلَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

جماعت ملائکہ میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَوةً يُعَزِّبُ بِهَا قَائِلَهَا فِي الْوُجُودِ وَيُرْدُ بِهَا قَائِلَهَا مَشَاعِبَ

پر جس کے طفیل عزت دی جائے اس کے قائل کو دنیوی قیام میں اور وارث ہو وہ

الْحَوْضِ الْمُرْوَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

حوض مورود کے شعبوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً يَجِدُ بِهَا قَائِلَهَا ذَخِيرَةً عِنْدَ مَبَاتِهِ وَ

کی آل اطہار پر جس کے طفیل میسر ہو پڑھنے والے کو ذخیرہ حسنات موت کے وقت اور

تَكُونُ لِقَائِلَهَا حُجَّةً لِّسُؤَالِ الْمَلَائِكِينَ فِي ظُلُمَاتِ الْقُبْرِ وَ

نصیب ہو اسے توفیق جواب کی منکر و نکیر کے سوال کے وقت قبر کی تاریکیوں اور

عَمْرَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

شدتوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَوةً يَنْجُو بِهَا قَائِلَهَا مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَهُوَ لِأَتِهِ

پر جس کے طفیل نجات حاصل ہو قائل کو بہت بڑی گھبراہٹ (قیامت) سے اور اس کی

وَتُشَقَّلُ بِهَا لِقَائِلَهَا مَوَازِينُ صَحَائِفِ أَعْمَالِ حَسَنَاتِهِ

ہونگیا کیوں سے اور بھاری فرمائے اس کے طفیل اس کے صحائف اعمال والے میزان حسنات کو

وَتُعِيدُنَا بِهَا مِنْ طَبَقَاتِ الْجَحِيمِ وَدَرَكَاتِهِ اللَّهُمَّ

اور بچائے ہیں بطریق اس کے جہنم اور اس کے طبقات سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوات کے طفیل

تُنْقِذُ بِهَا قَائِلَهَا مِنْ أَهْوَالِ الصِّرَاطِ وَمَخُوفَاتِهِ وَتُوصِلُ بِهَا

بچائے اس کے قائل کو پل صراط کی ہولناکیوں اور دہشتوں سے اور واصل فرمائے

قَائِلَهَا إِلَى دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ وَرَوْضَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اسے جنات کے درجات اور سبزہ زاروں تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تَبَشِّرُ بِهَا قَائِلَهَا

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس کے طفیل بشارت ہے اس کے پڑھنے والے

بِالنَّظَرِ فِي وَجْهِ مُحَمَّدٍ عَلَى قُبَابِ الْفِرْدَوْسِ وَعُلُوِّ مَقَامَاتِهِ

کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فردوس کے قبہ جات میں اور بلند تر مقامات میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَوَاتُكَ يَجْنِي بِهَا قَائِلُهَا شَرَّةَ حُبِّهِ وَإِمْتِدَادَ إِدِهِ وَيَغْرِسُ بِهَا

جس صلوات کے طفیل چنے اس کا قائل محبت کے ثمرات کو اور اس کی درازی کو اور لگائے بسبب اس صلوات

قَائِلَهَا رَوْضَةَ فَلَاحِهِ وَنَجَاحِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کے وہ اپنی فلاح و کامیابی کے باغات۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ يَجْنِي بِهَا قَائِلَهَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوات کے طفیل چنے اس کا قائل اپنے

ثَمَرَةَ الْإِيمَانِ وَيُحْشِرُ بِهَا قَائِلَهَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ

ایمان کا پھل اور اس کا حشر ہو حضرات ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ عنہم

وَعُثْبَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَوةً يُسَلِّمُ بِهَا قَائِلُهَا مِنْ غَوَائِلِ الْبِدَاعِ وَتَقْطَعُ بِهَا عَنْ

پر جس کے طفیل سلامت رہے اس کا قائل بدعات کی ہلاکتوں سے اور کاٹ دے تو اس سے

قَائِلُهَا عَدَائِقَ الطَّيْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

طبع و لاتیج کے سارے اسباب۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَرْفَعُ بِهَا لِقَائِهَا ذِكْرَهُ وَ

آپ کی آل اطہار پر جس صلوٰۃ کے طفیل بلند کرے اس کے قائل کا ذکر اور

مَآثِرَهُ وَتُؤَمِّنُ بِهَا قَائِلُهَا مِنْ مَّصَائِبِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

آثار اور بے خوف کر دے اسے دُنیا و آخرت کے مصائب سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

صَلَوةً تَكُونُ لِقَائِهَا لَدَيْكَ ذُخْرًا وَصَلَوةً تَكُونُ لِقَائِهَا مِنْ

جو صلوٰۃ ذخیرہ ہوتیرے ہاں پڑھنے والے کے لیے اور ہو مضبوط سہارا

أَوْثِقَ الْعُرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اس کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَلِيْسُ بِهَا قَائِلُهَا مَهَابَةً لَيْسَ بَعْدَهَا

آل اطہار پر جس صلوٰۃ کے طفیل اس کے قائل کو خلعت پہنائے ایسی ہیبت کی کہ نہ ہو اس کے بعد

كَابَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کسی طرح کی تمگینی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُكْرِمُ بِهَا قَائِلُهَا كِرَامَةً لَيْسَ بَعْدَهَا نَدَامَةٌ وَتَشْفَعُ

پر جس صلوٰۃ کے طفیل اس کے قائل کو ایسی کرامت سے نوازے کہ نہ ہو اس کے بعد ندامت۔ اور شفاعت فرمائے

لِقَائِهَا شَفَاعَةً لَيْسَ بَعْدَهَا تَبَاعَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اس کے لیے کہ نہ ہو اس کے بعد ہلاکت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُعِينُ بِهَا قَائِلَهَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ اعانت فرمائے اس کے طفیل قائل کی ایسی کرنے

إِعَانَةً لَمْ يَرِ بَعْدَهَا إِهَانَةٌ وَتُبَلِّغُ بِهَا قَائِلَهَا مَرَادَهُ وَتُثَبِّتُ لَهُ

دیکھے بعد اس کے تذیل اور پہنچائے اسے مراد تک اور مطمئن رکھے

بِهَا فَوَادَةً اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

بطفیل اس کے اس کا دل۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَمُنُّ بِهَا قَائِلَهَا الْفَوْزَ عَدَا وَتَرْحَمُ بِهَا قَائِلَهَا

پر جس کے طفیل عطا کرے اس کے قائل کو کامیابی قیامت کے دن اور رحم فرمائے اس پر

رَحْمَةً لَا شِقَاءَ بَعْدَهَا أَيْدًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جس کے بعد کبھی اس پر کوئی مشقت نہ ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَهْدِي بِهَا قَائِلَهَا السُّبُلَ الْهُدَايَةَ

اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوٰۃ کے طفیل اس کے قائل کی رہنمائی فرمائے راہ ہائے ہدایت میں

وَتُعِيدُ بِهَا قَائِلَهَا مِنَ الضَّلَالَةِ وَالْغَوَايَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

اور بچائے اسے گمراہی اور بے راہ روی سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَرْفَعُ بِهَا قَائِلَهَا مَقَامَهُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس کے طفیل قائل کا مرتبہ و مقام بلند فرمائے

وَتُثَبِّتُ بِهَا قَائِلَهَا عَلَى الصِّرَاطِ أَقْدَامَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور ثابت رکھے پل صراط پر اس کے اقدام۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ عَالِيَةَ الْبِقْدَارِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر ایسی عالی قدر صلوٰۃ کہ

تُنَجِّي بِهَا قَائِلَهَا مِنْ شَرِّ مَا يَأْتِي بِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

نجات دے بطفیل اس کے قائل کو ییل و نہار کے لئے ہوئے شر سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَرْفَعُ بِهَا

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل بلند فرمائے

لِقَائِلَهَا شَانَهُ وَتُثَقِّلُ بِهَا لِقَائِلَهَا مِيزَانَهُ وَتَجْلِي بِهَا عَنْ

اس کے قائل کی شان اور بھاری کرے اس کا میزان حسنت اور دور کرے اس سے

قَائِلَهَا الصَّدَا وَتَرْزُقُهُ بِهَا عَيْشًا وَاسْعَارًا اللَّهُمَّ صَلِّ

زنگ اور نصیب فرمائے اسے خوشگوار اور وسعت والی گزران۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَكُونُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل تو ہمارا

لَنَا بِهَا عِنْدَ كُلِّ هَمٍّ وَضَيْقٍ يَا اَلٰهِي وَ اَلٰهَ كُلِّ شَيْءٍ اَللّٰهُمَّ

ہو جایا کرے ہر اندوہ اور تنگی کے لئے میرے الہ اور ہر چیز کے الہ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلوٰۃ کے

تَكُونُ لَنَا بِهَا فِي الْمَقَامِ وَالرَّحِيلِ يَا اَلٰهِي وَ اَلٰهَ اِبْرَاهِيْمَ وَ

طفیل تو ہمارا ہو جائے ہر قیام اور کوچ میں لئے میرے الہ اور ابراہیم و

اِسْمَاعِيْلَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اسماعیل کے الہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُهَوِّنُ بِهَا عَلَيْنَا سَكْرَاتِ الْمَوْتِ يَا سَامِعَ كُلِّ صَوْتٍ

پر جس کے طفیل آسان فرمائے ہم پر موت کی شدتوں کو لئے سننے والے ہر آواز کے

وَيَا سَابِقَ كُلِّ فَوْتٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اور سبقت لے جانے والے ہر قسم کے حرمان سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُنَجِّينَا بِهَا مِنَ الْعَذَابِ الْإِلِيمِ يَا مُجِئِ

کی آل اطہار پر جس کے طفیل نجات دے ہیں عذاب الیم سے۔ اے زندہ فرمانے والے

الْعِظَامِ وَهِيَ رَمِيمٌ وَتُعِينَنَا بِهَا عَنِ الْإِنَامِ يَا حَيُّ لَا تَنَامُ اللَّهُمَّ

گلی سڑی ہڈیوں کے اور غائب فرمائے ہمیں بطفیل اس کے تمام مخلوقات سے اے حی جو نہیں ہوتا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل

تُنَجِّينَا بِهَا مِنْ هَوْلٍ كُلِّ وَعَيْدٍ يَا مُؤْنِسُ كُلِّ وَحِيدٍ اللَّهُمَّ

نجات دے ہیں ہر وعید کی دہشت سے اے معجزوار ہر تنہا کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل

تُدَيِّرُ لَنَا بِهَا التَّعْمَايَا أَكْرَمَ الْكُرْمَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

دائم رکھے ہمارے لیے نعمتوں کو اے سب عزت والوں سے مکرم ترین۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَعْنِي بِهَا عَنَّا أَعْيُنَ الْقَوْمِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلواۃ کے طفیل اندھی کروے ہم سے ظالم لوگوں کی

الظُّلَمِيِّنَ يَا قَامِعَ الْجَبَّارِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آنکھیں اے روکنے والے جباروں کے (جبر کے) اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَرْفَعُ بِهَا عَنَّا كُلَّ بَلِيَّةٍ يَا عَالِمَ

اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل اٹھا دے ہم پر سے ہر مصیبت کو اے جاننے والے

كُلِّ خَفِيَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہر مخفی امر کے۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَصْرِفُ بِهَا عَنَّا الْأَسْقَامَ يَا عَلِيمُ يَا عَلَامُ اللَّهُمَّ

جس صلواۃ کے طفیل دور فرمائے ہم سے تمام بیماریوں کو اے علیم۔ اے علام۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلواۃ کے طفیل

تَمْحُورِبَهَا عَنَّا الصَّغَائِرَ وَالْكِبَائِرَ يَا مُظْلِعُ عَلَى السَّرَائِرِ اللَّهُمَّ

ہم سے محو کر دے صغائر و کبائر کو اے جاننے والے کبھی اسرار کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُصَحِّحُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلواۃ کے طفیل درست

لِنَابِهَا الْيَقِينُ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

و مستحکم فرما دے ہمارے یقین کو اے سب عزت والوں سے زیادہ عزت والے اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُجْبِرُ بِهَا قَلْبِي وَتَغْفِرُ بِهَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس صلواۃ کے طفیل میرے دل کی شکستگی دور فرمائے اور بخش دے

ذُنُوبَ أُمِّي وَأَبِي يَا رَبِّي وَيَا رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

میرے والدین کے گناہ اے میرے رب اور ہر شئی کے رب۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَصْعَدُ بِكَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلواۃ بلند ہو تیری توفیق سے

مِنْكَ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

تجھ سے تیری طرف۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ يُعْرِفُهَا أَهْلُ الْمَلَأِ الْأَعْلَى أَتَّهَا خَالِصَةً

آل اطہار پر جس صلواۃ کو پہچانیں ملائکہ اعلیٰ کہ وہ واقعی خلوص والے ہیں تیرے

لَدَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

نزدیک۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُبَلِّغُهَا الْقَلَمَ الدُّحِيطَ بِالْكَلِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

پر جس کو پہنچائے اس قلم تک جو سلب کو محیط ہے۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُحَدِّدُ بِكَلِمَةِ ذَلِكَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو صلوات حد بندی کر دے کل کی

الْكُلِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

کلیت کی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَلِيْقُ بِكَ مِنْكَ إِلَيْهِ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

پر جو صلوات کہ لائق ہو تیری توفیق تیری طرف سے ان کیلئے جیسے کہ وہ اہل ہیں اس کے۔ اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَهْلِ الثَّنَاءِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو لائق ثناء ہیں

وَمَحَلِّهِ وَأَجْزِهِ عَنَّا يَا رَبِّ مَا هُوَ أَهْلُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

اور اس کا صحیح محل اور انہیں جزا دے ہماری طرف سے اے ہمارے رب تعالیٰ جس جزا کے وہ حقدار ہیں۔ اے اللہ صلوات

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ جَامِعَةٌ لِمَعَانِي

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو صلوات جامع ہو احسان

الْإِحْسَانِ وَالْإِنْعَامِ وَصَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

و انعام کے تمام معانی کو اور دائم ہو ذوالجلال والاكرام کے دوام کے ساتھ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَوَةٌ تُعَرِّفُنَا بِهَا آيَاهُ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا إِلَىٰ حُسْنِ مُلْقَاهُ وَرُؤْيَاهُ

جس کے طفیل ہماری انہیں پہچان کروادے اور بظہیر اس کے ہمیں پہنچائے ان کی حسین ملاقات اور دیدار تک

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَوَةٌ تَرْفَعُ بِهَا دَرَجَتِي وَتَمَحُّوْ بِهَا سَيِّئَاتِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جس کے طفیل میرا درجہ بلند فرمائے اور محو فرمائے میرے گناہ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ لَا تُسَلِّطُ بِهَا عَلَى

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل نہ مسلط فرمائے مجھ پر

مَنْ لَا يَرْحَمُنِي وَتَفَرَّقَ بِيهَا بَيْنِي وَبَيْنَ ذَنْبِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو مجھ پر رحم نہ کرے اور تفرقہ ڈالے بطفیل اس کے میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَفَكُّ بِهَا عَنِّي

نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس کے طفیل دور کر دے مجھ سے

كُلِّ عِلَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہر بیماری کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَفْتَحُ بِهَا لِي وَإِلَى كُلِّ بَابٍ مِّنَ الْخَيْرِ وَتَلِينُ

پر کہ کھول دے بسبب اس کے میرے اور میرے اہل کے لیے خیر کا ہر دروازہ اور ملائم کر دے

بِهَا كُلِّ عَسِيرٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ہر سخت کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تَخْرِسُ بِهَا عَنِّي كُلَّ لِسَانٍ نَاطِقٍ وَتَمْنَعُ

آل پر جس کے طفیل گنگ کر دے مجھ سے ہر ناطق کی زبان کو اور روک دے

بِهَا عَنِّي كُلَّ ظَالِمٍ وَحَاسِدٍ وَتَكْفِيَنِي بِهَا عَنِ شَرِّ كُلِّ غَاسِقٍ

بطفیل اس کے مجھ سے ہر ظالم و حاسد کو اور روک دے بطفیل اس کے ہر تاریخی والے کے شر کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

صَلَوةٌ لَا تُحَاوِلُ بِهَا تَفْرِيقًا بَيْنِي وَبَيْنَ طَاعَتِكَ وَلَا تُشْطِطَنِي

جس صلوٰۃ کی برکت سے نہ ارادہ فرمائے تفریق کا درمیان میرے اور درمیان اپنی طاعت کے اور نہ دور کرے

بِهَا عَنِ عِبَادَتِكَ وَرَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مجھ اپنی عبادت اور رحمت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُوجِبُ بِهَا لِي رِضْوَانَكَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل لازم فرمائے میرے لیے اپنی رضامندی

وَتَرْزُقُنِي بِهَا جَنَّاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور عطا فرمائے مجھے اپنی جنتیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُوفِّقُنِي بِهَا مُسْلِمًا وَالْحَقُّنِي بِهَا

اور آپ کی آل اطہار پر کہ جس کی برکت سے مجھے حالت اسلام پر وفات دے اور صالحین کے

بِالصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ اشْرَحْ بِالصَّلَوةِ عَلَيْهِ صُدُورَنَا وَيَسِّرْ

ساتھ لاحق فرما دے۔ اے اللہ ان کی صلوٰۃ کی برکت سے کھول دے ہمارے سینے کو اور آسان فرما دے

بِهَآ أُمُورَنَا وَفَرِّجْ بِهَا هُبُومَنَا وَاكْشِفْ بِهَا عُومَنَا وَاغْفِرْ

ہمارے تمام امور کو اور دور فرما دے ہم سے اندوہ و غم اور دور فرما دے ہماری پریشانیاں اور بخش دے

بِهَآ ذُنُوبَنَا وَاقْضِ بِهَا دِيُونَنَا وَأَصْلِحْ بِهَا أَحْوَالَنَا وَبَلِّغْ

ہمارے گناہ اور ادا فرمائے ہمارے قرضے اور درست فرمائے ہمارے احوال اور پہنچائے

بِهَآ أَمْالَنَا وَتَقَبَّلْ بِهَا تَوْبَتَنَا وَاغْسِلْ بِهَا حَوْبَتَنَا وَ

ہمیں ہماری تمناؤں تک اور ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمارے گناہ دھو ڈالے اور

انصُرْ بِهَا حُجَّتَنَا وَطَهِّرْ بِهَا أَلْسِنَتَنَا وَأَنْسُ بِهَا وَحْشَتَنَا وَ

نصرت دے ہماری حجت و برہان کو اور پاک فرمائے ہماری زبانوں کو اور انس مہتیا فرمائے ہماری وحشتوں کو

ارْحَمْ بِهَا غُرْبَتَنَا وَاجْعَلْهَا نُورًا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمِنْ خَلْفِنَا وَ

اور رحم فرمائے ہماری غربت پر اور اسے بنائے نور کا موجب ہمارے آگے اور پیچھے اور

عَنْ أَيْمَانِنَا وَعَنْ شِمَائِلِنَا وَمِنْ فَوْقِنَا وَمِنْ تَحْتِنَا وَرَفِي

دائیں اور بائیں اور اوپر و نیچے اور ہماری زندگی

حَيَاتِنَا وَمَمَاتِنَا وَفِي قُبُورِنَا وَحَشْرِنَا وَنَشْرِنَا وَظِلَّائِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

اور ہماری موت میں۔ اور ہماری قبور میں اور دوران حشر و نشر اور موجب سایہ کا ہلکے

عَلَى رءُوسِنَا وَثَقَلُ بِهَا مَوَازِينُ حَسَنَاتِنَا وَأَدْمُرْ بِرُكَاةِهَا

سروں پر قیامت کے دن اور بھاری فرمائے بطقیل اس کے ہماری نیکیوں کے پلڑے کو اور داہنی بنا اس کی برکات

عَلَيْنَا حَتَّى نَلْقَى نَبِيَّنَا وَسَيِّدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کو ہم پر حقی کہ ہم ملاقات کریں سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی در آنخالیہ

وَنَحْنُ آمِنُونَ مُطْمَئِنُّونَ فَرِحُونَ مُسْتَبْشِرُونَ وَأَنْ تُصَلِّيَ

ہم امن و اطمینان میں ہوں اور فرحان و شادان ہوں اور تو صلوٰۃ بھیجے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَكْحَلُ بِهَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس کے طفیل سرگین کرے

بَصِيرَتِي بِالتُّورِ الْمُرَشُّوشِ فِي الْأَنْزِلِ لِأَشْهَادِ فَنَاءِ مَا لَمْ يَكُنْ

ہماری بصیرت کو ساتھ اس نور کے جس کے چھینٹے ازل میں خفائق اشیاء پر ڈالے گئے تاکہ میں مشاہدہ کر لوں معدومات کی فناء

وَبَقَاءِ مَا لَمْ يَزَلْ وَرَاءَ الْأَشْيَاءِ كَمَا هِيَ فِي أَصْلِهَا مَعْدُومَةٌ

کا اور موجودات ازل کی بقاء کا اور دیکھ لوں تمام اشیاء کو ان کی اصلی حالت میں یعنی عدم

مَفْقُودَةٌ وَكُونُهَا لَمْ تَشْمَرْ رَاحَةَ الْوُجُودِ فَضْلًا عَنْ كُونِهَا

وفناء میں اور وجود کی خوشبود سونگھنے سے بھی پہلی حالت میں چہ جائیکہ موجود ہونے کی

مَوْجُودَةٌ وَأَخْرِجْنِي اللَّهُمَّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْكَ مِنْ ظُلْمِ أَنَانِيَّتِي إِلَى

حالت میں اور نکال مجھے لے اللہ ان پر صلوٰۃ کی برکت سے انانیت کی ظلمتوں سے

التُّورِ وَمِنْ قَبْرِ جُثْمَانِيَّتِي إِلَى جَمْعِ الْحَشْرِ وَفَرِّقِ النُّشُورَ وَأَفِضْ

نور کی طرف اور میرے جسم کی قبر سے جمعیت والے حشر اور تفرقہ والے نشور کی طرف اور جاری فرما

عَلَيَّ مِنْ سَمَاءِ تَوْحِيدِكَ إِيَّاكَ مَا تُطَهِّرُنِي بِهِ مِنْ بَرَجْسِ

مجھ پر اپنی توحید و تفرید کے آسمان سے وہ بارش کہ پاک فرمادے اس کے ساتھ مجھے شرک کی

الْأَشْرَاكِ وَأَنْعَشْنِي بِالمَوْتَةِ الْأُولَى لِوِلَادَةِ الثَّانِيَةِ وَ

پیدری سے اور مجھے پہلی (اختیاری) موت کے ذریعے دوسری ولادت کے لیے اٹھا اور

أَحْيَيْتُ بِالْحَيَاةِ الْبَاقِيَاتِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ وَاجْعَلْ

مجھے زندہ فرما حیاتِ دائمہ کے ساتھ اس دنیاے فانی میں اور عطا فرما

لِي نُورًا أَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَأَرَى بِهِ وَجْهَكَ أَيُّهَا تَوَلَّيْتُ

مجھے نور جس کے ساتھ میں لوگوں میں روشنی پھیلاتا پھروں اور دیکھ لوں اس کے ساتھ تیری ذاتِ اقدس کو جہاں کہیں بھی ہوں

بِدُونِ إِشْتِبَاهٍ وَلَا التَّبَاسِ نَاطِرًا بَعَيْنِ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ فَاصِلًا

بغیر کسی اشتباہ و اقتباس کے درآئیکہ دیکھنے والا ہوں جمع و تفرق والی آنکھ سے اور فرق

بِحُكْمِ الْقَطْعِ بَيْنَ الْبَاطِلِ وَالْحَقِّ دَالًّا بِكَ عَلَيْكَ وَهَادِيًا

کرنے والا ہوں قطعی طور پر باطل اور حق کے درمیان، رہنمائی کرنے والا تیری توفیق سے تجھ پر اور ہدایت کرنیوالا

بِإِذْنِكَ إِلَيْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

تیری توفیق سے طرف تیرے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَقْبَلُ بِهَا دُعَائِي

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس صلوٰۃ کے طفیل قبول فرمائے تو میری دُعا کو

وَتُحَقِّقُ بِهَا رَجَائِي وَعَلَىٰ أَهْلِ الشُّهُودِ وَالْعُرْفَانِ وَ

اور محقق فرمائے میری امید و رجاء کو اور آپ کی اہل شہود و عرفان آل پر اور

أَصْحَابِهِ أَصْحَابِ الذُّوقِ وَالْوَجْدَانِ مَا انْتَشَرَتْ طَرَّةُ

اربابِ ذوق و وجدان اصحاب پر جب تک پھیلی رہیں شبِ تاریک

لَيْلِ الْكِيَانِ وَأَسْفَرَتْ عُرَّةُ جَبِينِ الْعِيَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ

کی سیاہ زلفیں اور روشن رہے مشاہدہ کی سفید پیشانی۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ فِي الْقُدْسِيِّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ

نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے حدیثِ قدسی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

يَا ابْنَ آدَمَ أَعْطَيْتُكَ الْإِيمَانَ وَالْمَعْرِفَةَ مِنْ غَيْرِ

اے ابن آدم میں نے تجھے عطا کیے ایمان اور معرفت بغیر تیرے

سُؤَالٍ وَتَضَرُّعٍ فَكَيْفَ الْبُخْلِ عَلَيْكَ يَا جَنَّةَ وَالْمَغْفِرَةَ

سوال اور زاری کے تو کس طرح بخیلی کروں گا تجھ پر ساتھ جنت و مغفرت کے باوجود

سُؤَالِكَ وَتَضَرُّعِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تیری التجا و زاری کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي قَالَ فِي الْقُدْسِيِّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ إِذَا عَنَّم

اور آپ کی آل پر جنہوں نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ابن آدم جب عصمت حاصل

بِي عَبْدِي هَدَيْتُهُ وَإِذَا تَوَكَّلَ عَلَيَّ كَفَيْتُهُ وَإِذَا تَوَكَّلَ عَلَيَّ

کرے میرا بندہ میرے ساتھ میں اس کو ہدایت دیتا ہوں اور جب مجھ پر توکل کرے کفایت کرتا ہوں اور جب میرے

غَيْرِي قَطَعْتُ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَنْهُ اللَّهُمَّ

میں توکل کرے تو میں اس سے تمام آسمانوں اور زمینوں کے راستے منقطع کر دیتا ہوں۔ اے اللہ

أَرْضُ قُنَا عَطَاءً وَرِضَاءً وَآلِهْمِنَا الشُّكْرُ فِي حَالَةِ الْعَطَاءِ

ہمیں نصیب فرما اپنی عطا اور رضاء اور ہمیں اپنا شکر العام فرما حالت عطاء

وَالرِّضَاءِ اللَّهُمَّ اعْطِنِي مُجَاهِدَةَ الْمُحِبِّينَ وَوَرَاثَةَ

ورضاء میں۔ اے اللہ مجھے اہل محبت کا مجاہدہ اور محبوبین والی

الْمُحِبِّينَ وَوَصَلَ الْعَارِفِينَ

وراثت عطا فرما اور اہل عرفان و اہل وصولے

الْمُتَوَاصِلِينَ الْمُؤَحِّدِينَ

مؤحدین کا وصل عطا فرما

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ

فرما دیجئے وہ اللہ یکتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ

يُولَدُ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

جنا گیا اور نہیں ہے اس کا کوئی ٹھیل و مشابہ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

الحمد لله المنة بفضل

کہ دین زمان رحمت القرآن بل

ایز و مثنان تحفه عجا رب و هدیه غرات رب الی اللہ
مقبول بارگاہ کونین حضرت پناہ سمدک اللہ
مَسْمُومِیْ بِهِ

صَلَاةُ الرَّسُولِ

الجزء الثامن عشر

فِي قَدْرِهِ وَاقْتِدَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

از تصنیف خواجه مخدوم ابوالکلام آزاد صاحب خانقاہ قادریہ حیدرآباد دکن

حضرت خواجہ نورجان محمد عبد الرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور
صوبہ سرحد پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاَقْلِحِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط وَبِاَبْلَجِ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بطفیل بہت کشادگی والی " بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور بہت روشنی و نورانیت والی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط وَبِاَتْهَجِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور بہت واضح راستہ والی " بسم اللہ الرحمن الرحیم کے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ط

تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو بہت رحم فرمانے والا مہربان ہے۔ مالک ہے یوم جزاء کا۔

اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ط اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝

تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ چلا ہمیں راہ راست پر۔

صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا

راہ ان کی جن پر تو نے انعام فرمایا نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا اور نہ

الضّٰلِّیْنَ ط اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ قَالَتْ فِی

گمراہوں کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا

الْقُدْسِیْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی یَا اِبْنَ اٰدَمَ اطِیْعُوْنِیْ بِقَدْرِ حَوَاجَّتِكُمْ

حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے ابن آدم میری اطاعت کرو مطابق اپنی محتاجیوں کے

اِلَیَّ وَاَعْصُوْنِیْ بِقَدْرِ صَبْرِكُمْ عَلَی النَّارِ وَتَزَوُّدِیْ الدُّنْیَا

طرف میرے اور میری نافرمانی برداری کرو مطابق اپنے آتش دوزخ پر صبر کر سکنے کے اور دنیا کے لیے

بِقَدْرِ سَكُوْنِكُمْ فِیْهَا وَتَزَوُّدِیْ الْاٰخِرَةِ بِقَدْرِ مَسْكِنِكُمْ فِیْهَا

اتنا ہی زاد راہ حاصل کرو جتنا قدر تمہاری اس میں سکونت ہوگی اور آخرت کے لیے ناول حاصل کرو جتنا قدر تمہاری

وَلَا تَنْظُرُوْا اِلَیْ اِجَالِكُمْ الْمُسْتَآخِرَةِ وَاَرْزَاقِكُمْ الْحَاضِرَةِ وَا

اس میں سکونت ہوگی اور نہ دیکھو اپنی موخر عمروں اور حاصل رزقوں اور

ذُنُوبِكُمُ الْمَسْتُورَةَ وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ وَلَوْ خِفْتُمْ

مستور گناہوں کی طرف۔ اور ہر چیز ہلاکت پذیر ہے سوائے اس کی ذات اقدس کے اور اگر تم خوف کھاتے

مِنَ النَّارِ كَمَا خِفْتُمْ مِنَ الْفَقْرِ لَا غِنِيَتْكُمْ مِنْ حَيْثُ لَا

آتش دوزخ سے جیسے خوف کھاتے ہو فقر سے تو میں تمہیں غنی کر دیتا جہاں سے تمہیں

تَحْتَسِبُونَ وَلَوْ رَغِبْتُمْ فِي الْجَنَّةِ كَمَا رَغِبْتُمْ فِي الدُّنْيَا

گمان بھی نہ ہوتا اور اگر تم راغب ہوتے جنت کی طرف مانند دنیا کی رغبت کے

لَأَسْعِدْتُكُمْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ وَلَا تَمَيِّتُوا قُلُوبَكُمْ لِحُبِّ الدُّنْيَا مَنْ

تو میں تمہیں سعادت مند کر دیتا دونوں جہانوں میں۔ اور نہ مارو تم اپنے دلوں کو دنیا کی محبت کی وجہ سے کیونکہ

رَوَّالِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

وہ نروال پذیر ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ قَدْرًا وَسِعَ جُودُكَ وَإِحْسَانُكَ وَقَدْرَ سِعَتِ رَحْمَتِكَ

آل پر اپنے جود و احسان کی وسعت اور اپنی رحمت کاملہ کی وسعت کے مطابق

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اپنے

مَقْدُورَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مقدورات کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ قَدْرَ فَضْلِكَ عَلَى خَلْقِكَ وَقَدْرَ عَفْوِكَ بَعْدَ وَجُوبِ حَقِّكَ

پر مطابق مخلوقات پر اپنے فضل کے اور مطابق اپنی عفو و درگزر کے بعد لازم ہونے اپنے حق کے

وَقَدْرَ دَائِرَةِ مَمْلُوكَتِكَ وَقَدْرَ قَهْرِ مَانِ جَبْرُوتِكَ وَمَمْلُوكَتِكَ

اور مطابق اپنے ملک عظیم کے دائرہ کے اور مطابق اپنے جبروت و ملکوت کے قہر و سطوت کے

وَقَدْرَ عِظَمِ سُلْطَانِكَ وَكَرَمِ بَرَهَانِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور مطابق اپنے تسلط کی عظمت کے اور اپنے برہان کے کرم کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرُ وَسْعِ جُودِكَ وَإِحْسَانِكَ وَقَدْرُ عَرْشِكَ وَتَكْوِينِهِ

سیدنا محمد پر اپنے جود و احسان کی وسعت کے مطابق اور اپنے عرش اور اس کی نیزنجیوں کے مطابق

وَقَدْرُ كُرْسِيِّكَ وَتَكْوِينِهِ وَقَدْرُ فَضْلِ الْفُرْضِ وَقَدْرُ وَسْعِ كُرْسِيِّكَ

اور کرسی اور اس کے وجود و مجسمہ کے مطابق اور فضیلتِ فرائض کے مطابق اور اپنی کرسی کی وسعت کے مطابق

الَّذِي وَسِعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جو محیط ہے تمام آسمانوں اور زمینوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ قَدْرُ جَلَالِكَ الرَّاهِي وَقَدْرُ كِبَالِكَ الْبَاهِي وَقَدْرُ سِتْرِكَ

محمد پر مطابق اپنے روشن جلال کے اور قابلِ فخر کمال کے۔ مطابق پامیدار ستر کے

الْبَاقِي وَقَدْرُ لُطْفِكَ الْوَافِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور کمالِ لطف و کرم کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

قَدْرُ نَوَالِكَ الْوَافِي وَقَدْرُ عَطَائِكَ الْكَافِي وَقَدْرُ إِحْاطَتِكَ

اپنے کمالِ جود کی مقدار اور کافی عطا کی مقدار اور مقدرات کے احاطہ

بِالْمَقْدُورَاتِ وَقَدْرُ عَلَيْكَ بِالْمَوْجُودَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کے مطابق اور موجودات کے علم کی مقدار۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرُ رَحْمَتِكَ بَعْدَ عَلَيْكَ وَقَدْرُ نِعْمَتِكَ وَوَابِلِ

نازل فرما سیدنا محمد پر مطابق اپنے علم کے باوجود علم کے اور مطابق اپنی نعمتوں کے اور

كَرَمِكَ وَقَدْرُ قَدْرِكَ الْعَظِيمِ وَقَدْرُ فَضْلِكَ الْعَمِيمِ وَقَدْرُ

بارانِ کرم کے اور مطابق اپنی عظیم قدر اور فضلِ عمیم کے اور مطابق

كَمَالِ صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِ وَقَدْرُ حَمَالِ نَظْرِكَ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اپنی صلواتِ کاملہ کے ان پر اور مطابق اپنی جمیل نظر کے طرف ان کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرُ حَيْكَةِ آيَاةٍ وَقَدْرُ لَوْلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر ان سے اپنی محبت کے مطابق اور لا الہ الا اللہ کے مطابق

وَقَدْرًا عِزَّتِهِ عَلَيْكَ وَقَدْرًا رَغْبَتِهِ فِيهَا لَدَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور ان کی تیرے ہاں عزت و قدر کے مطابق اور ان کی تیرے ہاں کی نعمتوں میں رغبت کے مطابق۔ لے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا أَرْضِكَ وَسَهْوَتِكَ وَقَدْرًا

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اپنی زمین اور آسمانوں کی مقدار اور اپنی

قُدْرَتِكَ وَإِرَادَتِكَ وَقَدْرًا سَحَابِ غُفْرَانِكَ وَقَدْرًا

قدرت اور ارادہ کے مناسب اور اپنے غفران کے بادلوں اور رضا و

مَنَائِحِ رِضْوَانِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا

رضوان کے عطیات کے مطابق۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر مطابق

ذِكْرِكَ بِالثَّنَاءِ وَقَدْرًا أَسْمَائِكَ الْحُسْنَى وَقَدْرًا إِحْسَانِكَ

اپنے ذکر و ثناء کے اور مطابق اپنے اسماء حسنیٰ کے اور مطابق اپنے احسان کے

عَلَيْهِ وَقَدْرًا بَرَكَاتِكَ الْوَارِدَةِ مِنْكَ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

اور برکات کے جو تجھ سے ان پر وارد ہیں۔ لے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا حَلَاوَةِ ذِكْرِكَ وَقَدْرًا مَزِيدًا

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اپنے ذکر کی شیرینی کے مطابق اور مزید

شُكْرِكَ وَقَدْرًا أُرْجَاءِ عَرْشِكَ وَقَدْرًا سُرْعَةِ بَطْشِكَ

شکر اور اپنے عرش کے اطراف اور سرعت بطش و مواخذہ کی مقدار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا بُرْهَانِكَ وَقَدْرًا عِلْمِ

لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اپنے برہان اور علم

شَانِكَ وَقَدْرًا مَقْدُورَاتِكَ وَقَدْرًا اقْتِدَارِكَ عَلَى مَا خَلَقْتَ

شان کے مطابق اور اپنے مقدورات مخلوقات پر اقتدار کے مطابق اور اپنی تقدیرات

وَقَدْرًا عِلْمِكَ بِمَا قَدَّرْتَ وَرِزْقِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اور رزاق کے علم کامل کے مطابق۔ لے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ قَدْرٌ قِيَامِكَ عَلَى مَا كَوْنَتْ وَنَهَيْتَ وَأَمَرْتَ وَقَدْرٌ

محمد پر مطابق اپنی نگہداشت کے اپنی ایجادات پر اور اپنی نہی اور امر کے اور مطابق تیرے

إِحَاطَتِكَ بِمَا حَفِظْتَ وَسَتَرْتَ وَقَدْرٌ أَدَاءُ لِحَقِّكَ وَقَدْرٌ

احاطہ کے حفاظت اور ستر و پردہ میں موجود اشیاء کے اور ان کی ادائیگی حق کے مطابق اور

إِحْسَانِكَ لِخَلْقِكَ وَقَدْرٌ عُلُوٌّ جَلَالَتِهِ وَمَهَابَتِهِ وَقَدْرٌ

خلق پر اپنے احسان کے مطابق اور ان کے علو جلالت و ہیبت کی مقدار اور ان کے اپنے ہاں

خَطْوَتِهِ لَدَيْكَ وَمَكَانَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مرتبہ و مقام کے مطابق - اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

قَدْرٌ ثَوَابِ نُبُوَّتِهِ وَرِسَالَتِهِ وَقَدْرٌ عِزَّتِهِ عَلَيْكَ وَدَلَالَتِهِ

ان کی ثبوت و رسالت کے ثواب کے مطابق اور ان کی عزت و قدر اور رہنمائی کے مطابق اور

وَقَدْرٌ رَجَاهِهِ السَّامِيَّ وَقَدْرٌ عِزِّ جَنَابِهِ الْحَامِيَّ وَقَدْرٌ خُلُوصِ

ان کی بلند قدر عزت ان کی حمایت والی بارگاہِ عز و نماز کے مطابق اور ان کے خلوص

مَحَبَّتِهِ وَقَدْرٌ سُبُوِّ رَفْعَتِهِ وَقَدْرٌ جَزِيلِ ثَوَابِهِ وَقَدْرٌ حُصُولِ

محبت اور بلندی رفعت کے مطابق اور ان کے عظیم ثواب اور میا اسباب ثواب

أَسْبَابِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرٌ رَجَائِهِ فِي اللَّهِ

کے مطابق - اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر مطابق ان کی امید کے اللہ تعالیٰ سے

وَقَدْرٌ حَيَاتِهِ مِنْ اللَّهِ وَقَدْرٌ ضِيَاءِ شَرِيعَتِهِ وَقَدْرٌ جَمِيلِ

اور شرم و حیا کے اس سے - اور ان کی شریعت کی ضیاء اور ان کی طریقت جمیلہ کے

طَرِيقَتِهِ وَقَدْرٌ كِمَالِ حَقِيقَتِهِ وَقَدْرٌ عِرْفَانِ مَعْرِفَتِهِ وَ

مطابق اور ان کے کمال حقیقت اور عرفان و معرفت کی مقدار اور

قَدْرٌ انْفِجَارِ انْوَارِهِ وَقَدْرٌ ظُهُورِ اسْرَارِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

ان کے انوار کے کمال ظہور اور اسرار کے انکشاف کے مطابق - اے اللہ صلوٰۃ کاملہ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا رَفَعًا مَقَامِهِ وَقَدْرَ نَفُوذِ أَحْكَامِهِ وَقَدْرَ

سیدنا محمد پر ان کی رفعت مقام کے مطابق اور نفوذ احکام - علم

عُلُوِّ هَيْبَتِهِ وَقَدْرَ مُحَبَّتِهِ لِأُمَّتِهِ وَقَدْرَ شَرَفِهِ فِي الدَّارَيْنِ وَ

ہمت اور امت سے محبت کی مقدار اور دارین میں ان کے

قَدْرَ فَضْلِهِ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَقَدْرَ مَا عَقَلَهُ

فضل و شرف کی مقدار اور تمام انبیاء و مرسلین پر فضیلت کے مطابق اور ان کے

الرَّاجِحِ وَقَدْرَ مَا عَمِلَهُ الصَّالِحِ وَرَأْيِهِ النَّاجِحِ وَقَدْرَ مَا ذَكَرَهُ

وزنی عقل اور عمل صالح اور کامیاب رائے کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے ذکر

بِاللَّهِ وَشَوْقَهُ إِلَيْهِ وَقَدْرَ وَثُوقِهِ بِاللَّهِ وَتَوَكُّلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ

اور شوق اللہ پر وثوق اور توکل کے مطابق - اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ لُطْفِ اللَّهِ بِهِ وَقَدْرَ تَخْصِيصِ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر ان پر اپنے لطف و کرم اور انہیں محبوبیت و

اللَّهِ إِلَيْكَ بِحُبِّهِ وَقُرْبِهِ وَقَدْرَ قِيَامِهِ بِالْعِبُودِيَّةِ وَقَدْرَ

تقرب کے ساتھ مخصوص فرمانے کی مقدار اور ان کے حق عبودیت کے قائم کرنے اور حقوق

إِعْتِنَائِهِ بِحُقُوقِ الرَّبُوبِيَّةِ وَقَدْرَ كَرَمِ اخْلَاقِهِ وَقَدْرَ طَيْبِ

ربوبیت کے اہتمام کی مقدار اور ان کے اخلاق کریمانہ اور ان کی رگوں کی پاکیزگی

أَعْرَاقِهِ وَقَدْرَ شِيَمَةِ الظَّاهِرَةِ وَقَدْرَ حِكْمَةِ الظَّاهِرَةِ وَ

اور پاکیزہ نصلتوں اور ظاہر و غالب حکمتوں اور

قَدْرَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ وَقَدْرَ خُشُوعِهِ وَخُضُوعِهِ اللَّهُمَّ

رکوع و سجد اور خشوع و خضوع کی مقدار - اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ يَقِينِهِ وَعِرْفَانِهِ وَقَدْرَ حَقِيقَتِهِ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر ان کے یقین و عرفان اور حقیقت

إِيمَانِهِ وَقَدْرُ جَلَالِ مَنْظِرِهِ وَقَدْرُ كَمَالِ مَظْهَرِهِ وَقَدْرُ جَمَالِهِ

ایمان اور جلالت منظر اور کمالیت منظر کے مطابق ان کے ان کے جمال

الرَّائِقِ وَقَدْرُ حُسْنِهِ الْفَائِقِ وَقَدْرُ عَظَمَةِ اللَّهِ وَقَدْرُ عِزَّتِ اللَّهِ

اور عمدہ و فائق حسن کے مطابق اور عظمت اللہ اور اس کی عزت

وَقَدْرُ نُصْرَةِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ عَرْشِكَ وَ

ونصرت کی مقدار۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر مطابق اپنے عرش اور

تَلَوْنِهِ وَكُرْسِيِّكَ وَتَكْوِينِهِ وَقَدْرَ فَضْلِ الْفَرَضِ وَالطُّوْلِ وَالْعَرْضِ

اس کی نیرنگیوں کے اور کرسی اور اس کے وجود کے اور مطابق فضیلت فرائض کے اور طول و عرض کے

وَقَدْرَ حَرَكَاتِ النَّبْضِ وَالْغَبْضِ وَقَدْرَ وَسْعِ كُرْسِيِّكَ الَّذِي وَسِعَ

اور نبض کی حرکات اور اشارات کے اور کرسی کی وسعت کے جس نے احاطہ کر لیا

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقَدْرَ قَهْرِمَانِ جَبْرُوتِكَ وَقَدْرَ جَلَالِكَ

ہے تمام آسمانوں اور زمینوں کا اور مطابق تیرے تسلط والے قہرمان کے اور تیرے جلال

الذَّاتِيَّ وَكَمَالِكَ الصِّفَاتِيَّ وَقَدْرَ كَلَامِكَ الْأَمْرِ وَالنَّاهِيَّ وَالْكَرَامِكَ

ذات کمال صفات کے اور امر و نہی والے کلام اور قابل فخر اکرام کے

الْبَاهِيَّ وَقَدْرَ سِتْرِكَ الْبَاطِنِيَّ وَلُطْفِكَ الْوَافِي الظَّاهِرِ وَالْخَافِي

اور دائمی ستر اور وافی و کافی اور ظاہر و باطن لطف و کرم کے مطابق

وَعَفْوِكَ الْعَافِيَّ وَتَوَالِكَ الْوَافِيَّ وَعَطَائِكَ الْكَافِيَّ وَقَدْرَ

اور اپنی عفو کامل اور جوہر اکمل اور عطاء کافی کے مطابق اور تیرے

إِحَاظَتِكَ بِالْمُقَدَّورَاتِ وَعِلْمِكَ بِالْمَوْجُودَاتِ وَحِلْمِكَ

مقدورات کے احاطہ۔ موجودات کے علم اور مخلوقات پر حلم اور

عَلَى الْمَخْلُوقَاتِ وَنِعْمِكَ عَلَى الْمَكْنُونَاتِ وَقَدْرَ حِلْمِكَ بَعْدَ

بہشتیہ اشیاء پر نعمتوں کے مطابق اور مطابق حلم کے باوجود

عَلَيْكَ وَوَابِلِ كَرَمِكَ وَقَدْرُ قَدْرِكَ الْعَظِيمِ وَفَضْلِكَ الْعَظِيمِ

علم کے اور بارانِ جود و کرم کے۔ اپنے قدرِ عظیم اور فضلِ عظیم و
وَالْجَسِيمِ وَكَرَمِكَ الْعَظِيمِ وَجَنَّاتِ النَّعِيمِ وَذَاتِكَ الْكَرِيمِ وَ

جسیمِ کرمِ عظیم اور جناتِ النعیم اور ذاتِ کریم اور
حَقِّ قُدْرَاهُ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ حَقِّ قُدْرَاهُ وَمِقْدَارِهِ وَقَدْرُ

محبوبِ کریم کی قدر و منزلت اور شانِ عظیم کے لائق اور مطابق تیرے
إِنْعَامِكَ عَلَيْهِ وَعِنَايَتِكَ بِهِ وَقَدْرُ كَمَالِ صَلَاتِكَ عَلَيْهِ

انعام کے اور عنایت کے ساتھ ان کے۔ اور تیری ان پر صلواتِ کاملہ
وَجَمَالِ نَظْرِكَ إِلَيْهِ وَقَدْرُ قَدْرِكَ لَدَيْهِ وَقَدْرُ حُبِّكَ إِيَّاهُ

اور نظرِ جمیلہ کے مطابق اور مطابق تیری قدر کے ان کے ہاں اور مطابق تیری محبت کے ساتھ ان
وَقَدْرُ مَا تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ وَقَدْرُ كِبْرِيَاءِكَ وَقَدْرُ عَظَمَةِ

کے اور بمقدار تیری محبت اور رضا کے اور تیری کبریائی اور عظمتِ ذات کے
ذَاتِكَ وَقَدْرُ عِزَّتِهِ عَلَيْكَ وَرَغْبَتِهِ فِي مَا لَدَيْكَ وَقَدْرُ مَا

مطابق اور ان کی تیرے ہاں عزت اور تیری نعمتوں میں رغبت کے مطابق اور ان کی تجھ سے
يُحِبُّكَ وَيَرْضَاكَ وَبِحُبِّ الْبَحْبُوبِ مُرْتَضَاكَ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي

محبت اور رضا مندی اور اپنے پسندیدہ محبوب کی محبت کے مطابق۔ اے اللہ مجھے تانترِ خطرات
عَنِ الْخَطَرَاتِ كُلِّهَا صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا الْمَانِعَةَ لِتَقْرُبِي بِالْأَرْوَاحِ

سے پاک فرما صغیر یا کبیر جو مانع ہوں میرے ارواحِ قدسیہ کے ساتھ
الْقُدْسِيَّةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْإِجَابَةُ لِصَرِيحِ كُلِّ نَاسُوتِي أَوْ مَلَكُوتِي

تقرب میں۔ اور اگر نہ پائی گئی قبولیت ہر جسمانی اور روحانی کی فریاد کی
لَسَدَّ طَرِيقَ الرَّحْمَةِ وَفَرَحَتِ الشَّيَاطِينُ النَّارِيَّةُ وَالْجِنَّاتُ

تو رحمت کا راستہ بند ہو جائے گا اور خوش ہو جائیں گے ناری اور جنادی شیاطین

الَّذِينَ حَبِئُوا عَنْ رِعَايَةِ الْحُقُوقِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْآخِرَوِيَّةِ الرَّحْمَانِيَّةِ

جنہیں محسوس نہ کیا گیا دنیوی اور اخروی رحمانی حقوق کی رعایت سے

فَالْجَنَّةُ مَعَ قُصُورِهَا وَأَنْهَارِهَا رَحْمَةً وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَبِحَيْ

پس جنت مع اپنے محلات اور انہار کے سراسر رحمت ہے۔ لیکن جو سعادت بخشے گئے تو وہ

رَحْمَةِ اللَّهِ وَالْمُظَاهِرِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَذَرَأَتِهَا تَصْرَخُ وَكُلُّ يَصْرَخُ

رحمت اللہ (جنت) میں ہیں اور تمام مظاہر رحمانیہ اور ان کے تمام ذرات فریادی ہیں اور ہر ایک اپنی

وَكَاسْتَعِيثُ عَلَى قَابِلِيَّتِهِ وَتَعَلُّقِهِ بِمُظْهِرٍ خَاصٍّ دُونَ خَاصِّ حَتَّى

قابلیت اور مظہر خاص سے تعلق کے مطابق فریاد کناں اور امداد طلب ہے حتیٰ کہ

الْأَشْجَارِ وَالْجِبَادَاتِ عَلَى حَسَبِ أَجْدَارِيَّتِهِ حَتَّى قُلَّتْ وَخَاطَبَتْ

نباتات اور جمادات بھی اپنی لیاقت کے مطابق حتیٰ کہ تو نے فرمایا اور خطاب کیا

لِذِكْرِيَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الصُّرَاخِ وَالِدَّاعُوَّةِ إِلَى الرَّحْمَةِ بَعْدَ مِ

ذکریا علیہ السلام کو وقت ان کی فریاد اور دعائے رحمت کے ساتھ

الْفُرَاخِ لِسُبْقَةِ الرَّحْمَةِ الْأَيْقَةِ بِالنُّبُوَّةِ الصُّبْرِيَّةِ السَّابِقَةِ الْجَمَالِيَّةِ

نہ گھبرانے کے بسبب سابق رحمت کے جو لائق ہے نبوت کے جو صبر والی ہے اور جمال و

الْكَمَالِيَّةِ عِنْدَ الْفُرْعِ الْأَكْبَرِ وَالْجَمَالِ الْجَاعِلِ وَقَدْ ظَنَّ الشَّيْطَانُ

کمال سابق والی ہے وقت بڑی گھبراہٹ کے اور جمال خالق کے جبکہ گمان کیا شیطان نے

سَدَّ طَرِيقَ الْإِجَابَةِ وَالرَّحْمَةِ فِيهِ وَهُوَ فِي عَيْنِ الرَّحْمَةِ لِتَقْدِيرِ

ان کے حتیٰ میں راہ اجابت و رحمت کی بندش کا حالانکہ وہ سراسر رحمت میں تھے بسبب عطاء نبوت

النُّبُوَّةِ الَّتِي هِيَ عَيْنُ ظُهُورِ الْمَالِكِيَّةِ وَالسُّلْطَنَةِ الْمَجْرَدَةِ عَنْ

کے جو کہ سراسر ظہور ہے مالکیت اور سلطنت کا جو مجرد ہے

شَوَائِبِ الظُّلْمَةِ مِنْ تَعْيِّنَاتِ الْمُقَيَّدَةِ وَالشُّهُورِيَّاتِ الْمُتَعَدِّدَةِ

ظلمت کی ملاوٹوں سے یعنی تعینات مقیدہ اور خواہشات متعددہ سے

وَلَمْ يَكُنْ زَكْرِيَّا مَكشُوفَ الْحَالِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وَإِلَّا لَمْ يَقْصِدْ

اور نہیں تھے زکریا علیہ السلام اس حالت میں حقیقت حال سے باخبر ورنہ فریاد اور

إِلَى الصُّرَاخِ وَالِاسْتِعَانَةِ بَلْ مَنَعَ الْقَلْبَ عَنِ الدَّعْوَةِ الْحَقِيقِيَّةِ

استغاثہ کا قصد نہ کرتے بلکہ روک لیتے اپنے دل کو بھی حقیقی دعا سے

لِيُصَالِحَ إِلَى الْحَقِّ بِسَبَبِ دَاءٍ شَدِيدٍ إِلَيْهِمْ مُفَرِّقٍ لِلْهَيْئَةِ

بسبب ان کے واصل الی الحق ہونے کے اس سخت دردناک بیماری سے جو ہیئت

الْبَدَنِیَّةِ قِيَا لِلَّهِ كُلِّ مَوْجُودٍ أَنْتَ رَحِيمٌ رَحِيمٌ يَا سَتَعْدَادِ

بدنیہ کو پارہ پارہ کرنے والی تھی۔ اے ہر موجود کے معبود تو ہی رحیم ہے مجھ پر رحم فرماتے ہوئے خاص استعداد

الْخَاصِّ حَتَّى اتَّرَقَى فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَبِرْهَةٍ مِّنْ غَيْرِ مَانِعٍ جَسَدِيٍّ أَوْ

عطا فرماتا کہ میں ہر لمحہ اور ہر آن ترقی کر سکوں بغیر کسی جسمانی۔ قلبی مانع

قَلْبِيٍّ أَوْ غَلْبَةِ نَفْسٍ أَمَّا رِيَّةٌ مُلْحَقَةٌ بِنَارِيَّةٍ وَهَارِيَّةٌ اللَّهُمَّ

کے اور نفس امارہ کے غلبہ کے جو ناری اور تنزل پذیر اشیاء سے لاحق کر نیوالا ہے۔ اے اللہ

أَنْتَ تَامُّ الْوُجُودِ وَالْمُكْمَلُ وَالْمُتَمِّمُ لِلنَّاقِصِ فِي الْوُجُودِ وَ

تو موجود کامل ہے اور ناقص الوجود اشیاء کو مکمل اور تمام کرنے والا ہے اور

كُلُّ ذَرَّةٍ كَامِلَةٌ عَلَى حَسَبِ أَجْدَارِيَّتِهِ فَإِنَّا النَّاقِصُ الْفَقِيرُ

ہر ذرہ کامل ہے اپنی لیاقت کے مطابق تو میں بھی ناقص و محتاج ہوں

إِلَيْكَ مِنْ كُلِّ طَوْرٍ وَطَرِيقٍ حَتَّى لَا يَنْسَبَ قَوْلِي وَلَا وَهْبِي

تیری طرف ہر طور اور طریقہ سے حتی کہ نہ منسوب کیا جائے میرا قول اور وہم و گمان

مُجَرَّدًا عَنِ مَعْلُولٍ أَوْ عِلَّةٍ أَوْ شَرْطٍ مُتَوَقِّفٍ عَلَيْهِ إِلَى عِبْتِ عِنْدَ

در آغائیکہ وہ خالی ہو معلول یا علت یا شرط سے جس پر وہ موقوف ہو طرف عبث اور لغویت کے

أَصْحَابِ الْكِمَالِ بَلْ كُلُّ يَجْرِي عَلَى شَاكِلَةٍ وَدَوْرَانِي مِنَ الْهَلَاكِ

اور باب کمال کے ہاں بلکہ جاری ہو ہر ایک خاص طریقہ پر اور پھیر دے مجھے ہا

إِلٰهِي إِلَى الْهَاءِ الْهَوِيَّ وَأَجْعَلْنِي كَالنَّقْطَةِ الْوَاصِلَةِ إِلَيْهَا

الہی سے ہاء ہویت کی طرف اور بنادے مجھے مانند اس مرکزی نقطہ کے جس کی طرف واصل ہوں

خُطُوطٍ جَمِيعِ الْأَقْطَارِ وَالْجَوَانِبِ فَتُفِيضُ عَلَيْنَا شِعَاعَاتٍ

تمام اطراف و جوانب کے خطوط پس فائض ہوں ہم پر وہ شعاعیں

مَجَلَّاتٍ بِالْحَمَالِ مُتَحَلِّيَةٍ بِالْجَلَالِ مُتَقَعِّرَةٌ فِي الْكَمَالِ جَابِرَةٌ

جو روشن ہوں جمال حق کے ساتھ آراستہ ہوں جلال حق کے ساتھ، کمال کی گدائی ہمک واصل ہوں، شکستگی و خواہ کو

دَائِرَةٌ تَنْتَهِي بِدَائِرَةِ تَامَةِ إِلٰهِي الْأَعْرَاقُ مُتَعَاقِبَةٌ غَيْرُ مَتَنَاهِيَةٍ

دور کرنے والی ہوں اور لذت تامہ کے ساتھ گردش کرنے والی۔ اے میرے التیری نعمتیں مسلسل ہیں بے حد

ظَاهِرَةٌ مَحْجُوبَةٌ عَنْ تَعْدِيدٍ وَاحْصَاءٍ بَلْ مُتَحَيِّرَةٌ فِي قُوَّةٍ

اور ظاہر ہیں ان کی گنتی و شمار ممنوع ہے۔ بلکہ آنکھ کو حیرت زدہ

بَاصِرَةٌ فَحَمْدُكَ طَوِيلٌ وَشُكْرُكَ عَسِيرٌ وَلَطْفُكَ يَسِيرٌ وَالْأَكْيَفُ

کرنے والی ہیں، پس تیری حمد کا سلسلہ دراز ہے۔ تیرا شکر دشوار ہے اور تیرا لطف و کرم موجب تیسیر ہے ورنہ میں کیسے

أَنَا مُصِيبٌ إِلٰهِي قَدْ تَمَّتِ الْحَرَكَاتُ فِي الشَّخْصِيَّاتِ وَالسُّكْنِيَّاتِ

حمد و شکر تک پہنچا۔ اے میرے الٰہ مکمل ہو چکی ہیں حرکات اشخاص میں اور سکناات

فِي الْمَاهِيَّاتِ الْفَلَكَيَّاتِ بِجَعْلِهَا مِنْكَ إِلَى هَذِهِ الْهَيْئَاتِ فَكَلَّمْنِي

ماہیات فلکیہ میں بسبب تیرے پھیرنے کے انہیں ان حالات و کیفیات کی طرف لہذا مجھے کامل فرما

الْآنَ وَالْآتِي حَتَّى أَتَصَرَّفَ كُلًّا فِي مَرْكَزِهِ وَمَحَلِّهِ مَعَ بَصِيرَةٍ

اب اور آئندہ زمانہ میں تاکہ میں تصرف کر سکوں ہر ایک کے مرکز اور محل میں ساتھ بصیرت کے

عَرَافَةٍ لِّجُزْئِيَّاتٍ لِأَحْقَاقِهِ مُنْذَرَجَةٌ تَحْتَ وَلايَةِ كَلِيَّةٍ بِحَيْثُ

جو پہچان کرائے جزئیات لاحقہ کی جو مندرج ہیں ولایت کلیہ کے تحت اس حیثیت سے

يُؤَافِقُهَا وَلايَةُ الْأَقْطَابِيَّةِ وَالْأَوْتَادِيَّةِ مَعَ فُنُونِ طُرُقِهَا

کہ موافق ہو اس کے ولایت اقطابیہ و اوتادیہ مع اپنے مختلف طریقوں کے

طَاوِيَةً لِّعَلِيٍّ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا اللَّهُمَّ

لپٹنے والی ہو میرے ظاہری اور باطنی علم کو ان کے ظاہر سے۔ اے اللہ میرے اوقات کو

أَوْقَاتِي وَتَتِمُّمِ أَنْتَ بِحَيْثُ أَخَالَصُهَا مِنْ تَشْوِيشَاتِ خَطَرَاتِي

کامل فرما اور آفات کو مکمل فرما اس انداز سے کہ میں ان کو خالص کر لوں قلبی خیالات کی تشویش سے

وَوَسَاوِسِ خَنَاسِي وَلَا تُخَالِجْ سِرِّي بَلْ سَامِحْنِي وَإِلَّا كَيْفَ

اور اپنے خناس کے وسوسوں سے اور میرے باطن میں اضطراب پیدا نہ کرے بلکہ تو مجھ سے درگزر فرما ورنہ کس طرح

وَصَلَّ بِكَ مَنْ وَقَعَ فِي ظُلُمَاتِ صَلْصَالِيَةِ أَمْرَهَا الْمُنْجِدِ

واصل ہو گا تیرے تک جو گر جائے اپنے ارضی خمیر کی ظلمات میں جس کا انجام

إِلَى الْغَوَايَةِ يَا أَحَدُ الصَّمَدِ الْغَنِيِّ الْمَطْلُوقِ أَطْلِقْنِي وَلَا تُقَيِّدْنِي

گمراہی ہے۔ اے احد۔ اے صمد۔ اے غنی مطلق مجھے آزاد فرما اور مقید نہ فرما

يَا أَيُّ كَوْنٍ وَوَصِفِ أَيْ وَصِفِ رَدِّي أَوْ نَقِي بَلْ اجْعَلْنِي

کسی وجود اور وصف کے ساتھ رومی ہو وہ وصف یا پاکیزہ، بلکہ بنا مجھے

سَاتِرًا فِي عَيْنِ كَوْنٍ هُوِيَّةٍ وَاحِدِيَّةٍ مَعَ فَيْضِ أَيْضِ أَحَدِيَّةٍ

صاحب ستر ہویت واحدیہ کے عین وجود میں وجود میں جمع احدیت کے فیوضات کے

اللَّهُمَّ عَلِيٌّ قَاصِرٌ وَعُرْفَانِي ظَنُّنْ وَمَقْدَامَاتِي شَكِيَّةٌ فَرِيْنَا عَلِي

اے اللہ میرا علم قاصر اور معرفت ناقابل وثوق اور میرے مقدمات دلیل مشکوک ہیں پس تو ہیں مزین فرما

وَجْهٍ كِبَالٍ عِنْدَ ذِي جَلَالٍ فِي مَقَرَّةٍ عِنْدَ ذِي جَبَالٍ فِي مَقَرَّةٍ

کامل طریقہ پر ہر صاحب جلال کے نزدیک اور ہر صاحب جمال کے نزدیک ان کے مقام استقرار میں

أَمِينٌ مَعَ فَلَكَ وَمُلْكِهِ اللَّهُمَّ أَكْرَمْتَنِي بِالْإِطْلَاعِ عَلَيَّ قَضَائِكَ

آمین جمع اس کے فلک اور ملک کے۔ اے اللہ مجھے عزت بخش اپنی قضاء و قدر پر

وَقَدْرِكَ حَتَّى لَا أَنْزِعَ فِي كُلِّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ بِلَا إِرَادَةٍ شَيْءٍ

اطلاع کے ساتھ حتی کہ نہ نزاع کروں میں کسی فعل اور قول میں بغیر سمانی

سَاوِيٍّ وَأَرْضِيٍّ فَتَفْرِيقُكَ بَعْدَ الْجَمْعِ وَالْجَمْعُ بَعْدَ التَّفْرِيقِ

اور ارضی شے کے ارادہ کے پس تیرا جدا کرنا بعد جمعیت (عطا کرنے) کے اور جمعیت بختنا بعد جدا کرنے کے

عَدْلٌ عَلَىٰ وَجْهِ حِكْمَتِكَ وَإِرَادَتِكَ وَاجْعَلْنِي عَادِلًا فِي كُلِّ

عدل محض ہے تیری حکمت و ارادہ کے مطابق اور بنا مجھے عدل والا ہر

إِضَافَةٍ وَمُرْتَبَةٍ حَادِثَةٍ جَدِيدَةٍ أَوْ قَدَائِمَةٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ

نسبت اور مرتبہ میں نیا ہو یا پرانا - لے اللہ میں تجھ سے پناہ

بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدِّينِ وَالْعُدُوِّ وَمِنْ بَوَارِقِ الأَيِّمِ وَمِنْ فِتْنَةِ

طلب کرتا ہوں قرض اور دشمن کے غلبہ سے - اور غیر شادی شدہ عورتوں کی ہلاکتوں،

المَسِيحِ الدَّجَالِ وَمِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ وَمِنْ فِتْنَةِ

مسیح دجال کے فتنہ اور عورتوں، مردوں کے فتنہ سے - اور

الْبَلَاءِ وَالْوَبَالِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ابْلِيسَ وَجُنُودِهِ

بلاء و دجال کے فتنہ سے - لے اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری ابلیس سے اور اس کے لشکروں سے

وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ تُصَدِّعَنِي وَجْهَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَعُوذُ بِكَ

اور پناہ طلب کرتا ہوں کہ تو روک دے مجھے اپنے دیدار سے قیامت کے روز اور پناہ طلب کرتا ہوں

مِنْ شَرِّ مَا اقْتَرَفْتُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ جُهْدِ البَلَاءِ وَمِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ

اپنے عمل کے شر سے اور بیات کی مشقت سے اور عذاب آخرت سے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ أَمَلٍ يُلْهِمُنِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ فَقْرٍ

لے اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں ہر غافل کرنے والی آرزو سے - اور تجھے بھلانے والے فقر سے

يُنْسِينِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ غَنِيٍّ يُطْغِينِي وَمِنْ كُلِّ عَمَلٍ يُخْزِينِي

اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہر غنی سے جو مجھے سرکش بنا دے اور ہر عمل سے جو رسوا کرے

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ صَاحِبٍ يُؤْذِينِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

اور پناہ طلب کرتا ہوں ہر ساتھی سے جو مجھے ایذا دے - لے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں

ضَيْقُ الدُّنْيَا وَضَيْقُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ مَوْتٍ

دنیا کی تنگی اور روز قیامت کی تنگی سے اور غم و اندوہ والی

الْغَمِّ وَالْهَمِّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَأَنَا

مدت سے۔ اے اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے

أَعْلَمُ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ ثَبَّتْ عَنْهُ وَتَبَرَّاتُ مِنْ

سے جبکہ میں اس کا علم رکھتا ہوں۔ اور میں استغفار کرتا ہوں تجھ سے جن کا علم نہیں رکھتا۔ میں نے ان سے توبہ کی اور برات ظاہر

الْكُفْرِ وَالشِّرْكَ وَالْكَذِبَ وَالْغَيْبَةَ وَالْبِدْعَةَ وَالنِّيبَةَ وَالْفَحْشَ

کی کفر و شرک سے اور غلط بیانی و غیبت سے اور بدعت و چغلیجوری سے اور بد کلامی

وَالْبُهْتَانَ وَالْمَعَاصِيَ كُلَّهَا وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ

و بہتان تراشی اور تمام تر گناہوں سے اور میں اقرار کرتا ہوں "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ"

اللَّهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَبِاسْمِكَ الْعَظِيمِ

کا۔ اے اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری ذات کریمہ اور عظیم نام کے وسیلہ سے

مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَنْ يَشِيءُ عَلَيَّ بَطْنِهِ وَعَلَى

کفر و فقر سے اور تیری پناہ حاصل کرتا ہوں ہر اس شئی کے شر سے جو پیٹ کے بل چلے یا

رَجُلَيْنِ وَعَلَى أَرْبَعِ اللَّهِمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ امْرَأَةٍ تَشِيءُ مِنِّي قَبْلَ

دو قدموں پر یا چار پر۔ اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں اس عورت سے جو مجھے بوڑھا کرے

الْمَشِيِّبِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ مَنْ وَلَدًا يَكُونُ عَلَيَّ وَيَأْتِي مِنِّي مَالٍ يَكُونُ

بڑھاپے کے وقت سے پہلے اور پناہ طلب کرتا ہوں اس اولاد سے جو مجھ پر وبال ہو اور اس مال سے جو

عَلَيَّ عَدَاوَاتٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ صَاحِبِ خَدِيْعَةٍ إِنْ رَأَى حَسَنَةً

مجھ پر عذاب ہو اور ایسے دھوکا باز سے جو نیکی دیکھے تو اس کو

دَفَنَهَا وَإِنْ رَأَى سَيِّئَةً أَفْشَاهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

دن کر دے اور برائی دیکھے تو اس کو شاخ کرے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا رُضِكَ وَسَوَاتِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر اپنی زمین اور آسمانوں کی مقدار۔ اے اللہ میں

أَعُوذُ بِكَ مِنْ بَطْرِ الْغَيْبِ وَمِدَالَةِ الْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ

تجھ سے پناہ حاصل کرتا ہوں غنا کے غرور و تکبر سے اور فقر کی ذلت سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں

فِي الْحَقِّ بَعْدَ الْيَقِينِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمِنْ

حق میں شک کرنے سے بعد حصول یقین کے اور پناہ طلب کرتا ہوں تیری شیطان رجیم سے اور

هَوْلِ يَوْمِ الدِّينِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مَوْتِ الْفَجْأَةِ وَمِنْ

قیامت کی ہولناکی سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں اچانک موت سے اور

لُدْغَةِ الْحَيَّةِ وَمِنَ السَّبْعِ وَمِنَ الْغُرُقِ وَالْحَرَقِ وَمِنْ أَنْ أُخْرَأَ

سانپ کے ڈسنے سے اور درندہ سے اور غرق ہونے اور جلنے سے اور کسی شئی پر گر پڑنے سے

عَلَىٰ شَيْءٍ وَوَمِنَ الْقَتْلِ عِنْدَ فِرَارِ الرَّحْفِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور شکر کے فرار کے وقت قتل ہونے سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَاتِكَ اللَّهُمَّ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اپنی قدرت کاملہ کے مطابق۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَأَىٰ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر اپنے

مَعْلُومَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

معلومات کے مطابق۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ قَدْ رَادَتْكَ فِي مَصْنُوعَاتِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

پر اپنے مصنوعات کے ارادہ کے مطابق۔ اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں

الْفَقْرِ إِلَّا إِلَيْكَ وَمِنَ الدُّلِّ إِلَّا لَكَ وَمِنَ الْخَوْفِ إِلَّا مِنْكَ

فقر سے مگر طرف تیرے اور تواضع و انکساری سے مگر واسطے تیرے اور خوف سے مگر تجھ سے

وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَقُولَ زُورًا أَوْ أَغْشَى فُجُورًا أَوْ أَكُونَ بِكَ

اور پناہ حاصل کرتا ہوں تیری جھوٹ بولنے سے۔ یا برائی کرنے سے۔ یا تیرے ساتھ

مَعْرُورًا أَوْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَعُضَالِ الدَّاءِ وَ

غزور کرنے سے۔ اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں دشمنوں کی شادمانی سے اور سخت بیماری سے اور

خَيْبَةِ الرَّجَاءِ وَتُرْوَالِ النِّعْمَةِ وَفَجَاةِ الثَّقَمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

امید میں ناکامی سے اور نعمت کے زوال اور اچانک انتقام کے ساتھ دوچار ہونے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَمَظَاهِرِ اسْمَائِكَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر تیرے مظاہر اسماء کے مطابق

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر تیرے

مَظَاهِرِ صِفَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

مظاہر صفات کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَادَتْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کی آل پر تیرے ارادہ کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ سَحَّابِ غُفْرَانِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آپ کی آل پر تیری بخشش کے بادلوں کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَمَّزَتْ بِحِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اپنی رضا کے عطیات

رِضْوَانِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ قَدْ رِنَعْمِ جَنَّاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پر اپنی جنتوں کی نعمتوں کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرُ نُورِكَ الْأُسْنَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

اور آپ کی آل پر اپنے عالی شان نور کے مناسب۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرُ قُدْرِكَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اپنی بلند ترین شان کے

الْأُسْنَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مناسب۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

قَدْرُ ذِكْرِكَ لَهُ بِالثَّنَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضَّنْبِ وَالضَّنْبِ

مطابق تیرے ان کائنات کے ساتھ تذکرہ کرنے کے۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کمزور رائے والے اور ضعف

وَالضُّعْفِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الضَّبْعِ وَالضَّبْجَنِ وَالضَّاحِجِ وَالضُّوْعِ

رائے اور ذبح کئے جانے سے۔ اور پناہ حاصل کرتا ہوں تیری ظلم کرنے سے اور بے برکتی سے اور احمق و حماقت

وَالضَّيْعِ وَالضِّيَاءِ وَالزَّلْعِ وَالزَّمْعِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَاءِ وَوُفٍ وَ

اور بیچ و تباہی اور ہلاکت سے اور تلف ہونے سے اور دھوکہ دئے جانے اور زوالت سے اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں

الْمَوْءُوفِ وَالْمُدَّوْفِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الرَّقِّ وَالرَّقِيقِ وَالرُّقَاقِ

معطل حواس والے اور آفت زدہ سے اور مخلوط و نسب سے اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں غلامی اور غلام سے اور بنجرین

وَالرَّقِيقِ وَالرَّقِيقِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الزُّبُولِ وَالذُّبَالِ وَالذُّبَالَةِ

اور کمزوری سے اور گدلا پن سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں مرجھانے اور لاغر ہونے اور دہلا پن سے

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الدُّهُولِ وَالذُّهْلَةِ وَالذُّهُولَةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّنْكِ

اور پناہ حاصل کرتا ہوں بھول و نسیان اور غفلت سے۔ اور میں پناہ حاصل کرتا ہوں تیری ذات کے ساتھ سے

وَالشَّنْكِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَرْقِ وَالْحَرِيقِ وَالْحَرَّاقِ

پھانسی دئے جانے سے اور سولی پر لٹکائے ہوئے سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں جلنے سے اور آگ سے اور جلانے والے

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الدَّلِيقِ وَالذَّلِيقِ وَالذُّهْوِقِ وَالذُّهْوِقِ اللَّهُمَّ

سے اور میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں زبان کی تیزی اور تیز زبان سے اور مٹنے اور نیست و نابود ہونے سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا سُبْحَانَكَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اپنے اسماء حسنی

الْحُسْنَى اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغُرْمِ وَالْغُرْمِ وَالْهَزَامِ اللَّهُمَّ

کے مطابق۔ اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں تاوان و قرض اور شکست سے۔ اے اللہ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اللَّيِّمِ وَاللِّيَامِ وَالْخَيْمِ وَالْخِيَامِ اللَّهُمَّ إِنِّي

میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں کینے اور کینگی سے اور بزدلی اور ضعف طبیعت سے۔ اے اللہ میں

أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّزَاءِ وَالنِّزَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّكْلِ وَالتَّكَالِ وَ

تیری پناہ طلب کرتا ہوں اچھلنے کودنے اور شہوت رانی سے۔ اور پناہ طلب کرتا ہوں تجھ سے مضبوط بیڑی سے عزت ناک

التَّكُولِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الدَّفْرِ وَالْأَذْفِرِ وَأَعُوذُ بِكَ

سزا اور بزدلی و پسپائی سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بد بو داری اور بد بو دار سے اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں

مِنَ الْعِشَاءِ وَالْعِشَّانِ وَالْغَشْيَانِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْءِ وَالشَّيْءِ وَ

حجاب و پردہ اور دھوکہ بازی اور بے ہوشی سے اور میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں مکر اور مکار سے۔ اور

الْكَيْدِ وَالْكِيَادِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعُنَادِ وَالْعُنَادِ وَأَعُوذُ

دھوکہ اور دھوکا باز سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں صاحب عناد اور عناد سے اور میں تیری پناہ

بِكَ مِنَ الْخَشْمِ وَتَخَشُّمِ وَالشَّمِّ وَالشَّمِّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

حاصل کرتا ہوں غصہ اور غصہ میں سختی سے اور بڑائی اور پراگندگی سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں

مِنَ الْكُتْمِ وَاللَّكْتِمِ وَالْعَدَمِ وَالْتَّعَدُّمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الرَّسْمِ

(حق کو چھپانے اور حق پوشی کی سعی سے۔ معدوم ہونے سے اور اس کی سعی سے۔ اور پناہ حاصل کرتا ہوں منزل کی بربادی

وَالرَّسْمِ وَالْخَصْمِ وَالْتَّخَصُّمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشُّوْصِ وَالشُّوْصِ

اور برباد منزل کو دیکھنے سے اور جھگڑالو سے اور جھگڑانے سے اور تیری پناہ حاصل کرتا ہوں بھڑکتے شتر سے اور ناکارہ ہونے

وَالشَّقِيقِصِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّطِّ وَالشَّحِطِ وَالشَّحُوطِ وَالشَّطَاوِ

سے اور شرکت سے۔ اور میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں ظلم اور آلودگی اور ایذا رسانی اور دوری سے

السُّطُطِ وَالشُّبُطِ وَالشَّمَاطِيطِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشُّبْدَعِ

تندی اور اختلاط اور گروہ بندی سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بچھو سے

وَالشُّتَعِ وَالشَّفَعِ وَالشَّقِيعِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّمْعِ شِعَا شِعْوًا شَمِعًا

اور بے صبری سے۔ اور (برے) جفت سے اور پانی میں گرنے سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں لہو و لعاب اور

الشَّيْءُ مَشْبَعَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغُرُورِ وَالزُّورِ وَالْفُجُورِ

مزاح اور اختلاط سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں دھوکہ کھانے، جھوٹ بولنے اور بدکاری سے

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغِبَاوَةِ وَالْغَبِيِّ وَالْبَغَاوَةِ وَالْبَغْيِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ

اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں عبادت اور غبی سے اور بغاوت و حسد سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب

بِكَ مِنَ الدِّمِّ وَالذَّمِّ وَالذَّمِيمِ وَالذَّمَائِمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّمِّ وَالتَّمَامِ

کرتا ہوں مذمت اور مذموم سے اور میری عادات سے۔ اور پناہ حاصل کرتا ہوں چنل نخوری اور چنل خور سے

وَالنُّمُومِ وَالنَّمِيمِ وَالنَّمَائِمِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَضِ وَ

اور چنل کھانے۔ چنل کھانے والے اور چنلیوں سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں نشانہ بننے سے اور

الْمَرَضِ وَالْقَرَضِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الذَّبِّ وَالذَّابِّ وَالذُّوْبِ وَالذُّوْبَابِ

مرض و قرض سے۔ اور تیری پناہ حاصل کرتا ہوں راندے جانے سے اور راندنے والے سے اور بچھنے سے

وَالذَّنْبِ وَالذُّنُوبِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الزُّوْجِرِ وَالْفَوَاجِرِ

اور گناہ اور آثام سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں جھڑکنے والوں اور گناہگاروں سے

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَذْبِ وَالْمَجْدُورِ وَالْغَدْرِ وَالْغَدَارِ اللَّهُمَّ

اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کٹنے سے اور کاٹے ہوئے سے اور عمد شکنی اور عمد شکن سے۔ اے اللہ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخَخَةِ وَالْخَخِخَةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ السَّرْبَالِ وَالطَّرْبَالِ

میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں دھتکار سے اور دھتکارے جانے سے اور پناہ طلب کرتا ہوں (جہنمی) لباس اور بلند پہاڑ سے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُمِّ وَالطَّمِيعِ وَالصَّلَعِ وَالْأَصْلَعِ وَأَعُوذُ بِكَ

اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں چوری اور طمع سے اور گنچے پن سے اور گنچے سے۔ اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں

مِنَ الشَّنِيعِ وَالشَّنَائِعِ وَالذَّرَاعِ وَالذَّرَائِعِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

تبیح اور قباحتوں سے اور سفارش سے اور وسائل و ذرائع سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں

مِنَ الشُّنُوعِ وَالشَّنَاعَةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشُّمَاتِ وَالشُّمَاتِ

عیب لگانے اور عیب دار ہونے سے اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں بد اندیشیوں سے اور ان کی خوشی سے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ قَدْ رَأَى أَحْسَانِكَ عَلَيْهِ وَبَرَكَاتِكَ إِلَيْهِ وَ

اے اللہ صلوٰۃ کاملہ نازل فرما محمد کریم پر مطابق اپنے احسانات اور برکات کے ان پر اور

قَدْ رَحَلَاوَةٌ ذِكْرِكَ وَمَزِيدٍ شُكْرِكَ وَسُرْعَةً بِطِشِكَ وَقَدْ رَمَعْرِفَتِهِ

مطابق اپنے ذکر کی جلالت اور مزید شکر کے اور تیز گرفت کے اور مطابق ان کی معرفت کے ساتھ

بِحَقِيصَةٍ حَقِّكَ وَتَخْلُقُهُ بِخُلُقِكَ وَشَفَقْتِهِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ وَ

تیرے حق کی حقانیت کے اور ان کے متعلق ہونے کے ساتھ تیرے اخلاق کے اور ان کی شفقت کے اور تیری تمام مخلوق

إِحْسَانِكَ لِخَلْقِكَ وَقَدْ رَأَى لِحَقِّكَ وَقَدْ رَعُو جَلَالَتِهِ

کے اور تیرے احسان کے اپنی مخلوق پر اور مطابق ادا کرنے کے تیرے حق کو اور مطابق ان کی جلالت

وَمَهَابَتِهِ وَخَطْوَتِهِ لَدَيْكَ وَمَكَانَتِهِ وَثَوَابِ نُبُوَّتِهِ وَأُجُورِ

و عالی مرتبت اور ہیبت کے اور اقبال مندی کے اور مرتبہ کے اور ثواب نبوت اور اجر ہائے

رِسَالَتِهِ وَعِزَّتِهِ عَلَيْكَ وَدَلَالَتِهِ وَخُلُوصِ مَحَبَّتِهِ وَسُؤُو

رسالت کے اور تیرے ہاں حرمت اور تیری طرف رہنمائی کے اور خلوص محبت، بندی

رَفْعَتِهِ وَجَزِيلِ ثَوَابِهِ وَحُصُولِ أَسْبَابِهِ وَجَمِيلِ طَرِيقَتِهِ

ورفعت اور عظیم ثواب اور اس کے جملہ اسباب کے حصول کے مطابق اور ان کے جمیل طریقہ

وَضِيَاءِ شَرِيعَتِهِ وَإِنْفِجَارِ أَنْوَارِهِ وَظُهُورِ أَسْرَارِهِ وَإِرْتِفَاعِ

روشن شریعت، جاری و ساری انوار اور ظاہر و باہر اسرار اور ریف

مَقَامِهِ وَنُقُودِ أَحْكَامِهِ وَتَبْلِيغِهِ وَإِعْلَامِهِ وَعُلُوِّ هَيْبَتِهِ وَ

مقام، نافذ احکام اور تبلیغ رسالت اور اعلام و تعلیم، عالی ہمتی اور

مَحَبَّتِهِ لِأُمَّتِهِ وَقَدْرَ شَرَفِهِ فِي الدَّارَيْنِ وَفَضْلِهِ عَلَى جَمِيعِ

امت سے محبت اور دارین میں شرف اور تمام

الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَقَدْرَ عَقْلِهِ الرَّاجِحِ وَقَدْرَ شُغْلِهِ بِاللَّهِ وَ

انبیاء و مرسلین پر فضیلت کے مطابق ان کے مدنی عقل، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قلبی لگاؤ،

قِيَامِهِ لِلَّهِ وَرَجَائِهِ فِي اللَّهِ وَحَيَاتِهِ مِنَ اللَّهِ وَقَدْرَ رَجَائِهِ

اللہ کے لیے قیام اور اس سے رجاء و امید اور شرم و حیا اور ان کے جاہ و مرتبت والا

السَّامِيَّ وَعِزِّ جَنَابِهِ الْحَامِيَّ وَقَدْرَ إِقْتِدَارِكَ عَلَى مَا خَلَقْتَ وَ

اور بارگاہ حفظ و نگہداشت کی عزت اور مخلوقات پر اقتدار کے مطابق، اپنی مخلوقات پر

قِيَامِكَ عَلَى مَا كَوْنْتَ وَنَهَيْتَ وَأَمَرْتَ وَإِحَاطَتِكَ بِمَا قَضَيْتَ

کنٹرول اور امر و نہی کے مطابق اور اپنے احاطہ کے ساتھ اپنی قضا

وَحَفِظْتَ وَسَتَرْتَ وَمَا خَلَقْتَ وَأَحْيَيْتَ يَا عَلَّامَ الْغُيُوبِ فَلَا

اور حفاظت و ستر کے اور پیدا فرمانے اور زندہ فرمانے کے مطابق اے سب غیب کے عالم جس کی

يَفُوتُ شَيْءٌ مِّنْ حِفْظِهِ عَلَيَّ بِتَعْلِيمَاتِ لَدُنِّيَّةٍ مُّطَابِقَةٍ

حفاظت سے کوئی چیز نہیں نکل سکتی۔ مجھے تعلیم دے ان لدنی تعلیمات کے ساتھ جو مطابق ہیں

لِيَا فِي غَيْبِكَ وَسِرِّكَ مِنْ مَّوْضُوعَاتِكَ الْمَطْلُوقَةِ وَإِصْطِلَاحَاتِ

تیرے غیب و اسرار کے تیرے موضوعات مطلقہ اور اصطلاحات

الْكَلِمَةِ الْمَرْبُوطَةِ بِهَا مَثَلَاتٌ وَجُزْئِيَّاتٌ شَوَاهِدَاتٌ تَقَرَّرَتْ

کلمہ سے جن کے ساتھ متعلق ہیں مثالیں اور جزئیات مشاہدہ جو قرار پذیر ہیں

فِي أَذْهَانِ عِبَادِكَ الْمُخْلِصِينَ مِنَ الْيَقِينَاتِ الصَّادِقَةِ عَلَيْهَا

تیرے مخلص بندوں کے ذہنوں میں جن پر اول و آخر یقینات

أَوْلَىٰ وَأَخْرَأَمِنْ حَيْثُ إِنَّمَا هِيَ فَاجْعَلْهَا لِعِبْدِكَ الدَّلِيلَ

صادق آتی ہیں باعتبار ان کی ذاتی حیثیت کے لہذا اپنے اس عبد حقیر کے لیے

بِالْفِعْلِ مَلَكَ الْإِنصَافِ وَالْإِتِّصَالِ بِمَقَدِّمَاتِ أَوْلِيَاءِ

پیدا فرما ملکہ و استعداد انصاف و اتصال کا ساتھ مقدمات اولیہ کے پھر

مَشْهُورَاتٍ مُّسَلَّمَاتٍ بِحَيْثُ تَحْصُلُ لَنَا مِنْ غَيْرِ تَوْقِفٍ عَلَى

مشہورات و مسلمات کے اس انداز سے کہ حاصل ہو جائیں ہمیں بغیر کسی توقف کے اور

شَرْطٍ أَوْ عِلَّةٍ بَلِ اجْعَلْ جَوْهَرِي وَنَفْسِي النَّاطِقَةَ مُتَبِعًا بِحُجُومِ

کسی شرط یا علت کے بلکہ بناوے میرے جوہر ذات اور نفس ناطقہ کو سرچشمہ غیبی علوم کے

الْعُلُومِ الْغَيْبِيَّةِ الَّتِي الْبَسْتَهَا بِهَا وَعَلَّمْتَنَا بِتَكْيِيفِ الْخَارِجِ

سمندروں کا جن کو تو نے اس کا لباس بنایا اور ہمیں ان کے خارج کی کیفیات کی تعلیم دی

لِلرُّشَادِ الْمُرْشِدِينَ الْمُسْتَرِشِدِينَ بِأُطْلَاقِهَا حَيْثُ شِئْتَ ثُمَّ

بسبب بھیجئے مرشدین و مسترشدین کو ان کے اطلاق کی رہنمائی کے لیے اپنی مشیت کے مطابق پھر

فَهَمْنِي مَا فِي ذَاتِكَ مِنَ الْعُلُومِ الَّتِي هِيَ عُلُومٌ غَيْبِيَّةٌ مُّطْلَقَةٌ

مجھے ہم عطا فرما اپنی ذات میں موجود علوم کا جو علوم غیبیہ مطلقہ

لَمْ تَنْتَقِشْ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مَحْفُوظًا فِي قَلْبِ هَذَا الْعَبْدِ

لوح محفوظ میں بھی نقش پذیر نہیں ہوئے در آخا لیکہ محفوظ ہوں اس عبد کے دل

وَفِي خَزَانَةِ الْحِسِّ مُتَصَرِّفًا تَفْصِيلًا جُزْئِيًّا حَيْثُ شَاءَ مِنْ غَيْرِ

اور خزانہ حس میں، تصرف کرنے والا ہوں ان میں ہر جزئی کے اندر مفصل طور پر جہاں چاہے بغیر کسی

فَأَنْتِ وَلَا مَنْسِيٍّ بِحَيْثُ إِذَا كَرَّرْتُ عَادَتُ وَأَسْتَحْضِرْتُ حَتَّى

کے ہاتھ سے نکلنے اور بھولنے کے جب بھی ان کا تکرار کیا جائے ذہن میں لوٹ آئیں اور مستحضر ہو جائیں حتیٰ کہ

نُسِلْهَا فِي طَرِيقِ شَفِيهِةٍ قَلِيلَةٍ الْحُرُوفِ وَكَثِيرَةِ الْمَعَانِي بِحَيْثُ

ہم انہیں جاری کر سکیں مختصر طریقہ پر قلیل الحروف اور کثیر المعانی کلمات میں اس انداز سے

نُدِيرُهَا مِنْ كُلِّ وَضْعٍ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ حَتَّى يُتِمَّ كُلُّ بَيْتٍ مِنْ

کہ پھیری ہم اس کو ہر وضع سے ایک حرف پر حتیٰ کہ تمام ہو جائے ہر بیت

الْأَدْبِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ ثُمَّ الشَّرْعِيَّةِ الدِّينِيَّةِ يَا خَالِقَ الْأَنْطَاقِ وَالْكَلِمَاتِ

علم ادبیہ الہیہ سے اور شرعیہ دینیہ سے۔ اے پیدا کرنے والے تعلق اور کلمات کے

فِي الْمَخَارِجِ وَالْمَفْهُومَاتِ مَعَ رِعَايَاتِ الْقَوَائِنِ فِي الْقُلُوبِ وَكُونَهَا

مخارج میں مع رعایت قوانین کے اور مفہومات و معانی کے قلوب میں۔ اور انہیں پیدا فرما

فِي قَلْبِي وَارْكَزْهَا فِي نَفْسِي مُوصِلَةً إِلَى تَصْدِيقَاتِ قَلْبِيَّةٍ وَتَصَوُّرَاتِ

میرے دل میں اور مرکز فرما میرے نفس میں در آنجا لیکہ وہ پہنچانے والے ہوں علی تصدیقات اور تصاویر

فَلِكَيْتَ وَقَضَايَا عَرْشِيَّةٍ وَبِدَايِعِ زُبْرِيَّةٍ حَتَّى اسْتَغْنِي مِنْ غَيْرِكَ

تصویرات تک اور عرشی قضایات تک اور کتابوں کے انوکھے اسرار تک یہاں تک کہ میں مستغنی ہو جاؤں تیرے

سِوَى الْهَامِكِ ثُمَّ خَصَّصْنِي بِعُلُومِهِمْ أَوْ دَعْتَهَا فِي قَلْبِ خَيْرِ الْكَائِنَاتِ

الہام کے علاوہ ہر ماسوا سے پھر مجھے مخصوص بھرا ان علوم کے ساتھ جو تو نے ودیعت فرمائے سید کائنات

وَأَبِ الْأَرْوَاحِ الَّذِي نَحْنُ مِنْ أُمَّتِهِ وَأَوْقَفْنِي عَلَى إِزَالَةِ مَوَانِعِ

اور ابوالارواح کے قلب انور میں جن کی ہم اُمت ہیں۔ اور مجھے مطلع فرما ان کی راہوں کے موانع

طَرَفَهَا وَحَوَادِثِ دَهْرِهَا وَجَوَابِ اسْرَارِهَا الْإِلَهِي أَنْتَ الْقَادِرُ

کے ازالہ پر اور حوادث دہر اور ان کے اسرار کی کشش والے امور پر۔ اے اللہ تو ہی قادر ہے

عَلَى أَنْ تَجْعَلَنِي مِنَ الْمُعَدِّينَ لِدَلِكِ وَالْمُؤَقِّقِينَ بِأَنْفَالَاتِ

اس پر کہ بنائے مجھے اس کی صلاحیت و استعداد اور توفیق والوں سے اپنی ذات بخت کے

لَاهُوتِكَ وَرَأَى مُحَدِّدِ الْجِهَاتِ فَلِكِ الْأَفْلَاقِ نَاطِرًا مُصَدِّقًا

عطیات سے جو ماوراء ہیں محدود جہات و فلک الافلاک سے در آنجا لیکہ میں دیکھنے والا۔ تصدیق کرنے والا ہوں

حِينَ التَّصَرُّفَاتِ بِتَصَرُّفَاتِكَ إِلَى تَفَكُّرَاتِكَ وَاجْعَلِ الْأَجُودَ

تصرفات کے وقت ساتھ تیرے تصرفات کے بمع تفکرات کے اور مسخر فرما دے عمدہ

التَّعَالَةَ الْعَلَامَةَ الْفَطَاقَةَ مَسْحَرَةً لِفَقِيرِكَ وَعَبْدِكَ الْحَقِيرِ

نعل بند امتیازی نشان والا تیز رفتار گھوڑا اپنے فقیر اور عبد حقیر کے لیے

وَتَلَطَّفُ عَلَيَّ بِأَنْوَاعِ الْهَامَاتِ وَخَوَارِقِ الْعَادَاتِ مَنَاعَةً حَرَامَةً

اور مجھ پر لطف و کرم فرما مختلف اقسام کے ہامات اور خوارق عادات کے ساتھ در آنجا لیکہ وہ

لَهُمْ أَعْدَاءُ الْأَخْلَاقِ وَعَلَى الْمُتَوَجِّهِينَ إِلَيْكَ بِحُسْنِ التِّيَابَاتِ

روکنے اور بلانے والے ہوں اخلاق کے دشمنوں کے ارادوں کو اور ان پر جو متوجہ ہیں تیری طرف نیک نیتوں کیساتھ

كِسَارَةً لِمُقَدَّمَاتِ الْمُتَعَلِّبِينَ فِي الْجَدَالِ بِالْقِيلِ وَالْقَالِ وَلَا

در آنجا لیکہ توڑنے والے ہوں بذریعہ قیل و قال کے جلال میں غلبہ پانے والوں کے مقدمات کو اور مجھے

تُوفِّقُنِي فِي تَحْصِيلِهَا عَلَى اتِّقَانِ الْمُتَوَنِّمِينَ الْمَدَوِّنَةِ وَالصُّحُفِ

تو توفیق دے ان کے حاصل کرنے میں تصنیف شدہ متون اور قوم اور

الْمُنَشَّرَةِ فِي الْقَوْمِ وَعُلَمَاءِ الظَّاهِرَةِ بَلْ اجْعَلِ الْمَدَوِّنَاتِ كُلَّهَا

علماء ظاہر میں پھیلے ہوئے صحیفوں پر اعتماد اور بھروسہ کی اور ان تمام تصنیفات کو بنا دے

مُمَيِّزَةً بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فِي الْقُوَى الرُّوحِيَّةِ الْجَوْهَرِيَّةِ مَحْفُوظَةً

در آنجا لیکہ وہ حق و باطل میں امتیاز کرانے والی ہوں محفوظ مفصل

مُقَصَّلَةً أَمِينِ بِلِسَانِ كُلِّ مَلِكٍ وَإِنْسٍ وَجِنِّ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ

طور پر میرے قوائے روحیہ جوہریہ میں آئین۔ ساتھ زبان ہر فرشتہ اور انسان و جن کے ہر آن میں

عِنْدَ كُلِّ حَرَكَةٍ مَلَكِيَّةٍ وَحَيَوَانِيَّةٍ وَعِنْدَ تَسْبِيحِ كُلِّ كَوْنٍ هُوَ

وقت ہر حرکت ملکی اور حیوانی کے اور وقت تسبیح ہر موجود کے

يَا قَرِيبَ الْمُتَعَالَى فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ عَلُوُّ رُتْقَاعِهِ قَرِيبِي إِلَيْكَ

اے قریب کہ بلند تر ہے ہر شئی پر اس کا علو رفعت سمجھے اپنا مقرب بنا

بِالْمَلَا الْأَعْلَى حَتَّى أَسْمَعَ بِالْمَلَا حَطَّاتِ الرُّوحِيَّةِ بِحَيْثُ يَأْخُذُ

ملاء اعلیٰ میں حتیٰ کہ میں سُن لوں روحانی ملاحظات کو اس انداز سے کہ اخذ کرے

مِنْهَا قَلْبِي لِنُوقِ الْأَسْرَابِ الَّتِي دَارَتْ حَوْلَ مَرْكَزِ الْأَحْدِيثِ

ان سے میرا دل واسطے اہلیت پیدا کرنے ان اسرار کی جو دائرہ ہیں مرکز احدیت کے گرد اس

بِحَيْثُ يُوَافِقُهَا كُلُّ قُطْبٍ مِّنَ الْبُرُوجِ وَالْأَقَالِيمِ ثُمَّ قَرَّبُنِي

انداز سے کہ موافق ہے ان کے ہر قطب بروج و اقالیم کا پھر مجھے قریب فرما

إِلَى مَقَامِ شَوَاهِدِ الطَّلَعَاتِ وَالشُّجَاعَاتِ الْفَائِضَةِ مِنَ الْأَنْوَارِ

طرف مقام مشاہدات و اطلاعات کے اور شجاعات کے جو فائض ہونے والے ہیں انوار

الْعَالِيَةِ الْفَائِئِقَةِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِّنْ حَيْثُ الْغَلْبَةِ وَالْقُدْرَةِ

عالیہ سے جو فائق ہیں ہر شئی پر از روئے غلبہ اور قدرت کے واسطے

لِتَجَلِّيَّهَا بِالنُّعُوتِ الْجَلَالِيَّةِ فِي صَحَارِي الْكِبَالِيَّةِ مِنَ الدَّوَابِّ

جلوہ گر ہونے ان کے ساتھ جلالی صفات کے کماہیت کے صحراؤں میں

الْجَمَالِيَّةِ الْمُعْتَدِلَةِ غَيْرِ الْهَالِكَةِ مِنْ صُنَابِرِهِ وَقَرَّبُنِي يَوْمَ

جمالی ذاتوں سے جو معتدل ہیں اور ہلاک ہونے والی نہیں ہیں سخت سردیوں سے۔ اور قریب فرما

الْعَبُوسِ إِلَى صِفِّ فِيهِ الْمُقَرَّبُونَ مِنَ الْأُمَّةِ وَارْفَعْنِي بِالْكَلَامِ الرَّفِيعِ

مجھے سخت دن میں طرف اس صفت کے جس میں امت کے مقربین ہوں۔ اور مجھے رفعت بخش بلند مرتبت کلام کبیرا

الْخَارِجِ مِنْ فِي بَيْنِ الْأُمَّةِ حَتَّى أَتَشَخَّصَ بِالْفِكْرِ الْجَلِيِّ الْغَيْرِ

جو نکلنے والی ہو میرے منہ سے آئمہ کے درمیان حتی کہ میں تشخص ہو جاؤں فکر جلی کے ساتھ

الْمَغْلُوبِ بِالْإِنْذَارِ فِي عَيْنِ التَّصَدُّرِ وَالْمَسَابِقَةِ بِالْقُدْرِ فِيمَا يَفْقَدُ

جو مغلوب نہیں ہے ساتھ انداز کے صدارت پر فائز ہونے اور سبقت لے جانے کے دوران ساتھ تقدیر الٰہی کے منفقہ

مِنْ حُلُولِ النِّقِیْضَاتِ مِنْ دَفَاتِرِ الرَّخْصَاتِ الْمُرْسَلَاتِ مِنْ

ہونے والے امور میں یعنی نقیضات کا اتزنا رخصتوں کے دفاتر سے جو ارسال کئے ہوئے ہیں

الْأُمَّ الْكَبِيرِ مُحَاذِيَةً فِي عُلُوِّ نَفْسِي بَعَيْنِ أَحْكَامِهَا مَعَاوِدًا وَمُرْجِعًا

ام اکبر کی طرف سے جو محاذی ہیں اپنے خصوصی احکام کے ساتھ میرے نفس کی بلندی کے وقت آمد و رفت کے دوران

مَعَبَقَاءِ الْإِرْتِفَاعِ مِنَ الْأَسْطَقِصَاتِ اللَّهُمَّ هَذِهِ الْقُدْرَةُ مِنْكَ

بع بقاء ارتفاع کے از جانب عناصر۔ اے اللہ یہ قدرت صرف تیری ہی ہے

وَأَنَا مِنْ عِبَادِكَ وَتَرْفَعُ مَنْ تَشَاءُ وَتَخْفِضُ مَنْ تَشَاءُ وَأَنْتَ اللَّهُ تَعَالَى

اور میں تیرے بندوں میں سے ہوں اور تو جس کو چاہے بلند فرمائے اور جس کو چاہے پست کرے اور تو ہی انتہائی علو مرتبت

الْعُلُوِّ لِمَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُهُ عَمَّنْ تَشَاءُ وَعِنْدَكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ

دینے والا ہے جس کو چاہے اور سلب کر لیتا ہے جس سے چاہے اور تیرے پاس ہی خیر ہے اور تو ہی ہر

شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّهَا نُورٌ نَا بِنُورِكَ وَخَلِّصْنَا عَنِ الظُّلْمَةِ حَتَّى لَا

شئی پر مطلع ہے۔ اے ہمارے اللہ ہمیں متور فرما اپنے نور خاص سے اور چھٹکارا دے تاریخی سے یہاں تک کہ

يَبْقَى فِيْنَا شَائِبَةٌ الْعِصْيَانِ فَإِنَّ الْعِصْيَانَ مَثَاوِ الْعُقُومِ مِنْكَ وَ

ہم میں نافرمان برداری کا شائبہ بھی نہ رہے کیونکہ نافرمانی ہماری طرف سے ہے اور عفو تیری طرف سے اور

إِنَّكَ مَحْضُ النُّورِ وَتَحْنُ مَحْضُ الظُّلْمَةِ فَلَا يُعَادِلُهُ شَيْءٌ مِّنْ

تو محض نور ہے اور ہم محض ظلمت ہیں، مخلوق میں سے کوئی شئی اس کی ہم پلہ

خَلْقِهِ اللَّهُ اشْغَلْنَا بِكَ وَهَبْ لَنَا هِبَةً لَا سِعَةَ فِيهَا لغيرِكَ وَلَا

نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذات میں مستغرق فرما اور ہمیں عطا فرما وہ عطیہ جس میں تیرے غیر کی گنجائش نہ ہو

مَدْخَلَ فِيهَا لِسِوَاكَ وَأَسِعَةَ بِالْعُلُومِ الْإِلَهِيَّةِ وَالصِّفَاتِ

اور نہ ماسوا کے لیے داخل جو محیط ہو علوم الہیہ صفات

الرَّبَّانِيَّةِ وَالْأَخْلَاقِ الْمَحْمَدِيَّةِ وَقَوِّعْنَا بِدَانَا بِحُسْنِ الظَّنِّ الْجَمِيلِ

ربانیہ اور اخلاق محمدیہ کو اور مضبوط فرما ہمارے عقائد کو ساتھ ظن جمیل حسین

وَحَقِّ الْيَقِينِ وَحَقِيقَةِ التَّمَكُّينِ وَسِدِّدْ أحوَالَنا بِالتَّوْفِيقِ وَ

اور حق یقین اور حقیقت تمکین کے اور مضبوط فرما ہمارے احوال کو اپنی توفیق اور

السَّعَايَةِ وَحُسْنِ الْيَقِينِ وَسِدِّدْ عَقَائِدَنَا عَلَى صِرَاطِ الْإِسْتِقَامَةِ

ہماری سعی اور حسن یقین کے اور پائیدار بنا ہمارے عقائد کو راہ استقامت پر

وَقَوِّعْنَا عَلَى الْغُرِّ الرِّضِيِّينَ صِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

اور ہماری بنیادوں کو نورانیوں اور پسندیدہ لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام فرمایا یعنی

النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَشَيْدُ مَقاصِدِنَا فِي

انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین اور مضبوط فرما ہمارے مقاصد کو

الْمَجْدِ الْأَثِيلِ عَلَى أَعْلَى ذُرُورَةِ الْكِرَامَةِ وَعَزَائِمِ أُولَى الْعُزْمِ مِنْ

پائیدار بزرگی میں کرامت کے اعلیٰ مقام پر اور اولوالعزم رسولوں کے

الْمُرْسَلِينَ يَا صَرِيحَ الْمُسْتَصْرِحِينَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ اغْتِنَا

عزائم پر اے فریادیوں کے فریادرس اور مدد طلب کرنے والوں کے مددگار ہماری امداد فرما

بِالطَّافِ رَحْمَتِكَ مِنْ ضَلَالِ الْبُعْدِ وَأَشْهِدْنَا بِنَفَحَاتِ عِنَايَتِكَ

اپنے الطاف رحمت کے ساتھ دوری والی گمراہی سے اور ہمارا احاطہ فرما اپنی عنایت کے عطیات کے ساتھ

فِي مَصَارِعِ الْحُبِّ وَأَسْعَفْنَا بِأَنْوَارِ هِدَايَتِكَ فِي حَضَائِرِ الْقُرْبِ

محبت کی قتل گاہوں میں اور ہماری امداد فرما اپنے انوار ہدایت کے ساتھ اپنی بارگاہے قرب میں

وَأَيَّدْنَا بِنَصْرِكَ الْعَزِيزِ نَصْرًا مُؤَيَّدًا بِالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بِفَضْلِكَ

اور تائید فرما اپنی غالب نصرت کے ساتھ جو تقویت یافتہ ہو قرآن مجید کے ساتھ بظہیر اپنے فضل و

وَرَأْحَتِكَ بِوَسْعَةٍ وَسِعَتْ مَغْفِرَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

رحمت کے بوسیدہ اپنی وسیع تر مغفرت کے - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَعِمَلِهِ الصَّالِحِ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر ان کے عمل صالح کے مطابق - اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَأَيْهِ النَّاجِحِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر ان کی کامیاب رائے کے مطابق

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَأَيْهِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر ان کے ذرا لئی

ذِكْرِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کے مطابق - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ قَدْرَ شَوْقِهِ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پر ان کے شوق الہی کے مطابق - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ وَثُوقِهِ يَا اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور آپ کی آل اطہار پر ان کے اللہ پر وثوق اور بھروسہ کے مطابق - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ تَوَكُّلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر ان کے توکل کے مطابق - اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ جَاهِهِ وَعِلَاهُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر ان کی عز و جاہ اور برتری کے مطابق -

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق ان کی عزت

كَرَامَتِهِ عَلَى مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

و کرامت کے اپنے مولیٰ کے ہاں - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ لُطْفِ اللَّهِ بِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کی آل پر مطابق اللہ کے لطف و کرم کے ان پر - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ تَخْصِيصِ اللَّهِ إِيَّاهُ بِحُبِّهِ وَ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق مخصوص ٹھہرانے اللہ تعالیٰ کے انہیں اپنی محبت و

قُرْبِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قرب کے ساتھ - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

قَدْرَ قِيَامِهِ بِالْعِبَادِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

مطابق ان کے قیام کے ساتھ عبودیت کے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ رِعْتَابِهِ بِحَقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ اللَّهُمَّ

آپ کی آل پر مطابق ان کے اہتمام کے ساتھ حقوق ربوبیت کے - اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ عَظَمَتِهِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق ان کی عظمت کے

فِي الدَّارَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

دارین میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ قَدْرَ عُلُوِّهِ فِي قَابِ قَوْسَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

پر مطابق ان کی بلندی کے قاب قوسین میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ مَقَامِهِ فِي عِلِّيِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق ان کے مرتبہ و مقام کے علیین میں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ حُلُولِهِ بِقَابِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق ان کے نزول کے قاب

قَوْسَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

قوسین میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ قَدْرَ ضِيَاءِ نُورِهِ وَإِشْرَاقِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

مطابق ان کے نور کی ضیاء اور چمک کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ كَرِيمِ اخْلَاقِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

محمد پر اور آپ کی آل پر ان کے اخلاق کریمہ کے مطابق۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ طَيْبِ أَعْرَاقِهِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر ان کے اصول کی پاکیزگی کے مطابق

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

قَدْرَ شَيْبَةِ الظَّاهِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

ان کی پاکیزہ خصلتوں کے مطابق۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ حِكْمِهِ الظَّاهِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آپ کی آل پر ان کی ظاہر و باہر حکمتوں کے مطابق اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ عُلُومِهِ الذَّاخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر اور آپ کی آل پر ان کے وسیع علوم کے مطابق - اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ طَاعَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر آپ کی اطاعت کے مطابق - اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ مُجَاهَدَتِهِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر آپ کے مجاہدہ کے مطابق

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ تَوَكُّلِهِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر ان کے توکل

عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

علی اللہ کے مطابق - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ قَدْرَ خَوْفِهِ مِنَ اللَّهِ وَمُرَاقَبَتِهِ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

مطابق ان کے خوف خداوندی اور اللہ تعالیٰ پر نظر کے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ عَظَمَتِكَ الَّتِي قَاصِرَةٌ فِي

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اپنی عظمت کے کہ قاصر ہیں

إِحَاطَتِهَا الْبَصَائِرُ وَالْخِيَالُ اللَّهُمَّ ذَهَلَتِ الْعُقُولُ وَأَنْجَصَرَتِ

اس کے احاطہ سے بصیرتیں اور خیالات - اے اللہ غافل ہو گئے عقل اور محدود ہو گئیں

الْأَبْصَارُ وَحَارَتِ الْأَوْهَامُ وَضَاقَتِ الْأَفْهَامُ وَبَعْدَتِ الْخَوَاطِرُ

نگاہیں اور حیرت زدہ ہو گئے اوہام اور تنگ ہو گئے افہام اور بعید ہو گئے خیالات

وَقَصُرَتِ الظُّنُونُ عَنْ إِدْرَاكِ كُنْهِ كَيْفِيَّةِ ذَاتِكَ وَمَا ظَهَرَ مِنْ

اور قاصر ہو گئے ظنون تیری کیفیت ذات کے ادراک حقیقت سے اور جو ظہور پذیر ہوا

بَوَادِي عَجَائِبِ أَنْوَاعِ أَصْنَافِ قُدْرَتِكَ دُونَ الْبُلُوغِ إِلَى

تیری قدرت کے انواع و اصناف کے نمایاں عجائبات سے بغیر رسائی حاصل کرنے

تَلَا لَوْلَمَعَاتِ لَمَعَاتِ بُرُوقِ شُرُوقِ أَسْمَائِكَ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ

تیرے اسماء کی چمک و دمک کے انوار اور جلوؤں کی جھلک تک۔ اے اللہ۔ اے میرے رب

إِفْعَلْ بِي وَبِرَبِّمْ عَاجِلًا وَاجْلًا فِي الدِّينِ وَالْدُنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا أَنْتَ

سلوک فرما ساتھ میرے اور ان کے دین اور دنیا و آخرت میں فوری اور تاخیر سے جس سلوک کے تو

لَهُ أَهْلٌ وَلَا تَفْعَلْ بِنَايَا مَوْلَانَا مَا نَحْنُ لَهُ أَهْلٌ إِنَّكَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

لائق سے اور نہ فرما ساتھ ہمارے اے مولیٰ جس سلوک کے ہم لائق ہیں بے شک تو غفور و حلیم

جَوَادٌ قَدِيمٌ كَرِيمٌ مَلِكٌ بَرٌّ عَوْفٌ رَحِيمٌ اللَّهُمَّ يَا مُؤِنِسِي فِي

صاحب جود، بے ابتداء۔ کریم شہنشاہ، محسن، رؤف و رحیم ہے۔ اے اللہ۔ اے میری تنہائی

وَحُدَاتِي وَيَا صَاحِبِي فِي شِدَّتِي وَيَا عَظِيمَ الْخَطَرِ وَيَا إِلَهَ الْبَشَرِ

کے مؤنس اور سختی میں میرا ساتھ دینے والے۔ اے عظیم عظمت والے۔ اے بشر کے معبود برحق

أَدْرِكُنِي بِلُطْفِكَ الْخَفِيِّ الْخَفِيِّ اللَّهُمَّ يَا مَنْ تَعَالَيْتَ عَنْ وَسْمَةِ

میرا احاطہ فرما اپنے لطف خفی کے ساتھ۔ اے اللہ۔ اے کہ بالاتر ہے نقص و زوال والے

التَّقْصِ وَالزُّوَالِ وَتَقَدَّسَتْ بِشَيْبَةِ الْعُظْمَةِ وَالْجَلَالِ وَتَنَزَّهَتْ

عیب سے اور مقدس ہے عظمت و جلال کی نخصت کے ساتھ اور منزہ ہے

عَنْ إِدْرَاكِ الْأَوْهَامِ وَالْخِيَالِ وَتَفَرَّدَتْ بِجِيَادِ الْخِلَالِ وَالْفِضَالِ

اوهام و خیالات کے احاطہ سے اور منفرد ہے عمدہ نخصتوں اور فضیلتوں کے ساتھ

نَسَأُكَ أَنْ تُفِيضَ عَلَيْنَا زَوَارِفَ الْعَوَارِفِ بِفَضْلِكَ الْتَعَالِ

ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم پر فیضان فرمائے عطیات کی بارشوں کا اپنے بلند تر فضل کے طفیل

وَتُلْهِمَ حَقَائِقَ الْمَعَارِفِ بِجَزَائِلِ التَّوَالِ وَتُرِشِّحَ مِنْ

اور الہام فرمائے عرفانی حقائق کا عظیم ترین جوہر تووال کے ساتھ اور چھڑے مشہود

شَابِيْبِ الشُّهُودِ مِلًّا السِّجَالِ وَتَجُودِ مِنْ بِحَارِ التَّوْحِيدِ كُنُوسِ

کی بارشوں سے بھرپور ڈول۔ اور جود و کرم فرمائے توحید کے سمندروں سے جامائے

الْوَصَالِ وَتَرْفَعَنَا مِنْ حَضِيضِ التَّدَنُّسِ إِلَى ذُرْوَةِ اللِّقَاءِ الْكِبَالِ

وصل کے ساتھ اور بلند فرمائے ہیں آلودگی کی پستی سے کمال لقاء کی بندی کی طرف

وَتُبَلِّغَنَا إِلَى نَيْلِ بَقَاءِ لَا يَزَالُ وَتَكْرِمْ مَنَا بِصِلَةِ مَدَارِجِ فَنَاءِ الْبَطْلِقِ

اور پہنچائے ہیں ایسی بقا کے حصول تک جو لازوال ہو اور عزت بخشے ہیں فناء مطلق کے مدارج اور

وَالْخِصَالِ بِوَجَاهَةِ مَنْ لَوْلَاهُ لَمَا كَسِينَا كِسَاءَ التَّنْيِيسِ وَالْبِشَالِ عَلَيْهِ

خصال خیر کے وصول کے ساتھ بطفیل آبر و مندی اس محبوب کے کہ وہ موجود نہ ہوتے تو ہمیں لباس وجود اور تعین نہ پہنایا جاتا

صَلَوَاتُ اللَّهِ أَسْرِيْدُ مِنْ عَدَدِ الْحَصَاةِ وَالرِّمَالِ وَعَلَى إِلِهِ وَصْحِيَّةِ

ان پر اللہ تعالیٰ کی صلوات ہوں کئیوں اور ذرات ریگ کی تعداد سے بھی زیادہ اور ان کی آل و اصحاب پر

أُولَى الشَّرَفِ وَالْجَمَالِ يَا فَاطِرَ الْجَبْرُوتِ مَلِكُ تَلْدُذِ الْإِسْنَةِ بِالْمُقَالِ

جو ارباب شرف و جمال ہیں۔ اے پیدا کرنے والے جبروت کے تجھ سے ہی ہمکلامی کے ساتھ زبانیں لذت پاتی ہیں

يَا مَالِكِ الْمَلَكُوتِ أَنْتَ مُشْرِفُ النَّفُوسِ بِشِرَافَةِ الْحَالِ وَأَنْتَ حَقِّ

اے ملک عظیم کے مالک تو ہی شرف بخشنے والا ہے نفوس کو شرافت حال کے ساتھ اور تو ہی حق ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا ذَا الْعِزَّةِ وَالْجَلَالِ وَمِنْكَ الْبِدَايَةُ وَإِلَيْكَ الْمَالُ

نہیں معبود برحق مگر تو اے عزت و جلال کے مالک اور تجھی سے ابتداء ہے اور تیری طرف ہی بازگشت ہے

بِحَلْبِ الْبِفْصَالِ وَبِتَعَوُّذِ مَحْتَالِ الْبِقُوَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

بہت جوانی والے کی کشش کے ذریعے اور بڑے باتونی کی حیلہ گری سے پناہ کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدَرِ عِبَادَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر اور آپ کی آل پر آپ کی عبادات کے مطابق۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدَرِ طَاعَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر آپ کی اطاعت کے مطابق۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرٌ تَبْلِيغِ إِشَاعَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر آپ کی تبلیغ و اشاعت کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرٌ سَجُودِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر آپ کے سجودات کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرٌ رُكُوعِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور آپ کی آل پر آپ کے رکوعات کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرٌ خُضُوعِهِ وَخُشُوعِهِ وَصِدْقِ خُبْرِهِ وَيَقِينِهِ

اور آپ کی آل پر مطابق آپ کے خضوع و خشوع اور صدق خبر اور یقین

وَعِرْفَانِهِ وَعُلُوشَانِهِ وَأَيَاتِهِ وَبُرْهَانِهِ وَحَقِيقَتِهِ إِيْمَانِهِ وَإِيْقَانِهِ

و عرفان اور علوشان اور آیات و برہان اور حقیقت ایمان اور پختگی یقین و ایمان

وَإِيْمَانِهِ وَجَلَالِ مَنْظَرِهِ وَكِبَالِ مَظْهَرِهِ وَكِبَالِ فَخْرِهِ قَدْرٌ رِيْمِنِ

اور جلال منظر اور کمال منظر اور کمال حسن سیرت کے اور مطابق آپ کی برکت

طَلْعَتِهِ وَفَضْلِهِ عَلَىٰ أُمَّتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِرَبِّهِ وَقَدْرِ عَلَيْهِ وَبِمَا أُلْقِيَ فِي قَلْبِهِ

دیدار کے اور امت پر فضل و شرف کے اور رب تعالیٰ کی معرفت اور علم کے اور ان کے الہامات کے

وَقَدْرِ سَلَامَةِ صَدْرِهِ فِي سِرِّهِ وَجَهْرِهِ وَقَدْرِ قُدْرَتِهِ وَمَا رَفَعَتْ لَهُ

اور مطابق ان کے سینہ انور کی سلامتی کے باطن و ظاہر میں اور مطابق ان کی قدر و منزلت اور رفعت ذکر

مِنْ ذِكْرِهِ وَقَدْرِ جَمَالِهِ الرَّائِقِ وَحُسْنِهِ الْفَائِقِ وَقَدْرِ شَفَاعَتِهِ فِي

کے اور عمدہ جمال اور فائق حسن کے اور مطابق ان کی شفاعت کے بندگان

الْعِبَادِ وَقِيَامِهِ بِالْبِقَامِ الْبَحْمُودِي فِي يَوْمِ الْأَشْهَادِ وَقَدْرِ آيَاتِهِ الْعِظَامِ

خداوند تعالیٰ میں اور مطابق ان کے قیام کے مقام محمود میں بروز قیامت اور مطابق ان کی عظیم آیات

وَفَضْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَىٰ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَمُعْجَزَاتِهِ عَلَىٰ السَّمَاوَاتِ وَقَدْرُ

اور فضل و شرف کے تمام مخلوق پر اور ان کے کامل و اکمل معجزات کے اور مطابق

دُعَائِهِ الْمَقْبُولِ وَمَا أُعْطِيَ مِنَ الرِّضَا وَالسُّؤْلِ وَقَدْرًا أَجْرَ الصَّابِرِينَ

ان کی مقبول دعا کے اور عطا کردہ رضا و مطالب کے اور مطابق اجر تمام صابریں

وَالذَّاكِرِينَ وَجَزَاءَ الْبِحْسِنِينَ وَقَدْرًا مَا أُعْطِيَ مِنْ سِوَا بَعْضِ التَّعْلِيمِ

اور اہل ذکر اور اہل احسان کی جزاء کے اور مطابق عطا کردہ کامل نعمتوں اور

وَمِنْ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَمِنْ فَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ وَطَيْبِ الْأَعْرَاقِ وَ

اور جود و کرم اور اخلاق حسنہ اور پاکیزگی اصول کے اور

فَوْقَ السَّبْعِ الطَّبَاقِ وَمِنْ إِطَاعَةِ الصَّحْبِ وَالرِّفَاقِ وَقَدْرًا مَا

زائد سات طبقات سماویہ سے اور صحابہ کرام اور رفقاء عظام کی اطاعت سے اور مطابق اس کے جو

أُعْطِيَ مِنَ الثَّوَابِ الْمَمْدُودِ وَالسَّقْيِ مِنَ الْحَوْضِ الْمَمْرُودِ وَمِنْ

عطا کیا گیا انہیں مسلسل ثواب اور حوض کوثر کی ساقی گری اور

التَّعْلِيمِ بِدَارِ الْخُلُودِ وَمِنْ رِضَاءِ الرَّحْمَنِ وَثَوَابِ أَهْلِ الْإِيمَانِ

دار خلد کی نعمتیں ، رضا و رحمن اور اہل ایمان کا ثواب

وَمِنْ الْجَلْمِ وَالْإِنَابَةِ وَمِنْ الدَّعَوَاتِ الْمَسْتَجَابَةِ وَمَا أُعْطِيَ

اور بردباری اور انابت اور مقبول دعوات سے اور مطابق عطا کردہ امداد

مِنَ التَّائِيْدِ عَلَى الْعِدَايِ وَمِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى وَمِنْ ثَوَابِ

و اعانت کے اعداء دین پر اور آیات بینات و ہدایت کے اور ایمان لانے والوں اور ہدایت

مَنْ أَمِنَ وَاهْتَدَى يَا حَلِيمٌ ذُو الْإِنْعَادِ فَلَا يُعَادِلُهُ شَيْءٌ مِّنْ

پانے والوں کے ثواب کے ، اے حلیم۔ مہلت دینے والے، جس کے برابر نہیں ہو سکتی کوئی شئی اپنی

خَلْقِهِ أَحْلَمُ عَنِّي كُلِّ خَطَرَاتِ نَفْسَانِيَّةٍ حَيَوَانِيَّةٍ شَيْطَانِيَّةٍ وَكُلِّ

مخلوق سے دور فرما مجھ سے تمام تر نفسانی و حیوانی اور شیطانی خیالات کو اور تمام تر

وَسَاوِسَ وَهُوَ أَحْسَنُ وَنِيَّاتِ سَيِّئَةٍ رَدِيَّةٍ وَأَعْمَالِ لَيْسَتِ

وسوسوں، برے خیالات ، بری روی نيات اور ناپسندیدہ اعمال اور

بِرُضِيَّةٍ وَأَخْلَاقٍ سَبْعِيَّةٍ نَفْسِيَّةٍ شَيْطَانِيَّةٍ فَإِنَّكَ فِي جَمِيعِ

درندوں والے نفسانی و شیطانی اخلاق کو کیونکہ تو تمام لمحات میں

الْأَنَابَاتِ مُتَحَدِّثٌ وَالْعُجُولَةَ شَانَ الْعَاجِزِ قَارِزُ قِنِي التَّوْبَةَ النَّصُوحَ

بردار ہے اور جلد بازی عاجز کی نشانی ہے پس تو مجھے خالص توبہ عطا فرما

وَأَجْعَلْنِي مُسْتَقِيمًا عَلَى ذَلِكَ وَبَدِّلْ خَطْرَاتِي بِالْهَامَاتِ كَمَا

اور مجھے اس پر استقامت عطا فرما اور میرے برے خیالات کو الہامات سے تبدیل فرما

تَبَدَّلِ الْحَجَرَ بِالذَّهَبِ وَبَدِّلِ الْأَخْلَاقَ السَّبْعِيَّةَ النَّفْسِيَّةَ

جیسے کہ بدل جاتا ہے پتھر سونے میں اور تبدیل فرما زندگی والے اخلاق نفسانیہ

الشَّيْطَانِيَّةَ بِالْمَلِكِيَّةِ الْجَبْرُوتِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ فَإِنَّ التَّقْلِيْبَ شَانُكَ

شیطانہ کو ملکی جبروتی الٰہی اخلاق سے کیونکہ یہ انقلاب تیری ہی شان ہے

وَكُلُّ الْعَسِيرِ عَلَيْكَ يَسِيرٌ فَإِنَّهُ لَا يُعَادِلُكَ شَيْءٌ عَمَّا مِنْ خَلْقِكَ وَإِنْ

اور ہر مشکل تجھ پر سہل ہے کیونکہ مخلوق میں سے کوئی تیرے برابر نہیں ہے۔ اگرچہ

بَلَّغَ مَا بَلَغَ مِنَ الْكَمَالِ كَيْفَ وَكَمَالِكَ بِالذَّاتِ وَكَمَالِ مَا سِوَاكَ

کمال کی آخری حد تک ہی واصل ہو جائے کیوں نہ ہو جبکہ تیرا ہر کمال ذاتی ہے اور ماسوا کا کمال

بِكَمَالِكَ وَإِنَّهُ بِالذَّاتِ مَعْدُومٌ وَإِنَّمَا أَخَذَ الْوُجُودَ مِنْكَ فَكُنْتَ

تجھ سے ہے اور وہ مرتبہ ذات میں معدوم ہے، اس نے صرف اور صرف تجھ سے ہی وجود پایا، تو ہی دراصل ظاہر

بِالْأَصْلِيَّةِ ظَاهِرًا وَمُظْهِرًا الْوُجُودَ مِنْكَ إِنَّمَا حَدُوثٌ مِّنِّي وَمِنْ مَّاهِيَّتِي

ہے اور ظاہر کرنے والا ہے وجود تجھی سے ہے اور حدوث مجھ سے اور میری مرتبہ ذات میں معدوم ماہیت سے ہے

الْمَعْدُومَةِ بِالذَّاتِ فَإِنَّ جَمِيعَ مَا سِوَاكَ مَعْدُومٌ فَجَمِيعَ السَّيِّئَاتِ عَارِضِيَّةٌ

کیونکہ تمام ماسوا معدوم ہیں لہذا تمام سیئات عارضی ہیں

يَسْهَلُ زَوَالُهَا فَإِنَّ إِزَالََةَ الْعَرِضِيَّاتِ سَهْلٌ كَمَا قُلْتَ مَثَلُ كُلِّ خَبِيثَةٍ

ان کا زوال سہل ہے کیونکہ عرضیات کا زائل کرنا سہل ہے جیسے کہ تو نے فرمایا کہ خبیثت کد کی لٹ

كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قراره فازل

مانند خبیث پودے کے ہے جو زمین کے اوپر سے اکھیڑ لیا جائے، جس کے لیے مضبوطی نہیں ہے۔ لہذا ہم سے

عنا جميعا وهي ما سواك واثبت فينا ذاتك واجعلنا من البعد وبين

ان تمام کو زائل فرما جبکہ یہ تیرے ماسوا ہیں۔ ہم میں اپنی ذات کو ثابت فرما اور ہمارے خاکی مجسموں کو معدوم کر دے

كها كنا وكننت انت كما كنت واجعلنا لا يعاد لنا شيء من خلقك

جیسے کہ ہم تھے اور تو ہے جس طرح کہ تھا اور ہمیں بنا اس حال میں کہ برابر نہ ہو ہمارے مخلوق سے کوئی شئی

فانتك انت ولا موجود الا انت يارب يارب يارب انت رب و

کیونکہ تو ہی تو ہے اور صرف تو ہی موجود ہے، یارب، یارب، یارب، تو ہی پروردگار ہے

انا مربوب فریبتيك يقتضي بان تجعلنا كما كنا وامم عنا

اور میں تربیت یافتہ ہوں پس تیری ربوبیت کا تقاضا ہے کہ ہمیں بنا دے جیسے کہ تھے اور محو فرما دے

جميع عوارضنا حتى انفسنا وكن انت الباقي الهی انك ان لم

ہم سے ہمارے تمام عوارض حتیٰ کہ ہمارے نفوس کو اور صرف تو ہی باقی رہے۔ اے میرے اللہ اگر تو ہمارے

تحكم عنا فكيف نكون والعصيان مركوز في استعداد اتنا مع ان

ساتھ بردباری سے کام نہ لے تو کس طرح موجود رہ سکتے ہیں جبکہ عصیان ہماری فطری صلاحیتوں میں مرکوز ہے علاوہ ازیں

الشیاطین اعدائنا یخومون حولنا ولا یغیبون عنا ونحن لانراهم وهم

شیاطین ہمارے دشمن ہیں جو ہمارے گرد گھومتے ہیں اور غائب نہیں ہوتے۔ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے جبکہ وہ

یرونا وانت قد سلطتهم علينا وهم یبصرون بعیوننا فاصرفهم

ہمیں دیکھتے ہیں اور تو نے انہیں ہم پر مسلط کیا ہے، وہ ہمارے عیوب دیکھتے ہیں لہذا تو انہیں ہم سے

عنا ولا تاخذنا بغتة وتب علينا انت التواب الرحیم فارحمنا

دور فرما اور ہمیں اچانک گرفت میں نہ لینا اور ہم پر نظر رحمت فرمانا بیشک تو ہی توب و رحیم ہے۔ پس ہم پر رحم فرما

واعف عنا ولا تجعل ذنوبنا فی عقدتنا وایماننا وسیاتنا خافية

درگزر فرما اور نہ بنا ہمارے گناہ ہمارے عقیدہ و ایمان میں اور ہمارے گناہ ہم سے مخفی ہوں

عَنَّا فَإِنَّكَ إِنْ تَجَعَلُ ذُنُوبَنَا فِي حَقِّنَا فَكَيْفَ نَتُوبُ وَأَنْتَ تُحِبُّ التَّوَّابِينَ

اگر تو ہمارے گناہوں کو ہمارے حق میں (لازم) فرمائے تو ہم کیسے توبہ کریں جبکہ تو توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے

فَأَحْلَمْنَا حَتَّى تَحْصُلَ التَّوْبَةُ الَّتِي مَحْبُوبَةٌ لَكَ وَلَا نَقْدِرُ عَلَى تَحْصِيلِ

پس ہم سے درگزر فرماتا تاکہ ہمیں توبہ نصیب ہو جو تجھے پسند ہے اور ہم اس کے حاصل کرنے پر قادر نہیں ہو

التَّوْبَةَ إِلَّا بِتَوْفِيقِكَ وَتَقْدِيرِكَ وَأَرْزُقْنَا التَّوْبَةَ عَنَّا وَعَنْ وَجُودِنَا

سکتے مگر تیری توفیق اور تقویت سے اور ہمیں نصیب فرماتا توبہ اپنے آپ سے اور اپنے وجودوں سے

فَإِنَّ وَجُودَنَا ذَنْبٌ لَا يُقَاسُ فِيهِ ذَنْبٌ آخَرَ وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ بِبِدَانَا

کیونکہ ہمارے وجود ہی وہ گناہ ہیں کہ جن کے برابر کوئی گناہ نہیں اور توبہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے

فَهَذَا مُخْتَصٌّ بِكَ وَلَا يُعَادِلُكَ شَيْءٌ مِّنْ خَلْقِكَ إِنْ هَذَا يُحِبُّ

بلکہ (دوس کی توفیق) تیرے ساتھ خاص ہے اور مخلوق میں سے کوئی تیرے برابر نہیں ہے۔ اے ہمارے اللہ تو محبوب

التَّوَّابِينَ وَالْقُدْرَةَ لَنَا عَلَيْهَا فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ إِنْ هَذَا

رکھتا ہے اہل توبہ کو اور ہمیں اس پر اختیار نہیں تو ہم کیسے توبہ کریں اگر تو توفیق نہ دے۔ اے ہمارے اللہ

إِنَّمَا مَعْدُومُونَ فِي الْأَصْلِ وَأَصْلُ الْعَدَمِ ظُلْمَةٌ وَالظُّلْمَةُ مَعَ الظُّلْمَةِ

ہم از روئے اصل معدوم ہیں اور عدم کا اصل ظلمت ہے اور ظلمت ظلمت کے ساتھ

شِيَةٌ فَالْعَصِيَّانُ شَانِنَا وَالْعَفْوُ شَانُكَ وَالْغُفْرَانُ أَمْرٌ يَا مَعْيدَانْتَ

مخلوط ہے تو عصیان ہی ہمارا طبعی تقاضا ہے اور عفو تیرے لائق ہے اور مغفرت تیرا کام ہے۔ اے لوٹانے

الْعَائِدُ مَا أَفْنَاهُ الْعِبَادُ مِنَ الْأَوَامِرِ إِذَا بَرَزُوا إِلَيْكَ مِنْ مَخَافَتِهِ

والے تو ہی لوٹانے والا ہے بندوں کے فنا کردہ اوامر کو جبکہ وہ ظاہر ہوں گے تیرے ہاں تجھ سے خوفزدہ ہونگے

فِي دُعَائِهِمْ أَعْدَمَاتٍ مِّنِّي مِنْ خَيْرِ عَمَلٍ وَقَوْلٍ أَوْ نِيَّةٍ فِي تَحْصِيلِهِ

اپنی دعاؤں میں لوٹا وہ جو فوت ہوا مجھ سے اچھا عمل یا قول یا اس کے حاصل کرنے کی نیت

بِسَابِقَةِ كِتَابٍ وَعَوَارِضٍ نَسَبٍ طَارِيَةٍ عَلَيَّ هُوَيْتِي وَشَخْصِي وَ

سبب ازلی تحریر کے اور عارضی نسبتوں کے جو طاری ہوئیں میرے مجسمہ اور شخص پر اور

بَدَّلُ سَيِّئَاتِي بِجَعْلِهَا حَسَنَاتٍ ثُمَّ أَعَدَّنِي وَقْتُ الْحَشْرِ إِلَى هَيْئَةٍ هِيَ

تبدیل فرما میری سیئات کو نیکیوں کے ساتھ۔ پھر میرا اعادہ فرما محشر میں ایسی حالت پر

أَجْمَلُ الْهَيْئَاتِ وَالْإِلَى مَكَانَةٍ هِيَ أَجْدَارُ الْمَكَانَاتِ قَائِمًا مِنْ مَرْقَدِهِ

جو سب سے جمیل تر ہے اور ایسے مقام میں جو سب سے موزوں تر ہے درآئیکہ میں اٹھوں اپنے مرقد سے

عَلَى يَمِينِ عَرْشِ الرَّحْمَنِ وَمِنْ بَعْثٍ أَوْ لَا مِنْ قَبْرِهِ قَرِيبًا لِلَّهِ بِحَيْثُ

عرشِ رحمن کی دائیں جانب اور قریب اس ذات اقدس کے جو سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے قبر انور سے

يَفْعُ نَظْرَهُ عَلَيَّ كَنَظَرِهِ عَلَيَّ أَصْحَابِهِ وَلَا تَعْدُ سَيِّئَاتِي مَعَ سَيِّئَاتِ الْخَلْقِ

اس انداز سے کہڑے ان کی نظر مجھ پر مانند ان کی اپنے اصحاب پر نظر کے اور نہ اعادہ فرمانا میرے گناہوں کا مخلوق کے

وَأَثَارُهُ فِي وَجْهِهِ وَجَسَدِي فَأَنْتَ سَيِّدُ الْعَيُوبِ وَغَفَّارُ الذُّنُوبِ

گناہوں کے ساتھ درآئیکہ ان کے اثرات میرے چہرہ اور بدن میں ہوں پس تو ہی ستار عیوب اور غفار ذنوب ہے

فَاَجْعَلْنِي مُطَهَّرًا عَنْهَا بِتَوْفِيقِكَ تَوْبَةً مِنْ كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ بَلْ عَنْ خَطَرَةٍ

لہذا مجھے پاک فرما ان سیئات سے توبہ کی توفیق دے کہ ہر کبیرہ اور صغیرہ سے بلکہ خطرہ و دوسوہ اور

وَتَرَدُّدٍ لِاحِقٍ فِي إِعْتِقَادِ بَعْضِ الْغُلَّةِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَاشِرُ لِكُلِّ كَوْنٍ

تردد سے بھی جو بوجہ غفلت میرے اعتقاد میں لاتی ہو۔ اے اللہ تو ہی جمع فرمانے والا ہے ہر موجود شخص کو

شَخِصِيٍّ مِنْ مَرْكَزَةٍ وَمَرْكِزَةٍ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ بِحَالِ أَجْزَائِهِ وَ

اس کے مرکز اور مرکز سے اگرچہ بھرچکے ہوں اس کے اجزاء اور جدا جدا ہو

تَفَرَّقَتْ عِظَامُ أَجْسَادِهِ وَلَحُومُ أَعْضَائِهِ حَيْثُ صَارَتْ لَحْمًا

چکی ہوں اس کی ہڈیوں اور اس کے اعضاء کا گوشت حتی کہ ہو چکے ہوں گوشت

وَدَمًا لِجِيْوَانٍ بَرِّيٍّ أَوْ بَحْرِيٍّ فَأَنْتَ جَمَاعُ الْمَتَفَرِّقَاتِ وَفَرَّاقُ

اور خون کی بری یا بری جانور کا پس تو ہی جمع کرنے والا ہے ان متفرقات کا اور جدا کرنے والا ہے

الْمُتَأَلِّفَاتِ الْمُرَكَّبَاتِ فَيَا أَلْهِمِّي أَنْتَ غَافِرُ الذُّنُوبِ شَدِيدُ

مؤلف و مرکب اشیاء کا۔ اے میرے اللہ تو ہی بخشتے والا ہے گناہوں کا اور سخت گرفت والا ہے

الْبَطْشِ وَالْفَاعِلِ الْمُخْتَارِ وَمُرْجِحِ الْعَدَمَاتِ وَمُقْنِي الْمَوْجُودَاتِ وَ

اور با اختیار فاعل ہے، معدومات کے لیے وجود کو قرار دینے والا اور موجودات کو فنا کرنے والا ہے

مُعِيدِ الْأَرْوَاحِ النَّطَاقَاتِ بِيَدِ وَرَجُلِ بَلِّ شَجِرٍ وَحَجَرٍ خُصُوصًا

لوٹانے والا ہے ارواح ناطقہ کا ہاتھوں اور پاؤں میں بلکہ ہر شجر و حجر میں بالخصوص زبانوں کا

الْأَلْسُنِ فِي الْإِنْسِيَّاتِ فَأَعَذُّنِي مِنْ خَوْفِكَ الشَّدِيدِ الَّذِي يُطِيرُ

اعضاء انسانی میں پس مجھے بچا اپنے خوف شدید سے جو اڑانے کا مستعمل

الْجِبَالِ الرَّاسِيَّاتِ كَالْعُهُونِ الْمُنْفُوشَاتِ وَتَخَافُ نَارَهُ أَشَدُّ

پہاڑوں کو دھنی ہوئی رویوں کی مانند اور خوفزدہ ہے آتش دوزخ (حالانکہ سخت ترین ہے

النَّيِّرَانِ مِنْ بَرَاقَةِ جَلَالِكَ وَيَخَافُ ثَلْجَهُ هُوَ أَشَدُّ الْبَارِدَاتِ مِنْ

تمام آتشیوں سے) تیرے جلال کی چمک سے اور خوف زدہ ہے برف زمہریر (جو تمام اشیاء سے زیادہ ٹھنڈی ہے)

إِضَاءَةِ جَمَالِكَ وَتُبَدَّلُ الْأَرْضُ وَالسَّمَوَاتُ مِنْ خِيفَةِ قَهْرِكَ

تیرے جمال کی ضیاء سے اور تبدیل ہو جائیں گی زمینیں اور آسمان تیرے قہر و جبر کے

وَجَبْرِكَ وَتَطْلَعُ النَّيِّرَاتُ فِي كُلِّ فَلَكٍ مُضْطَرِّبِينَ مُتَحَرِّكِينَ حَيْثُ

خوف سے اور طلوع ہوتے ہیں روشن اجسام ہر فلک میں مجبوراً حرکت کرتے ہوئے جہاں

أَمَرْتَهُمَا أَعْدُ مَعَارِفِكَ الَّتِي جَعَلْتَ لِرُوحِي وَأَرْوَاحِ الْعَالَمِينَ

تو انہیں حکم دے۔ لوٹا اپنے معارف کو جو تو نے پیدا فرمائے تھے میرے روح اور عارفوں کے ارواح کیلئے

فِي أَوَّلِ النَّشْأَةِ فِي أَنِي هَذَا وَشَخْصِي مَعَ بَقَاءِ الدَّارِ وَمَا عَاشَ

پہلی نشأت میں میرے اندر اس وقت میں اور میرے شخص میں بمع میرے بقاء ذات کے اور جو کچھ میں

فِي الْمَلَا الْأَعْلَى نَاسِيًا بِعَلَاقَةِ الْبَدَنِ وَالْعَظْمَةِ وَالْكَرَامَةِ إِنْ

معاشرہ کرتا ہوں ملا اعلیٰ میں در آنحالیکہ میں بھولنے والا ہوں بدنی علاقہ اور عظمت و کرامت کو اگر وہ

فَاتَ وَأَعْدُ صِحَّةً بَعْدَ مَرَضٍ وَسُرُورًا بَعْدَ حُزْنٍ وَفُرْجَةً

ہاتھ سے نکل جائے اور عطا فرما صحت بعد مرض کے اور سرور بعد حزن و ملال کے اور فرامی بعد

بَعْدَ ضَيْقٍ وَبَسْطٍ بَعْدَ قَبْضٍ وَأَخْلَاقًا كَرِيمَةً بَعْدَ ذَمِيمَةٍ وَجَاهًا

تنگی کے اور وسعت بعد کمی اور اخلاق کریمہ بعد برے اخلاق کے اور آبرو

بَعْدَ ذَلَّةٍ وَإِعَانَةٍ وَرَحْمَةً بَعْدَ قَهْرٍ وَأَعْتِقَادَاتٍ زَالَتْ بِأَعْدَائِهِمْ

بعد ذلت کے اور اعانت و رحمت بعد قہر کے اور اعتقادات جو زائل ہو گئے بسبب عہد شکنیوں کے

وَمَوَانِعَ بَعْدَ تَرُدِّ يَدَايِ وَيُظُنُّونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور موانع بعد تردد اور گمانوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَمَا أَعْطَى مِنَ الْفَخْرِ وَالطُّوْلِ وَمِنْ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق عطا کردہ فخر اور قوت کے اور

نُفُوذِ الْأَمْرِ بِالْفِعْلِ وَالْقَوْلِ وَقَدْ رَمَا أَعْطَى مِنَ الْكَلِمَةِ الصَّادِقَةِ

نافذ امر کے فعل و قول سے اور مطابق اس کے جو دئے گئے ہیں کلمات صادقہ سے

وَمَا أَعْطَى مِنَ الْحِكْمَةِ الْفَائِقَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور جو عطا کئے گئے عمدہ حکمت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَمَا أَعْطَى مِنْ عَظَائِمِ الْأُمُورِ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق ان امور عظیمہ کے جو انہیں عطا کئے گئے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَمَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق عطا

أَعْطَى مِنَ الْحَسَنَاتِ وَالْأَجُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کی ہوتی نیکیوں اور ان کے اجروں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَمَا أَعْطَى لَيْلَةَ الْأَسْرَاءِ مِنَ الشُّرُوبِ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اس سرور اور عطیہ کے جو انہیں شب اسراء

وَالْحَبُوبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

عطا کیا گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ قَدْ رَمَّا أُعْطِيَ مِنَ الْقُوَّةِ وَالشُّجَاعَةِ وَالْقُدْرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر مطابق اس قوت و شجاعت اور قدرت کے جو انہیں عطا کی گئی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَعُلُوكَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اپنے علو و رفعت کے۔ میں پناہ طلب کرتا ہوں

اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّمَعَ اسْمُهُ

اللہ کے کلمات تامہ کے ساتھ اس کی مخلوق کے شر سے۔ اللہ کے نام کی برکت سے جس کے نام کے ساتھ ضرر نہیں

شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبِّ اسْأَلُكَ

دیتی کوئی شئی زمین میں اور نہ آسمان میں وہی سننے جاننے والا ہے۔ اے میرے رب میں سوال کرتا ہوں

خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا

تجھ سے اس دن کی خیر کا اور اس کے بعد کی خیر کا اور میں پناہ طلب کرتا ہوں اس دن اور

الْيَوْمِ وَهَذِهِ السَّاعَةِ وَهَذَا الْوَقْتِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ إِلَى أَبَدِ الْأَبَدِ

اس ساعت اور اس وقت کے شر سے اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے شر سے

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ

اے رب میں پناہ طلب کرتا ہوں سستی اور برے بڑھاپے سے۔ اے رب میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں

عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

عذاب نار، عذاب قبر اور عذاب جہنم سے اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں

شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَهِ وَأَعِصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ

اپنے شر نفس اور شر شیطان اور اس کی حصہ داری سے۔ مجھے بچا شیطان

الرَّجِيمِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسَلِّمٍ اللَّهُمَّ

رجیم سے اپنے نفس پر برائی کے ارتکاب سے یا اسے کسی مسلمان کی طرف کھینچ لانے سے۔ اے اللہ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں کفر و فقر سے اور عذاب قبر سے

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتَ أَبُوؤُوكَ بِنِعْمَتِكَ

نہیں مہبود برحق مگر تو ہی۔ اے اللہ میں پناہ حاصل کرتا ہوں تیری اپنے افعال و صنعت کے شر سے۔ میں تیرے انعامات کا

عَلَى وَأَبُوؤُوكَ بِنِعْمَتِكَ فَاعْفُرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ

کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا پس مجھے بخش دے کیونکہ نہیں بخشتا مگر تو ہی۔ اے اللہ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ وَالْحُزْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ

میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں اندوہ اور غم اور ملال سے اور پناہ حاصل کرتا ہوں عجز و

وَالْكُسْلِ وَالْفُصْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَ

ستی اور جدائی و دوری سے۔ اور تیری پناہ حاصل کرتا ہوں بزدلی۔ بڑھاپے۔ بخل اور

قَهْرِ الرِّجَالِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَبِكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ

لوگوں کے غلبہ سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں بظہیل تیری ذات کریمہ اور کلمات تامہ کے

مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ

ہر اس چیز کے شر سے کہ تو جس کی پیشانی سے پکڑنے والا ہے اور پناہ حاصل کرتا ہوں ہر اس شے کے شر سے کہ تو

آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ وَ

جس کی پیشانی کو پکڑنے والا ہے۔ اے اللہ میں پناہ حاصل کرتا ہوں تیری اور تیرے کلمات تامہ اور تمام

الْأَسْمَاءِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا ذَرَعٌ وَبِرَّءٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ وَمِنْ

اسماء کی ہر اس شے کے شر سے جسے تو نے پیدا فرمایا اور ایجاد کیا اور ہر شریر کے شر سے اور ہر

شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

جانور کے شر سے جس کی پیشانی تیرے قبضہ میں ہے۔ بیشک میرا رب صراط مستقیم والا ہے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِعَافَاتِكَ مِنْ عِقَابِكَ

اے اللہ میں پناہ حاصل کرتا ہوں تیری رضا کے واسطے سے تیری ناراضگی سے اور بوسیلہ تیری عفو کے تیری عقوبت

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ

اور پناہ حاصل کرتا ہوں بوسیلہ تیری ذات کے تجھ سے۔ میں تیری ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا تو لائق اسی ثناء کے ہے جیسے کہ

نَفْسِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَ

تو نے خود کی ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں گمراہ ہونے سے یا کئے جانے سے۔ لغزش کھانے سے

أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ

یا لغزش دئے جانے سے۔ ظلم کرنے سے یا ظلم کئے جانے سے، جاہل بننے یا جہالت کا نشانہ بننے جانے سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ

بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

حاصل کرتا ہوں مسیح و جال کے فتنہ سے اور زندگی اور موت کے فتنہ سے

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وُساوِسِ الصُّدْرِ

اور تیری پناہ حاصل کرتا ہوں گناہ اور قرض سے اور پناہ حاصل کرتا ہوں قلبی وسوسوں سے

وَشَتَاتِ الْأُمُورِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا

اور امور کی پراگندگی اور فتنہ قبر سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں رات میں داخل

يَلْبِغُ فِي اللَّيْلِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَلْبِغُ فِي النَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ مَا تَهْبُتُ بِهِ

ہونے والے کے شر سے۔ اور دن میں داخل ہونے والے کے شر سے اور جس کو ہوائیں اٹھائیں اس کے

الرِّيَّاحِ اللَّهُمَّ إِنِّي عَائِدُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُعْطِينَا وَمِنْ شَرِّ مَا

شر سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرنے والا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو تو نے عطا کی اور اس کے شر سے

مَنْعْتَنَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ

جو تو نے روک لی۔ اے اللہ میں طالب پناہ ہوں عذاب نار سے اور آتش کے فتنہ اور

وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوذُ

قبر کی آزمائش اور غنا کے فتنہ و شر سے اور فتنہ فقر کے شر سے اور میں تیرا طالب

بِكَ مِنَ الْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالذَّلَّةِ وَالْمَسْكِنَةِ وَأَعُوذُ

پناہ ہوں (دل کی) سختی اور غفلت۔ محتاجی اور دولت و مسکنت سے۔ اور تیری پناہ کا

بِكَ مِنَ الْفُسُوقِ وَالشَّقَاقِ وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ

طالب ہوں نافرمانی، مخالفت اور شہرت و ریاہ کاری سے۔ تیری پناہ کا طلب گار ہوں

مِنَ الصَّمِّ وَالْبُرْصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُدَامِ وَسَيِّئِ الْأَسْمَاءِ

برہ بن۔ گونگا پن اور برص و جنون اور کوڑھ سے اور بری بیماریوں سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق

مَا أُعْطِيَ مِنَ الْبَلَاغَةِ وَالْبِرَاعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اس بلاغت اور برتری کے جو انہیں عطا کی گئی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا أُعْطِيَ مِنَ الْقَنَاعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آپ کی آل پر مطابق اس قناعت کے جو انہیں عطا کی گئی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا أُعْطِيَ مِنَ السَّمَاةِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق اس سخاوت کے جو انہیں عطا کی گئی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق

مَا أُعْطِيَ مِنَ الْمَلَاةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اس ملاحت و کثرت حسن کے جو انہیں بخشی گئی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا أُعْطِيَ مِنَ الْبَيَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آپ کی آل پر مطابق اس بیان کے جو انہیں عطا کیا گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا أُعْطِيَ مِنَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق اس فصاحت کے جو

الْفَصَاحَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

انہیں عطا کی گئی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا أُعْطِيَ مِنَ الدَّلَائِلِ الْقَاطِعَةِ اللَّهُمَّ

آل اطہار پر مطابق ان دلائل قطعیہ کے جو انہیں عطا کئے گئے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا

صلوٰۃ و سلام نازل فرما ستینا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق ان غالب

أَعْطَى مِنَ الْبِرَاهِينِ السَّاطِعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

براہین کے جو انہیں عطا کئے گئے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما ستینا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا أُعْطِيَ مِنَ الْعَمَلِ الْبَارِّ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق ان نیک اعمال کے جن کی انہیں توفیق دی گئی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما ستینا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اس

مَا أُعْطِيَ مِنَ السَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تسکین و وقار کے جو انہیں بخشا گیا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما ستینا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا أُعْطِيَ مِنَ الْعَقْلِ وَرُحْمَانِهِ اللَّهُمَّ

اور آپ کی آل پر مطابق اس عقلمندی اور اس کے غلبہ کے جو انہیں عطا کیا گیا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا أُعْطِيَ

صلوات و سلام نازل فرما ستینا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اس حق اور اس کے

مِنَ الْحَقِّ وَيَيَّانِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اطہار کے جو انہیں عطا کیا گیا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما ستینا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا أُعْطِيَ مِنْ عُلُوشَانِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کی آل پر مطابق اس علوشان کے جو انہیں عطا کی گئی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا أُعْطِيَ مِنَ الرَّحِيقِ وَالْكَوْثَرِ

ستینا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اس شرابِ خالص اور کوثر کے جو انہیں عطا کئے گئے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما ستینا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق ان

أُعْطِيَ مِمَّا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ أَحَدٍ

عطا کردہ نعمتوں کے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھیں اور نہ کسی کان نے سُنیں اور نہ کسی بشر کے دل پر کھنکھیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق

مَا أُعْطِيَ مِنَ الْخَيْرِ وَالْكَوْثَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

خیر و کوثر کے جو انہیں عطا کئے گئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا أُعْطِيَ مِنَ الْفَضْلِ وَعَلَى جَمِيعِ الْبَشَرِ

آپ کی آل پر مطابق اس فضل و شرف کے جو انہیں عطا کیا گیا تمام بشروں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اس اجر کے

أُعْطِيَ مِنْ أَجْرٍ مَا بَلَغَهُ عَنْ رَبِّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جو انہیں دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ احکام پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا أُعْطِيَ مِنْ ثَوَابِ الْكِتَابِ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اس ثواب کے جو انہیں عطا کیا گیا ان کے دل اقدس پر

الْمُنَزَّلِ عَلَى قَلْبِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اتاری ہوئی کتاب پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا أُعْطِيَ مِنَ الْقَوْلِ الثَّابِتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کی آل پر مطابق اس پائیدار قول کے جو انہیں عطا کیا گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَا أُعْطِيَ مِنْ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق نماز پر عطا کئے گئے

أَجْرِ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ لَا يَجْهَرُ بِهَا وَلَا يَخَافُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اجر کے جس نماز میں نہ زیادہ جہر کرتے تھے اور نہ بالکل اخفاء قراءت۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَمَا أُعْطِيَ مِنْ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق رفعت قدر کے جو

رَفَعَةَ الْقَدْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

انہیں عطا کی گئی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ قَدْ رَمَا أُعْطِيَ مِنْ ثَوَابِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر مطابق لیلۃ القدر کے ثواب کے جو انہیں عطا کیا گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَمَا أُعْطِيَ مِنْ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اس فضل عظیم کے جو انہیں

الْفَضْلِ الْعَظِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

عطا کرے گا قیامت کے دن۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَمَا أُعْطِيَ مِنْ الْعِزِّ وَالْمَجْدِ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اس عزت و بزرگی کے جو انہیں عطا کی گئی۔ اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَمَا أُعْطِيَ

اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق شکر و حمد

مِنْ ثَوَابِ الشُّكْرِ وَالْحَمْدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کے ثواب کے جو انہیں عطا کیا گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَمَا أُعْطِيَ مِنْ حُسْنِ الْيَقِينِ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اس حسن یقین کے جو انہیں عطا کیا گیا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق

مَا أُعْطِيَ مِنْ عُلُومِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اولین و آخرین کے علوم کے جو انہیں عطا کئے گئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَمَا أُعْطِيَ مِنْ عِلْوِ السَّمَاءِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق اس رفعت مقام کے جو انہیں عطا کی گئی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَمَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق

مَا أُعْطِيَ مِنَ الشَّرَفِ التَّامِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

عطا کردہ شرف کامل کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَمَا أُعْطِيَ مِنَ الشَّفَقَةِ وَالْحَتَانِ

آپ کی آل پر مطابق اس شفقت و عنایت کے جو انہیں عطا کی گئی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَمَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق

مَا أُعْطِيَ مِنْ رَفْعَةِ الشَّانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

محبوب رفعت شان کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَمَا أُعْطِيَ مِنَ الدَّلَالَةِ وَ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق محبوب رہبری اور

الْبُرْهَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

برہان کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَمَا أُعْطِيَ مِنْ جَلِيلِ الْقُدْرَةِ فِي سُورَةِ

کی آل پر مطابق محبوب قدر جلیل کے جو سورہ سبحان میں

سُبْحَانَ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

ذکور ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَمَا أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کی آل پر مطابق موہبہ آیات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلَّمَ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَّا أُعْطِيَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق عطا کردہ

مِنَ الْمُعْجَزَاتِ وَمِنَ الْخُصُوصِيَّاتِ وَالْفَضْلِ عَلٰی جَمِيْعٍ

معجزات اور خصوصیات کے اور تمام کائنات پر

الْكَائِنَاتِ وَمَا أُعْطِيَ مِنْ رُّوْنِقِ الْجَمَالِ وَالْمَجْدِ وَالْكَمَالِ وَ

فضیلت کے اور مطابق مویوب جمال والی رونق اور بزرگی اور کمال کے اور

مِنَ الْقُبُوْلِ وَالْاِقْبَالِ وَمِنْ اِجَابَةِ السُّوَالِ وَمَا أُعْطِيَ مِنْ

قبولیت و اقبال کے اور قبولیت سوال کے اور مطابق مویوب

الْمَقَامَاتِ وَالذَّرَجَاتِ وَالْخَيْرَاتِ وَالْبَرَكَاتِ وَمَا أُعْطِيَ

مقامات و درجات اور خیرات و برکات کے اور مویوب

مِنَ الشَّهَادَةِ وَالزُّهْدِ وَالْعِبَادَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

شہادت اور زہد و عبادت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرًا مَّا أُعْطِيَ مِنَ التَّبْلِيْغِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق مویوب تبلیغ و

وَالْاِفَادَةِ وَالْفَضَائِلِ السَّنِيَّةِ وَالْمَرَاتِبِ الْعَلِيَّةِ وَمِنْ حُسْنِ

افادہ اور عالی شان فضائل اور بلند مراتب کے اور حسین

الشَّمَائِلِ وَمِنْ كُلِّ خَيْرٍ عَاجِلٍ وَّ اٰجِلٍ وَمَا أُعْطِيَ مِنَ الْعُلُوْمِ

خصلتوں کے اور ہر خیر کے جو فوری ظاہر ہونے والی ہے یا تاخیر سے۔ اور مطابق مویوب علوم

وَالْمَعَارِفِ وَالْمَنَحِ وَمِنَ اللَّطَائِفِ وَمَا أُعْطِيَ مِنْ كَمَالِ وَصْفِهِ

و معارف اور عطیات کے اور لطائف کے اور مویوب اوصاف کاملہ کے

وَمِنْ جَمِيْعِ صُنْعِ اللّٰهِ بِهِ وَمَا أُعْطِيَ مِنْ جَمِيْعِ لُطْفِهِ وَقَدْ رَحِمْتَهُ

اور مطابق اللہ تعالیٰ کی تمام بھلائیوں کے ساتھ ان کے اور اس کے مویوب تمام تر لطف و کرم کے اور مطابق

لِللَّهِ وَتَبْجِيدِهِ لِلَّهِ وَشُكْرِهِ لِلَّهِ وَتَحْمِيدِهِ لِلَّهِ وَقَدْرٍ مَقْدَارِهِ الْعَظِيمِ

ان کی حمد خداوندی اور تمجید و شکر اور تحمید کے اور مطابق ان کے اپنے ہاں عظیم قدر و منزلت

لَدَيْكَ وَإِذْلَالِهِ عَلَيْكَ وَقَدْرٍ تَعْلُقُ قُدْرَتِكَ بِمَخْلُوقَاتِكَ وَتَحْقُقُ

کے۔ اور ان کے ناز محبوبی کے اور مطابق اپنے تعلقات قدرت کے ساتھ تمام مخلوقات کے اور مطابق تحقق

الْمُلْكِ يَا رَادَتِكَ وَقَدْرٍ مَنَزَلَتِهِ وَقَدْرٍ لَدَيْكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُبْعِدُ

ہونے ملک کے ساتھ تیرے ارادہ کے اور مطابق ان کی قدر و منزلت کے تیرے ہاں۔ اے اللہ تو ہی قادر

الْمُطْلَقُ بِكُلِّ إِعَادَةٍ فَأَعِدْ لِمَا دَعَا هَذَا الدَّاعِيَ فِي حَقِّ أَيِّ مُؤْمِنٍ

مطلق ہر بھلائی پر پس مریانی فرما جس مومن کے حق میں دعا کی اس

إِعَادَةٍ سَرِيعَةٍ مَّقْرُونَةٍ بِكُنِّ الذِّي هُوَ أَمْرٌ إِيْجَادٌ وَتَكْوِينٌ وَإِنْ

دعا گوئے ایسی فوری بھلائی جو مقرون ہو ساتھ کلمہ کن کے جو کہ امر ایجاد و تکوین ہے اگرچہ

كَانَ مِنَ الْمَحَالَاتِ الْعَادِيَّاتِ وَالْمُسْتَنْعَاتِ وَأَعِدْ لِلسُّقَامِ الضَّارَّةِ

ہو وہ امر محالات اور منتنعات عادیہ سے اور لوٹا ضرر رساں بیماریوں کو

بَعْدَ الْفُرْجَةِ لِأَعْدَاءِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَأَصْحَابِ الْإِخْلَاقِ الْمَحْمُودَةِ

کشائش و چٹکارا کے بعد اہل اسلام اور قابل ستائش اخلاق والوں کے

وَأَعْدَاءِ الْفُقَرَاءِ وَالظَّالِمُونَ كَيْفَ يَبْسُطُونَ الْيَدَ وَالرَّجْلَ بِالْفِعْلِ

اعدا پر اور فقراء کے اعداء پر اور ظالم لوگ کس طرح پھیلاتے ہیں ہاتھ اور پاؤں ساتھ فعل کے

وَاللِّسَانَ بِالقَوْلِ وَالْقُدْرَةَ الَّتِي كَانَتْ لَهُمْ فِي مَبْدِئِ الْفِطْرَةِ

اور زبان کو ساتھ قول کے اور قدرت کے جو ان کو حاصل تھی مبدئ فطرت میں جو

الْمَقْهُورَةَ مُذَلَّةً مَّرْدُودَةً عِنْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَا عَزِيزُ الْمُنِيعِ

مفقور و تابع فرمان لوٹائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول کے پاس۔ اے غالب،

الْغَالِبِ عَلَى جَمِيعِ أَمْرِهِ فَلَا شَيْءَ يُعَادِلُهُ أَعِزَّنِي بِالْأَحْوَالِ

عالبشان، تمام امور پر غالب کہ کوئی شئی اس کی برابری نہیں کر سکتی مجھے عزت بخش ساتھ ان احوال کے

الْمُرْشِدَةَ إِلَى الْأَحْوَالِ الْقَوِيَّةِ بِالْمَلَكَةِ الْعَرْشِيَّةِ وَالْكُرْسِيِّ الْقَوِيَّةِ

جو رہنمائی کرنے والے ہیں احوال قویہ کی طرف جو عرش و کرسی کے ملائکہ سے تقویت پانے والے ہیں

الْمُفَرِّقَةَ الْقِتَالَةِ لِأَعْدَاءِ الْفُقَرَاءِ وَالْمُسْتَعِدِّينَ الطَّالِبِينَ لِلْكَمَالَاتِ

جو توڑنا ہیں متفرق کرنے اور قتل کرنے والے ہیں فقراء اور اہل استعداد طالبان کمالات

الْآخِرَوِيَّةِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْغَالِبُ ذُو الْعِظَمَةِ وَالْقُدْرَةُ الْبَاهِرَةُ وَالْحِكْمَةُ

اخرویہ کے اعداء کو۔ اے اللہ تو غالب، عظمت والا۔ قدرت کاملہ اور حکمت مایہ

الْعَالِيَةِ سَدَّتْ أَفْهَامَ الْعُقُولِ وَحَيَّرَتْ النَّفُوسَ عِنْدَ الْمَطَالَعَةِ وَ

والا ہے۔ مسدود ہو گئے عقول کے افہام اور حیرت زدہ ہو گئے نفوس مشاہدہ کے وقت اور

ذَابَتْ الْأَبْدَانُ عِنْدَ الْمَشَاهِدَةِ جَلَّ جَلَالُكَ وَشَرِقَ جَمَالُكَ اجْعَلْنِي

پچھل گئے ابدان معائنہ کے وقت۔ بزرگ ہے تیرا جلال اور روشن رہے تیرا جمال مجھے بھی بنا دے

غَالِبًا قَادِرًا عَلَى نَفْسِي الْأَمَارَةِ وَالْعَبُورِ فِي الطَّرِيقِ الْجَادَةِ وَإِنْ غَالِبٌ

غالب و قادر نفس امارہ پر اور عظیم شاہراہ کے عبور پر اور اگر کوئی غالب آئے

أَحَدٌ بِالْقَوْلِ وَالْجَارِحِ فَأَقْلَعُهُ وَاجْمَعُهُ إِلَى تَفْرِيقِهِ إِنْ كَانَ قَاصِدًا

قول اور اعضاء کے ساتھ تو اس کو اکھیڑ پھینک اور اس کی جمعیت کو پراگندہ کر اگر قصد کرنے والا ہو

إِلَى السُّوْعِ وَالْإِهَانَةِ دَاعِيًا مُرَوِّعًا إِلَى الْإِيذَاءِ إِلَّا أَنْتَ إِنْ كُنْتَ

برائی اور اہانت کا اور بلانے والا ہو طرف ایذاء رسانی کے خوفزدہ کرنے والا مگر یہ کہ تو اس پر

رَاضِيًا بِهِ فَإِنِّي أَرْضَى بِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُبْنِعُ الْغَالِبُ عَلَى كُلِّ أَمْرٍ

راضی ہو تو پھر میں بھی راضی ہوں۔ اے اللہ تو غالب شان ہے، ہر امر پر غالب ہے۔

فَلَا يُقَاوِمُكَ وَلَا يُصَادِمُكَ أَحَدٌ اجْعَلْنِي مَنِيعًا غَالِبًا عَلَى كُلِّ

نہیں مقابلہ کر سکتا اور نہ مخالفت کر سکتا ہے تیری کوئی شخص مجھے بھی ناقابل تسخیر اور غالب بنا دے

جَنِّي وَرُوحِي وَرُوحَانِي حَتَّى تَغَيِّرَ دُعَايَافِي أَفْعَالَهُمْ إِلَى إِهْمَالِهَا

ہر جن اور روح اور روحانی پر حتیٰ کہ کر دیں میری دعائیں ان کے افعال کو مہمل در آنحالیکہ

مُقَادَةٌ مُطِيعَةٌ زَمِنَةٌ إِلَى أفعالِهَا إِنْ أَرَادَ عَبْدُكَ الدَّاعِي وَإِنْ

وہ فرمانبردار و اطاعت گزار ہوں اور بے دست و پا ہوں اپنے افعال میں اگر تیرا یہ دعا طلب بندہ چاہے

قَصْدَ الْغَلْبَةِ وَالْقَهْرَ فَاسْلُبِ الْبَاعِثَةَ وَالْفِعْلَ مِنْهُ وَعَطِّلِ الْقُوَى

اور اگر غلبہ و قہر کا قصد کرے تو اس کا باعث و محرک اور فعل سلب کرے اور اس کے قوائے

الْفَاعِلَةَ الْمُتَحَرِّكَةَ مِنْهُ إِلَى هَذَا الدَّاعِي سِوَى الْقَصْدِ بِالْإِحْسَانِ

فاعلہ محرکہ کو معطل فرماوے متوجہ کرتے ہوئے طرف اس عبد داعی کے ساتھ احسان اور

وَالْأَخْلَاقَ وَالْمَدَارِةَ الدِّينِيَّةَ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى

حسن اخلاق اور دینی رواداری کے ارادہ کے خالص اپنی ذات کے لیے بغیر

صَدَارَةٍ وَإِذْعَانِ جَاهٍ فَيَا إِلَهَ كُلِّ شَجَرٍ ذِي أُصُولٍ قَوِيَّةٍ وَجِبَالٍ

صدارت کے دعویٰ اور عز و جاہ کی پندار کے پس لے الہ ہر مضبوط جڑوں والے درخت کے اور مضبوط

رَأْسِيَّاتٍ حَتَّى جَعَلْتَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ غَالِبًا عَلَى جُنْدِ قُرْعُونَ

و مستحکم پہاڑوں کے تو نے ہی موسیٰ علیہ السلام کو غالب فرمایا فرعون کے لشکر پر

حَتَّى أَمِنَ السَّحْرَةَ وَالتَّقَمَ الْعَصَا لِحَيَاتِ الْبَاطِلَةِ وَالْأَفَاعِي

حتی کہ ایمان لائے جادوگر اور نکل گیا عصائے کلیم باطل ساینوں اور زہریلے اژدہوں

السُّهُومِيَّةَ وَجَعَلْتَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنِيعًا عَزِيزًا غَالِبًا

کو اور تو نے بنایا سلیمان علیہ السلام کو عالی مرتبت عزیز و غالب تمام

عَلَى كُلِّ إِنْسٍ وَرَجِنٍ وَطُيُورٍ صَافَاتٍ عَلَى رَأْسِهِ مَعَ نُبُوَّةِ

انسانوں، جنوں اور پرندوں پر جو صفت بستہ ہوتے ان کے سر اقدس پر جمع عطاء نبوت

وَسُلْطَنَةِ وَهَذَا مِنْ غَلْبَتِكَ وَإِقْدَارِكَ الْحَقِيقَةِ وَكُلُّ تَحْتِ

و سلطنت کے اور یہ درحقیقت تیرا ہی غلبہ اور اظہار قدرت ہے اور ہر شئی تیرے امر اور

أَمْرِكَ وَرِضَاكَ وَإِلَّا فُسْلِيمَانَ كَانَ بَشَرًا كَسَائِرِ عِبَادِكَ وَصَلَّى

رضاکے تحت ہے ورنہ سلیمان علیہ السلام بھی مخلوق تھے مانند دوسرے مخلوق کے اور ہو گئے

بِاصْطِفَائِكَ وَالْهَامَاتِكَ وَاَعْطَاكَ سُلْطَانًا وَخَلِيفَةً وَسُلْطَانًا

تیری پسندیدگی اور الہام و عطا سے سلطان و خلیفہ اور صاحب امر سلطان

أَمِيرًا مَنِيعًا فِي خَلْقِكَ فَكَذَلِكَ اجْعَلْ عَبْدَكَ الَّذِي يَدْعُو إِلَيْكَ

اور عالی مرتبت تمام مخلوق میں پس ایسے ہی بنا دے اپنے بندے کو جو داعی ہے تیری طرف

مِنْكَ مِنْ أُمَّةٍ رَسُولِكَ وَحَبِيبِكَ أَمِيرًا وَجِيهًا غَالِبًا فِي خَلْقِكَ

تیری توفیق سے ہی اپنے رسول و حبیب کی امت میں سے صاحب امر، آبرو مند اور غالب جہانوں

النَّاسُوتِيَّ وَأَمْرَاءَ الْمَلِكُوتِيَّةِ وَأَمِيرًا وَجِيهًا فِي الْأَرْوَاحِ وَخَوَاصِّ

میں اور ملکوئی امراء میں اور صاحب امر و آبرو مند ارواح میں اور انحصار الخواص اجسام

فِي الْأَجْسَادِ غَنِيًّا مِّنْ مُّلُوكِ الْأَرْضِ وَعُلَمَاءِ الدُّنْيَا وَمِن

میں۔ ملوک ارضی سے بے نیاز اور علماء و دنیا سے بھی اور ان فقراء سے بھی

الْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَضَاعُوا أَوْقَاتَهُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَضُوا بِهَا

جنہوں نے اپنے اوقات کو حیات دنیا میں ضائع کر دیا اور اسی پر راضی رہے

ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَاجْعَلْنِي مِّنَ الْعُلَمَاءِ الْمَعْبُودِينَ

اور وہی ان کا منتہائے علم ہے۔ اور بنا مجھے عبادت گزار علماء اور

وَالْفُقَرَاءِ الرَّاضِينَ الْكَامِلِينَ فِي نَفْسِهِمْ وَالْمَكْبُودِينَ لِغَيْرِهِمْ

ارباب رضا فقراء سے جو بذات خود کامل ہیں اور دوسروں کی تکمیل کرنے والے ہیں

أَمِينَ هُوَ وَاجْعَلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ أَحَبَّ إِلَيَّ

آمین۔ اور بنا دے "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" کو محبوب ترین میرے روح

مِنْ دُورِحِيَّ وَجَسَدِيَّ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ نَّاسُوتِيٍّ وَمَلِكُوتِيٍّ وَمِنْ

اور جسم سے اور ہر جہان اور ملکوئی چیز سے اور ہر خواہش

كُلِّ شَهْوَةٍ وَإِنْ كَانَتْ لَا هُوْتِيَّةً سِوَى الْغَلْبَةِ عَلَى الْحَبِّ الْمَطْلُوقِ

سے اگرچہ لا ہوتی ہی ہو سوائے غلبہ کے اوپر حب مطلق صافی

الصَّفْوِ وَالْكُوَّةَ التُّورِيَّةَ الْحَقِيقِيَّةَ وَالسُّطُورِ الْجَامِعَةَ لِلْخُطُوطِ

اور حقیقت نوریہ کے طاق و محراب کے اور سطروں کے جو جامع ہیں خطوط

وَالسُّطُورِ وَالنُّقَاطِ التَّفْصِيلِيَّةِ اللَّهُمَّ اجِبْ هَذِهِ الدَّعَوَاتِ

اور سطروں اور تفصیلی نقاط کی ۔ اے اللہ قبول فرما ان دعاؤں کو

يَا صَادِقَ الْوَعْدِ وَالْقَوْلِ إِنِّي أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَ

اے سچے وعدے اور قول والے کہ میں قبول کرتا ہوں دعا دعا کرنے والے کی جب بھی دعا کرے

كُلُّ شَيْءٍ مُمَكِّنٍ إِلَّا جَابَةَ سَوَى النَّبِيِّ وَالْوَجُوبِ وَقَدْ أُعْطِيتَ

اور ہر چیز کی دعا قابل قبولیت ہے سوائے نبوت اور وجوب الوجود کے اور تو نے عطا فرمائی ہے اپنے

لِمَنْ طَلَبَكَ مِنْ عِزَّتِكَ يَا أَيُّهَا الْأَعْظَمُ مَنْ غَيْرِكَ حَتَّى ادْعُو

طلب گار کو عزت اپنی طرف سے اے عظیم ترین کون ہے تیرے علاوہ جس کی طرف دعوت دوں

إِلَيْهِ سَوَى الدَّعْوَةِ إِلَى عِظَمَتِكَ وَإِجَابَتِكَ وَهَذَا عَبْدُكَ

سوائے تیری عظمت و اجابت کی طرف دعوت کے ۔ اور یہ تیرا بندہ

قَاصِدٌ فِي اسْتِعْدَادِ طَلَبِكَ وَلَكِنْ رَحْمَتِكَ وَاسِعَةٌ فَاجِبُ دَعْوَاتِي

ناقص استعداد والا ہے تیری طلب میں لیکن تیری رحمت وسیع ہے، پس قبول فرما میری

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ آمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

دعاؤں کو آسمانوں اور زمینوں میں آمین ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَمَا رَفَعَتْ لَهُ مِنْ ذِكْرِهِ وَ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق ان کے ذکر کی رفعت کے اور

ثَوَابِهِ وَأَجْرِهِ وَقَدْ رَمَا التَّمَسُّكِ بِأَسْبَابِهِ وَقَدْ رَمَا تَعْبُدُهُ لِمَوْلَاهُ

ثواب و اجر کے اور مطابق ان کی مباشرت اسباب کے اور اپنے مولیٰ کی عبادت کے

فِي لَيْلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

شہائے تارک میں ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ قَدَرِ تَعْبُدُهُ لِمَوْلَاهُ فِي نَهَارِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

پہر مطابق ان کی عبادت مولیٰ کے روشن دنوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدَرِ شُغْلِهِ بِرَبِّهِ فِي سَفَرِهِ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق ان کی مشغولیت کے ساتھ اپنے رب کی اور ان اپنے سفر کے۔

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدَرِ شُغْلِهِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق ان مشغولیت کے ساتھ اپنے

بِرَبِّهِ فِي قَرَارِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

رب کے اپنے زمانہ قرار میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدَرِ الْوَهَيْتِكَ الْعَامَّةِ الشَّامِلَةِ الَّتِي لَا شَرِيكَ

کی آل پر مطابق اپنی الوہیت عامہ شاملہ کے جس میں کوئی شریک نہیں ہے

لَهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

قَدَرِ كُلِّ شَيْءٍ ذَرَّةً ذَرَّةً اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مطابق ہر شے کے ذرہ ذرہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدَرِ عِزَّتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي

اور آپ کی آل اطہار پر مطابق اپنی عزت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدَرِ غَلْبَتِكَ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق اپنے غلبہ کے۔ اے اللہ

بِتَلَاؤِ نُورِهَا بِهَاءِ حُجُبِ عَرْشِكَ مِنْ أَعْدَائِي اِحْتَجَبْتُ وَ

بوسیدہ تیرے حجابات عرش کے روشن نور کی چمک کے میں نے اپنے اعداء سے پردہ حاصل کیا اور

بِسُطُوَّةِ الْجَبْرُوتِ مِمَّنْ يُكِيدُنِي تَحَصَّنْتُ وَبِحَوْلِ طَوْلِ جَوْلِ

بوسیدہ صفات جلال کے غلبہ کے میں نے تحفظ حاصل کیا فریب دینے والوں سے۔ اور بوسیدہ تیری شدید

شَدِيدِ قُوَّتِكَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ اسْتَعَدَّتْ بِمَكْنُونِ السِّرِّ

قوت و قدرت ک قوت و طاقت اور جولانی کے ہر شیطان کے شر سے پناہ حاصل کی اور پوسیلہ تیرے

مِنْ سِرِّ سِرِّكَ مِنْ كُلِّ هَامَّةٍ تَخَلَّصْتُ وَتَحَصَّنْتُ يَا حَامِلُ

الذ مخفی کے جو سرا سرا سے ہے میں نے خلاصی پائی ہرزہریلے جانور سے۔ اور تحفظ حاصل کیا میں نے اے حامل

الْعَرْشِ عَنِ حَمَلَةِ الْعَرْشِ يَا حَابِسُ الْوَحْشِ يَا شَدِيدَ الْبُطْحِ

عرش عرش کے اٹھانے والوں سے اے روکنے والے جنگلی جانوروں کے اے سخت گرفت والے

عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ إِحْبِسْ عَنِّي مَنْ ظَلَمَنِي وَاغْلِبْ

میں نے تجھی پر توکل کیا اور تیری طرف ہی رجوع کیا روک دے مجھ سے مجھ پر ظلم کرنے والوں کو اور تو غالب ہو

عَلَى مَنْ غَلَبَنِي كَتَبَ اللَّهُ لِأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ

مجھ پر غلبہ پانے والوں پر "اللہ نے لکھ دیا ہے ضرور غالب رہوں گا میں اور میرے رسول بیشک اللہ تعالیٰ قوی

عَزِيزٌ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَعَزُّ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيعًا

عزیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اور اللہ بہت عزت والا ہے اپنی تمام مخلوق سے

اللَّهُ أَعَزُّ مِمَّنْ أَخَافُ وَأَحْدَرُ أَعُوذُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا

اللہ بہت غالب ہے ان سے جن سے میں خوفزدہ ہوں اور ہراساں۔ میں پناہ حاصل کرتا ہوں اللہ کی رکھ نہیں معبود

هُوَ مِمَّا سَبَّكَ السَّمَوَاتِ السَّبْعُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

برحق مگر وہی جو روکنے والا ہے ساتوں آسمانوں کو زمین پر گرنے سے مگر ساتھ اس کے اذن سے

مِنْ شَرِّ عِبْدِكَ فَلَانٍ وَجُنُودِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ مِنَ الْجِنَّ

فلاں بندے اور اس کے عساکر اور متبعین و ہاونین جن و انس کے

وَالْإِنْسِ اللَّهُمَّ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّهِمْ جَمِيعًا جَلَّ ثَنَاءُكَ

شر سے۔ اے اللہ تو میری پناہ بن ان تمام کے شر سے، بزرگ ہے ثنا تیری

وَعَزَّ جَارُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ تَفَعَّلْ مَا تَشَاءُ

اور عزت والا ہے بڑوسی تیرا اور بابرکت ہے نام تیرا اور نہیں معبود برحق مگر تو، جو چاہے کرتا ہے

وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور تو ہر چیز پر قدیر ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَاصِلًا حِكِّ فِي أُمُورِ خَلْقِكَ

اور آپ کی آل اطہار پر مطابق اصلاح فرمانے امور خلقت کی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

قَدْ رَغُفْرَانِكَ لِلْخَلْقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مطابق اپنی مغفرت کی مغفرت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَاسْتَحْقَاقِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آپ کی آل پر مطابق ان کے استحقاق کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَمَغْفِرَتِكَ بِحَسَبِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اپنی مغفرت اور باعتبار اپنی سنت

عُفْرَانِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

عُفْرَانِ كَيْ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ قَدْ رَكِبْرِيَايِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پر مطابق اپنی کبریائی کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَكَمَالِ ذَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آپ کی آل پر مطابق اپنے کمال ذات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَشْرَافَةِ ذَاتِكَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اپنی ذات مقدسہ کی شرافت

الْمُقَدَّسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ قَدْرًا حَاطَتْكَ بِأَلْشَيْءِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا

پر مطابق اپنے احاطہ کے ساتھ تمام اشیاء کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ صِفَاتِ حَيَاتِكَ الْقَدِيمِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر اپنی حیات قدیمہ کی صفات کے مطابق۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق

قِيَامِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اپنی بقا کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ قَدْرَ ظُهُورِكَ بِالْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر مطابق اپنے آیات بینات کے ظہور کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ مَا عِبَادِكَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر بمقدار اپنے ان بندوں کے

الَّذِينَ وَفَّقْتَ لَهُمُ الرُّجُوعَ إِلَيْكَ بَعْدَ حَوْضَاتِ الْفِتَنِ

جنہیں تو نے توفیق بخشی اپنی طرف رجوع کی فتنوں میں داخل ہونے کے بعد۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

قَدْرَ رُبُوبِيَّتِكَ عَلَى سَائِرِ الْخَلْقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

مطابق اپنی ربوبیت خلاق کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْرَ رُبُوبِيَّتِكَ عَلَى سَائِرِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اپنی رب العالمین

الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدَرِ عِبُودِيَّتِكَ عَلَى جَمِيعِ الْمُهَاجِرِينَ اللَّهُمَّ

آل پر مطابق اپنی عبودیت کے سب مہاجرین کے ہاں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدَرِ عِبُودِيَّتِكَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اپنی عبودیت کے

عَلَى جَمِيعِ الْأَنْصَارِ وَقَدَرِ قُدْرَتِكَ فِي خَيْرِ الْأَخْيَارِ مِنْ جَمِيعِ

تمام انصار کے ہاں اور مطابق اپنی قدرت کے بہتر لوگوں کی خیر رسائی پر تمام تر

الْأَضْرَارِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي أَثْبَتَ الْإِيْمَانَ فِي قُلُوبِ

نقصانات سے۔ اے اللہ تو ہی وہ مومن ہے جس نے ثابت کیا ہے ایمان کو اہل عرفان

أَهْلِ الْعِرْفَانِ وَأُظْهِرْتَ الْإِيْمَانَ عِنْدَ ظُهُورِ الْأَمْنِ وَالْأَمَانِ

کے قلوب میں اور ظاہر کیا ہے ایمان کو امن و امان کے ظہور

وَرَزَقْتَ الْإِسْتِقَامَةَ لِمَنْ صَحَّتْ لَهُ الْإِقَامَةُ فِي دَارِ

کے وقت اور تو نے ہی استقامت عطا فرمائی انہیں جن کے لیے درست ہو گئی دار

الرِّضْوَانِ وَأَعْطَيْتَهُمُ الْأَمَانَ مِنْ تَغْيِيرَاتِ الْحَدَثَانِ وَ

رضوان میں اقامت اور تو نے ہی انہیں امان دی تغیرات حوادث سے اور

أَحْرَزْتَهُمْ مِنْ غَوَايِلِ الشَّيْطَانِ الَّذِي يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْإِيْمَانِ

پناہ دی شیطانی ہلاکتوں سے جو نقص پیدا کرتا ہے صحیح ایمان میں

بِمَا مَنَحْتَ لَهُمْ بِجُودِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ وَالْبِرْهَانِ وَطَهَّرْتَهُمْ مِنْ

بسبب عطا کرنے ایمان و برہان ساتھ اپنے جود کے اور پاک کیا انہیں

هُوَ أَجْسِ دَوَائِعِ النَّزَلَاتِ وَرَفَعْتَهُمْ عَنْ قَبُولِ عَوَارِضِ السَّلْبِيَّاتِ

پستیوں کے موجب اسباب اور خیالات فاسدہ سے اور بلند کیا انہیں سلبی عوارض کی قبولیت سے

أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِجَمِيعِ مَا فِي غَيْبِكَ مِنْ حَقَائِقِ الْعِلْمِيَّةِ وَ

میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے اللہ بظہیر ان حقائق علمیہ اور دقائق ارادیہ کے

الدَّقَائِقِ الْإِرَادِيَّةِ أَنْ تَجْعَلَنِي أَمِنًا مِنْ خَوْفِ النَّظَرِ الصُّورِيِّ

جو تیرے علم غیب میں ہیں کہ مجھے بے خوف بنا دے نظر صوری کے خوف سے

فِي مَقَامِ النَّفْعِ وَالضَّرْحِ حَتَّى أَقْبَلَ إِلَيْكَ فَارِغَ الْقَلْبِ طَيِّبِ

نفع و نقصان کے مقام میں تاکہ میں تیری طرف متوجہ ہو سکوں سکون قلب اور پاکیزگی

النَّفْسِ وَاثْقَابِ مَوْعُودِ الرَّبِّ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تَجْعَلَ لِي

نفس کی حالت میں اپنے رب کے وعدہ پر اعتماد کرتے ہوئے۔ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے۔ اے اللہ کہ بنا میرے

شَيْئًا أَتَمَسَّكَ بِهِ إِلَّا مَنْ مِنَ الْخَلْقِ وَاجْذِبْنِي إِلَيْكَ بِهَدَايَةِ

یہ ایسی چیز جس کے ساتھ چنگل ماروں مخلوق سے امن حاصل کرنے میں اور مجھے کھینچ لے اپنی طرف

طَرِيقِ الْحَيَاةِ وَالْإِرْشَادِ لِسَبِيلِ النَّجَاةِ يَا مَنْ يُهَبُّ الْكَثِيرُ وَ

حیات ابدیہ کی راہ دکھلا کر اور راہ نجات کی رہنمائی فرما کر۔ اے کہ بہت زیادہ عطا کرتا ہے اور

يَقْبَلُ الْقَلِيلَ وَتُحِبُّ الْإِحْسَانَ وَتَجُودُ بِالتَّفْضِيلِ عَلَى أَهْلِ

قلیل کو قبول فرماتا ہے، احسان کو پسند فرماتا ہے اور فضیلت و شرف کا جود فرماتا ہے اہل ایمان

الْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانَ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِسَيِّدِ الْبَشَرِ وَشَفِيعِكَ

اور اہل احسان پر۔ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے اللہ بطفیل سید البشر اور شفیع

يَوْمَ الْمَحْشَرِ وَحَبِيبِكَ الَّذِي بَعَثْتَهُ لِعِبَادِكَ يَوْمَ الْأَرْفَةِ

یوم محشر کے اور تیرے حبیب کے جنہیں تو نے مبعوث فرمایا منفعت عباد کے لیے قیامت کے دن

وَتَبْسُطِ النَّفْعِ وَتَدْفَعُ الضَّرْرَ وَأَعِزَّنِي مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَأَكْرِمْنِي

اور تو ہی عام کرتا ہے منفعت کو اور دور فرماتا ہے ضرر کو مجھے بچالے ہر مصیبت سے اور مجھے عزت دے

بِخَيْرِ الْعَطِيَّةِ وَأَنْزِلْ عَنِّي بِرَأْفَتِكَ سِرَّ الْبَلِيَّةِ فَإِنَّ الْمَسْئِلَ كُلَّ

بہترین عطیہ کے ساتھ اور نازل فرما مجھ سے بطفیل اپنی رأفت کے معنی بلا میں پس تو ہی احسان فرمانے والا ہے

إِنْسَانٍ بِالتَّفْضِيلِ بِالْجُودِ وَالْإِحْسَانِ بِتَوَاتُرِ جُودِكَ قَبْلَ الدُّعَاءِ

ہر انسان پر اور فضل فرمانے والا ہے ساتھ جود و احسان کے تسلسل و تواتر کے طلب سے بھی پہلے

أَسْأَلُكَ بِجَمَالٍ وَجُهِكَ أَنْ تَجْعَلَنِي بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ أَنْتَ الَّذِي

میں تیرے جہاں ذات کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنے فضل و کرم سے مشرف فرما، تو ہی ہے جو

تُجَبِّرُ الْكَسِيرَ وَتُنْقِمُ مِنْ كُلِّ كَبِيرٍ وَقُدْرَتُكَ نَافِذَةٌ فِي جَمِيعِ

ٹوٹے ہوئے جوڑتا ہے اور انتقام لیتا ہے ہر متکبر سے۔ اور تیری قدرت موثر ہے تمام

الْجَبَابِرَةِ وَعِزَّتُكَ لِدَفْعِ ضَلَالِ السُّكَاثِرَةِ أَنْتَ رَبُّ الْآخِرَةِ

جباروں میں اور تیری عزت اور غلبہ ہی دور کرنے والا ہے ارباب کثرت کی گمراہی کو، تو ہی رب آخرت

يَا جَبَّارُ وَمُونِسُ الْأَبْرَارِ وَبَارُ الصَّغَارِ وَالْكِبَارِ وَمُصْلِحُ الْأُمُورِ

اے جبار۔ اے ابرار کے مونس اور چھوٹے بڑوں پر احسان والے اور خلالت کی اصلاح

الْخَلَائِقِ وَمُظْهِرُ سِرِّ الْحَقَائِقِ وَسَامِعُ الرِّقَائِقِ وَالذَّقَائِقِ

فرمانے والے اور اسرار حقائق کو ظاہر کرنے والے اور سننے والے زاریوں کے اور آہستہ کلاموں کے

أَسْأَلُكَ يَا جَابِرُ كُلِّ كَسِيرٍ وَنَاصِرُ الْأَوْلِيَاءِ بِدَلَا وَنَزِيرُ سَائِرِ

میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے ہر ٹوٹے کو جوڑنے والے اور مددگار دوستوں کے بغیر وزیر کے اور بلند کرنے والے

كُلِّ صَغِيرٍ وَحَقِيرٍ بِسِرِّ مَا أَوْدَعْتَهُ فِي جَبَلِ رَحْمَتِكَ مِنْ جَلِيلِ

ہر صغیر اور حقیر کے ساتھ اس راز کے جس کو ودیعت فرمایا ہے تو نے اپنے جبل رحمت میں یعنی اپنی جلیل

قُوَّتِكَ وَعَظِيمِ مَغْفِرَتِكَ وَمَوَادِّ مَحَبَّتِكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مُتَوَكِّلًا

تو ت اور عظیم مغفرت اور اپنے مواد محبت کے وسیلہ سے بنا دے مجھے متوکل

عَلَيْكَ فِي جَمِيعِ أُمُورِي نَاطِرًا إِلَيْكَ فِي جَمِيعِ بَوَاطِنِ أَعْمَالِي

اپنی ذات پر میرے تمام امور میں دیکھنے والا طرف تیرے اپنے تمام افعال و اقوال

وَأَقْوَالِي وَاجْعَلْ زِمَامِي بِيَدِكَ وَإِسْلَامِي عَلَيْكَ وَالْجَانِي وَمُعَادِي

کے بواطن میں اور میری لگام کو اپنے ہاتھ میں رکھ اور میری تابعداری کو اپنے لیے اور میری پناہ اور اتجاہ

إِلَيْكَ يَا مَنْ عَزَّ جَنَابُهُ عَنِ الْفَهْمِ وَالْإِدْرَاكِ وَتَعَالَى كِبَرِيَاءُهُ

کو طرف اپنے اے کہ جس کی بارگاہ بالاتر ہے فہم و ادراک سے اور بلند تر ہے کبریائی اس کی

عَلَى الْإِطْلَاقِ وَالْإِمْسَاكِ أَسْأَلُكَ بِزَوَائِدِ فَضْلِكَ وَفَوَائِدِ تَوَاتُرِ

آزادی اور بندش ہے۔ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بطفیل تیرے فضل کے اثرات اور مسلسل نعمتوں

نِعْمَتِكَ أَنْ تَرْتُقِنِي سَعَادَةً كُلِّ سَعِيدٍ فِي دَارِ السُّرُورِ وَجَنِّبْنِي

کے فوائد کے کہ مجھے نصیب فرمائے ہر سعادت مند کی سعادت دار السرور میں۔ اور مجھے دور رکھے

شَقَاوَةً كُلِّ شَقِيٍّ فِي دَارِ الْغُرُورِ وَخَصِّصْنِي بِشَهَادَةِ الشُّهَدَاءِ

ہر شقی کی شقاوت سے دار الغرور (دنیا) میں۔ اور مجھے مخصوص ٹھہرائے شہداء کی شہادت کے ساتھ

وَكُلِّ شَهِيدٍ عِنْدَ انِّبِطَاطِ انْوَارِكَ يَوْمَ الوَعِيدِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُتَكَبِّرُ

اور ہر شہید کی شہادت کے ساتھ وقت پھیلنے تیرے انوار کے وعید کے دن میں۔ اے اللہ تو ہی مالک ہے کبریا

الْكَبِيرُ الْمُحِيطُ عِلْمُكَ وَقَدْ أُوجِدْتَ الْأَشْيَاءَ وَاخْتَرَعْتَ

کا اور کبیر ہے جس کا علم محیط ہے اور تو نے ہی ایجاد فرمایا اشیاء کو اور اختراع کیا ان کی

صُورَهَا بَعْدَ بَسْطِ الْأَسْمَاءِ وَأَنْتَ الْجَامِعُ لِحَقَائِقِهَا فِي ظَاهِرِ

صور کو اسماء کے بسط کے بعد اور تو ہی جمع کرنے والا ہے ان کے حقائق کو ارض و سما

الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ نِعْمَتِكَ وَلَطَائِفَ كَرَمِكَ

کے ظاہر میں۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری نعمتوں کا اور کرم کے لطائف کا

وَأَسْرَارَ حَقَائِقِكَ بِوَاسِطَةِ جَرِيَانِ قَلْبِكَ أَنْتَ الْكَبِيرُ عَلَى

اور تیرے حقائق کے اسرار کا بواسطہ جاری ہونے تیرے قلم کے۔ تو ہی کبیر ہے

الْإِطْلَاقِ وَالْمَوْصُوفِ بِجَلَالِ الْأَخْلَاقِ وَالْمُنْعِمِ بِالْعَطَايَا

علی الاطلاق اور اخلاق جلالیہ کے ساتھ موصوف ہے اور سرمدی عطیات کا انعام

السُّرْمَدِيَّةِ اللَّهُمَّ أَرِيدُ أَنْ لَا يَصِلَ إِلَيَّ ظَالِمٌ بِسُوءٍ وَلَا

فرمانے والا ہے۔ اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ کسی ظالم کو مجھ تک برائی کے ساتھ رسائی نہ ہو اور نہ

يَسْطُوا عَلَيَّ مُتَكَبِّرِينَ بِجُورٍ وَأَجْعَلُ غَضَبِي لَكَ وَفِيكَ مَقْرُونًا

حملہ آور ہو مجھ پر کوئی متکبر ساتھ ظلم کے اور بنا میرے غضب کو صرف اپنی خاطر جو مقرون ہو

بِفَضْلِكَ لِنَفْسِكَ وَأَطْرَسُ عَلَى وَجُوهُ أَعْدَائِي وَأَشَدُّ عَلَى

تیرے فضل کے ساتھ تیری ذات کی خاطر اور مسخ فرما میرے اعداء کے چہروں کو اور سختی فرما ان کے

قُلُوبِهِمْ وَأَضْرِبْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ بِسُورِهَا لَهُ بَابٌ بَاطِنَةٌ فِيهِ

دلوں پر اور میرے اور ان کے درمیان ایسی دیوار قائم فرما جس میں دروازہ ہو جس کے اندرونی حصے میں

الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ إِنَّكَ شَدِيدُ الْبُطْحِشِ أَلِيمٌ

رحمت ہو اور بیرونی جانب میں عذاب ہو۔ بیشک تو سخت گرفت والا ہے اور المانک

الْعَذَابِ يَا سَمِيعُ أَنْتَ الَّذِي تَسْمَعُ السِّرَّ وَالتَّجْوِي وَأَنْتَ الَّذِي

عذاب والا ہے۔ اے سمیع تو ہی ہے جو سنتا ہے رازوں اور سرگوشیوں کو۔ اور تو ہی

تَعْلَمُ الْحُكْمَ وَالتَّقْوَى وَأَنْتَ الَّذِي تُظْهِرُ فِي قُلُوبِ أَحِبَّابِكَ

جانتا ہے حکم اور تقویٰ کو۔ اور تو ہی ہے جو ظاہر فرماتا ہے اپنے احباب کے دلوں میں

سِرَّ التَّجَلِّي وَأَنْتَ الَّذِي تَعْلَمُ مَا هُوَ أَدْقُّ وَأَخْفَى وَتَرَى بَعْيُنِكَ

اپنی تجلی کے راز کو۔ اور تو ہی جانتا ہے باریک ترین اور مخفی ترین امور کو۔ اور دیکھتا ہے ساتھ اس آنکھ

الَّتِي لَا تَنَامُ وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ دَرِيْبُ النَّمْلَةِ السُّودَاءِ عَلَى صَخْرَةٍ

کے جو نہیں سوتی اور نہیں مخفی تجھ پر سیاہ چوہنی کا رنگنا سخت پتھر پر

الصَّبَاءِ فِي لَيْلَةِ الظُّلُمَاءِ تَحْتَ طَبَقَاتِ الغُبْرَاءِ أَسْأَلُكَ

تاریک رات میں زمین کے طبقات کے نیچے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

بِطَائِفِ مَا أَدْرَجْتَ فِي السَّمْعِ وَالبَصْرِ وَدَقَائِقِ مَا كَتَمْتَ

بطیفیل ان لطائف کے جنہیں تو نے درجیت فرمایا ہے سمع و بصر میں اور بطیفیل ان دقائق کے

فِي البَصْرِ لِيَقَعَ مَوْقِعَ السَّمْعِ وَبِسَوَابِقِ مَا أَخْفَيْتَ فِي السَّمْعِ

جنہیں چھپایا ہے تاکہ سمع کی جگہ کام دے سکے بوسیدہ ان سابقہ عطیات جن کو چھپایا ہے سمع میں

لِيَقُومَ مَقَامَ البَصْرِ أَنْ تَرُنُقِنِي الأَسْرَارَ المُنْدَرِجَةَ فِي إِحَاطَةِ

تاکہ بصر کے قائم مقام ہو سکے کہ مجھے عطا فرمائے وہ اسرار جو درج ہیں احاطہ بصر میں

الْبَصْرُ وَمُشَاهَدَةُ الْأَنْوَارِ الْمُقَرَّرَةِ عِنْدَ اِحْتِوََاءِ الْبَصْرِ بِالسَّمْعِ

اور مشاہدہ عطا کرے ان انور کا جو مقرر و ثابت ہیں وقت احاطہ کرنے بصر کے سمع کا اور

وَأَرْقَنِي بِنُورِ انِّيَّتِكَ وَضَوْحِ سِرِّ امَانِيَّتِكَ وَدَوَامِ الْمُرَاقِبَةِ لِيَا

مجھے نصیب فرما بطفیل اپنی نورانیت کے وضاحت سرمانت کی اور دائمی مراقبہ ان امور کا جن کا

تُرِيدُ عَلَيَّ قُدْسِكَ الْأَعْلَى وَرَادُ رَاكِبِكَ الْمَحِيْطِ بِجَوَامِعِ الْأَسْمَاءِ وَ

تو ارادہ رکھتا ہے اپنے اعلیٰ مقدس مقام میں اور اپنے علم میں جو محیط ہے اسماء جامعہ کو اور

أَيِّدُنِي عَلَيَّ فَهَمُّ مَطَالِبَةِ النَّفْسِ بِدَفِيقِ الْمَحَاسِبَةِ إِنَّكَ جَامِعٌ

میری اعانت فرما نفس کے مطالبہ کو سمجھنے میں ساتھ گھرے محاسبہ کے۔ بیشک تو ہر خیر کا جامع

كُلِّ خَيْرٍ وَدَافِعُ كُلِّ ضَيْرٍ يَا مُجِيبُ أَنْتَ الَّذِي تُجِيبُ دَعْوَةَ

ہے اور ہر ضرر کو دور کرنے والا ہے۔ اے قبول کرنے والے تو ہی قبول فرماتا ہے

الْمُضْطَرِّينَ وَأَنْتَ الَّذِي تُغِيْثُ الْمَلْهُوفِينَ وَأَنْتَ الَّذِي تُبَدِّلُ

بے بسوں کی دعائیں اور تو ہی امداد فرماتا ہے پریشان حالوں کی۔ اور تو ہی ذلیل فرماتا ہے

الْمُنْحَرِفِينَ عَنِ الْهُدَايَةِ وَأَنْتَ الَّذِي تُنْعِمُ بِجَلَائِلِ النِّعَمِ قَبْلَ

ہدایت سے منہ موڑنے والوں کو۔ اور تو ہی انعام فرماتا ہے بزرگتر نعمتوں کے ساتھ فناء سے پہلے

الْفَنَاءِ وَتَتَفَضَّلُ دَرَجَتِي فِي الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَابْسُطْ قَلْبِي فِي أَرْضِ

ازرہ فضل عطا فرما درجہ مقام محمود میں اور وسعت دے میرے دل کو ولایت کبریٰ کی

الْوِلَايَةِ الْكُبْرَى وَانْشُرْ سِرِّي لِنَيْلِ حَقَائِقِ أَثَارِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَاجْعَلْنِي

زمین میں اور پھیلا میرے باطن کو اسماء حسنیٰ کے حقائق و آثار حاصل کرنے کیلئے اور بنا مجھے

مَبْسُوطًا بِالْإِنْفَاقِ مُتَصَرِّفًا فِي خَزَائِنِ الْأَرْزَاقِ يَا مَنْ بِيَدِهِ الْحُكْمُ

کشادہ دست خرچ کرنے میں، متصرف ارزاق کے خزانوں میں اے کہ اسی کے ہاتھ میں ہے علم

عَلَى الْإِطْلَاقِ وَعِنْدَهُ الْخَلَائِقُ يَا خَافِضُ أَنْتَ الَّذِي خَفَضْتَ

مطلقاً اور اسی کے قبضہ میں ہے تمام مخلوقات۔ اے پست کرنے والے تو ہی ہے پست کیا ہے

أَهْلِ الْجُحُودِ فِي الدَّرَكَاتِ وَأَنْتَ الَّذِي تَقْبَعُهُمْ بِقَهْرِكَ وَصِفَاتِكَ

منکرین کے زنجوں کو درکات جہنم میں اور تو ہی انہیں باز رکھتا ہے اپنے قہر اور اعلیٰ صفات کے

الْمِثْلَاتِ وَأَنْتَ الَّذِي تَعَزِّرُ عَلَيْهِمْ لِمَا أَوْجَدْتَهُمْ بِهِ عِنْدَ انْقِسَامِ

ساتھ اور تو ہی ان پر غلبہ پاتا ہے بسبب ان کو ایجاد کرنے کے ساتھ قہر و غلبہ کے وقت

الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ أَسْأَلُكَ بِسِرِّ الْأَسْرَارِ فِي قُلُوبِ الْأَبْرَارِ وَ

تقسیم ہونے حسنت اور سیئات کے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بطنیں سرالاسرار کے جو ابرار

الْأَخْيَارِ وَبَنُو الْأَنْوَارِ الْمُنْبَسِطِ فِي الْأَقْطَارِ أَنْ تَجْعَلَنِي حَافِظًا

اور نیچو کاروں کے دلوں میں سے اور بطنیں نور الانوار کے جو پھیلا ہے تمام اطراف جہان میں کہ مجھے اپنے نفس

لِنَفْسِي وَسِرِّي فِي مَقَامِ الْعِبُودِيَّةِ مُتَخَشِّعًا لَكَ عِنْدَ ظُهُورِ

کا محافظ بنا اور اپنے سر و باطن کا مقام عبودیت میں خشوع کرنے والا تیری ذات کیلئے وقت ظاہر ہونے

النَّزَلَاتِ بِسِرِّ الرَّبُوبِيَّةِ وَالْخَطَابِيَّةِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَأَرْزُقْنِي حَطًّا

ممانیوں کے ساتھ سر ربوبیت اور انسان مخاطبت کے اور مجھے نصیب فرما

وَأَفِرًّا مِنَ الْمَعَارِفِ الْإِلَهِيَّةِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَذَلُّ الْمَجْبَارِينَ

وافر حصہ معارف الہیہ سے۔ اے اللہ تو ہی ذلیل کرنے والا ہے جباروں کو

وَشَدِيدُ الْبَطْشِ وَالْيَمُّ الْآخِذُ وَعَظِيمُ الْقَهْرِ الْمَتَعَالِ عَلَى جَمِيهِ

سخت مواخذہ والا۔ اور دردناک گرفت والا، عظیم قہر والا اور بالاتر سے تمام

الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ وَالْمُنْتَهَى عَنِ الصَّعَابَةِ وَالْأَوْلَادِ شَانِكَ قَهْرُ

اصداد اور مخالفوں سے اور پاک ہے اصحاب اور اولاد سے، تیری شان اعداء کو

الْأَعْدَاءِ وَقَبْعُ الْجَبَّارِينَ تَمْكُرُ بِمَنْ تَشَاءُ وَأَنْتَ خَيْرُ الْهَآكِرِينَ أَسْأَلُكَ

مغلوب کرنا ہے۔ اور جباروں کو روکنا، تو جس کے خلاف چاہے خفیہ تدبیر کرے اور تو بہترین خفیہ تدبیر والہے میں تجھ سے

يَسْأَلُكَ الَّذِي خَضَعَتْ لَهُ النَّوَاصِي وَأَنْزَلْتَ بِهِ مِنَ الصِّيَاصِي وَ

سوال کرتا ہوں تیرے اس اسم کے طفیل جس کی پیشانیوں خم ہو گئیں اور اتار تو نے بسبب اس کے اعداء کو قلعوں سے اور

سوال کرتا ہوں تیرے اس اسم کے طفیل جس کی پیشانیوں خم ہو گئیں اور اتار تو نے بسبب اس کے اعداء کو قلعوں سے اور

قَذَفَتْ بِهِ الرَّعْبَ فِي قُلُوبِ الْأَعْدَاءِ وَأَشَقَيْتَ أَهْلَ الشَّقَاءِ

ڈالا اس کے ساتھ قلوب اعداء میں رعب اور بدبخت بنایا اہل شقاوت کو

أَسْأَلُكَ أَنْ تُدِدَنِي بِرَفِيقَةٍ مِنْ رَفَائِقِ هَذَا الْإِسْمِ وَأَنْ تُسْرِي

میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری امداد فرمائے اس اسم کے منافع میں سے ایک منفعت کے ساتھ اور اسے جاری

فِي أَعْضَائِي الْكَلْبِيَّةِ وَالْجُرَيْيَةِ حَتَّى أَتَمَكَّنَ كَيْفَ مَا أُرِيدُ بِمَنْ

کرے میرے تمام اعضاء کلبیہ اور جزئیہ میں حتیٰ کہ قادر ہو جاؤں جس طرح چاہوں (سلوک کرنا) اپنے

أَمَلٍ أَمَلًا إِلَى وَأَطَاعَ وَمَنْ سَكَنَ فِي مِصْرِ الْعَالِيَةِ أَوْ فِي قَرِيْبَةٍ

ساتھ امیدیں وابستہ کرنے والوں اور اطاعت گزاروں کے ساتھ اور بلند مرتبت مصر میں یا عبودیت کی بستی

الْعُبُودِيَّةِ اللَّهُمَّ بِسُطُوْرَةٍ جَبْرُوتٍ قَهْرِكَ وَبِسُرْعَةٍ إِعْثَابَةٍ

میں سکونت پذیروں کے ساتھ۔ اے اللہ بظہیر اپنے جبر و قہر کے غلبہ کے اور فوری فریاد رس

نَصْرِكَ وَبِغَيْرَتِكَ لِإِنْتِهَاكِ حُرْمَاتِكَ وَبِحِمَايَتِكَ لِمَنْ أَحْتَجِي

نصرت کے اور ہنگ حرمت پر اپنی غیرت کے اور اپنی آیات کے ساتھ حمایت حاصل کرنے والوں کی حمایت

بِآيَاتِكَ نَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا سَمِيعٌ يَا قَرِيبٌ يَا مُجِيبٌ يَا سَرِيعٌ يَا

کے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ۔ یا سمیع۔ یا قریب۔ یا مجیب۔ یا سریع۔ یا

مُنْتَقِمٌ يَا شَدِيدُ الْبَطْشِ يَا جَبَّارٌ يَا قَهَّارٌ يَا مَنْ لَا يَعْجُزُهُ قَهْرُ الْجَبَّارَةِ

منتقم۔ اے شدید گرفت والے۔ اے جبار۔ اے قہار۔ اے جس کو جباروں کا غلبہ عاجز نہیں کرتا

وَلَا يَعْظُمُ عَلَيْهِ هَلَاكُ الْمُتَبَرِّدَةِ مِنَ الْمُلُوكِ وَالْأَكَاْسِرَةِ أَنْ تَجْعَلَ

اور نہیں گراں گزرتی اس پر سرکشی ملوک اور اکاسرہ کی ہلاکت کہ بناوے میرے ساتھ

كَيْدٍ مَنْ كَادَنِي فِي نَحْرِهِ وَمَكْرٍ مَنْ مَكَّرَنِي عَائِدًا عَلَيْهِ وَحُفْرَةٍ مَنْ

مکر کرنے والے کا مکر اسی کے سینہ میں۔ اور میرے ساتھ مکر کرنے والے کے مکر کو اسی پر لوٹنے والا۔ اور میرے لیے گڑھے

حَفْرَتِي وَاقْعًا فِيهَا وَمَنْ نَصَّبَ لِي شِبْكَةَ الْخَدَائِعِ اجْعَلْ فِيهَا

کھودنے والے کو اپنے گڑھے میں گرنے والا۔ اور جس نے میرے لیے دھوکا بازی کا جال نصب کیا اسے اسی میں پھینکا

خَمَسَتْ حَيَاتِنَا مَبَانِخَافُ اللَّهِ اعْطِنَا أَمَلَ الرَّجَاءِ وَ

خمس ہماری ہمایت ہے ہر اس شئی سے جس کا ہمیں خوف ہے۔ اے اللہ ہمیں عطا فرما ہماری امید اور جا اور

فَوْقَ الْأَمَلِ وَالْعَطَاءِ وَفَوْقَ الْعَطَاءِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ صَاحِبُ

امید سے زائد۔ عطا فرما اور اس عطا سے زائد، نہیں معبود برحق مگر تو صاحب عطا

الْعَطِيَّةِ الْإِلَهِيِّ حَقَّقْ بَاطِنِي بِسِرِّ هُوِيَّتِكَ وَافِنِ مِنِّي أَنَا نَبِيَّتِي

اے میرے الہ میرے باطن کو پائیدار بنا اپنے سر ہویت کے ساتھ اور فنا فرما مجھ سے میری انانیت

إِلَى أَنْ أَصِلَ إِلَى هُوِيَّةِ ذَاتِكَ الْعَلِيَّةِ يَا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

حتی کہ میں واصل ہو جاؤں تیری ذات عالی کی ہویت تک اے کہ جس کی مانند کوئی شئی نہیں ہے

أَفْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ غَيْرِ ذَاتِكَ وَخَفِّفْ عَنِّي ثِقَلَ كَثَائِفِ

مجھے فانی کر دے اپنی ذات کے علاوہ ہر شئی سے۔ اور ہلکا کر دے مجھ سے موجودات کی کثافتوں کا

الْمَوْجُودَاتِ وَأَمِّهِ مِنِّي نَقْطَةَ الْغَيْرِيَّةِ لِأَشَاهِدَكَ وَلَا أَمْرِي

بوجہ اور مجھ سے محو کر دے غیریت والا نقطہ تاکہ میں تجھے دیکھوں اور غیر کو نہ دیکھ سکوں

غَيْرِكَ يَا هُوِيًّا هُوِيًّا هُوًّا لَا سِوَاكَ مَوْجُودًا لَا سِوَاكَ مَعْبُودًا لَا سِوَاكَ

یا ہو۔ یا ہو۔ نہ تیرا غیر موجود ہے۔ نہ تیرا غیر لائق عبادت ہے۔ نہ تیرا غیر مقصود

مَقْصُودًا يَا وَاحِدًا الْوَجُودِ وَيَا وَاحِبًا الْوَجُودِ يَا مَنْ بِفَضْلِهِ

ہے۔ اے وجود کو موجود کرنے والے۔ اے بقا مانے ذات موجود ہونے والے۔ اے کہ جس کے فضل سے

لِفَضْلِهِ نَسَأَلُكَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْإِلَهِيِّ الْإِجَابَةِ الْإِجَابَةِ يَا

ہی اس کے فضل کے ہم سائل ہیں جلد از جلد۔ اے میرے خدا قبول فرما قبول فرما اے کہ

مَنْ أَجَابَ نُوحًا فِي قَوْمِهِ وَيَا مَنْ نَصَرَ إِبْرَاهِيمَ عَلَى أَعْدَائِهِ وَ

جس نے دعائے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں قبول کیا۔ اے کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو اعداء پر مدد دی

يَا مَنْ رَدَّ يُوسُفَ عَلَى يَعْقُوبَ وَيَا مَنْ كَشَفَ ضُرَّ أَيُّوبَ

اے کہ جس نے یوسف کو یعقوب علیہما السلام پر لوٹایا۔ اے کہ جس نے ایوب علیہ السلام کی تکلیف دور کی

يَا مَنْ اجَابَ دَعْوَةَ زَكْرِيَّا وَيَا مَنْ قَبِلَ تَسْبِيحَ يُونُسَ بْنِ مَتَّى

اے کہ جس نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ اے کہ جس نے یونس بن متی علیہ السلام کی تسبیح قبول کی

نَسَأْتُكَ بِأَسْرَابِ هَذِهِ الدَّعَوَاتِ أَنْ تَتَقَبَّلَ مَا بِهِ دَعْوَتُكَ

جب بھی ہم تجھ سے سوال کریں ان دعوات کے اسرار کے طفیل قبول فرما جو میں تجھ سے دعا کروں۔

وَأَنْ تُعْطِيَنَا مَا سَأَلْنَاكَ أَنْجِزْ لَنَا وَعْدَكَ الَّذِي وَعَدْتَهُ لِعِبَادِكَ

اور عطا فرما جو ہم تجھ سے سوال کریں، پورا فرما ہمارے لیے اپنا وعدہ جو تو نے اپنے

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ

اہل ایمان بندوں جنوں اور انسانوں مردوں اور عورتوں سے کیا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ

تُنْجِزْ لَنَا وَقَدْ انْقَطَعَتْ أَمَالُنَا وَعِزَّتِكَ الْإِيمَانُ وَخَابَ رَجَائُنَا وَ

پورا فرما ہمارے لیے جبکہ منقطع ہو چکی ہیں ہماری امیدیں مگر صرف تجھ سے تیری عزت کی قسم اور ناکام رہی ہماری امید

حَقِّكَ الْإِدْفِيكَ إِنْ أَبْطَأَتْ غَارَةٌ الْأَرْحَامِ وَابْتَعَدَتْ فَأَقْرَبُ الشَّيْءِ

تیرے حق کی قسم مگر تجھ میں۔ اگر موخر ہوئی ارحام کی امداد اور بعید ہو گئی تو قریب ترین شئی

مِنَّا غَارَةٌ اللَّهُ يَا غَارَةَ اللَّهِ جَدِّي السَّيْرُ مُسْرَعَةً فِي حِلِّ عُقْدَتِنَا

ہم سے اللہ تعالیٰ کی امداد ہے۔ اے امداد خداوند تعالیٰ اپنی رفتار میں کوشش کر جلدی کرتے ہوئے ہمارے عقد سے حل

يَا غَارَةَ اللَّهِ تَعَدَّى الْعَادُونَ وَجَارُوا وَرَجَوْنَا اللَّهُ مُجِيرًا وَكَفَى

کرنے میں۔ اے امداد باری تعالیٰ تجاوز کیا دشمنوں نے اور جوڑے سے کام لیا اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ کی امید رکھی کافی ہے

بِاللَّهِ وَوَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

اللہ تعالیٰ مددگار ہونے کی حیثیت سے اور کافی ہے ناصر ہونے کی حیثیت سے۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے

لَطَائِفَ بَرَكَ وَتَوَاتُرَ احْسَانِكَ لِتُكْمِلَ بِهَا نَفْسِي فِي الْأَفْعَالِ

تیرے احسان کے لطائف اور تواتر کا تاکہ میری ذات کو کامل کرے افعال میں اور

وَتُكْمِلَ بِهَا لِسَانِي فِي الْأَقْوَالِ اسْتَجِبْ لَنَا أَمِينَ اللَّهُمَّ

میری زبان کو کامل کرے میرے اقوال میں۔ قبول فرما ہماری دعا، آمین۔ اے اللہ

إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنَا أَشْقِيَاءَ فَاْمُحْهُ وَ اَكْتُبْنَا سَعْدَاءَ وَإِنْ كُنْتَ

اگر تو نے ہمیں شقی لکھا ہے تو اسے محو فرما اور ہمیں سعادت مند لکھ اور اگر تو نے

كَتَبْتَنَا سَعْدَاءَ فَانْتَبِثْنَا فَإِنَّكَ تَبْحُومًا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ وَعِنْدَكَ

ہمیں سعادت مند لکھا ہے تو اس پر ثابیت قدم رکھ کیونکہ تو جو چاہے محو فرماتا ہے اور جو چاہے ثابت رکھتا

أَمُّ الْكِتَابِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَ عَلَيَّ شَقْوَةً أَوْ ذَنْبًا فَاْمُحْهُ

ہے اور تیرے پاس ہی لوح محفوظ ہے۔ اے اللہ اگر تو نے مجھ پر بد بختی لکھی ہے یا گناہ تو اسے مٹا دے

فَإِنَّكَ تَبْحُومًا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ وَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ وَاجْعَلْهُ

کیونکہ تو مٹاتا ہے جو چاہے اور ثابت رکھتا ہے اور تیرے پاس ہی لوح محفوظ ہے اور اس تفاوت

سَعَادَةً وَمَغْفِرَةً اللَّهُمَّ يَا ذَا الْبِئْسِ وَلَا يَمُنُّ عَلَيْهِ إِذَا الْجَلَالُ

و گناہ کو سعادت و مغفرت بنا دے۔ اے اللہ، اے احسان والے، اے کہ جس پر احسان نہیں کیا جاسکتا۔ اے جلال

وَالْاِكْرَامُ يَا ذَا الطُّوْلِ وَالْاِنْعَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهِيرُ الدَّاجِرِينَ

و اکرام والے۔ اے وسعت و اکرام والے۔ نہیں معبود برحق مگر تو، مددگار پناہ پکڑنے والوں کا۔

وَجَارُ الْمُسْتَجِيرِينَ وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي

اور پناہ حاصل کرنے والوں کا اور امان خوفزدگان کی۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے اپنے ہاں

عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مُحْرَمًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقْتَرًا

ام کتاب میں شقی یا محروم یا مردود یا تنگ روزی والا لکھا

عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ فَاْمُحْهُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاؤِي وَحَرْمَانِي

ہے تو اس کو محو فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے میری بد بختی اور

وَطُرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي أَمْحُهَا وَانْتَبِثْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ

محرومی۔ دور انگندگی اور رزق کی تنگی کو مٹا اور مجھے اپنے ہاں ام کتاب میں

سَعِيدًا مَرْضُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلِكَ الْحَقُّ

نیک بخت، کشادہ روزی والا اور خیرات کا توفیق یافتہ لکھ کیونکہ تو نے فرمایا اور تیرا قول برحق ہے

فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ يَمْحُوا اللَّهُ مَا

اپنی کتاب میں جو نازل شدہ ہے تیرے نبی مرسل کی زبان پر " مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ

يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ إِلَهِي بِالتَّجَلِّيِ الْأَعْظَمِ

جسے چاہے اور ثابث رکھتا ہے اور اس کے پاس ہے ام الکتاب۔ اے میرے الہ بظہیر تجلی اعظم

فِي لَيْلَةِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ

شعبان مکرم کی پندرھویں رات والی کے جس کے اندر ہر حکمت والے امر کو تقسیم کیا جاتا ہے (کارکنان

حَكِيمٍ وَيُرْمَرُ أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا

تفصا و قدر میں اور حتمی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ دور فرمادے ہم سے ان بلیات کو جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے اور

أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا

جس کو تو زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی بہت عزت و اکرام والا ہے۔ اور درود بھیجے اللہ تعالیٰ سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أُنِّي بِالْجَهَالَةِ

محمد پر اور آپ کی آل و اصحاب پر اور سلام بھیجے۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں جہالت کے ساتھ

مَعْرُوفٌ وَأَنْتَ بِالْعِلْمِ مَوْصُوفٌ وَقَدْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ مِّنْ

معروف ہوں اور تو علم کے ساتھ موصوف ہے اور تو نے احاطہ کر رکھا ہے ہر شئی کا

جَهَالَتِي بِعِلْمِكَ فَسَعُ ذَلِكَ بِرَحْمَتِكَ كَمَا وَسِعَتْهُ بِعِلْمِكَ

میری جہولت میں سے اپنے علم کے ساتھ پس اس کا احاطہ فرما ساتھ رحمت کے جیسے علم کے ساتھ احاطہ

وَاعْفِرْ لِي إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا اللَّهُ يَا مَالِكُ يَا وَهَّابُ

فرمایا ہے اور میرے لیے مغفرت فرما بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ۔ یا مالک۔ یا وہاب

هَبْ لَنَا مِنْ نِعْمَائِكَ مَا عَلِمْتَ فِيهِ رِضَاكَ وَاكْسِنَا كِسْوَةً

ہمیں عطا فرما اپنی نعمتوں سے جن میں تیری رضا ہو۔ اور ہمیں پہنا وہ پوشاک کہ بچائے

تَقِينًا بِهَا مِنَ الْفِتَنِ فِي جَمِيعِ عَطَايَاكَ وَقَدْ سَأَلْنَا عَنْ كُلِّ

ہمیں اس کے ذریعے فتنوں سے اپنی تمام عطاؤں میں اور پاک فرما بسبب اس کے ہر

وَصِفِ يُوجِبُ نَقْصًا مِمَّا اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِكَ عَسَىٰ سَوَاءٌ

موجب نقص وصف سے جس کے علم کے ساتھ تو ہی ممتاز ہے اپنے ماسوا سے

يَا اللَّهُ يَا عَظِيمُ يَا عَلِيُّ يَا كَبِيرُ نَسْأَلُكَ الْفَقْرَ مِمَّا سَوَاءٌ وَالْغِنَىٰ

یا اللہ - یا عظیم - یا علی - یا کبیر ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ماسوا سے فقر کا اور تیری بدولت غنا کا

بِكَ حَتَّىٰ لَا نَشْهَدَ إِلَّا بِكَ وَالطُّفُ بِنَا فِيهَا لَطْفًا حَتَّىٰ عَلِمْتَهُ وَ

حتیٰ کہ ہم نہ مشاہدہ کریں مگر صرف تیرا اور لطف و کرم فرما ہم پر فقر و غنا میں تیری غایت علم تک کا لطف

أَصْلِحْ لِمَنْ وَالَكَ وَكُنَّا جَلَابِيبَ الْعَصْمَةِ فِي الْأَنْفَاسِ وَ

اور اصلاح فرما اپنے محبت والوں کی اور ہمیں پھنا عصمت والی کھلی چادریں ہر دم اور ہر

اللَّحْظَاتِ وَاجْعَلْنَا عِبِيدًا لَكَ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ وَعَلِّمْنَا

لحظہ میں - اور ہمیں اپنا بندہ بنا تمام احوال میں - اور ہمیں سکھلا

مِنْ لَدُنْكَ عِلْمًا نَصِيرًا بِهِ كَامِلِينَ فِي الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ

اپنے پاس سے علم جس کی بدولت ہم ہو جائیں کامل زندگی اور موت میں - اے اللہ

أَنْتَ الْحَمِيدُ الرَّبُّ الْمَجِيدُ فَعَالَ لِمَا تُرِيدُ تَعْلَمُ فَرَحَنَا بِمَاذَا

تو ہی لائق حمد، پروردگار، بزرگ ہے کرتا ہے جو ارادہ کرے - تو جانتا ہے ہماری فرحت کس چیز سے ہے

وَلِمَاذَا وَعَلَىٰ مَاذَا وَتَعْلَمُ حُزُنَنَا كَذَاكَ وَقَدْ أَوْجَبْتَ كَوْنُ

اور کس لیے ہے اور کس بنا پر ہے - اور ایسے ہی ہمارے اندر وہ غم کو بھی جانتا ہے اور تو نے ہی اسے لازم کیا

مَا أَرَادْتَهُ فِينَا وَمِمَّا وَلَا نَسْأَلُكَ دَفْعَ مَا تُرِيدُ وَلَكِنْ

پیدا فرما جس کا تو نے ہم میں اور ہم سے ارادہ کیا اور ہم نہیں سوال کرتے تیرے ارادہ کے روکنے کا لیکن

نَسْأَلُكَ التَّائِيدَ بِرُوحٍ مِّنْ عِنْدِكَ فِيمَا تُرِيدُ كَمَا أَيَّدْتَ أَنْبِيَاءَكَ

ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے تقویت دینے کا ساتھ اپنی مخصوص روح کے اس میں جس کا ارادہ فرمائے جیسے کہ تو نے

وَرَسَلْتَ وَخَاصَّةً الصِّدِّيقِينَ مِنْ خَلْقِكَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

تقویت دی اپنے انبیاء و رسل کو اور اپنی مخلوق میں سے صدیقین کو بے شک تو ہر شئی پر قادر ہے

قَدِيرُ اللّٰهِمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

ہے۔ اے اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے، جاننے والے غیب و شہادت کے

اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فَهِنِيئًا لِّمَنْ عَرَفَكَ وَرَضِيَ بِقَضَائِكَ

تو ہی حکم و فیصلہ فرماتا ہے اپنے بندوں کے درمیان۔ مبارکبادی ہے اس کیلئے جس نے تجھے پہچانا اور راضی

وَالْوَيْلُ لِمَنْ لَّمْ يَعْرِفْكَ بَلِ الْوَيْلُ ثُمَّ الْوَيْلُ لِمَنْ اَقْرَّ

ہوا تیری قضا پر۔ اور ہلاکت ہے اس کیلئے جس نے تجھے نہ پہچانا بلکہ ہلاکت ہے پھر ہلاکت ہے اس کے لیے جس نے

بِوَحْدَانِيَّتِكَ وَلَمْ يَرْضَ بِاِحْكَامِكَ اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ قَدْ

تیری وحدانیت کا اقرار کیا اور تیرے احکام پر راضی نہ ہوا۔ اے اللہ بے شک ایک قوم کو تو نے

حَكَمْتَ عَلَيْهِمُ بِالذَّلٰلِ حَتّٰى عَزُّوْا وَحَكَمْتَ عَلَيْهِمُ بِالْفَقْدِ

حکم فرمایا خاکساری کا یہاں تک کہ انہوں نے عزت پائی اور حکم فرمایا ان پر قلت و کمی کے ساتھ

حَتّٰى وَجَدُوْا فِى كُلِّ عَزِيْزٍ مِّنْكَ دُوْنَكَ فَسُئِلَكَ بِدَالِهِ ذَلًّا تَصْحَبُهُ

یہاں تک کہ انہوں نے مال پا لیا۔ پس ہر عزت جو رو کے تجھ سے تو ہم اس کے عوض خاکساری طلب کرتے

لَطَائِفُ رَحْمَتِكَ وَكُلُّ وَجْدٍ يُّحْبِبُ عَنْكَ فَسُئِلَكَ عَوَضَهُ

جس کے مصاحب ہوں تیرے لطائف رحمت اور ہر وسعت جو رو کے تجھ سے ہم سوال کرتے ہیں اس کے عوض

فَقَدْ اَتَتْصَحْبُهُ اَنْوَارُ مَحَبَّتِكَ فَاِنَّهٗ قَدْ ظَهَرَتْ الشَّقَاوَةُ عَلٰى

قلت و تنگدستی کا جس کے ساتھ تیرے انوار محبت ہوں۔ پس تحقیق ظاہر ہوئی شقاوت اس پر

مَنْ غَيْرِكَ مَلَكَةٌ فَهَبْ لَنَا مِنْ مَّوَاهِبِ السُّعَدَاءِ وَاَعْصِبْنَا مِنْ

جس کا مالک ہو تیرا غیر۔ پس ہمیں عطا فرما نیک بختوں کے مواہب سے اور محفوظ فرما ہمیں

مَوَارِدِ الْاَشْقِيَاءِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا قَدْ عَجَزْنَا عَنْ دَفْعِ الضَّرِّ عَنْ

بد بختوں کے مقامات سے۔ اے اللہ ہم عاجز آچکے ہیں اپنے نفسوں سے ہرز دور

اَنْفُسِنَا مِنْ حَيْثُ نَعْلَمُ بِهَا لَا نَعْلَمُ فَكَيْفَ لَا نَعْجُزُ عَنْ ذٰلِكَ

کرنے سے جہاں سے جانتے ہیں بسبب اس کے جو نہیں جانتے تو کیسے عاجز نہیں ہونگے اس سے

مِنْ حَيْثُ لَا نَعْلَمُ بِهَا لَا نَعْلَمُ وَقَدْ أَمَرْتَنَا وَنَهَيْتَنَا

جہاں کہ نہیں جانتے اور تو نے ہمیں امر فرمایا اور نہی فرمائی اور

الْمُدْحَ وَالذَّمَّ الزُّمْتَنَا فَأَخُو الصَّلَاحِ مَنْ أَصْدَحْتَهُ وَأَخُو

مدح و خدمت کو ہمارے ساتھ لازم فرمایا بہتری والا وہی ہے جس کی تو اصلاح فرمائے اور

الْفُسَادِ مَنْ أَضَلَّتَهُ وَالسَّعِيدُ حَقًّا مَنْ أَغْنَيْتَهُ عَنِ السُّؤَالِ

فساد والا وہ ہے جس کو تو گمراہ کرے اور کما حقہ نیک بخت وہ ہے جس کو تو سوال سے بے نیاز کرے

مِنْكَ وَالشَّقِيُّ حَقًّا مَنْ أَحْرَمْتَهُ مَعَ كَثْرَةِ السُّؤَالِ لَكَ

اور کما حقہ بد بخت وہ ہے جسے محروم رکھے بکثرت تجھ سے سوال کرنے کے باوجود

فَأَغْنَيْنَا بِفَضْلِكَ عَنْ سُؤَالِنَا مِنْكَ وَلَا تَحْرِمْنَا مِنْ رَحْمَتِكَ

پس ہمیں بے نیاز کر دے اپنے فضل سے اپنے سوال سے اور نہ محروم فرما ہمیں اپنی رحمت سے

مَعَ كَثْرَةِ سُؤَالِنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا شَدِيدَ

باوجود کثرت سوال کے اور ہمیں بخش۔ بے شک تو ہر چیز پر کامل دسترس والا ہے۔ اے سخت

الْبَطْشِ يَا جَبَّارُ يَا قَهَّارُ يَا حَكِيمُ نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا

گرفت والے۔ اے جبار قہار۔ اے حکیم، ہم پناہ طلب کرتے ہیں تیری مخلوق کے شر سے

خَلَقْتَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ ظُلْمَةٍ مَا أَبْدَعْتَ وَنَعُوذُ بِكَ

اور ہم پناہ طلب کرتے ہیں تیری ایجادات کی ظلمت سے۔ اور پناہ طلب کرتے ہیں

مِنْ كَيْدِ النَّفْسِ فِيهَا قَدَرْتُ وَأَرَدْتُ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ

نفس کے مکر سے ان امور میں جن کی تقدیر اور ارادہ فرمایا تو نے۔ اور پناہ طلب کرتے ہیں تیرے

الْحُسَادِ عَلَى مَا أَنْعَمْتَ وَنَسْأَلُكَ عَزَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ كَمَا

انعامات پر حسد کرنے والوں کے شر سے اور سوال کرتے ہیں دنیوی اور اخروی عزت کا جیسے کہ

سَأَلْتَ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَّ الدُّنْيَا بِالْإِيمَانِ

سوال کیا تجھ سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیوی عزت کا ساتھ ایمان

وَالْمَعْرِفَةَ وَعِزَّ الْآخِرَةِ بِاللِّقَاءِ وَالْمَشَاهِدَةَ إِنَّكَ سَمِيعٌ

و معرفت کے اور اخروی عزت کا ساتھ ملاقات اور مشاہدہ کے۔ بیشک ترسنے والا

قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۗ اللَّهُمَّ إِنِّي أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ كُلِّ نَفْسٍ

قرب اور قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ میں تیرے حضور پیش کرتا ہوں ہر سانس اور

وَلِحُظَّةٍ وَلَمِحَةٍ وَطُرْفَةٍ يَطَّرِفُ بِهَا أَهْلُ السَّمَوَاتِ وَأَهْلُ

ہر لحظہ اور آنکھ جھپکنے اور کھلنے سے پہلے جسے کھولیں اہل سموات یا اہل

الْأَرْضِ وَكُلِّ شَيْءٍ ۗ هُوَ فِي عِلْمِكَ كَأَنَّ أَوْ قَدْ كَانَ أُقَدِّمُ إِلَيْكَ

ارض اور ہر وہ شئی جو تیرے علم میں پیدا ہونے والے یا موجود ہو چکی ہے

بَيْنَ يَدَيَّ ذَلِكَ كُلَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۗ الْآيَةُ

ان تمام سے پہلے پیش کرتا ہوں تیری بارگاہ میں (تیرا ہی یہ قول) اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم الآية

أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِبَسْطِ يَدَيْكَ وَكَرَمِ وَجْهِكَ وَنُورِ عَيْنِكَ وَ

میں تجھے قسم دیتا ہوں تیرے ہاتھوں کی فراخی اور تیرے کرم ذات اور نور عین اور

كَمَالِ أَعْيُنِكَ أَنْ تُعْطِينَآ خَيْرَ مَا نَفَذَتْ بِهِ مَشِيَّتُكَ وَتَعَلَّقَتْ

کمال نگاہ کی کہ ہمیں عطا فرمائے خیر ہر اس شئی کی کہ نافذ کیا اسے تیری مشیت نے اور متعلق ہوئی

بِهِ قُدْرَتُكَ وَجَرَى بِهِ قَلْمُكَ وَأَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَآكْفَانَا شَرَّ مَا

اس کے ساتھ قدرت تیری اور جاری ہوا ساتھ اس کے تیرا قلم تقدیر اور محیط ہوا اسے تیرا علم اور کفایت فرما ہمیں ان کے

هُوَ ضِدُّ ذَلِكَ وَآكْمَلْ دِينَنَا وَآتِنَا نِعْمَتَكَ وَهَبْ

اضداد کے شر سے۔ اور ہمارے دین کو کامل فرما اور ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما اور عطا فرما

لَنَا حِكْمَةَ الْحِكْمَةِ الْبَالِغَةِ مَعَ الْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ وَالْمَوْتِ الْحَسَنَةِ

حکمت بالغہ سے حکمت مع حیات طیبہ اور ممات حسنہ کے

وَتَوَلَّ قَبْضَ أَرْوَاحِنَا بِيَدِكَ وَحَلِّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ غَيْرِكَ فِي الْبُرْخِ

اور ہماری روہیں اپنے دست کرم سے قبض فرماتا اور حائل ہونا ہمارے اور اپنے اغیار کے درمیان برزخ میں

وَمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ بِنُورٍ ذَاتِكَ وَعَظِيمٍ قُدْرَتِكَ وَجَمِيلٍ

اور اس سے پہلے اور پیچھے ساتھ اپنے نور ذات اور عظیم قدرت اور فضل جمیل

فَضْلِكَ يَا قَادِرَ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا

کے اے قدرت والے۔ اے اللہ دوری پیدا فرما میرے اور میرے گناہوں کے درمیان جیسے کہ

بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي الْخَطَايَا

مشرق و مغرب کے درمیان دوری پیدا فرمائی ہے۔ اے اللہ مجھے پاک فرما گناہوں سے

كَمَا يَنْقِي الثَّوْبَ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ

جیسے کہ سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میری خطاؤں کو

خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَحُلِّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ

دھو دے ساتھ پانی، برف اور اولوں کے پاکیزہ پانی کے اور حائل ہو درمیان ہمارے اور

فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَالنِّسَاءِ وَالْغَفْلَةِ وَالشُّهُورَةِ وَظَلَمِ

دنیا اور عورتوں کے فتنہ کے اور غفلت و شہوت اور بندوں کے ظلم

الْعِبَادِ وَسُوءِ الْخُلُقِ وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاقْضِ عَنَّا

اور بد خلقی کے درمیان۔ اور ہمیں بخش ہمارے گناہ اور ادا فرما ہماری طرف

نَبَعَاتِنَا وَاكْشِفْ عَنَّا السُّوءَ وَنَجِّنَا مِنَ الْغَمِّ وَاجْعَلْ لَنَا

سے ہمارے تاوان اور دور فرما ہم سے برائی اور غم سے نجات دے اور بنا ہمارے لیے

مِنْهُ مَخْرَجًا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

اس خلاص کار راستہ۔ بیشک تو ہر چیز پر کامل دسترس والا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

أَنْ تُسَخِّرَ لِي قُلُوبَ عِبَادِكَ أَجْمَعِينَ كَمَا سَخَّرْتَ حَبْلَةَ عَرْشِكَ

کہ مسخر فرمائے میرے لیے اپنے تمام بندوں کے دل جیسے کہ مسخر فرمایا اپنے حاملین عرش کو

لِعَرْشِكَ وَكَمَا سَخَّرْتَ الطَّيْرَ فِي جَوِّ السَّمَاءِ وَكَمَا سَخَّرْتَ الشَّمْسَ

اپنے عرش کے لیے اور مسخر فرمایا پرندوں کو فضا ئے آسمانی میں اور مسخر فرمایا سورج اور

وَالْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى وَكَمَا سَخَّرْتِ الْبَحْرَ لِسَيِّدِنَا مُوسَىٰ

چاند کو جبکہ روال ہے ہر ایک مقرر مدت تک کے لیے اور جیسے مسخر فرمایا سمندر کو سیدنا موسیٰ

ابْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخَّرْتِ الْجِبَالَ وَالْحَدِيدَ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ

بن عمران علیہ السلام کے لیے اور پہاڑوں اور لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے

السَّلَامُ وَسَخَّرْتِ الرِّيحَ وَالشَّيَاطِينَ وَالْجِنَّ لِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ

اور ہوا و شیاطین اور جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے

السَّلَامُ سَخَّرْنَا كُلَّ بَحْرٍ هُوَ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْمَلِكِ

یے مسخر فرما ہمارے لیے اپنے ہر سمندر کو زمین میں ہے یا آسمان میں اور ملک

وَالْمَلَكُوتِ وَبَحْرِ الدُّنْيَا وَبَحْرِ الْآخِرَةِ وَسَخَّرْنَا كُلَّ شَيْءٍ

ظاہر اور ملک باطن میں ہے اور بحر دنیا اور بحر آخرت کو اور مسخر فرما ہمارے لیے ہر

يَأْمَنُ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ كَهَيْعَتِهِ أَنْصُرْنَا فَإِنَّكَ

شئی کو اے کہ جس کے دست قدرت میں ہے ہر شئی کی سلطنت۔ کہنقص۔ ہماری مدد فرما کیونکہ تو

خَيْرُ النَّاصِرِينَ وَأَفْتَحْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَأَعْفِرُ

بہترین مددگار ہے۔ اور ہمارے لیے کٹائش فرما کیونکہ تو بہترین کٹائش فرمانے والا ہے اور ہمارے

لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَأَرْحَمُنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

مغفرت فرما کیونکہ تو ہی بہترین آمرزگار ہے۔ اور ہم پر رحم فرما کیونکہ بہترین رحم فرما ہے

وَأَرْزُقُنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَأَحْفَظُنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ

اور ہمیں رزق عطا فرما کیونکہ تو ہی بہترین روزی رساں ہے اور ہماری حفاظت فرما کیونکہ تو ہی بہترین

الْحَافِظِينَ وَأَصْدِحُنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْمُصْذِحِينَ وَأَهْدِنَا

نگہبان ہے۔ اور ہماری اصلاح فرما کیونکہ تو ہی بہترین مصلح ہے اور ہمیں ہدایت دے

وَنَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رِيحًا

اور ظالم قوم سے نجات دے۔ اور ہمیں اپنے پاس سے عطا فرما پاکیزہ ہوا

طَيِّبَةً كَمَا هِيَ فِي عِلْمِكَ وَأَنْشُرَهَا عَلَيْنَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ

جیسے کہ تیرے علم میں ہے اور نشر فرما اسے ہم پر اپنے خزانے رحمت سے

وَاجْبِلْنَا بِهَا حِمْلَةَ الْكِرَامَةِ مَعَ السَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ فِي الدِّينِ

اور اٹھا ہمیں اس کے ذریعے اٹھانا کرامت والا بمع سلامتی کے اور دینی

وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ يَسِّرْ

و دنیوی اور آخروی عافیت کے بیشک تو ہر شئی پر کامل دسترس والا ہے۔ اے اللہ ہمارے

لَنَا أُمُورَنَا مَعَ الرَّاحَةِ لِقُلُوبِنَا وَأَبْدَانِنَا وَالسَّلَامَةِ

امور میں آسانی پیدا فرما بمع قلبی اور بدنی راحت کے اور دینی و دنیاوی سلامتی

وَالْعَافِيَةِ فِي دِينِنَا وَدُنْيَانَا وَكُنْ لَنَا صَاحِبَنَا فِي سَفَرِنَا

و عافیت کے۔ اور تو ہمارا ساتھی بن سفروں میں

وَخَلِيفَةً فِي أَهْلِنَا وَأَطْمِسْ عَلَيَّ وَجُوهَ أَعْدَائِنَا وَأَمْسُخْهُمْ

اور خلیفہ اہل و عیال میں اور مسخ فرما ہمارے دشمنوں کے چہرے اور انہیں منجمد فرمائے

عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ الْمَضِيَّ وَلَا الْمَبْجِيَّ إِلَيْنَا وَلَوْ نَشَاءُ

اپنی اپنی جگہوں پر پس وہ نہ طاقت رکھیں گزرنے کی اور نہ ہماری طرف آنے کی اور اگر ہم چاہیں

لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنِي يُبْصِرُونَ وَلَوْ

توان کی آنکھیں بے نور کر دیں پس وہ راہ کی طرف سبقت کی کوشش کریں تو کیسے دیکھیں گے۔ اور اگر

نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا

چاہیں تو انہیں مسخ کر دیں اپنی جگہ پر پس نہ طاقت رکھیں گزرنے کی اور نہ

يَرْجِعُونَ هَٰؤُلَاءِ وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ إِنَّكَ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ

واپس لوٹ سکیں۔ اے سرور جہاں۔ قسم ہے قرآن حکیم کی۔ بیشک آپ برحق رسولوں میں سے ہیں

عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنذِرَ قَوْمًا

راہ راست پر ہیں۔ قرآن عزیز و رحیم کا اتارا ہوا ہے تاکہ تم ٹھوڑا اس قوم کو کہ

سَقْنَا كَهَيْعِصَ كَفَايَتِنَا حَمَيْتِنَا فَسَيَكْفِيكَهُم

ہماری چھت ہے کھیعص ہماری کفایت ہے۔ جمعسق ہماری سراسر حمایت ہے پس عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو ان

اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْبُورٌ عَلَيْنَا

کی طرف سے کفایت کرے گا۔ اور وہی سننے جاننے والا ہے۔ عرش الہی کا پردہ ہم پر لٹکایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی

عَيْنُ اللَّهِ نَازِرَةٌ إِلَيْنَا بِحَوْلِ اللَّهِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ مِنْ

چشم عنایت ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اللہ کی طاقت کی بدولت ہم پر کوئی غالب نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ

وَرَأَيْتَهُمْ مَحِيضٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي كُورٍ مَحْفُوظٍ فَاللَّهُ

انہیں پیچھے سے (بھی) محیط ہے۔ بلکہ وہ قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے۔ پس اللہ

خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ

بہتر محافظ ہے اور وہ بہتر رحمت فرمانے والا ہے۔ اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ سب بڑا ہے

اللَّهُ الْكَبِيرُ اللَّهُ الْكَبِيرُ أَقُولُ عَلَى نَفْسِي وَدِينِي وَعَلَى أَهْلِي وَ

اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں اپنی ذات اور اپنے دین۔ اپنی اہل اور

عَلَى أَوْلَادِي وَمَالِي وَأَصْحَابِي وَأَدْيَانِهِمْ وَعَلَى أَمْوَالِهِمْ أَلْفُ

اولاد اموال و احباب پر اور ان کے دین اور ان کے اموال پر ہزار در ہزار

صَلَاةٍ وَسَلَامٍ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِنَا وَلِمَشَائِخِنَا وَ

صلوٰۃ و سلام۔ اے اللہ ہمیں بخش۔ ہمارے والدین۔ مشائخ اور

لِأَسَاتِذِنَا وَ لِأَحْبَابِنَا وَ لِأَحْبَابِنَا وَلِمَنْ لَّهُ حَقٌّ عَلَيْنَا وَ

اساتذہ۔ احباب اور دوستوں کو اور ہمارے حقداروں کو اور

لِمَنْ حَقٌّ عَلَيْهِمْ وَ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ أَوَّلِ الدُّنْيَا إِلَى

ہمارے حق والوں کو اور تمام مومنین و مومنات کو آغاز دنیا سے لے کر

فَنَائِهَا بِسْمِ اللَّهِ عَلَى دِينِي وَعَلَى نَفْسِي وَعَلَى أَوْلَادِي بِسْمِ اللَّهِ

اس کے قنا تک کے لیے اللہ کے نام کی برکت میرے دین پر اور ذات پر اور اولاد پر۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت

عَلَى مَالِي وَعَلَى أَهْلِي بِسْمِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ رَبِّي بِسْمِ

میرے مال اور اہل پر۔ اللہ کے نام کی برکت اس کی عطا فرمودہ ہر شئی پر۔ اللہ کے نام

اللَّهُ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَرَبِّ

کی برکت جو مالک ہے ساتوں آسمانوں اور زمینوں کا اور مالک ہے عرش

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ فِي الْأَرْضِ وَفِي السَّمَاءِ

عظیم کا۔ اللہ کے نام سے جو بہترین نام ہے زمین و آسمان میں

بِسْمِ اللَّهِ أَفْتَحُ وَبِهِ أَخْتَتَمُ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

اللہ کے نام کی برکت سے ہی آغاز کرتا ہوں اور اس کے ساتھ اختتام۔ اللہ۔ اللہ ہی میرا رب ہے۔ میں اس کیساتھ

اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَكْبَرُ مِمَّا أَخَافُ

کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اللہ۔ اللہ ہی میرا رب ہے۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو عزت و جلالت والا ہے اور بڑا ہے ان سے جن

وَأَحْذَرُ بِكَ اللَّهُمَّ أَعُوذُ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ غَيْرِي وَ

سے میں خوفزدہ اور ترساں ہوں۔ تیرے ساتھ ہی لے اللہ پناہ حاصل کرتا شرف نفس اور شر غیر سے اپنے

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ رَبِّي وَذَرَأَ وَبَرِّءُ بِكَ اللَّهُمَّ أَحْتَرِزُ مِنْهُمْ

رب کی تمام مخلوق اور پھیلانی ہوئی اور درست پیدا کی ہوئی اشیاء سے۔ اور تیرے ساتھ ہی لے اللہ حفاظت حاصل کرتا

وَبِكَ اللَّهُمَّ أَعُوذُ مِنْ شَرِّهِمْ وَبِكَ اللَّهُمَّ أَدْرَأُ فِي

ہوں ان سے۔ اور تیری ہی پناہ حاصل کرتا ان کے شرور سے اور تجھے ہی لے اللہ ان کے مقابل

نَحْوِ رِجْلِهِمْ وَأَقْدَمُ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَأُرْجِلُهُمْ

کرتا ہوں اور اپنے آگے اور ان کے آگے کرتا ہوں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى إِلَى

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو چلے شب اسراء میں اپنے

مُنَاجَاتٍ مِنْ نِبَاةٍ وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا عَظِيمُ الْقَدْرِ

نی بنانے والے کی طرف اور منادی ندا دیتا تھا یہ عظیم قدر و منزلت والے ہیں اللہ

عَلَى اللَّهِ وَمِثْلُ ذَلِكَ عَنْ يَمِينِي وَأَيْمَانِهِمْ وَشِبَالِي وَشِبَالِهِمْ

کے ہاں اور اسی طرح اللہ کو بناتا ہوں اپنے دائیں اور ان کے دائیں اور اپنے بائیں اور ان کے بائیں

وَأَمَامِي وَأَمَامِهِمْ وَخَلْفِي وَخَلْفِهِمْ وَفَوْقِي وَفَوْقِهِمْ

اور اپنے آگے اور ان کے آگے اور اپنے پیچھے اور ان کے پیچھے اور اپنے اوپر اور ان کے اوپر

وَتَحْتِي وَتَحْتِهِمْ وَمَحِيطِي وَمَحِيطِهِمْ إِنِّي أَسْأَلُكَ لِي

اور اپنی نچلی سمت سے اور ان کی نچلی سمت سے اور مجھے محیط اور ان کو محیط بناتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

وَلَهُمْ مِنْ خَيْرِكَ بِخَيْرِكَ الَّذِي لَا يَمْلِكُكَ غَيْرُكَ اللَّهُمَّ

اپنیلے اور ان کے لیے خیر کا جس کا صرف تو ہی مالک ہے۔ اے اللہ

اجْعَلْنِي وَإِيَّاهُمْ فِي عِبَادِكَ وَعِيَاذِكَ وَجَوَارِكَ وَأَمَانِكَ

بنادے مجھے اور انہیں اپنے بندوں میں اور اپنی پناہ میں اور حفظ و امان میں

وَحَزْبِكَ وَحَرْبِكَ وَكَتْفِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَسُلْطَانٍ

اور اپنی جماعت و حفاظت میں اور پہلوئے رحمت میں ہر شیطان اور سلطان

وَأَنْسٍ وَجِنَّ وَبَاغٍ وَحَاسِدٍ وَسَبِيٍّ وَحَيَّةٍ وَعَقْرِبٍ وَ

اور انس و جان اور باغی و حاسد اور درندہ و سانپ اور بچھو اور ہر جانور کے شر سے

دَابَّةٍ أَنْتَ أَخَذْتَنَا صِيَّتَهَا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ

کہ تو جس کی پیشانی کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ اور جب تو یاد کرے اپنے رب و امد کو قرآن میں

وَحَدَاةٍ وَلَوْ عَلَيَّ أَدْبَارِهِمْ نَفُورًا ط

تو وہ اٹے پھرتے ہیں بھاگتے ہوئے

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْهُ لَمْ يُولَدْ

فرمادیجئے وہ اللہ یکتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ جنا گیا

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

اور نہیں اس کی مثل کوئی بھی شخص

